فضائلِ اَعمال

حکایاتِ صحابہ رضی اللہ عنہم

فضائلِ قرآن مجید

فضائلِ نماز

فضائلِ ذِکر

فضائلِ تبلیغ

فضائلِ رمضان

مسلمانوں کی موجودہ
پستی کا واحد علاج

فرہنگ
(مشکل الفاظ کے معنی)

تالیف

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدّسَ اللہ سرہ

فضائلِ اعمال

جملہ حقوق بحقِ ناشر محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ
ناشر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتبہ الذکریٰ
طباعت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کلاسکل پرنٹرز اسلام آباد
قیمت برائے قارئین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۳۰روپے

قارئین سے گذارش

حتی الوسع کتاب کی تصحیح اور پروف ریڈنگ کو معیاری بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، تاہم پھر بھی چونکہ غلطیوں کا امکان رہتا ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں، تاکہ آئندہ اشاعت بہتر اور اغلاط سے پاک ہو۔

ملنے کے پتے:

مکتبہ عثمانیہ، کمیٹی چوک، راولپنڈی۔ 0333-5141413

اسلامی کتاب گھر، سی ڈی اے سٹاپ، خیابان سر سید، راولپنڈی۔ 051-4830451

ادارہ نشر العلوم، مین مارکیٹ، کینال ویو، ملتان روڈ، لاہور۔ 0321-0300-4634112

مکتبہ نور، بیرون تبلیغی مرکز، رائیونڈ۔ 0313-8823187

مکتبہ فاروقیہ، بیرون تبلیغی مرکز، رائیونڈ۔ 0300-4432897

مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، کراچی۔ 0334-3432345

دینی کتب خانہ، خودریزی، پبی۔ 0333-9150727

مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔ 081-2662263

مکتبۃ المعارف، محلہ جنگی، قصہ خوانی بازار، پشاور۔ 0300-5944317

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	غرضِ تالیف	۱۷
	تمہید	۲۱
	باب اول (دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا)	۲۴
۱	حضور اکرم ﷺ کے طائف کے سفر کا قصہ۔	۲۴
۲	قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔	۲۷
۳	صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔	۲۸
۴	حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب۔	۳۰
۵	حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام۔	۳۲
۶	حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں۔	۳۴
۷	حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔	۳۶
۸	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا اسلام۔	۳۶
۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔	۳۸
۱۰	مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعب ابی طالب میں قید ہونا۔	۴۰
	باب دوم (اللہ جلّ جلالہٗ وعمّ نوالہٗ کا خوف اور ڈر)	۴۴
۱	آندھی کے وقت حضور ﷺ کا طریقہ	۴۵
۲	اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل	۴۶
۳	سورج گرہن میں حضور ﷺ کا عمل	۴۶
۴	حضور ﷺ کا تمام رات روتے رہنا	۴۷
۵	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر	۴۸
۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت	۴۹
۷	حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحت	۵۱
۸	تبُوک کے سفر میں قومِ ثمُود کی بستی پر گزر	۵۲
۹	تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ	۵۴
۱۰	صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہنسنے پر حضور ﷺ کی تنبیہ اور قبر کی یاد	۶۱
۱۱	حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو نفاق کا ڈر	۶۲
۱۲	تکمیل (اللہ کے خوف کے متفرق احوال)	۶۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	باب سوم (صحابہ کرام کے زُہد وفقر کے بیان میں)	۶۷
۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنادینے سے انکار۔	۶۷
۲	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گذر کی حالت	۶۷
۳	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک میں حالت۔	۷۰
۴	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔	۷۱
۵	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔	۷۲
۶	حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک مشرک سے قرض لینا۔	۷۴
۷	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔	۷۷
۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے دو شخصوں کے بارے میں سوال۔	۷۸
۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پر فقر کی دوڑ۔	۷۹
۱۰	سَرِیَّۃُ العَنبر میں فقر کی حالت۔	۷۹
	باب چہارم (صحابہ کرام کے تقویٰ کے بیان میں)	۸۱
۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازہ سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔	۸۱
۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا۔	۸۱
۳	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک کاہن کے کھانے سے قے کرنا۔	۸۲
۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صدقہ کے دودھ سے قے۔	۸۳
۵	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔	۸۳
۶	حضرت علی بن مَعبَد رحمۃ اللہ علیہ کا کرایہ کے مکان سے تحریر کو خشک کرنا۔	۸۴
۷	حضرت علیؓ کا ایک قبر پر گزر۔	۸۵
۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔	۸۶
۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو مشک تولنے سے انکار۔	۸۷
۱۰	حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حَجاج کے حاکم کو حاکم نہ بنانا۔	۸۸
	باب پنجم (نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع وخضوع)	۸۸
۱	اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔	۸۹
۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔	۸۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چار رکعت میں چھ پارے پڑھنا۔	۹۰
۴	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت ابن زبیرؓ و حضرت علیؓ وغیرہ کی نمازوں کے	۹۱
۵	ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکیداری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا۔	۹۳
۶	حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نماز میں خیال آجانے سے باغ وقف کرنا۔	۹۴
۷	حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا۔	۹۵
۸	صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا۔	۹۶
۹	حضرت خُبَیب رضی اللہ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید و عاصم رضی اللہ عنہما کا قتل۔	۹۷
۱۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیَّت کیلئے نماز کی مدد۔	۱۰۱
	باب ششم (ایثار و ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا)	۱۰۲
۱	صحابی کا مہمان کی خاطر چراغ بجھا دینا۔	۱۰۲
۲	روزہ دار کے لئے چراغ بجھا دینا۔	۱۰۳
۳	ایک صحابی کا زکوٰۃ میں اونٹ دینا۔	۱۰۳
۴	حضرات شیخین کا صدقہ میں مقابلہ۔	۱۰۴
۵	صحابہ رضی اللہ عنہم کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا۔	۱۰۵
۶	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن۔	۱۰۶
۷	بکرے کی سری کا چکر کاٹ کر واپس آنا۔	۱۰۷
۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔	۱۰۸
۹	ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ وقف کرنا۔	۱۰۹
۱۰	حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔	۱۱۰
۱۱	حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔	۱۱۳
	باب ہفتم (بہادری، دلیری اور موت کا شوق)	۱۱۵
۱	ابن جَحش اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی دعا۔	۱۱۵
۲	اُحد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔	۱۱۶
۳	حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔	۱۱۷
۴	عَمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی تمنائے شہادت۔	۱۱۸
۵	حضرت مُصعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔	۱۱۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶	قادسیہ کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خط۔	۱۲۰
۷	حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ کی اُحد میں شہادت۔	۱۲۲
۸	بیرِ معُونَہ کی لڑائی۔	۱۲۳
۹	عمیر رضی اللہ عنہ کا قول کہ کھجوریں کھانا طویل زندگی ہے۔	۱۲۵
۱۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔	۱۲۵
۱۱	غزوۂ مُوتہ کا قصہ۔	۱۲۶
۱۲	سعید بن جُبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حَجاج کی گفتگو۔	۱۲۹
	باب ہشتم (علمی وَلوَلہ اور اس کا انہماک)	۱۳۳
۱	فتویٰ کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست۔	۱۳۴
۲	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مجموعہ کو جلا دینا۔	۱۳۵
۳	تبلیغ حضرت مُصعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔	۱۳۶
۴	حضرت اُبَیّ بن کعب رضی اللہ عنہ کی تعلیم۔	۱۳۷
۵	حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اہتمامِ فتن۔	۱۳۸
۶	ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا۔	۱۴۰
۷	قتلِ مُسَیلمہ و جمع قرآن۔	۱۴۱
۸	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی احتیاط روایتِ حدیث میں۔	۱۴۳
۹	ابو دَرداء رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کیلئے جانا۔	۱۴۵
۱۰	ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انصاری کے پاس جانا۔	۱۴۷
۱۱	مختلف علمی کارنامے۔	۱۴۷
	باب نہم (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور امتثال کا حکم)	۱۵۵
۱	حضرت عبد اللہ بن عَمرو رضی اللہ عنہما کا چادر کو جلا دینا۔	۱۵۵
۲	اَنصاری کا مکان کو ڈھا دینا۔	۱۵۶
۳	صحابہ رضی اللہ عنہم کا سرخ چادروں کو اتارنا۔	۱۵۸
۴	وائل رضی اللہ عنہ کا ذُباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔	۱۵۸
۵	سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کی عادت اور خُریم رضی اللہ عنہ کا بال کٹوا دینا۔	۱۵۹
۶	ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔	۱۶۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱.	ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کہ نمازِ قصر قرآن میں نہیں۔	۱۶۱
۲.	ابن مُغفل رضی اللہ عنہ کا خذف کی وجہ سے کلام چھوڑ دینا۔	۱۶۲
۳.	حکیم بن حِزام رضی اللہ عنہ کا سوال نہ کرنے کا عہد۔	۱۶۲
۴.	حُذیفہ رضی اللہ عنہ کا جاسوسی کے لئے جانا۔	۱۶۳
	باب دہم (عورتوں کا دینی جذبہ)	۱۶۵
۱	تسبیحاتِ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔	۱۶۵
۲	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ۔	۱۶۷
۳	ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ سے روکنا۔	۱۶۸
۴	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت اللہ کے خوف سے۔	۱۶۹
۵	ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔	۱۷۰
۶	اُمِ زیاد رضی اللہ عنہا کی چند عورتوں کے ساتھ خیبر میں شرکت۔	۱۷۲
۷	ام حرام رضی اللہ عنہا کی غزوۃ البحر میں شرکت کی تمنا۔	۱۷۳
۸	ام سُلیم رضی اللہ عنہا کا لڑکے کے مرنے پر عمل۔	۱۷۴
۹	امّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔	۱۷۵
۱۰	زینب رضی اللہ عنہا کا اِفک کے معاملہ میں صفائی پیش کرنا۔	۱۷۶
۱۱	خنساء رضی اللہ عنہا کی اپنے چار بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔	۱۷۹
۱۲	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہودی کو تنہا مارنا۔	۱۸۰
۱۳	اسماء رضی اللہ عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال۔	۱۸۱
۱۴	اُم عمّارہ رضی اللہ عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔	۱۸۳
۱۵	حضرت امِّ حکیم رضی اللہ عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔	۱۸۵
۱۶	سُمیّہ ام عمار رضی اللہ عنہا کی شہادت۔	۱۸۶
۱۷	اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی زندگی اور تنگی۔	۱۸۷
۱۸	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماءؓ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔	۱۸۹
۱۹	حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی سخاوت۔	۱۹۰
۲۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت اور انتقال۔	۱۹۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۱	رُبیع بنت مُعَوِّذ رضی اللہ عنہا کی غیرتِ دینی۔	۱۹۲
۲۲	معلومات (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں اور اولاد)۔	۱۹۳
۲۳	(معلومات) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔	۲۰۶
	باب یازدہم (بچوں کا دینی جذبہ)	۲۱۳
۱	بچوں کو روزہ رکھوانا۔	۲۱۴
۲	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث اور آیت کا نزول۔	۲۱۴
۳	عمیر رضی اللہ عنہ کا جہاد کی شرکت کا شوق۔	۲۱۵
۴	عمیر رضی اللہ عنہ کا بدر کی لڑائی میں چھپنا۔	۲۱۵
۵	دو انصاری بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنا۔	۲۱۶
۶	رافع اور ابنِ جُندُب رضی اللہ عنہما کا مقابلہ۔	۲۱۷
۷	زید رضی اللہ عنہ کا قرآن کی وجہ سے تقدُّم۔	۲۱۹
۸	ابو سعید خُدری رضی اللہ عنہ کے باپ کا انتقال۔	۲۲۰
۹	سلمہ بن اَکْوع رضی اللہ عنہ کی غابہ پر دوڑ۔	۲۲۱
۱۰	بدر کا مقابلہ اور حضرت براء رضی اللہ عنہ کا شوق۔	۲۲۳
۱۱	عبد اللہ بن عبد اللہ بن اُبَیّ رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ سے معاملہ۔	۲۲۴
۱۲	جابر رضی اللہ عنہ کی حَمْراءُ الاَسد میں شرکت۔	۲۲۶
۱۳	ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بہادری روم کی لڑائی میں۔	۲۲۷
۱۴	عَمْرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا۔	۲۲۸
۱۵	ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے غلام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا۔	۲۲۹
۱۶	ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا بچپن میں حفظ قرآن۔	۲۲۹
۱۷	عبد اللہ بن عَمْرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا حفظِ حدیث۔	۲۳۰
۱۸	زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا حفظ قرآن۔	۲۳۱
۱۹	امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔	۲۳۲
۲۰	امام حسین رضی اللہ عنہ کا علمی مشغلہ۔	۲۳۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	باب دوازدہم (حضورِ اقدس ﷺ کے ساتھ محبت کے واقعات)	۲۳۶
۱	ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔	۲۳۶
۲	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کے وصال پر رنج۔	۲۳۹
۳	ایک عورت کا حضور ﷺ کی خبر کیلئے بے قرار ہونا۔	۲۴۰
۴	حدیبیہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور مُغیرہ کا فعل اور عام صحابہؓ کا طرزِ عمل	۲۴۱
۵	ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا خون پینا۔	۲۴۵
۶	مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کا خون پینا۔	۲۴۵
۷	زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ کو انکار۔	۲۴۶
۸	اَنس بن نضر رضی اللہ عنہ کا عمل اُحد کی لڑائی میں۔	۲۴۸
۹	سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا پیام اُحد میں۔	۲۴۹
۱۰	حضور ﷺ کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت۔	۲۵۰
۱۱	صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت کے متفرق قصے۔	۲۵۰
۱۲	خاتمہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ برتاؤ اور ان کے اجمالی فضائل)۔	۲۵۶

* * *

فہرست مضامین رسالہ فضائلِ قرآن

۱	خطبہ کتاب	۲۶۳
۲	سببِ تالیف	۲۶۴
۳	تلاوت کے ظاہری و باطنی آداب	۲۶۸
۴	حفظِ قرآن کی وہ مقدار جو فرض ہے۔	۲۶۹
۵	احادیث	۲۷۰
۶	سب سے بہترین شخص کون؟	۲۷۰
۷	تلاوت کی برکت اور کلام اللہ کی فضیلت	۲۷۱
۸	دو اور تین اور چار آیات کا ثواب۔	۲۷۲
۹	تلاوت میں مہارت پر اور اٹکنے پر ثواب۔	۲۷۳
۱۰	دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔	۲۷۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۱	تلاوت کرنیوالوں اور نہ کرنیوالوں کی مثال۔	۲۷۶
۱۲	کتاب اللہ کی وجہ سے قوموں کا عروج وزوال۔	۲۷۸
۱۳	قیامت میں تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی۔	۲۷۹
۱۴	سال میں دو مرتبہ ختم کرنا قرآن مجید کا حق ہے۔	۲۸۰
۱۵	تفسیر کے لیے پندرہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔	۲۸۱
۱۶	قرآن پاک کی وجہ سے جنت میں بلند مقام۔	۲۸۳
۱۷	قرآن پاک کے ایک حرف پر دس نیکیاں۔	۲۸۷
۱۸	تلاوت اور عمل کرنے والے کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے جائیں گے۔	۲۸۸
۱۹	قرآن پاک کو آگ نہیں جلاتی۔	۲۹۰
۲۰	کلام پاک پر عمل کرنے والے کو دس آدمیوں کی سفارش کا حق۔	۲۹۲
۲۱	قرآن پاک کے پڑھنے والے کی مثال مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی طرح ہے۔	۲۹۳
۲۲	جس سینے میں قرآن پاک نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔	۲۹۳
۲۳	قرآن پاک نماز میں پڑھنا افضل ہے۔	۲۹۴
۲۴	قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب۔	۲۹۶
۲۵	زنگ خوردہ دلوں کی جلاء، تلاوتِ قرآن پاک اور موت کی یاد ہے۔	۲۹۷
۲۶	اس امت کا شرف اور افتخار قرآنِ پاک ہے۔	۲۹۹
۲۷	تلاوتِ قرآن پاک دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔	۳۰۰
۲۸	صحائفِ آسمانی اور کتبِ سماویہ کی تعداد اور ان کے مضامین۔	۳۰۱
۲۹	یکجا تلاوت کرنے والوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول اور فرشتوں کا گھیرنا۔	۳۰۳
۳۰	امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔	۳۰۶
۳۱	مرتبۂ احسان کے حصول کا طریقہ۔	۳۰۶
۳۲	اہلِ تلاوت اہل اللہ ہیں۔	۳۰۸
۳۳	اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنے والے قرآن پاک سے عمدہ اور کوئی عمل نہ لے جاسکیں گے۔	۳۰۸
۳۴	خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھنے والے پیغمبر کی طرف اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ	۳۰۹
۳۵	قاری کی قرأت کی طرف اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ۔	۳۱۰
۳۶	حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک گویے کا قصہ۔	۳۱۰
۳۷	قرآنِ پاک کو رات دن پڑھنے کا حکم اور اس کا ثواب۔	۳۱۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۸	تورات کی ایک روایت۔	۳۱۳
۳۹	قران مجید سابقہ کتب کا جامع اور ان سے زیادہ پر مشتمل ہے۔	۳۱۴
۴۰	ضعفاء مہاجرین کی ایک مجلس۔	۳۱۵
۴۱	قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا ثواب۔	۳۱۶
۴۲	قرآن پاک شافع اور مُشَفَّع ہے۔	۳۱۸
۴۳	تلاوت کرنے والوں کے واقعات۔	۳۲۱
۴۴	ختم قرآن پاک کے مسائل۔	۳۲۲
۴۵	کوئی شفاعت کرنیوالا قرآن مجید سے افضل نہ ہو گا۔	۳۲۳
۴۶	تلاوت کرنیوالے کی قرآن مجید حفاظت کرتا ہے۔	۳۲۳
۴۷	تلاوت کرنے والا گویا علومِ نبوت کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتا ہے۔	۳۲۴
۴۸	تین شخص جو بے خوف مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔	۳۲۴
۴۹	ایک آیت کا سیکھنا سو رکعت سے بہتر ہے۔	۳۲۶
۵۰	دس آیتیں پڑھنے والا غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔	۳۲۶
۵۱	فتنوں کا توڑ کتاب اللہ ہے۔	۳۲۷
۵۲	خاتمہ	۳۲۹
۵۳	سورۂ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے۔	۳۲۹
۵۴	سورۂ فاتحہ اور دوسری سورتوں اور آیتوں کے فضائل۔	۳۳۰
۵۵	سورۂ یٰسین کی برکات اور فضائل۔	۳۳۲
۵۶	سورۂ واقعہ اور سورۂ ملک کے فضائل۔	۳۳۳
۵۷	افضل عمل کون سا ہے؟	۳۳۵
۵۸	قرآن مجید کی خبر گیری اور اشتغال کی ضرورت۔	۳۳۶
۵۹	قرآن مجید کو ذریعۂ سوال بنانے والے کا عذاب۔	۳۳۸
۶۰	تتمہ	۳۴۰
۶۱	جس خوبی سے کسی کو محبت ہو وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔	۳۴۳
۶۲	محبت کے پانچ اسباب ہیں اور وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔	۳۵۰
۶۳	حفظِ قرآن کا ایک مجرب عمل۔	۳۵۲

۶۴	تکملہ۔ مختصر چہل حدیث۔ تمت بالخیر	۳۵۶

فہرست مضامین رسالہ فضائلِ نماز

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	خطبہ و تمہید	۳۶۱
	باب اول (نماز کی اہمیت کے بیان میں)	۳۶۳
	فصل اول (نماز کی فضیلت کے بیان میں)	۳۶۳
۱	اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے۔	۳۶۳
۲	آپ علیہ السلام سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے۔	۳۶۴
۳	پانچوں نمازیں پڑھنے سے خطاؤں کا معاف ہونا۔	۳۶۵
۴	کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو۔	۳۶۸
۵	آپ علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا۔	۳۷۰
۶	نمازوں سے اعضاء کے گناہ کا معاف ہونا۔	۳۷۴
۷	نمازی کا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہونا۔	۳۷۶
۸	نمازوں کی برکت سے درمیانی اوقات کے گناہوں کی مغفرت۔	۳۷۸
۹	پانچوں نمازوں کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری۔	۳۸۰
۱۰	بہترین نفع کی چیز فرض نماز کے بعد دو رکعت نفل۔	۳۸۱
۱۱	چہل حدیث اردو۔	۳۸۳
۱۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نماز میں۔	۳۸۶
۱۳	ایک مجددی کی حسرت جنت پر۔	۳۸۷
	فصل دوم (نماز کے چھوڑنے پر وعید و عتاب کا بیان)	۳۸۹
۱	آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔	۳۹۰
۲	حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام کی سات نصیحتیں۔	۳۹۱
۳	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دس باتوں کی نصیحت۔	۳۹۱
۴	جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی۔	۳۹۳
۵	بلا عذر دو نمازوں کو ایک وقت پڑھنے کا گناہ۔	۳۹۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶	نماز کے اہتمام کرنے کی فضیلت۔	۳۹۵
۷	ترک نماز پر پندرہ قسم کی وعیدیں۔	۳۹۷
۸	نماز کو قضاء کرنے کی وعید۔	۴۰۷
۹	دین میں نماز کی حیثیت سر کی سی ہے۔	۴۰۹
	باب دوم (جماعت کے بیان میں)	۴۱۲
	فصل اول (جماعت کے فضائل میں)	۴۱۲
۱	باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت۔	۴۱۲
۲	باوضو مسجد میں جانے کی فضیلت۔	۴۱۴
۳	مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت۔	۴۱۷
۴	چالیس دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت۔	۴۱۹
۵	اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جانے کی فضیلت۔	۴۲۰
۶	دو آدمیوں کی باجماعت نماز کی فضیلت۔	۴۲۰
۷	اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے کی فضیلت۔	۴۲۱
	فصل دوم (جماعت چھوڑنے پر عتاب کا بیان)	۴۲۵
۱	بلاعذر مسجد میں نہ جانے کی وعید۔	۴۲۵
۲	سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے۔	۴۲۶
۳	بلاعذر گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ علیہ السلام کی ڈانٹ۔	۴۲۷
۴	بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔	۴۲۸
۵	جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہونے والے کے متعلق ایک وعید۔	۴۲۹
۶	ساق کی تجلی۔	۴۳۰
	باب سوم (خشوع وخضوع کے بیان میں)	۴۳۱
۱	تفسیر آیاتِ خشوع۔	۴۳۳
۲	نماز سے فراغت پر نمازی کے لیے ثواب کی مقدار۔	۴۴۶
۳	بری طرح نماز پڑھنے والے کے لیے بددعا۔	۴۴۶
۴	اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔	۴۴۸

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵	قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہو گا۔	۴۵۰
۶	بد ترین چوری کرنے والا شخص۔	۴۵۱
۷	نماز میں اعضاء کو سکون سے رکھنے کا حکم۔	۴۵۳
۸	بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔	۴۵۵
۹	افضل نماز لمبی لمبی رکعتوں والی ہے۔	۴۵۶
۱۰	نماز میں بارہ ہزار چیزیں۔	۴۶۰
۱۱	آخری گذارش۔	۴۶۹

☆ ☆ ☆

فہرست مضامین رسالہ فضائلِ ذکر

	تمہید	۴۷۳
	باب اول (فضائلِ ذکر)	۴۷۵
	فصل اول (آیاتِ ذکر)	۴۷۵
	فصلِ ثانی (احادیثِ ذکر)	۴۸۹
۱	اللہ کے ساتھ نیک گمانی۔	۴۸۹
۲	آدمی افضل ہے یا فرشتہ۔	۴۹۳
۳	ذکر کے ساتھ رطب اللسان رہنے کی تاکید۔	۴۹۳
۴	بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے۔	۴۹۵
۵	بستروں پر ذکر کرنے والے بھی افضل ہیں۔	۴۹۷
۶	ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ۔	۴۹۹
۷	ذکر کرنے والا روپے تقسیم کرنے والے سے افضل ہے۔	۵۰۰
۸	جنتیوں کا ذکر سے خالی وقت پر افسوس۔	۵۰۱
۹	ذکر کرنے والوں کو فرشتوں کا گھیر لینا۔	۵۰۲
۱۰	اللہ تعالیٰ کا ذاکرین پر فخر۔	۵۰۵
۱۱	ذاکرین کی خطاؤں کا تبادلہ۔	۵۰۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۲	عذاب قبر سے ذاکر کی حفاظت۔	۵۱۲
۱۳	ذاکرین نور کے منبروں پر۔	۵۱۵
۱۴	ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔	۵۱۸
۱۵	شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت۔	۵۱۹
۱۶	اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں۔	۵۲۱
۱۷	سونے کی تختی پر نصائح۔	۵۲۱
۱۸	ذاکر قیامت میں عرش کے سایہ تلے۔	۵۲۴
۱۹	عقلمند وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔	۵۲۶
۲۰	غور و فکر یعنی مراقبہ۔	۵۲۷
۲۱	حضور اکرم ﷺ کو ذاکرین کے پاس بیٹھنے کا حکم۔	۵۳۰
۲۲	نماز فجر اور عصر کے بعد ذکر کی تاکید۔	۵۳۲
۲۳	ذکر اور علم کے علاوہ دنیا ملعون ہے۔	۵۳۴
۲۴	ذکر اللہ کی سو سے زیادہ برکات۔	۵۳۶
	باب دوم (کلمہ طیبہ کے فضائل)	۵۴۸
	فصل اول (ان آیات میں جن سے کلمہ مراد ہے)	۵۴۹
	فصل دوم (ان آیات میں جن میں کلمہ وارد ہے)	۵۶۱
	فصل سوم (فضائل کلمہ کی احادیث میں)	۵۶۴
۱	افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔	۵۶۴
۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی درخواست پر کلمہ کی تعلیم۔	۵۶۶
۳	حضور ﷺ کی شفاعت کلمہ والے کے لئے۔	۵۶۷
۴	حضور ﷺ کی شفاعت کے انواع۔	۵۶۸
۵	کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ محرمات سے روک دے۔	۵۶۹
۶	گناہوں کی نحوست سے ایمان جاتا رہتا ہے۔	۵۷۱
۷	لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ عرش تک پہنچا دیتا ہے۔	۵۷۱
۸	حضور ﷺ کا کواڑ بند کروا کر کلمہ پڑھوانا۔	۵۷۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۹	ایمان کی تجدید اور کلمہ کی کثرت کا حکم۔	۵۷۳
۱۰	اخلاص سے کلمہ پڑھنے والے پر جہنم حرام ہے۔	۵۷۵
۱۱	جنت کی کنجی لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے۔	۵۷۶
۱۲	لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اعمال نامے میں سے بُرائیاں دھو دیتا ہے۔	۵۷۶
۱۳	کلمہ سے عرش کا ستون حرکت میں آتا ہے۔	۵۷۷
۱۴	لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ والوں کو وحشت نہیں ہوتی۔	۵۷۸
۱۵	لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ننانوے دفتروں کے مقابلہ میں۔	۵۸۰
۱۶	کلمہ طیبہ آسمان وزمین وغیرہ سب پر غالب ہے۔	۵۸۳
۱۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امتِ محمدیہ پر کلمہ سہل ہے۔	۵۸۵
۱۸	افضل ترین کلمہ اور افضل ترین دعا۔	۵۸۸
۱۹	شیطان کا قول ہے کہ کلمہ طیبہ اور استغفار نے مجھے ہلاک کر دیا۔	۵۸۹
۲۰	کلمہ کی برکات موت کے وقت۔	۵۹۱
۲۱	حضور ﷺ کا اپنے چچا ابو طالب پر کلمہ پیش کرنا۔	۵۹۴
۲۲	حضرت آدم علیہ السلام کا حضور ﷺ کے وسیلہ سے توبہ کرنا۔	۶۰۰
۲۳	اسم اعظم اور نظر کی دعا۔	۶۰۲
۲۴	حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت۔	۶۰۶
۲۵	برائی کو بھلائی سے دھونے کا حکم۔	۶۱۰
۲۶	ایک مخصوص کلمہ پر چالیس ہزار نیکیاں۔	۶۱۱
۲۷	وضو کے بعد کلمہ پر آٹھوں دروازے جنت کے کھلنا۔	۶۱۴
۲۸	سو مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کا منہ بدر کی طرح۔	۶۱۴
۲۹	بچوں کو ابتداء کلمہ کی تلقین کی برکت۔	۶۱۵
۳۰	لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سے نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے۔	۶۱۷
۳۱	ایمان کے ستر شعبے اور ان کی تفصیل۔	۶۱۸
	باب سوم (تیسرا کلمہ)	۶۲۴
	فصل اول (قرآن پاک میں کلمات مذکورہ تسبیح، تحمید، تکبیر وارد ہیں)	۶۲۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	فصل دوم (احادیث میں کلمات مذکورہ کے فضائل)	۶۵۳
۱	قیامت میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہو گا۔	۶۵۶
۲	جنت کے درخت یہ کلمات ہیں۔	۶۶۱
۳	فقراء کی شکایت کہ مال دار ثواب میں بڑھ جاتے ہیں۔	۶۶۵
۴	باطل میں اعانت کرنے والا اللہ کے غصہ میں ہے۔	۶۸۱
۵	انگلیوں سے قیامت میں سوال اور ان پر گننے کی فضیلت۔	۶۸۵
۶	گٹھلیوں پر گننے اور تسبیح متعارف کا جواز۔	۶۹۱
۷	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خادم مانگنا اور حضور ﷺ کا اس کی بجائے تسبیح کا تلقین فرمانا۔	۶۹۵
۸	خاتمہ اور صلوٰۃ التسبیح۔	۶۹۹
۹	تمت بالخیر۔	۷۰۸

☆ ☆ ☆

فہرست مضامین رسالہ فضائل تبلیغ

آغاز کتاب	تمہید	۷۱۰
فصل اول	آیت قرآنی در تاکید امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔	۷۱۲
فصل ثانی (دوم)	احادیثِ نبوی در تاکید امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔	۷۱۷
فصل ثالث (سوم)	تنبیہ برائے اصلاحِ نفس۔	۷۳۲
فصل رابع (چہارم)	فضائل اکرامِ مسلم و وعید تحقیر مسلم۔	۷۳۴
فصل خامس (پنجم)	اخلاص اور ایمان و احتساب۔	۷۳۷
فصل سادس (ششم)	تعظیم علمائے کرام و بزرگانِ دین۔	۷۴۰
فصل سابع (ہفتم	اہلِ حق کی پہچان اور ان کی مجالست کی اہمیت۔	۷۴۵

فہرست مضامین رسالہ فضائل رمضان

۱	تمہید	۷۵۲
۲	رمضان کے فضائل اور انعامات۔	۷۵۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳	رمضان کے پانچ مخصوص انعامات۔	۷۶۴
۴	نبی پاک ﷺ کی تین بد دعائیں۔	۷۶۹
۵	ماہِ رمضان میں رحمتِ خاصہ کا نزول۔	۷۷۳
۶	رمضان المبارک کے ہر شب و روز قیدیوں کی خلاصی۔	۷۷۴
۷	تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔	۷۷۵
۸	سحری کھانے والوں پر رحمت۔	۷۷۸
۹	محروم روزہ دار اور شب بیدار۔	۷۸۱
۱۰	روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔	۷۸۱
۱۱	بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنا۔	۷۸۹
۱۲	فصلِ ثانی (شبِ قدر کے بیان میں)	۷۹۲
۱۳	شب قدر میں عبادت کی فضیلت۔	۷۹۵
۱۴	شبِ قدر سے محروم شخص کا حکم۔	۷۹۶
۱۵	شبِ قدر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص انعامات۔	۷۹۹
۱۶	شبِ قدر کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم۔	۸۰۰
۱۷	شبِ قدر کو نویں، ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرنے کا حکم۔	۸۰۱
۱۸	شبِ قدر کی علامات۔	۸۰۸
۱۹	شبِ قدر کی مخصوص دعا۔	۸۰۹
۲۰	فصلِ ثالث (اعتکاف کے بیان میں)۔	۸۱۱
۲۱	رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف۔	۸۱۳
۲۲	معتکف کی گناہوں سے حفاظت اور دیگر اعمال کا اجر۔	۸۱۴
۲۳	ایک دن کے اعتکاف اور کسی مسلمان کی حاجت روی کا اجر۔	۸۱۵
۲۴	ابتدائے رمضان میں جنت کی آراستگی اور اخیر شب میں مغفرت کی بارشیں۔	۸۱۸
	مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج	۸۳۷
	فرہنگ	۸۶۱
	فہرست ماخذ و مصادر	۸۷۸

نحمدہٗ ونصلی علی رسولہ الکریم

غرضِ تالیف

کتاب "فضائل اعمال" جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نَوَّرَ اللہ مَرْقَدَہٗ کے مختلف موضوعات پر تحریر کردہ رسائل کا مجموعہ ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ جل شانہ کے فضل وکرم اور حضرت کے اخلاص اور للّٰہیت کی بناپر یہ کتاب اطراف عالم کے دینی، دعوتی اور اصلاحی حلقوں کی زینت ہے، اور مختلف مساجد و دینی مجالس میں اس کی درس و تعلیم سالہا سال سے روز کا معمول ہے۔

چونکہ یہ کتاب فضائل، ترغیبات اور وعیدوں پر مشتمل ہے، جن میں آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ کی پر اثر تشریح اور عمل پر آمادہ کر دینے والی ترغیب ہی مقصود ہوتی ہے، اور حدیث کی سند اور اس کا حکم یا راویوں کے حالات سے بحث وغیرہ علمی امور ملحوظ نہیں ہوتے، اس لیے ابتدائی طور پر اس حوالے سے کام کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تبلیغی کام عرب وعجم اور عوام وخواص میں عمومی طور پر پھیلا اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد اللہ کے فضل واحسان سے تبلیغی کام کی طرف نہ صرف متوجہ ہوئی، بلکہ عملی طور پر اس کام کو علی وجہ البصیرت کرنے کے لئے عوام الناس کو ساتھ لیکر چلنے پر آمدہ ہوئی، تو بالخصوص اہل علم اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے اس بات کی ضرورت کا احساس ہونے لگا کہ اس کتاب کے متن و تشریحی فوائد میں درج احادیث کی تحقیق و تخریج کا تفصیلی کام پیش کیا جائے، تاکہ اس اجمال واختصار سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو کر اس مقبول عام کتاب سے استفادہ میں کوئی مانع نہ رہے۔

الحمد للہ اس کتاب کو علمی نقطۂ نظر سے مزید قابلِ استفادہ بنانے کی غرض سے درج ذیل خطوط پر کام کیا گیا ہے:

(۱) حضرت شیخ الحدیث کے ذکر کردہ عربی زبان میں تمام احادیث کی فنی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے، یعنی ہر حدیث کی صحت، حُسن اور ضعف کے لحاظ سے نشاندہی کی

گئی ہے۔ یہ تمام احکام کتاب "تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال" مؤلفہ مولانا لطیف الرحمان بہرائچی سے ماخوذ ہیں۔

(۲) احادیث کی تخریج کے ضمن میں جن کتب کا عربی عبارات میں حوالہ دیا گیاہے، ان کتب کے ابواب، جلد نمبر اور صفحہ نمبر کی تعین کی گئی ہے۔

(۳) فوائد و تشریح کے ذیل میں ذکر کردہ تمام احادیث کے ماخذ و مراجع حاشیہ میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

کوشش کی گئی ہے کہ ہر حدیث کا اصلی ماخذ اور کتب متون ذکر کی جائیں، تاہم جن احادیث کے اصلی ماخذ تک رسائی نہیں ہو سکی، وہاں ثانوی ماخذ ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ اور جن احادیث کے ثانوی ماخذ بھی معلوم نہیں ہو سکے، انہیں خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔

اولیاء اور سلف الصالحین کے واقعات وملفوظات کی تخریج کا التزام نہیں کیا گیا۔ یہ واقعات زیادہ تر: نزہۃ البساتین، نزہۃ المجالس، شرح الاحیاء، بہجۃ النفوس اور غالیۃ المواعظ سے ماخوذ ہیں۔

(۴) حکایات صحابہ میں ذکر کردہ واقعات جن کتب احادیث میں دستیاب ہوئے، ان کی بھی حاشیہ میں تصریح کر دی گئی ہے۔

(۵) کتاب کے اخیر میں مشکل الفاظ کے حل کے لئے ایک فرہنگ بھی شامل کر دی گئی ہے۔

کتاب کا کچھ نمونہ تبرکاً استادِ محترم حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ ان حضرات نے ملاحظہ کرنے کے بعد دعاؤں سے نوازا اور اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔

چونکہ یہ کتاب عوامی حلقوں میں بعنوان "تعلیم" اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے اور تبلیغی حلقوں میں اردو داں طبقہ کے لئے ایمانی واصلاحی تربیت کے لئے ایک معمول ونصاب کا درجہ رکھتی ہے، اس لئے اہل علم سے التماس ہے کہ وہ تخریج واضافہ کے کام کے حوالے سے جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس فرمائیں، اس کی ضرور نشاندہی فرمادیں، تاکہ وہ غلطی اس

ابلاغ کے ذریعہ عام نہ ہو جائے، انشاء اللہ اس راہنمائی پر اللہ تعالی اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیں گے، اور ناشرین اسکی فی الفور اصلاح کا اہتمام کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر مؤلف کے لیے ذخیرۂ آخرت بنادے اور اس کام میں معاونت کرنے والے حضرات کو اجر جزیل سے مالامال فرمائے اور تمام قارئین کے لئے ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بنادے، آمین۔

العبد: محمد زکریا اشرف عفی عنہ
متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی
۱۵ شعبان المعظم المرجب سنہ ۱۴۳۶ھ

حکایاتِ صحابہ رضی اللہ عنہم

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قَدَّسَ اللہ سِرُّہٗ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمہید

نَحۡمَدُهٗ وَ نُصَلِّیۡ وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡکَرِیۡمِ وَ اٰلِهٖ وَ صَحۡبِهٖ وَ اَتۡبَاعِهِ الۡحُمَاةِ لِلدِّیۡنِ الۡقَوِیۡم

امّابعد! اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد ۵۳ھ میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چند قصے بالخصوص کم سن صحابہ رضی اللہ عنہم اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں، وہ واہی تباہی جھوٹی حکایات کی بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لئے دینی ترقی کا سبب ہو اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کی بجائے ان کو سنائیں، تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔

میرے لئے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دوجہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود اپنی کم مائیگی سے امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کرسکتا ہوں۔ اس لئے چار برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ صفر ۱۳۵۷ھ میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لئے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں ہی گزر جائیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت جس کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لئے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ❶۔ صوفیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت

---

❶ مرقاۃ، باب المشی بالجنازہ، ۳/۱۲۰۹

حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا: ہاں! اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے۔

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔

ترجمہ: اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، (ایک فائدہ تو یہ ہوا) اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کیلئے نصیحت ہے (اور اچھے کام کرنے کی) یاد دہانی ہے۔ (بیان القرآن)

ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتیں کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیئے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہوا تو ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستہ میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیئے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لئے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیئے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے میں نے اس رسالہ کو بارہ ۱۲ بابوں اور ایک خاتمہ پر تقسیم کیا ہے۔

۱۔ پہلا باب : دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔
۲۔ دوسرا باب : اللہ جل جلالہ کا خوف اور ڈر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خاص عادت تھی۔
۳۔ تیسرا باب : صحابہ رضی اللہ عنہم کی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی کا نمونہ۔

۴۔ چوتھا باب : صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی حالت۔
۵۔ پانچواں باب : نماز کا شوق اور اس کا اہتمام۔
۶۔ چھٹا باب : ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا۔
۷۔ ساتواں باب : بہادری و دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق۔
۸۔ آٹھواں باب : علمی مشاغل اور علمی انہماک کا نمونہ۔
۹۔ نواں باب : حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔
۱۰۔ دسواں باب : عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں اور اولاد کا بیان۔
۱۱۔ گیارہواں باب : بچوں کا دینی ولولہ اور بچپن میں دین کا اہتمام۔
۱۲۔ بارھواں باب : حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔
☆ خاتمہ : صحابہ رضی اللہ عنہم کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل

پہلا باب

دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف ومشقت کا جھیلنا

حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم ﷺ کے ایک قصہ سے ابتداء کرتا ہوں کہ حضور ﷺ کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔

(۱) حضور اکرم ﷺ کے طائف کے سفر کا قصہ

نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا، جو مسلمان ہوگئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ، جو باجود مسلمان ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور ﷺ کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور ﷺ کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، دسویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس ﷺ اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سرداروں سے، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے، یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت

کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بداخلاقی سے پیش آئے۔

ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ ﷺ یہاں قیام فرمالیں، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو! آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لئے کہ اگر تو واقعی نبی ہے، جیسا کہ دعویٰ ہے، تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے، تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔

اس کے بعد ان لوگوں سے ناامید ہو کر حضور اکرم ﷺ نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ ﷺ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور ﷺ سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو، وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم ﷺ جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے، تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ ﷺ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ ﷺ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس ﷺ اسی حالت میں واپس ہوئے، جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور ﷺ نے یہ دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ، يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وأَنْتَ رَبِّيْ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِيْ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ، أَمْ عَدُوٍّ إِلَى مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ، إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِيْ، وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ،

”اے اللہ! تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے اَرحَمُ الرّاحِمِین! تو ہی ضُعفاء کا رب ہے اور تُو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تُرش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے، جس کو تو نے مجھ پر قابو

وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحُلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ (كَذَا فِيْ سِيْرَةِ ابْنِ هِشَامٍ، قُلْتُ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِىْ أَلْفَاظِ الدُّعَاءِ، كَمَا فِيْ قُرَّةِ الْعُيُوْنِ)

دے دیا۔ اے اللہ! اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل، جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔

مالک ُالملک کی شانِ قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آکر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی، سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتہ کو، جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں، اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور ﷺ کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں، جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں ❶۔

ف: یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس

---

❶ السيرة النبوية لابن كثير، فصل في ذهابه عليه السلام الى أهل الطائف: (۲/ ۱۴۹)۔

کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا، نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔

(۲) قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا

حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تُو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے اُحد کی لڑائی پیش آگئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ اُحد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لئے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی ممانعت تھی تم یہاں سے نہ ہٹو۔ مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آکر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آگئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آرہے تھے، ان سے کہا کہ اے سعد! کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم! جنت کی خوشبو اُحد کے پہاڑ سے آرہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں

گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ اسیؔ سے زیادہ زخم اور تلوار کے نشان بدن پر تھے، ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا❶۔

ف: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت اَنس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ ”جنت کا مزہ آ رہا ہے“۔ فضائل رمضان میں اس قصہ کو لکھ چکا ہوں۔

(۳) صلح حُدَیبیہ اور ابو جَندَل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ

۶ھ میں حضور اقدس ﷺ عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، کفارِ مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لئے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم ساتھ تھے جو حضور ﷺ پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور ﷺ نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم ﷺ نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور ﷺ کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرمانبردار، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔

صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں اور مسلمانوں میں سے خدانخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ

---

❶ الاستیعاب، باب أنس، أنس بن نضر: (۱/ ۱۰۸)۔

ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے طمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مُرَتَّب بھی نہیں ہوا، اس لئے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہو گی، اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور ﷺ کے ارشاد سے واپس ہوئے، حضور ﷺ نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالیٰ شانُہ تمہارے لئے راستہ نکالیں گے۔

صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، کفار نے ان کو واپس بلانے کیلئے دو آدمی بھیجے۔ حضور اقدس ﷺ نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ! میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاء اللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار! تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے، وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔

دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور

حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لئے میں نے یہ کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے۔ کاش! کوئی اس کا مُعین و مدد گار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لئے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔

مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لئے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سَری جماعت کو آپ اپنے پاس بلالیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لئے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور ﷺ کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرضُ الموت میں گرفتار تھے۔ حضور ﷺ کا والا نامہ (خط مبارک) ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا (رَضِيَ اللّٰهُ عنه و أرْضاه) ①

ف: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطیکہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔

(۴) حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔

---

① صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة: ۲۵۸۲، (۲/ ۹۷۴)۔ وفتح الباري، باب الشروط في الجهاد، (۵/ ۳۴۴)۔

شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیئے جاتے تھے۔ اُمیّہ بن خَلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا، تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں، اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی ”اَحد اَحد“ کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا، تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں، یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابوجہل کا نمبر آتا، کبھی اُمَیَّہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔

ف: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لئے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ”ایک ہی ایک“ کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ تھے کہ ”ایک ہی ایک ہے“ کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر، حَضَر میں ہمیشہ اذان کی خدمت اُن کے سپرد ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جَے (جتنے) دن ہیں، جہاد میں گزار دوں۔ اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیئے، ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بلال! یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسینؓ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور ۲۰ھ کے قریب دمشق میں وصال ہوا①۔

(۵) حضرت ابوذر غِفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرَّمَ اللہُ وجہَہٗ کا ارشاد ہے کہ ابوذرؓ ایسے علم کو حاصل کئے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے پہل خبر پہنچی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطہ مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کو اس مُجمل بات سے تشفّی نہ ہوئی تو خود سامانِ سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا، شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کَرَّمَ اللہُ وَجہَہٗ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافِروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹّی میں پڑا ہوا تھا۔ اس لئے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے؟ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آگئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے

---

① أسد الغابة، باب الباء، بلال بن رباح: (۱/۴۱۵)

بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہو گا اور بد گمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لئے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لئے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیئے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ نے فرمایا کہ وہ بیشک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچادوں گا۔ لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لئے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ، ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔

چنانچہ صبح کو حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ کے پیچھے پیچھے حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس ﷺ نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمۂ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چِلّا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے "أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" پڑھا۔ پھر کیا تھا چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر بچانے کیلئے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلۂ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا

جانا بند ہو جائے گا۔

اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لئے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر باآوازِ بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا①۔

ف: حضور ﷺ کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور ﷺ کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور ﷺ کے حکم کیخلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آرہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس ﷺ خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرمارہے تھے، اس لئے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور ﷺ کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دُنیوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمۂ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آجاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔

(۶) حضرت خبّاب بن الارت رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں

حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں پانچ چھ آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لئے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش

---

① صحیح البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام أبي ذر، رقم الحديث: ۳۶۴۸، (۱۴۱/۳)۔

کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔

یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس ﷺ سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانۂ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا۔ میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا، تو اس پر رویا کرتے کہ خدانخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے خلافِ عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت وڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھیں: دو ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرمادیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہوگئی۔ دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹادے، یہ بھی قبول ہوگئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال ۳۷ سینتیس ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کَرَّمَ اللہُ وَجْہَہٗ کا گزر اِن کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا: اللہ خبابؓ پر رحم فرمائیں، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے①۔

---

① أسد الغابہ، باب الخاء والباء، رقم: ۱۴۰۷، (۲/۱۴۷)۔

ف: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولیٰ ہی کی رضا کے واسطے تھا۔

(۷) حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر

حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالتِ تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سُمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹیں، حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، مگر اس بدنصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیئے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں، تو قُبا میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کئے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے، ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے، اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تُو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیئے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت چورانوے ۹۴ برس کی عمر تھی۔ بعض نے ایک آدھ سال کم بتلائی ہے ①۔

(۸) حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا اسلام

حضرت صہیبؓ بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

---

① أسد الغابة، باب العين والميم، عمار بن ياسر: ۳۸۰۴، (۴/ ۱۲۲)۔

حضرت ارقم رضی اللہ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضرِ خدمت ہوئے اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا، وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لئے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔

چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کیلئے گئی۔ انہوں نے اپنا تَرکش سنبھالا، جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے، کرنا۔ اس لئے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلہ میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں، جو مکہ میں ہے اور دو باندیاں بھی ہیں وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارہ میں آیتِ پاک ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّشۡرِىۡ نَفۡسَهُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰهِ ‌ؕ وَاللّٰهُ رَءُوۡفٌ بِالۡعِبَادِ﴾ (البقرۃ:۲۰۷) نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے، صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی۔ میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو“ میں نے عرض کیا کہ حضور! اُس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو ان ہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی ❶۔

(۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوشِ ایمانی سے آج تیرہ سو برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بیشک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیئے۔ اسی فکر میں جارہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زُہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر! کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں. (نعوذ باللہ) سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زُہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تُو بھی بے دین (یعنی مسلمان) ہو گیا۔ لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں، یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر نمبر ۶ پر گزرا، کواڑ بند کئے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیاتِ قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی

---

❶ أسد الغابة، باب الصاد والهاء: ۲۵۳۸، (۳/۳۸)۔

چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے۔ ’’کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟‘‘ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک طمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں کہنے لگیں کہ عمر! ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بیشک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا، مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور ﴿إِنَّنِيٓ أَنَا اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طٰہٰ: ۱۴) تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا! مجھے بھی محمد ﷺ کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمرؓ! تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ (جمعرات) میں حضور اقدس ﷺ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ! عمرؓ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما (یہ دونوں قوت میں مشہور تھے)۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہوئے۔

ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لئے اور بھی جوش پیدا ہوا اور

جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی ❶۔

(۱۰) مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شِعبِ اَبی طالب میں قید ہونا

مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی اجازت فرمادی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحمدل اور مُنصِف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے پانچویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے گیارہ یا بارہ مرد اور چار یا پانچ عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جاسکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔

وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہوگئے اور اسلام کو غلبہ ہوگیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آگئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں تو بڑی دِقّت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہوگئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے، اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو تراسی (۸۳) مرد اور اٹھارہ (۱۸) عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے دونوں ہجرتیں کیں اور بعض نے ایک۔

کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور

---

❶ أسد الغابة، باب العين والميم، عمر بن الخطاب، رقم: ۳۸۳۰، (۴/۱۳۷)۔

بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی شاہِ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لئے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لئے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حُکّام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور حُکّام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ! ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں۔ آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔

چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیئے اور صاف بات کہنی چاہیئے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آدابِ شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے۔ پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لَا شَرِیْکَ لَہٗ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانتداری کا حکم

دیا، صلہ رحمی کا حکم کیا۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کئے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآنِ پاک کی تعلیم دی۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی۔ جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔

ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا: جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۂ مریم علیہا السلام کی اول کی آیتیں پڑھیں جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔

اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم! یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیئے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے، مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہر حال گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی

نے ان کو تحفے واپس کر دیئے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا اور اس کا اعلان بھی کرادیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہو گا۔

اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا تو پھر کفارِ مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا، ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلار کھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنے جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لئے سردارانِ مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد ﷺ کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لئے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور ﷺ کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لئے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطّلِب کا بائیکاٹ کیا جاوے۔ نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور ﷺ کو قتل کے لئے حوالہ نہ کر دیں۔

یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم ۷ھ نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا، تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدہ کی وجہ سے تین برس تک یہ سب حضرات دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے اور ان

کے اَعِزہ کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتیں۔

آخر تین برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نذر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ تین برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی، وہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے ①۔

ف: یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں اور اپنے کو ان کا مُتّبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیئے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا؟ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بد دینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی　　کیں راہ کہ تو میروی بترکستان است

ترجمہ: مجھے خوف ہے اوبدوی! کہ تُو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لئے کہ یہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔

دوسرا باب

اللہ جلّ جلالُہ وَعَمَّ نوالُہ کا خوف اور ڈر

دین کے ساتھ اس جانفشانی کے باوجود، جس کے قصّے ابھی گزرے اور دین کے لئے اپنی جان ومال، آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد، جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے اس کا کچھ شَمّہ (حصہ) ہم سے سیہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے

---

① السیرۃ النبویۃ لابن کثیر، باب ھجرۃ من ھاجر من أصحاب النبی علیہ السلام: (۲/۹)۔ والخمیس

لکھے جاتے ہیں۔

(۱) آندھی کے وقت حضور ﷺ کا طریقہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابر، آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس ﷺ کے چہرۂ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرہ کا رنگ فق ہو جاتا تھا اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے ”اَللّٰھُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُکَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَافِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ، وَأَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ“ (ترجمہ) ”یا اللہ! اِس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اور جو اس ہوا میں ہو بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور جس غرض کیلئے یہ بھیجی گئی، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، یا اللہ! میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔“ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرہ پر انبساط شروع ہوتا۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب لوگ جب اَبر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ ﷺ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: عائشہؓ! مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قومِ عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لئے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا①۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ﴾ الآیة (الاحقاف: ۲۴)۔ (ترجمہ): ” ان لوگوں نے (یعنی قومِ عاد نے) جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ (ارشادِ خداوندی ہوا کہ) نہیں! برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی (عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبیؑ سے کہتے تھے کہ اگر تُو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا)۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے

---

① ابن ماجہ، کتاب الدعاء، ۳۸۹۱

مکانات کے، کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں"۔

ف: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے، جس کا سید الاوّلین والاخرِین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدۂ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس ﷺ کے خوفِ الٰہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آجاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ واِستِغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قِسم قِسم کی لَغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔

(۲) اندھیرے میں حضرت اَنس رضی اللہ عنہ کا فعل

نضر بن عبد اللہؒ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت اَنس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا: خدا کی پناہ! حضور ﷺ کے زمانہ میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آجانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور ﷺ گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے ❶۔

ف: آج کسی بڑے سے بڑے حادثہ، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے؟ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے؟ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔

(۳) سورج گرہن میں حضور ﷺ کا عمل

حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فکر ہوئی کہ اس

---

❶ جمع الفوائد، باب الکسوف، رقم الحدیث: ۲۰۶۹، (۱/ ۳۴۲)۔

موقع پر حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نو عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے، تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے دو رکعت کسوف کی نماز پڑھی، جو اتنی لانبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم روتے تھے اور فرماتے تھے۔: اے رب! کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ اِسْتِغْفار کرتے رہیں (سورۂ اَنفال میں اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے) ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الانفال:۳۳۱)۔ پھر حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے، تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو❶۔

(۴) حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا تمام رات روتے رہنا

نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدۃ:۱۱۸) ”اے اللہ! اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک۔ اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قدرت ہے اور حکمت والے ہیں، تو معافی بھی حکمت کے موافق ہو گی❷۔ امام اعظم رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (یس: ۵۹) پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب

---

❶ مسلم، کتاب الکسوف، باب صلوٰۃ الکسوف، رقم الحدیث: ۹۰۱، (۲/۶۱۸)۔

❷ النسائی، کتاب الافتتاح، باب تردید الآیۃ:، رقم الحدیث: ۱۰۱۰، (۲/۱۷۷)۔

آیتِ شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جاوے، تھوڑا ہے، کہ نامعلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرمانبرداروں میں۔

(۵) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باجماعِ اہل سنت انبیاءؑ کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکرؓ جنت میں داخل ہوں گے۔

اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش! میں کوئی درخت ہوتا، جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے: کاش! میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے: کاش! میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ: تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش! ابو بکرؓ بھی تجھ جیسا ہوتا۔

ربیعہؓ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا: تُو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا: تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو

اللہ کا لاڈلا رسول ﷺ مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ شانُہٗ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیعہ ؓ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیئے۔ البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ کہ اے ابوبکر ؓ! اللہ تمہیں معاف فرما دیں ①۔

ف: یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابوبکر ؓ صدیق کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور ﷺ کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ ؓ بدلے لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا، یا حساب کتاب بھی ہو گا۔

(۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے: کاش! میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے: کاش! مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ ؓ نے اس کے ایک دُرّہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لئے بیٹھتا ہوں، اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ ؓ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور دُرہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا: ” اے عمر! تو کمینہ تھا اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو تُو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا“۔ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے

---

① تاریخ الخلفاء، أبو بکر الصدیق، کلماتہ دالۃ علی شدۃ خوفہ، (۱/ ۹۵)۔

آپ کو ملامت کرتے رہے ❶۔

آپؓ کے غلام حضرت اسلمؒ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حَرَّہ کی طرف جارہا تھا ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا۔ چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں، جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے، جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المُؤمنین عمرؓ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہو گا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمرؓ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے۔ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔

اسلمؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لئے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں۔ آپؓ نے فرمایا: نہیں میری کمر پر رکھ دے۔ دو تین مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا: کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لئے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہو گا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔

---

❶ أسد الغابة، عمر بن الخطاب، فضائله، (۴/ ۱۳۷)۔

اسلمؒ کہتے ہیں کہ آپؓ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستِ مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سَیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی: اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمرؓ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمرؓ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لئے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں ①۔

صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی سورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۂ یوسف پڑھ رہے تھے ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ إِلَى اللهِ﴾ (یوسف: ۸۶) پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔

ف: یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی ساڑھے تیرہ سو برس کے زمانہ تک ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟

(۷) حضرت اِبنِ عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحت

وہبؒ بن مُنَبِّہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لئے جا رہا تھا، وہ مسجدِ حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا: مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپؓ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو

---

① أشہر مشاہیر الإسلام، عمر بن الخطاب، زہدہ وورعہ، (۴۲۱)۔

اس کے خوف نے چپ کر ارکھا ہے۔ حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں، نہ گونگے، بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھ دار ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں، تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے۔؟ وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا❶۔

ف: حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصہ میں حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہو گا۔ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے؟

(۸) تبوک کے سفر میں قومِ ثمود کی بستی پر گزر

غزوۂ❷ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آرہا ہے۔ اس خبر پر ۵ رجب ۹ھ پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلہ کیلئے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کیلئے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لئے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا، تو فرمایا: کہ ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا

---

❶ کتاب الزھد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، رقم الحدیث: ۱۴۹۵، (۱/۵۲۶)۔

❷ غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔

لے آئے، جس کا قصہ نمبر ۴ باب ۶ میں آتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک تہائی لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔

اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لئے دس دس آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت (باری باری) اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام "جَيْشُ الْعُسْرَةِ" (تنگی کا لشکر) بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہاء نہیں تھی اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔

ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لئے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی اور دوسری جانب یہ ساری دِقّتیں کہ ہر دِقّت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لئے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے، یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے جن کے بارے میں آیت ﴿تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ (التوبة: ۹۲) نازل ہوئی اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ تین حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آرہا ہے۔

راستہ میں قومِ ثمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرۂ انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدانخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا❶۔

---

❶ صحيح البخاري كتاب المغازي، باب نزول النبي عليه السلام بالحجر: ۴۱۵۷، (۴/ ۱۶۰۹)۔ تاریخ والخمیس، الموطن التاسع في حوادث السنة التاسعة، غزوة تبوک، (۲/ ۱۲۶)۔

ف: اللہ کا پیارا نبی ﷺ اور لاڈلا رسول ﷺ عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا خوف کرتا ہوا گزرتا ہے اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدانخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آجائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔

(۹) تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ

اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ اَسّی (۸۰) سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدُوِی لوگوں میں سے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے اور اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی ﴿لَا تَنۡفِرُوۡا فِی الۡحَرِّ﴾ (التوبة: ۸۱) کہہ کر روکتے تھے (گرمی میں نہ نکلو) حق تعالیٰ شانُہٗ فرماتے ہیں ”جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے“۔ ان کے علاوہ تین سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر قوی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے: ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے ہلال بن اُمَیَّہ رضی اللہ عنہ، تیسرے مَرارة بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے، بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعبؓ اپنی سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی، مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آرہی ہے۔

مرارة بن ربیع رضی اللہ عنہ کا باغ خوب پھل رہا تھا، ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مضائقہ ہے؟ اس لئے ٹھہر گئے۔ مگر جب تَنَبُّہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لئے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔

ہلال رضی اللہ عنہ کے اہل و اَعِزَّہ جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے، ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے؟ اس لئے ٹھہر گئے، مگر تنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کرسکنے کا سبب ہوئے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی دو اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی دو اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے، مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا۔ ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لئے صاف اعلان فرما دیا تھا، تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں، نہ پتہ چلے، تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامانِ سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہوگئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ ایک دو روز میں تیار کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آگیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی، مگر سامان نہ ہو سکا۔

اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا، یا وہ معذور تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ عنہ نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا۔ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے، حتیٰ کہ چند روز میں میں نے واپسی کی خبر سنی، تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔

دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور ﷺ کے غصہ سے جان بچالوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کرلوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی اور میں نے سچ سچ عرض کرنیکی ٹھان ہی لی۔

حضور ﷺ کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسبِ معمول حضور ﷺ تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آکر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم ﷺ ان کے ظاہرِ حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔

حضور ﷺ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ نے اعراض فرمالیا۔ میں خدا کی قسم! نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصہ سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پالیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ ﷺ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ ﷺ کو راضی کرلوں تو قریب ہے کہ اللہ جلّ جلالہٗ مجھ سے ناراض ہوں گے اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کردوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ ﷺ کے عتاب کو زائل فرمادے گی۔ اس لئے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ! مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانہ میں تھا، کسی زمانہ میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق

تعالیٰ شانُہٗ فرمائیں گے۔

میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر تو کوئی عذر کر کے حضور ﷺ سے اِسْتِغْفار کی درخواست کرتا، تو حضور ﷺ کا اِسْتِغْفار تیرے لئے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو۔؟ لوگوں نے بتلایا کہ دو شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلالؓ بن امیہ، دوسرے مَرارۃ بن ربیعؓ۔ میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریکِ حال ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے اور گویا دنیا ہی بدل گئی۔، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے۔ درودیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور ﷺ جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدانخواستہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز پڑھے گا کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے خلاف کون کرسکتا ہے۔ غرض ہم لوگوں نے پچاس (۵۰) دن اسی حال میں گزارے۔

میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا۔ نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور ﷺ کے لب مبارک جواب کیلئے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور ﷺ کے قریب ہی کھڑے ہو

کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں، جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم مجھے دیکھتے اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرمالیتے۔

غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا تو میں ابو قتادہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی دیوار پر چڑھا، وہ میرے رشتہ کے چچازاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا۔ انہوں نے کہا: اللہ جانے اور اس کا رسول صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔

اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جارہا تھا کہ ایک قِبطی کو، جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتادو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کرکے بتایا، وہ میرے پاس آیا اور غسّان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لاکر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ”ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آجاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے“۔ (دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے، اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں)

کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر اِنَّا لِلّٰہِ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جاکر میں نے ایک تنور میں پھونک دیا اور حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے جاکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ

حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں چالیس روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشاء ہے؟ اس کو طلاق دے دوں؟ کہا: نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان ہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تُو اپنے میکے چلی جا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائیں وہیں رہنا۔ ہلال رضی اللہ عنہ بن اُمیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو گا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مضائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس چیز کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔

کعب رضی اللہ عنہ ❶ کہتے ہیں مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا: وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں۔ نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لئے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں دس روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت، میل جول چھٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے۔ پچاسویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبھر ہو رہی تھی کہ سَلع پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب رضی اللہ عنہ! خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا۔ جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے، میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نذر کر دیئے۔ خدا کی قسم! ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس

---

❶ ممکن ہے کہ بیوی نے کہا ہو کہ بیویوں سے علیحدگی کا حکم اب تک نہیں ہوا تھا یا کسی بچے یا منافق نے کہا ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تو بولتے ہی نہ تھے۔

وقت میری مِلک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دو کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجدِ نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے، مجھے مبارک باد دینے کیلئے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ ؓ نے بڑھ کر مبارک باد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یاد گار رہے گا۔ میں نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرۂ انور کِھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس ﷺ کا چہرۂ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ (کہ یہ ثرُوَت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی) حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہو گی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی۔ اس لئے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا①۔

ف: یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے، ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوا اور اس کو کس فرمانبرداری سے برداشت کیا کہ پچاس دن رو کر گزار دیئے اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے اور اس کو بھی اللہ کا عتاب اور حضور ﷺ کے اعراض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا ضُعف اس درجہ تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پاک رسول ﷺ کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں؟ اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں؟ اس کے بعد زکوۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔

---

① صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث توبة كعب ابن مالك، رقم الحديث: ۴۱۵۶، (۴/۱۶۰۳)۔ الدر المنثور، تحت الآية: ۷۷ من التوبة۔

(۱۰) صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہنسنے پر حضور ﷺ کی تنبیہ اور قبر کی یاد

نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کِھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کِھل رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مؤمن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا، تُو آگیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے، تُو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تُو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔

اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے۔ جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تُو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور ستر (۷۰) اژدھے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے۔ وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے ❶۔

ف: اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے ❷ اور موت کا یاد کرنا اس کیلئے مفید ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔

---

❶ مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، باب البکاء والخوف، رقم الحدیث: ۵۳۵۲، (۳/۱۴۷۰)۔

❷ شعب الایمان، فصل فی خلق رسول اللہ ﷺ: ۱۳۶۲

(۱۱) حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو نفاق کا ڈر

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کی مجلس میں تھے۔ حضورِ اقدس ﷺ نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور ﷺ کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور ﷺ کی مجلس میں تھی۔ دفعۃً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ تُو تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضورِ اقدس ﷺ کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا،

سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور ﷺ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور ﷺ دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور جب حضور ﷺ کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لئے دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو منافق ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ﷺ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن جب خدمتِ اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے، تو فرشتے تم سے

بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے، گاہے، گاہے، گاہے ❶۔

ف: یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا، پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لئے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں۔ نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیئے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں۔ نہ بیوی بچے، نہ فکرِ معاش اور نہ دنیوی قصے اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لئے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا، لیکن غور کی بات ہے کہ صحابہ کرامؓ کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ "عشق است و ہزار بدگمانی"۔ عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھئے! ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے۔

تکمیل

اللہ کے خوف کے متفرق احوال

قرآن شریف کی آیات اور حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جَلَّ شَانُہٗ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیئے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے ❷۔ حضرت ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا بہت رویا کرتے تھے حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے

---

❶ مسلم، کتاب التوبۃ، باب فضل دوام الذکر، رقم الحدیث: ۲۷۵۰، (۴/۲۱۰۶)، وإحیاء العلوم، کتاب التوبۃ، (۴/۱۶۴)۔
❷ شعب الایمان، ۷۳۰

لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔

ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے ①۔ ایک نوجوان صحابیؓ پر حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے۔ جب ﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (الرحمٰن: ۳۷) پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا۔ اور کہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جاویں گے (یعنی قیامت کے دن) میرا کیا حال ہو گا، ہائے میری بربادی! حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ کر بہت روئے۔ کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رُلا دیا۔

عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے۔ بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگیں۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبد اللہ بن رواحہؓ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نامعلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا ②۔

زُرارۃ بن اَوفی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ (المدثر: ۸) پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خُلَیدؒ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (العنکبوت: ۵۷) پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے، تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے چار جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ (یونس: ۳۰) پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فُضیلؒ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلیؒ کے نام سے سب ہی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب

---

① قیام اللیل، ۱۴۳

② قیام اللیل، باب البکاء عند قراءۃ القران، رقم الحدیث: ۱۶۲، (۲۰۹/۱)

بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے: اللہ جَلَّ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے فکریاں نہیں دیتا، اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں①۔

حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے②۔ یحییٰ بن معاذؒ کہتے ہیں کہ آدمی بے چارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں: جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرہ پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں③۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں④۔ میرے نبی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے، اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا⑤۔

حضرت عقبہ بن عامر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔؟ آپ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو⑥۔ حضرت عائشہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا: ہاں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے⑦۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں: ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا خطرہ جو اللہ کے راستہ میں گرا ہو⑧۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنا سایہ عطا فرماویں گے۔ ایک وہ شخص جو

---

① شعب الایمان، باب الخوف، ۷۵۹

② مسند الشہاب، ۴۲۹، ۱/۲۶۶

③ ابن ماجہ، باب الحزن، ۴۱۹۷

④ شعب الایمان، باب الخوف، ۷۸۳

⑤ ترمذی، ابواب فضائل الجہاد، ۱۶۳۳

⑥ ترمذی، ۲۴۰۶ ابواب الزھد

⑦ اتحاف السادۃ ۹-۳۴۵

⑧ ترمذی، فضل المرابط، ۱۶۶۹

تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں ❶۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: جو رو سکتا ہو وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنالے ❷۔ محمد بن مُنْکَدِر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت رحمہ اللہ بنانی کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کرلو، آنکھ اچھی ہو جاوے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید رحمہ اللہ بن میسرہ کہتے ہیں کہ رونا سات وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔

کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید۔ اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیئے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں ❸۔ اس لئے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیئے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ظن رکھتا ہو ❹۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو ❺۔

---

❶ بخاری، کتاب الرقاق، ۶۴۷۹

❷ شعب الایمان، فصل الخوف من اللہ تعالیٰ، ۷۸۵

❸ اتحاف السادۃ، ۹۔۳۵۱

❹ مسلم، باب الامر بحسن الظن، ۲۸۷۷

❺ اتحاف السادۃ المتقین

تیسرا باب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زُہد و فقر کے بیان میں

اس بارے میں خود نبی اکرم ﷺ کا اپنا معمول اور اس کے واقعات جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیز حضور ﷺ کی خود اختیار فرمائی ہوئی اور پسند کی ہوئی تھی، اتنی کثرت سے حدیثوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا مثال کے طور پر بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ’’فقر مومن کا تحفہ ہے‘‘❶۔

(۱) حضور ﷺ کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لئے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاوے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ! مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں❷۔

ف: یہ اس ذاتِ مقدس کا حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اس کی امت میں ہونے پر فخر ہے، جس کی ہر بات ہمارے لئے قابلِ اتباع ہے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور ﷺ کے گزر کی حالت

بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہوگئی کہ حضور ﷺ نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمرؓ اس وقت اپنے گھر تھے، جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور ﷺ کے رنج اور غصہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔

---

❶ الغرائب الملتقطة، رقم الحديث: ۱۲۷۸

❷ (ا) الترمذي، أبواب الزهد، باب ماجاء في الكفاف، رقم الحديث: ۲۳۴۷، (۵۳۰)۔

بیبیاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدتِ رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے اور حضرت رَباحؓ ایک غلام کے ذریعہ سے جو دوباری کے زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضرِ خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباحؓ نے آ کر یہی جواب حضرت عمرؓ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر منبر کے پاس آ بیٹھے، مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباحؓ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح تین مرتبہ پیش آیا کہ یہ بیتابی سے غلام کے ذریعہ اجازت حاضری کی مانگتے۔ ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔

تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباحؓ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضرِ خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریئے پر لیٹے ہوئے ہیں، جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسمِ اطہر پر بوریئے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا: کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ اس کے بعد میں نے دلبستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ انور پر تبسم کے

آثار ظاہر ہوئے۔

میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: تین چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جَو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریئے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ان پر تو یہ وسعت، یہ قیصر و کسریٰ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر! کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو۔ سنو! آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیّبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لئے اِسْتِغْفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی ❶۔

ف: یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا طرزِ عمل ہے کہ بوریئے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے سازو سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا بستره کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑہ کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا بستره کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا: اس

---

❶ صحیح البخاري، کتاب المظالم، باب الغرفة والعلیة المشرفة، رقم الحدیث: ۲۳۳۶، (۲/ ۱۷۸)۔ فتح الباري، باب موعظة الرجل ابنته، (۹/ ۲۷۹)۔

کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا۔ اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے ❶۔

اب ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے اور پھر بھی بجائے شُکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔

(۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک میں حالت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کَتّان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے: کیا کہنے ابوہریرہؓ کے! آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرہ کے درمیان بیہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی ❷۔

ف: یعنی بھوک کی وجہ سے کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بیہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے۔ کئی کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائیں تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گھٹلیاں بھری رہتیں، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم تین آدمی رات کے تین حصے کر لیتے اور نمبروار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا ❸۔

میں نے اپنے والد صاحبؒ سے سنا کہ میرے دادا صاحبؒ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو ایک بجے تک والد صاحبؒ مطالعہ میں مشغول رہتے۔ ایک بجے دادا صاحبؒ تہجد کیلئے اٹھتے، تو تقاضا فرما کر والد صاحبؒ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح

---

❶ شمائل الترمذي، باب ماجاء في فراش الرسول عليه السلام، (۱/ ۲۷۰)

❷ صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب ماذكر النبي عليه السلام وحض على الانفاق، رقم الحديث: ۶۸۹۳، (۶/ ۲۶۷۰)۔

❸ تذكرة الحفاظ، الطبقة الأولىٰ، أبوهريرة الدوسي، (۱/ ۳۰)۔ والبخارى، كتاب الاطعمة: ۵۴۴۱

سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحبؒ کو تہجد کیلئے جگا دیتے اور خود اتباعِ سنت میں آرام فرماتے۔ اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنِیْ اِتِّبَاعَھُمْ۔

(۴) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسبِ معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کیلئے تشریف لے چلے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا: کہاں چلے؟ فرمایا: بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہو گا؟ فرمایا: پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہؓ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لئے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔

ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی۔ آپؓ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کئے، آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے۔ اس لئے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لئے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا، اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا❶۔

ف: اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپؓ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشۂ تجارت میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا،

---

❶ أسد الغابة، عبد اللہ بن عثمان أبو بکر الصدیق (۳/۳۱۰)۔

لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لئے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہو گا۔ اس کے باوجود جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت اَنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نیابت میں پہنچیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائیں کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے ❶۔

(۵) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا۔ اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا۔ اس لئے اب گزارہ کی کیا صورت ہو؟ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیں۔ حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجہَہٗ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسُّط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔

اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علیؓ بھی تھے اور حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیئے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لئے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المُؤمنین بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ

---

❶ فتح الباري، باب کسب الرجل عملہ بیدہ (۴/ ۳۰۴)۔ السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۳۳۸۹

بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا۔ یعنی ایسی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دو کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کونسا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جَو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرمارہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا: کونسا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے۔؟ عرض کیا: ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا: حفصہ! ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید (آخرت) پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے دو ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان تین شخصوں کی سی ہے جو ایک راستہ پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا۔ دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقہ پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقہ پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور اگر ان کے طریقہ کیخلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا❶۔

ف: یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپؓ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں بارہ پیوند تھے جن میں سے ایک چمڑہ کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی

---

❶ المستدرک للحاکم، کتاب العلم، باب في توقیر العلماء، رقم الحدیث:۴۲۸، (۱/۴۲۵)

اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں ❶۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے غلام نے آکر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرُقدؓ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔، وہ شریک ہوگئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہوسکتا تھا۔ آپؓ نے فرمایا: کیا سب مسلمان میدہ کھاسکتے ہیں۔ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھاسکتے؟ فرمایا کہ افسوس! تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کردوں ❷۔

اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں، ان کا اتباع نہ اب ہوسکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرنا چاہیئے کہ قُوٰی (قوّتیں) ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانہ میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانہ میں مشائخِ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے، جس سے ضُعف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیئے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے اور اس زمانہ کے مناسب اعتدال پیدا ہوجائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذاتِ دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔

(۶) حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کیلئے ایک مشرک سے قرض لینا

حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس ﷺ کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلالؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس ﷺ مجھے ارشاد فرمادیتے۔ میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرمادیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وُسعت اور

---

❶ مشاہیر الاسلام، عمر بن الخطاب، اَدبہ (ص: ۴۲۱، ۴۲۲)۔

❷ اسد الغابۃ، عمر بن الخطاب، زہدہ وتواضعہ، (۴/ ۱۵۰)۔

ثروت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا: اس سے بہتر کیا ہو گا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا، اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشادِ والا کی تعمیل کر دیتا۔

ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کیلئے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا: او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشہ گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا۔ اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا: قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں۔ اگر مہینہ کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضہ میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا، یہ کہہ کر چلا گیا۔

مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیئے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لئے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتہ اٹھایا۔ یہ ہی سامانِ سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ چار اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا، بیٹھی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضہ کی بے باقی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فَدَک کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔

میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس ﷺ اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آکر

عرض کیا کہ حضور! اللہ کا شکر ہے حق تعالیٰ نے سارے قرضہ سے آپ کو سُبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باقی نہیں رہی۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا، جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور ﷺ نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور ﷺ نے فرمایا: کہو جی کچھ ہے۔؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور ﷺ نے اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی حمد و ثناء فرمائی۔ حضور ﷺ کو یہ ڈر ہوا کہ خدانخواستہ موت آجائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے ①۔

ف: اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ کہ ان کی مِلک میں مال و متاع کچھ نہ رہے، پھر حضور اقدس ﷺ کا تو کیا پوچھنا جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور ﷺ کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نَوَّرَ اللہُ مَرْقَدَہٗ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی، تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادمِ خاص حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب (نَوَّرَ اللہُ مَرْقَدَہٗ) کو دے دیئے تھے اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مُستَعار لے کر پہن لیا کروں گا، اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقروض تھے اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی

---

① بذل المجہود، کتاب الخراج، باب في الإمام یقبل الهدیة، (۱۵۹۴)۔ والسنن الکبریٰ للبیهقي، کتاب الوکالة، باب التوکیل في المال: ۲۲۱۲۷، (۶/۸۰)۔

رنگ ہو۔ مشائخ کے اَلوان (رنگ) مختلف ہوتے ہیں اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت سیرت ممتاز ہوتی ہے۔

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستہ میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی، خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادتِ شریفہ کے موافق جو موجود ہو گا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا (غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہو گا کہ وہاں بھی کچھ نہیں)۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ! میرے ساتھ آؤ، میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا، گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا: فلاں جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ! جاؤ اہل صُفّہ کو بلا لاؤ۔ اہل صُفّہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہی تھی، مگر اس قصہ کے وقت ستر (۷۰) تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو دو چار چار کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں

شرکت فرماتے۔

حضور ﷺ نے بلانے کا حکم دیا، مجھے گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلالاؤں، سب کا کیا بھلا ہو گا؟ ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہو گا اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہو گا اس لئے نمبر بھی اخیر میں آئے گا، جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور ﷺ کی اطاعت کے بغیرہ چارہ ہی کیا تھا؟ میں گیا اور سب کو بلالایا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے۔ تو حضور ﷺ نے پیالہ دستِ مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تُو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بیشک، فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا: اور پی۔ میں نے اور پیا، بالاخر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا❶۔

(۸) حضور ﷺ کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے دو شخصوں کے بارے میں سوال

نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا: یارسول اللہ! شریف لوگوں میں ہے۔ واللہ! اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے۔ کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور ﷺ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، حضور ﷺ نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہا نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے❷۔

ف: مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے یہاں کچھ بھی وقعت نہیں

---

❶ صحیح البخاري، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی علیہ السلام، رقم الحدیث: ۶۰۸۷، (۵/۲۳۷۰)۔

❷ ابن ماجۃ، کتاب الزہد، باب فضل الفقراء: ۴۱۲۰، (۴/۴۳۱)۔

رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی وقعت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفاء سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقعت سے دیکھی جاتی ہو اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آجائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا ①۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔

(۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پر فقر کی دوڑ

ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھ! کیا کہتا ہے۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ جب تین مرتبہ یہ سوال وجواب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کے اوڑھنے بچھانے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ اس لئے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر ایسے زور سے دوڑتا ہے جیسا کہ پانی کی رَو نچان (نچائی) کی طرف دوڑتی ہے ②۔

ف: یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو اکثر فقر و فاقہ میں رہے ہی، اکابر محدثین، اکابر صوفیاء، اکابر فقہاء بھی تونگری میں زیادہ نہیں رہے۔

(۱۰) سَرِیَّۃُ العَنبر میں فقر کی حالت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب ۸ھ میں سمندر کے کنارے ایک لشکر تین سو آدمیوں کا جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ پندرہ روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کئے اور تین اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر

---

① مسلم، کتاب الایمان: ۲۳۴

② الترمذی، أبواب الزہد، باب ماجاء في فضل الفقر، رقم الحدیث: ۲۳۵۰، (۵۳۰)۔

تیسرے دن امیرِ قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی۔ اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرمادیا کرتے۔ جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کیلئے یہی کھانا تھا۔

کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب کہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر گزار دینا دل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت! ایک کھجور کیا کام دیتی ہو گی؟ آپ نے فرمایا: اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقہ کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ جَلَّ شَانُہٗ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عَنبَر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ اٹھارہ روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا①۔

ف: مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے۔ پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں②۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کو پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں ان حضرات نے فاقے کئے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔

---

① مسلم، کتاب الصید، باب اِباحۃ میتات البحر، ۱۹۳۵:۵، (۱۵۳۵/۳)۔

② ترمذی، ابواب الزہد: ۲۳۹۸

چوتھا باب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ کے بیان میں

حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اپنے لاڈلے اور محبوب رسول ﷺ کی مصاحبت کیلئے اس جماعت کو چنا اور چھانٹا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانہ میں بھیجا گیا❶۔ اس لئے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا اور زمانہ کے بہترین آدمی حضور ﷺ کی صحبت میں رکھے گئے۔

(۱) حضور ﷺ کی ایک جنازہ سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت

حضور اقدس ﷺ ایک جنازہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت کا پیام کھانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور ﷺ خُدّام سمیت تشریف لے گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کی بغیر اجازت لے لیا گیا۔ اس عورت نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے آدمی بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں۔ پڑوسی نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملے نہیں۔ ان کی بیوی نے بکری بھیج دی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو❷۔

ف: حضور ﷺ کی عُلُوِّ شان کے مقابلہ میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور ﷺ کے ادنی غلاموں کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آجاتے ہیں۔

(۲) حضور ﷺ کا صدقہ کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ ازواجِ

---

❶ الشفاء للقاضي عیاض، الباب الثاني في تكمیل اللہ تعالیٰ لہ المحاسن، (۱/ ۸۲)۔

❷ أبو داود، كتاب البیوع، باب اجتناب الشبهات، :۳۳۲۵، (۴/ ۱۱۴)۔

مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ! آج نیند نہیں آتی؟ ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر کھالی تھی کہ ضائع نہ ہو۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو①۔

ف: اَقرَب یہی ہے کہ وہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی اپنی ہی ہو گی، مگر چونکہ صدقہ کا مال بھی حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے یہاں آتا تھا، اس شبہ کی وجہ سے نبی اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدانخواستہ وہ صدقہ کی ہو اور اس صورت میں صدقہ کا مال کھایا گیا ہو۔ یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شبہ پر رات بھر کروٹیں بدلیں اور نیند نہیں آئی۔ اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت، سود، چوری، ڈاکہ ہر قسم کا ناجائز مال کس سرخروئی سے کھاتے ہیں اور ناز سے اپنے کو غلامانِ محمد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم شمار کرتے ہیں۔

(۳) حضرت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کا ایک کاہن کے کھانے سے قے کرنا

حضرت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمالیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعہ سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانۂ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا۔ آج میرا گزر اُدھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ تُو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی شدت میں کھایا گیا، نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر قے فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائیں یہ ساری مشقت اس ایک لقمہ کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری

---

① مسند أحمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص: ۶۸۲۰، (۱۱/ ۴۲۰)۔

جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کو جو بدن مالِ حرام سے پرورش پائے آگ اس کیلئے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ پا جائے ❶۔

ف: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی۔ تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تو قے فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانۂ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا۔ جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب قے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمالِ احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔

(۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صدقہ کے دودھ سے قے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزا کچھ عجیب سا نیا سا معلوم ہوا، جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقہ کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارا قے فرما دیا ❷۔

ف: ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جز نہ بنے، چہ جائے کہ بالکل حرام جیسا کہ ہمارے اس زمانہ میں شائع (عام) ہو گیا۔

(۵) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا

ابنِ سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت

---

❶ صحیح البخاري، کتاب فضائل الصحابة، باب في ایام الجاهلیة: ۳۶۲۹، (۳/ ۱۳۹۵)۔ ومنتخب کنز العمال، فضائل ابی بکر الصدیق، (۴/ ۳۶۰)۔

❷ موطا الإمام مالک، کتاب الزکوة، باب ماجاء في أخذ الصدقات: ۹۲۴، (۲/ ۳۷۹)۔

قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا کہ دِقّت ہو گی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہو گا۔ اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لئے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شانہٗ تمہارے باپ پر رحم فرمائیں انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقعہ ہی نہ دیں ❶۔

ف: غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار پر تھا اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے، اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ قصہ ۴ باب ۳ سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کیلئے جمع کئے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔

(۶) حضرت علی بن مَعبَد رحمۃ اللہ علیہ کا کرایہ کے مکان سے تحریر کو خشک کرنا

علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ ایک مُحدِّث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک کرایہ کے مکان میں رہتا تھا، ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کیلئے مٹی کی ضرورت ہوئی، کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پر سے ذرا سی کھرچ کے تحریر پر ڈال لوں۔ پھر خیال آیا کہ مکان کرایہ کا ہے (جو رہنے کے واسطے کرایہ پر لیا گیا، نہ مٹی لینے کے واسطے)، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اتنی ذرا سی مٹی میں کیا مضائقہ ہے، معمولی چیز ہے۔ میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کو معلوم ہو گا یہ کہنا کہ "معمولی مٹی" کیا چیز ہے۔

ف: "کل معلوم ہو گا" کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے درجات بہت زیادہ ہیں۔

---

❶ کتاب الأموال، کتاب مخارج الفیٔ، باب توفیر الفیٔ، (۲/ ۱۲۰)۔

کمال درجہ یہ یقیناً تھا کہ اس سے بھی احتراز کیا جاتا، اگرچہ عرفاً معمولی چیز شمار ہونے سے جواز کی حد میں تھا①۔

(۷) حضرت علیؓ کا ایک قبر پر گزر

کُمیلؒ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے مقبرہ والو! اے بوسیدگی والو! اے وحشت اور تنہائی والو! کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لئے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کمیل! اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا: اے کمیل! قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے②۔

ف: یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں، جو میت کے جی بہلانے اور اُنس پیدا کرنے کے لئے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے۔ اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں، جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے③۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کا مال (جیسا کہ عرب میں دستور تھا) اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ دو چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آجاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے④۔ حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہؓ کے دریافت فرمانے پر حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے تین بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک

---

① إحیاء العلوم، کتاب تفریق الصدقات، (۲/۴۱۳)۔
② کنز العمال، کتاب الأخلاق، ۸۴۹۵، (۳/۶۹۷)۔
③ تفسیر طبری، یونس، ۹
④ بخاری، کتاب الرقاق: ۶۵۱۴

بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی! تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا اور جب تُو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا اور دفن کے بعد تیرا ذکرِ خیر کروں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جاوے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اب بتلاؤ؟ کون سا بھائی کار آمد ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہی بھائی کار آمد ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے ①۔

(۸) حضور ﷺ کا ارشاد: جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانُہٗ خود پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں، مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے۔ ﴿يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴾ (المؤمنون: ۵۱)۔ اے رسولو! پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ﴾ (البقرۃ: ۱۷۲)۔ اے ایمان والو! ہمارے دیئے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا (اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے) اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا (یعنی پریشان حال) دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی اس کا حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام

---

① کنز العمال، کتاب الموت: ۲۴۹۸۱

ہی کھایا۔ تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے ❶؟

ف: لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں چہ جائیکہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے اسی لئے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو۔

(۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو مشک تولنے سے انکار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بَحْرَیْن سے مشک آیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپؓ کی اہلیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں تول دوں گی۔ آپؓ نے سن کر سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ نے پھر یہی عرض کیا، آپ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تُو اس کو اپنے ہاتھ سے ترازو کے پلڑے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لے اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو ❷۔

ف: یہ کمالِ احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محلِ تہمت سے بچانا، ورنہ جو بھی تولے گا اس کے ہاتھ کو تو لگے ہی گا، اس لئے اس کے جواز میں کوئی تردد نہ، تھا لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کیلئے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو عمرِ ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانہ میں ایک مرتبہ مشک تولا جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنی ناک بند فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا نفع تو خوشبو ہی سونگھنا ہے۔

ف: یہ ہے احتیاط ان صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی اور ہمارے بڑوں کی، پیشواؤں کی۔

---

❶ جمع الفوائد، کتاب البیوع، ۴۵۳۵، (۲/۱۸۸)۔

❷ احیاء العلوم، کتاب تفریق الصدقات، (۲/۹۶)۔

(۱۰) حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حجاج کے حاکم کو حاکم نہ بنانا

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ یہ صاحب حَجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ عمر بن عبد العزیزؒ نے ان حاکم کو معزول کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو حَجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانہ کام کیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ❶۔

ف: مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقہ سے تقویٰ کا اثر پڑتا ہے۔ جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنار جانوروں تک کے اثرات پاس رہنے سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے، اور مسکنت بکری والوں میں ❷۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھا ہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے، تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہوگی۔ اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں ہے ❸۔

پانچواں باب

نماز کا شَغَف اور شوق اور اس میں خشوع و خضوع

نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ہی آڑ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس بارے میں وارد ہیں جو میرے

---

❶ إحياء العلوم، كتاب النفقات، الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين، (۲/۱۴۲)۔

❷ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين: ۴۳۸۸، (۵/۱۷۳)۔

❸ جمع الفوائد، كتاب التفسير، باب فضل السور، : ۶۱۸۷، (۳/۷۸)۔

ایک دوسرے رسالہ میں مذکور ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں

حق تعالیٰ شانُہ ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بہ نسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں ❶۔

ف: آنکھ، کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے اور کوئی بات بھی میری خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شانُہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائیں۔

(۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا

ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو، وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بات عجیب نہ تھی۔ ہر بات عجیب ہی تھی، ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے: لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کیلئے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینۂ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔

---

❶ البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع: ۶۵۰۲

پھر سجدہ سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آکر صبح کی نماز کیلئے آواز دی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنے روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی (اگر بالفرض ہوں بھی تو) مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ﴿اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰) ❶۔

یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور ﷺ رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آگیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ❷۔

(۳) حضور ﷺ کا چار رکعت میں چھ پارے پڑھنا

حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے ہم رکاب تھا۔ حضور ﷺ نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا۔ حضور ﷺ نے سورۂ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی اور جو آیت رحمت کی آتی حضور ﷺ اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی اور رکوع میں "سُبۡحَانَ ذِی الۡجَبَرُوۡتِ وَ الۡمَلَکُوۡتِ وَ الۡعَظۡمَۃِ" پڑھتے جاتے تھے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے (نسائی)۔ اس طرح چار رکعتوں میں سوا چھ پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی، جس میں ہر آیتِ رحمت اور آیتِ عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے

---

❶ صحیح ابن حبان، ٦٢٠

❷ صحیح البخاري، کتاب التہجد، ١١٣٠، (٢/٥٠)۔

کا اسی طرح نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چار رکعتوں میں چار سورتیں سورۃ بقرہ سے لے کر سورۂ مائدہ کے ختم تک پڑھیں ❶۔

ف: ان چار سورتوں کے سوا چھ پارے ہوتے ہیں، جو حضور ﷺ نے چار رکعتوں میں پڑھے اور حضور اکرم ﷺ کی عادتِ شریفہ تجوید وترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی جیسا اکثر احادیث میں ہے ❷۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیتِ رحمت اور آیتِ عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ ❸، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح چار رکعات میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہو گا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے ایک رکعت میں سورۂ بقرہ، سورۂ آل عمران، مائدہ تین سورتیں پڑھیں جو تقریباً پانچ پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ❹۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ اِتِّبَاعَهٗ۔

(۴) حضرت ابو بکر صدیق ؓ وحضرت ابن زبیرؓ وحضرت علیؓ وغیرہ کی نمازوں کے حالات

مجاہدؒ حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عبد اللہ بن زبیر ؓ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر ؓ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور ﷺ سے، یعنی جس طرح حضور ﷺ نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابو بکر صدیق ؓ پڑھتے تھے اور اسی طرح عبد اللہ بن زبیرؓ ❺۔ ثابتؒ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن زبیر ؓ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر ؓ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آکر کمر پر بیٹھ جاتیں۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات

---

❶ سنن النسائي، کتاب التطبیق،:۱۱۳۲، (۲/ ۲۲۳)۔

❷ ترمذی، ابواب فضائل القرآن:۲۹۲۳

❸ ابو داود، ابواب الرکوع:۸۷۳

❹ نسائی:، کتاب عشرۃ النسا، ۳۹۴۰

❺ تاریخ الخلفاء ابو بکر الصدیق، (۱/ ۹۵)۔ طبقات ابن سعد، (۶/ ۴۸۳)۔

گزر جاتی۔ جب (حجاج کی) حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا۔ مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچہ پر لپٹ گیا، وہ چلایا۔ گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیرؓ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے: کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا: اللہ تم پر رحم کرے، بچہ کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے: تیرا ناس ہو، گر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانہ میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لئے متنبہ کئے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے ❶۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آجاتا تو بدن میں کپکپی آجاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دق نہیں کرتیں؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے، میں ہلا تک نہیں۔ میں اپنے رب کے ساتھ کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔

مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد

---

❶ الاستیعاب، باب ابن ابی العاص، (۱/ ۳۲۰)۔

میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے۔ شور و شَغَب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حاتم اَصَمّ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصہ میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں❶۔

(۵) ایک مہاجر اور ایک انصاری کی چوکیداری اور انصاری کا نماز میں تیر کھانا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چوکیدارہ کون کرے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبّاد بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دونوں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا، بتادی کہ اس پر دونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انصاری نے مہاجری سے کہا کہ رات کو دو حصوں پر منقسم کر کے ایک حصہ میں آپ سو رہیں، میں جاگتا رہوں دوسرے حصہ میں آپ جاگیں اور میں سوتا رہوں، کہ دونوں کے تمام رات میں جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے۔ اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے۔ رات کا پہلا آدھا حصہ انصاری کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجری سو گئے۔

انصاری نے نماز کی نیت باندھ لی۔ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا اور پھر اسی طرح

---

❶ إحیاء العلوم، کتاب اسرار الصلوۃ، الباب الأول في فضائل الصلوۃ، (۱/۱۵۱)

تیسرا تیر مارا اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نا معلوم کتنے ہوں۔ مگر ساتھی نے جب اٹھ کر دیکھا تو انصاری کے بدن سے تین جگہ سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ مہاجری نے فرمایا: سبحان اللہ! تم نے مجھے شروع ہی میں نہ جگا لیا۔ انصاری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورت (سورۂ کہف) شروع کر رکھی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور ﷺ نے جو حفاظت کی خدمت سپرد کر رکھی ہے، وہ فوت ہو جائے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا①۔

ف: یہ تھی ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے۔ بھڑ کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یا اس وقت تک اس مسئلہ کی تحقیق نہ ہوئی ہو، کہ حضور اکرم ﷺ اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو۔

(۶)　حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نماز میں خیال آجانے سے باغ وقف کرنا

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لئے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعۃً نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کونسی رکعت ہے، نہایت قلق ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی، فوراً حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے

---

① السنن الکبریٰ للبیہقی، باب ترک الوضوء من خروج الدم، :۶۴۷، (۱/ ۱۴۰)۔ أبو داود، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من الدم: ۲۰۰، (۱/ ۴۴)۔

درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لئے میں اس کو اللہ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجئے۔

اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے، نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے، کیجئے۔ انہوں نے اس باغ کو پچاس ہزار میں فروخت کرکے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی ❶۔

ف: یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آجانے سے پچاس ہزار درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”قولِ جمیل“ میں صوفیہ کی نسبت کی قسمیں تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ یہ نسبت ہے اللہ کی اطاعت کو ماسوٰی پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی؟

(۷) حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن پانچ دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ بجائے زمین کے کسی اونچی لکڑی پر کرنا ہو گا۔ انہوں نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ واللہ! ایک رکعت بھی مجھے اس طرح پڑھنا منظور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑے وہ حق تعالیٰ شانہ سے ایسی طرح

---

❶ الموطا للإمام مالک، کتاب النداء للصلوٰۃ، باب النظر من الصلوٰۃ الی مایشغلک، : ۳۲۷، (۲/ ۱۳۶)۔

ملے گا کہ حق سبحانہ وتقدّس اس پر ناراض ہوں گے ❶۔

ف: اگرچہ شرعاً نماز اس طرح سے مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید میں داخل نہیں ہوتی، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز کے ساتھ جو شَغَف تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی جس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آنکھ بنوانے کو بھی پسند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی۔ آج ہم بے حیائی سے جو چاہے ان مر مٹنے والوں کی شان میں منہ سے نکال دیں۔ جب کل ان کا سامنا ہوگا اور یہ فدائی میدانِ حشر کی سیر کے لطف اڑا رہے ہوں گے، جب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ کیا تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔

(۸) صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز کے وقت فوراً دکانیں بند کرنا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ (النور: ۳۷) ترجمہ پوری آیتِ شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں: خدا کی قسم! یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی

---

❶ سنن البیہقی الکبریٰ، کتاب الحیض، باب من وقع فی عینہ الماء: ۱۶۹۹، ۳۴۹۹، (۲/ ۳۰۹)۔

طرف چل دیئے۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے ﴿لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ سے یاد فرمایا۔

ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا ''کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا: کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خواب گاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا ❶۔

(۹) حضرت خُبَیب رضی اللہ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنا اور زید و عاصم رضی اللہ عنہما کا قتل

اُحُد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سُلافہ نے، جس کے دو بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، مَنّت مانی تھی کہ اگر عاصم کا (جنہوں نے اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا) سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوؤں گی۔ اس لئے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو سو (۱۰۰) اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عَضَل و قارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس ﷺ سے تعلیم و تبلیغ کے لئے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصمؓ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا وعظ پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے دس آدمیوں کو اور بعض روایات میں چھ آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستہ میں جا کر ان

---

❶ شعب الایمان، الباب الحادی والعشرون، فضل المشي إلى المساجد،: ۲۶۶۲، (۴/ ۳۶۹)۔

لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلہ کیلئے بلایا جو دو سو (۲۰۰) آدمی تھے اور ان میں سے سو (۱۰۰) آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کیلئے بھیجا تھا۔ راستہ میں بَنُولِحْیان کے دو سو (۲۰۰) آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔

یہ مختصر جماعت دس آدمیوں کی یا چھ آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر، جس کا نام ''فَدفَد'' تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے۔ صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلہ میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آجاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا، جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا مگر گھبرانے کی بات نہیں۔ شہادت کو غنیمت سمجھو۔ تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں، یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا۔ آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ! اپنے رسول صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو ہمارے قصہ کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعہ کا علم حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو ہو گیا اور چونکہ عاصم رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ یہ بھی سن چکے تھے کہ سُلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی مَنت مانی ہے، اس لئے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ! میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے، وہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھڑوں کا ایک غول بھیج دیا۔ جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔

کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رَو آئی اور ان کی نعش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح سات آدمی یا تین آدمی شہید ہو گئے۔ غرض تین باقی رہ گئے حضرت خُبَیب اور زید بن دثنہ اور عبد اللہ بن طارق رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آجاؤ، ہم تم سے

بد عہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشکیں باندھیں۔ حضرت عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف دو حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے پچاس اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ اُمیّہ کے بدلہ میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خُبَیب رضی اللہ عنہ جن کو حُجَیر ابن ابی اہاب نے سو اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیئے جائیں، اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابوسفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید! تجھ کو خدا کی قسم، سچ کہنا ”کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی گردن تیرے بدلہ میں ماردی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں، وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابوسفیان نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے۔

حضرت خُبَیب رضی اللہ عنہ ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ حُجَیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں، کہتی ہیں کہ جب خُبَیب ہم لوگوں کی قید میں تھے، تو ہم نے دیکھا کہ خُبَیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لئے ہوئے انگور کھا رہے ہیں اور مکہ

میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کیلئے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خُبَیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیبؓ نے فرمایا: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچہ کو قتل کر دوں گا، ؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی ملاقات قریب ہے، چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے دو رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھوگے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو دو رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیئے گئے تو انہوں نے دعا کی: یا اللہ! کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک ﷺ تک میرا آخری سلام پہنچا دے، چنانچہ حضور ﷺ کو بذریعۂ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا "وعلیکم السلام یا خُبَیب"! اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خُبَیبؓ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خُبَیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو چالیس کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد (ﷺ) کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا: واللہ العظیم! مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور ﷺ کو چبھے ①۔

ف: ویسے تو ان قصوں کا ہر ہر لفظ عبرت ہے لیکن اس قصہ میں دو چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابلِ عبرت ہیں: ان حضرات کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت و عشق کہ اپنی جان جائے اور اس کے بدلہ میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور ﷺ کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہونچ جائے، اس لئے کہ حضرت خُبَیب رضی اللہ عنہ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلہ میں حضور ﷺ کو

---

① صحیح البخاري، کتاب الجهاد والسیر، باب هل یستاسر الرجل، رقم الحدیث: ۳۰۴۵، (۴/ ۶۷)۔

تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے۔ صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کہتا ہے۔ مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری تمنا ہے تو دو رکعت نماز کی۔

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیّت کیلئے نماز کی مدد

حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات، مثلاً مسواک، مصلّٰی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جنت میں آپ کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور کچھ۔ کہا: بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا میری مدد کیجیو سجدوں کی کثرت سے ①۔

ف: اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیئے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہو گی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعا کرائیں گے، سخت غلطی ہے۔ اللہ جَلَّ شَانُہُ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے۔ پچاس طرح کی کوشش کرتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آجاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔

---

① أبو داود، أبواب قیام اللیل، باب وقت قیام اللیل علیہ السلام، رقم الحدیث: ۱۳۱۴، (۲/۲۰۴)۔

چھٹا باب

ایثار و ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا

ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت دوسروں کو ترجیح دینا۔ اول تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر ادا، ہر عادت ایسی ہی ہے جس کی برابری تو درکنار، اس کا کچھ حصہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، لیکن بعض عادتیں ان میں سے ایسی ممتاز ہیں کہ انہیں کا حصہ تھیں۔ ان کے منجملہ ایثار ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تعریف فرمائی اور ﴿يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ میں اس صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گو ان پر فاقہ ہی ہو۔

(۱) صحابی رضی اللہ عنہ کا مہمان کی خاطر چراغ بجھا دینا

ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا، کہیں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابیؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جو اکرام کر سکے اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم! بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابیؓ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجیو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جاویں گے اور تُو چراغ کے درست کرنے کے بہانہ سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر یہ آیت ﴿يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ﴾ (الحشر: ۹)۔ نازل ہوئی۔

ترجمہ: اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو ①۔

ف: اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہؓ کے یہاں پیش آئے چنانچہ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا لکھا ہے۔

---

① صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله ويؤثرون على انفسهم، رقم الحديث: ۴۸۸۰، (۶/۱۴۸)۔

(۲) روزہ دار کے لئے چراغ بجھا دینا

ایک صحابیؓ روزہ پر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کیلئے کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے تاڑ لیا۔ بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان کو لاؤں گا، جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے حیلہ سے بجھا دینا اور اتنے مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے خود نہ کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں۔ صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ حق تعالیٰ شانہٗ کو بہت پسند آیا①۔

(۳) ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا زکوٰۃ میں اونٹ دینا

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کیلئے بھیجا، میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ ایک سالہ واجب تھا میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک سال کا بچہ نہ دودھ کے کام کا، نہ سواری کے کام کا، انہوں نے ایک نفیس عمدہ جوان اونٹنی سامنے کی کہ یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں لے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں۔ البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آج پڑاؤ فلاں جگہ تمہارے قریب ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کر دو اگر منظور فرمالیا تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں معذور ہوں۔

وہ اس اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ ہو لئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس آپ کے قاصد زکوٰۃ کا مال لینے آئے تھے اور خدا کی قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ رسول اللہ یا ان کے قاصد نے میرے مال میں کبھی تصرف فرمایا ہو۔ اس لئے میں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کا واجب ہے حضور! ایک سال کے بچہ سے نہ تو

---

① الدر المنثور: ۹، الحشر۔

دودھ کا ہی نفع ہے نہ سواری کا، اس لئے میں نے ایک عمدہ جوان اونٹنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا اس لئے میں خود لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی، مگر تم اپنی طرف سے اس سے زیادہ اور عمدہ مال دو تو قبول ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر مرحمت فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حاضر ہے۔ حضور ﷺ نے قبول فرمالیا اور برکت کی دعا فرمائی ❶۔

ف: یہ زکوٰۃ کے مال کا منظر ہے آج بھی اسلام کے بہت سے دعویدار ہیں اور حضور ﷺ کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیا ذکر ہے، پوری مقدار بھی ادا کرنا موت ہے۔ جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں ان کے یہاں تو اکثر و بیشتر اس کا ذکر ہی نہیں، لیکن جو متوسط حیثیت کے لوگ ہیں اور اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز رشتہ داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری سے پیش آجائے اس میں زکوٰۃ ہی کی نیت کرلیں۔

(۴) حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا صدقہ میں مقابلہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا کہ آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے، اگر میں ابو بکرؓ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا آخر کیا چھوڑا۔ میں نے عرض کیا آدھا چھوڑ آیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ابو بکر! گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا ان کیلئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا کہ میں حضرت ابو بکرؓ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا ❷۔

---

❶ أبو داود، کتاب الزکوٰۃ، باب في زکوٰۃ السائمۃ، رقم الحدیث: ۱۵۷۳، (۲/۳۲۵)۔

❷ فضائل الصحابۃ لاحمد بن حنبل، من فضائل عمر بن الخطاب، رقم: ۵۲۷۔

ف: خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں یہ مستحسن اور مندُوب (پسندیدہ) ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ یہ قصہ غزوۂ تبوک کا ہے۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی خاص طور پر ترغیب فرمائی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے حوصلہ کے موافق بلکہ ہمت و وسعت سے زیادہ اعانتیں فرمائیں جن کا ذکر باب نمبر ۲ کے قصہ نمبر ۸ میں بھی مختصر طور پر گزرا ہے۔

(۵) صحابہ رضی اللہ عنہم کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا

حضرت ابو جُہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یَرمُوک کی لڑائی میں میں اپنے چچازاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں، اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کَنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں۔ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی۔ میرے چچازاد بھائی نے آواز سنی، تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا، میں ان کے پاس پانی لے کر گیا، وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام رضی اللہ عنہ نے مجھے ان پاس لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشامؓ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے، ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ①۔

ف: اس نوع کے متعدد واقعات کتبِ احادیث میں ذکر کئے گئے۔ کیا انتہاء ہے اس ایثار کی کہ اپنا بھائی تو دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چہ جائیکہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے۔ اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے

---

① شعب الایمان، الباب الثانی والعشرون، فصل فی ما جاء فی الایثار، رقم الحدیث: ۳۲۰۸، (۵/ ۱۴۲)۔

وقت بھی جب ہوش وحواس سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دیتے ہیں۔

(۶) حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوۂ اُحد میں شہید ہو گئے اور بیدرد کافروں نے آپؓ کے کان، ناک، وغیرہ اعضاء کاٹ دیئے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کئے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہو گا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کونسی بڑی بات ہے۔ ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاء اللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، اِنَّا للہ پڑھی اور ان کیلئے اِستِغفار اور دعا کی۔

ایک روایت میں ہے کہ غزوۂ اُحد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، جلدی سے روکنے کیلئے بڑھا، مگر وہ قوی تھیں ایک گھونسا میرے مارا اور کہا کہ پرے ہٹ۔ میں نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کیلئے لائی تھی کہ ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے

لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہؓ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ اس لئے ہم نے دونوں کیلئے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔ تو ہم نے قرعہ ڈالا قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصہ میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا۔ جو ان کے قد سے بھی کم تھا، اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو❶۔

ابن سعدؒ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہؓ کی نعش پر پہنچیں، تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خَمیس (کتاب) کی روایت مفصل ہے۔

ف: یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لئے دو کپڑے دیتی ہیں اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصہ میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعویدار اگر اپنے دعوؤں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں، جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لئے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔

(۷) بکرے کی سری کا چکر کاٹ کر واپس آنا

حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابیؓ کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ

---

❶ تاریخ الخمیس، الموطن الثالث، غزوۃ أحد، (۱/۴۴۱)۔

والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں اس لئے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اس طرح سات گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابیؓ کے گھر لوٹ آئی ❶۔

ف: اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔

(۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آرہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں جنگل کا رہنے والا ہوں۔ امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔

دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آرہی ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ میاں! جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں بتادو کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، دردِ زہ ہو رہا ہے۔ آپؓ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپؓ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لئے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپؓ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو دردِ زہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا: ہاں ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتیں کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی

---

❶ المستدرک للحاکم، الباب الثانی والعشرون، ۳۴۷۹، (۲-۵۲۶)

ضرورت پڑتی ہو، تیل گودڑ، وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تو خیمہ میں چلی گئیں اور آپؓ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثومؓ نے آواز دے کر عرض کیا: امیر المُؤمنین! اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجئے۔ امیر المُؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا، تو وہ گھبرا گئے، آپؓ نے فرمایا۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اس کو کھلایا اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدّو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا تمہارے لئے انتظام کر دیا جائے گا①۔

ف: ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیئے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ سوچنا چاہیئے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔

(۹) ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ وقف کرنا

حضرت اَنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام "بیر حا" تھا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا۔ پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراط سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا

---

① مشاہیر الإسلام، عمر بن الخطاب، اہتمامہ لأمور الرعیۃ، (۱۴۲)۔

تُحِبُّوْنَ﴾ (آل عمران ۹۲) (ترجمہ تم نیکی (کے کامل درجہ) کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کروگے جو تم کو پسند ہیں۔) نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ "بیر حا" سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔ اس لئے وہ اللہ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرمادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہلِ قرابت میں تقسیم کردو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرمادیا❶

ف: ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد کوئی آدھ وعظ سن کر، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں؟ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد، یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے، اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آوے بعد میں جو ہو، وہ ہوتا رہے۔ ہاں! نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو، تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔

(۱۰) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا

حضرت ابوذر غِفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کے اسلام لانے کا قصہ باب نمبر ۱ کے نمبر ۵ پر گزر چکا۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے۔ مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے "ربذہ" میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف سا چرواہا تھا، جو ان کی خبر گیری کرتا تھا، اسی پر گزر تھا۔

ایک شخص قبیلہ بنو سُلَیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ

---

❶ مسلم، کتاب الزکوۃ، باب فضل النفقۃ، ۸۹۸، (۲/ ۶۹۳)۔

آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابوذرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اگر تم بھی میری اطاعت کے لئے تیار ہو تو شوق سے رہو۔ کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سُلیمی صاحب نے عرض کیا: کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، مجھ سے فرمایا: ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی کارآمد اور سواری میں مطیع۔ میں نے حسبِ وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غرباء کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجہ کی عمدہ اونٹنی کہ اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی، لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آکر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں؟ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا۔ فرمایا کو اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابوذرؓ کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔

اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا، اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا، فرمایا: اپنی ضرورت کا دن

بتاؤں۔ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر تین حصہ دار ہیں: ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسرا: وارث جو اس کے انتظار میں ہے تُو مرے تو وہ لے لے اور تیسرا حصہ دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ﴾ (آل عمران: ۹۲) اس لئے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لئے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لئے جمع رہے ❶۔

ف: ”تین حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن“ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لئے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لئے۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آجائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضہ میں آجائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لئے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے: آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیا اور اپنے لئے خزانہ میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کیلئے جمع کر رہا ہے ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسا کون ہو گا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے ❸۔

---

❶ تاریخ ابن عساکر، أبوذر الغفاری، (۶۶/ ۲۰۵) والدر المنثور، الآیۃ: ۹۲، آل عمران۔

❷ مسلم، کتاب الزہد والرقاق، ۲۹۵۹

❸ صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما قدم من مالہ، ۶۴۴۲، (۸/ ۹۳)۔

(۱۱) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت جعفرؓ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا، غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی جس کا حصہ پہلے باب کے نمبر ۱۰ پر گزرا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوۂ مُوتہ میں شہید ہوئے جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آرہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبد اللہ اور عَون اور محمد رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی، ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبد اللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قُطبُ السخاء، سخاوت کا قُطب تھا، سات برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔

انہی عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجہَہٗ کے یہاں سفارش کرائی، ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پر چالیس ہزار درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیئے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے دو ہزار درہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیئے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آجاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا ❶۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبد اللہ کو وصیت

---

❶ الإصابة، حرف العين المهملة، (۴/ ۴۲)۔

فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ نے جب قرضہ کو جوڑا تو بائیس لاکھ درہم تھے اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے، یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولیٰ سے کہہ دینا۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولیٰ کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولیٰ کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دِقّت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیرؓ کے مولیٰ! فلاں کام نہیں ہوتا وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ دس لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیئے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلہ میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی۔ جو معمولی حیثیت کی تھی پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلیٰ بچھا دے۔ اس نے مصلیٰ بچھا دیا۔ دو رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا۔ ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا①۔

ف: ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔

☆☆☆☆☆

---

① أسد الغابة، عبد اللہ بن جعفر، ۲۸۶۴، (۳/۱۹۹)۔

ساتواں باب

بہادری، دلیری اور موت کا شوق

جس کا لازمی نتیجہ بہادری ہے کہ جب آدمی مرنے ہی کے سر ہو جائے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری بزدلی، سوچ فکر زندگی ہی کے واسطے ہے اور جب مرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے تو نہ مال کی محبت رہے نہ دشمن کا خوف۔ کاش! مجھے بھی ان سچوں کے طفیل یہ دولت نصیب ہو جاتی۔

(۱) ابن جَحش اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی دعا

حضرت عبد اللہ بن جَحش رضی اللہ عنہ نے غزوۂ اُحد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعد! آؤ مل کر دعا کریں ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعدؓ نے دعا کی: یا اللہ! جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زور دار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور اس کے بعد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی: اے اللہ! کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے۔ پھر میرے ناک، کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو، تو تُو کہے کہ عبد اللہ! تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں: یا اللہ! تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے۔ پھر تُو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آمین کہی۔

دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن جَحش رضی اللہ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ اُحد کی

لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی حضور ﷺ نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی اور دو سو دینار کی فروخت ہوئی ❶۔ دینار سونے کے ایک سکہ کا نام ہے۔

ف: اس قصہ میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلہ کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے اور آخر میں جب وہ پوچھیں کہ سب کیوں ہوا؟ تو میں عرض کروں کہ تمہارے لئے۔

رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں
مرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں

(۲) اُحد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری

غزوۂ اُحد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی جس کی بڑی وجہ نبی اکرم ﷺ کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، جس کا ذکر باب ا قصہ نمبر ۲ میں گزر چکا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم ﷺ بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور ﷺ شہید ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔

حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس ﷺ میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور ﷺ کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا۔ پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور ﷺ لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالیٰ شانہٗ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لئے اپنے پاک رسول ﷺ کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لئے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔

---

❶ السنن الکبریٰ للبیہقي، کتاب قسم الفيئ، باب السلب للقاتل، ۱۳۱۴۸، (۶/۳۰۷)۔ تاریخ الخمیس، الموطن الثالث، غزوۃ أحد، دعاء عبد اللہ بن جَحش (۱/۴۴۲)۔ الإصابة، حرف العین المہملة، (۴/۳۶)۔

میں نے تلوار لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹنے لگے اور میری نگاہ نبی اکرم ﷺ پر پڑ گئی تو بیحد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب ﷺ کی حفاظت کی۔ میں حضور ﷺ کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کفار کی حضور ﷺ پر حملہ کیلئے آئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: علی! ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیئے اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور ﷺ پر حملہ کی نیت سے بڑھی، آپ ﷺ نے پھر حضرت علیؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس جوانمردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور ﷺ نے فرمایا ''اِنَّہٗ مِنِّیْ وَ اَنَا مِنْہُ'' بیشک علیؓ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا، تو حضرت جبرئیلؑ نے عرض کیا وَ اَنَا مِنْکُمَا ''میں تم دونوں سے ہوں''❶۔

ف: ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بھڑ جانا اور نبی اکرم ﷺ کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جمگھٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور ﷺ کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرأت کا بھی نقشہ پیش کرتا ہے۔

(۳) حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت

غزوۂ اُحد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اول سے شریک نہیں تھے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی بیوی سے ہمبستر ہوئے تھے۔ اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کیلئے بیٹھ بھی گئے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی، جس کی تاب نہ لا سکے، اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے، چونکہ شہید کو اگر جُنبی (حالت جنابت میں) نہ ہو تو بغیر غسل دیئے دفن کیا جاتا ہے اس لئے

---

❶ الکامل فی التاریخ، السنۃ الثالثۃ، غزوۃ أحد، (۱/ ۲۴۴)۔

ان کو بھی اسی طرح کر دیا۔ مگر حضور اکرم ﷺ نے دیکھا کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے صحابہؓ سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جا کر دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے واپسی پر تحقیق فرمائی تو ان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا①۔

ف: یہ بھی کمال بہادری ہے۔ بہادر آدمی کو اپنے ارادہ میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لئے اتنا انتظار بھی نہیں کہ غسل پورا کر لیتے۔

(۴) عَمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی تمنائے شہادت

حضرت عَمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ان کے چار بیٹے تھے جو اکثر حضور ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوۂ اُحد میں عَمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا: کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کیلئے طعنہ کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ **اَللّٰھُمَّ لَا تَرُدَّنِیْ اِلٰی أَھْلِیْ** (اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیو)۔

اس کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عَمرو کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم! میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے، حتیٰ کہ

---

① السنن الکبریٰ للبیہقي، کتاب الجنائز، باب الجنب یستشھد في المعرکۃ، ۷۰۶۳، (۴/ ۱۵)۔ الخصائص الکبریٰ، باب ما وقع في غزوۃ أحد، (۱/ ۳۵۷)۔

دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی نعش کو اونٹ پر لاد کر دفن کیلئے مدینہ لانے لگیں تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دِقَّت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی مگر وہ اُحُد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے ذکر کیا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عَمرُو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کرکے یہ دعا کی تھی ''اَللّٰھُمَّ لَا تَرُدَّنِیْ اِلٰی أَھْلِیْ'' آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا: اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا❶۔

ف: اسی کا نام ہے جنت کا شوق اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بہتیری کوشش کی کہ اونٹ چلے مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا، یا اُحُد کی طرف چلتا تھا۔

(۵) حضرت مُصْعَب بن عمیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی شہادت

حضرت مُصْعَب بن عمیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے، ان کے باپ ان کے لئے دو دو سو درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے، نو عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا، کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔

وہاں سے واپس آکر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سامنے سے گزرے، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوۂ اُحُد میں

---

❶ المغازي للواقدي، غزوۂ أحد، (۱/ ۲۶۴)۔

مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے، تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جاوے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینہ سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا، اس کے بعد جھنڈا گرا، جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا، جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی اگر سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اِذْخِر کے پتے ڈال دیئے جائیں ❶۔

ف: یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو دو سو درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح سے جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے میں لگا لیتا تھا۔

(۶) قادسیہ کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خط

عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمرؓ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا، عوام اور خواص دونوں قسم کے مجمعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ رہ کر لشکروں کو روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت مناسب ہے اور خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابی

---

❶ الصحیح البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۳۸۹۷، (۵/۵۶)۔ الإصابة، الميم بعدها الصاد، رقم ۸۰۰۸، (۶/۱۲۳)۔

وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ان کو سب نے پسند کر لیا کہ ان کو بھیجا جاوے تو بہت مناسب ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کی ضرورت نہیں۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملہ کیلئے پہنچے، تو شاہ کسریٰ نے ان کے مقابلہ کیلئے رستم کو جو مشہور پہلوان تھا تجویز کیا۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ خوف کا غلبہ تھا مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کے بھیجنے میں اور صلاح مشورہ میں مدد دوں گا۔ مگر بادشاہ نے جس کا نام یَزدِجَرد تھا، قبول نہ کیا اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وصیت فرمائی جس کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے۔ "سعدؓ! تمہیں یہ بات دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیؓ ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے، بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے یہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے یہاں شریف رذیل سب برابر ہیں سب ہی اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی عمل کی چیز ہے۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ تم ایک بہت بڑے کام کیلئے بھیجے جا رہے ہو۔ اس سے چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا۔ اللہ کے خوف کو اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے اس کی اطاعت میں اور گناہ سے پرہیز کرنے میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی، دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی ①۔

اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہایت بشاشت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں۔ فَاِنَّ مَعِیَ قَوْماً یُّحِبُّوْنَ الْمَوْتَ کَمَا یُحِبُّوْنَ الْاَعَاجِمَ الْخَمْرَ (بیشک میرے ساتھ ایسی جماعت ہے

---

① مشاہیر الاسلام، سعد بن ابی وقاص، حروبہ، (۵۱۲)۔

جو موت کو ایسا ہی محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو❶۔

ف: شراب کے دل دادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہوں، کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومے۔

(۷) حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ کی اُحد میں شہادت

حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ بکریاں چراتے تھے، اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ اُحد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتی ہوئی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اس کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے جمگھٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہب رضی اللہ عنہ جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی لڑائی میں نہیں دیکھی اور شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہب رضی اللہ عنہ کے سرہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستِ مبارک سے دفن فرمایا، باوجودیکہ اس لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کسی کے عمل پر بھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا وہب رضی اللہ عنہ کے عمل پر آیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان جیسا اعمال نامہ لے کر پہنچوں❷۔

ف: ان پر رشک اس خاص کارنامہ کی وجہ سے ہے کہ جان کو جان نہیں سمجھا، ورنہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات کے دوسرے کارنامے اس سے کہیں بڑھے

---

❶ الکامل في التاریخ، سنة أربع عشرة، ذکر ابتداء أمر القادسیة، (۱/۴۰۸)۔

❷ الإصابة، الواو بعدها الهاء، رقم: ۹۱۷۷، (۶/۶۲۸)۔

ہوئے ہیں۔

(۸) بیرِ مَعُونَہ کی لڑائی

بیرِ مَعُونَہ کی ایک مشہور لڑائی ہے، جس میں ستر (۷۰) صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرّاء کہتے ہیں، اس لئے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور ﷺ کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور ﷺ کی بیبیوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو براء تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مَضرّت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ ﷺ نے ان ستر (۷۰) صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ (خط مبارک) عامر بن طفیل کے نام جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔

یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیرِ مَعونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی ایک حضرت عمر بن اُمیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت مُنذِر بن عمر رضی اللہ عنہ سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کیلئے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور ﷺ کا والا نامہ دینے کیلئے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دو ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ تین کے مارے جانے سے ایک کا مارا جانا بہتر ہے۔

عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہؓ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصہ میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرامؓ کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا

حضرت حرام رضی اللہ عنہ ”فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ“ (رب کعبہ کی قسم! میں تو کامیاب ہو گیا) کہہ کر جاں بحق ہوئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو براء کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان ستر (۷۰) صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے، چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے جن میں کچھ زندگی کی رَمَق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔

حضرت منذر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آکر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لئے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیئے۔ عمر بن اُمَیّہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ مگر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں۔ آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن اُمَیّہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمہ کسی منت کے سلسلہ میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لئے عامر نے ان کو اس منت پر آزاد کیا ❶۔

ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فُہَیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمٰی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فُزْتُ وَاللهِ (خدا کی قسم! میں کامیاب ہو گیا) اس کے بعد میں نے

---

❶ الصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ۴۰۸۶، (۵/ ۱۱۳)۔

دیکھا کہ ان کی نعش آسمان کو اڑی چلی گئی، میں بہت متحیر ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی، اس پر میں مسلمان ہو گیا①۔

ف: یہ ہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے، بیشک موت ان کے لئے شراب سے زیادہ محبوب تھی اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کئے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخروئی یقینی تھی۔ اس لئے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔

(۹) حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا قول کہ کھجوریں کھانا طویل زندگی ہے

غزوۂ بدر میں حضور اقدس ﷺ ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور بڑھو ایسی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے اور متقیوں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمیر بن الحمامؓ ایک صحابی ہیں، وہ سن رہے تھے، کہنے لگے: واہ واہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا: واہ واہ کس بات پر کہا۔ عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے یہ تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم بھی ان میں سے ہو، اس کے بعد جھولی میں سے چند کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار جو ہاتھ میں ہیں، بڑی لمبی زندگی ہے کہاں تک انتظار کروں گا، یہ کہہ کر ان کو پھینک دیا اور تلوار لے کر مجمع میں گھس گئے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے②۔

ف: حقیقت میں یہی لوگ جنت کے قدر دان ہیں اور اس پر یقین رکھنے والے۔ ہم لوگوں کو بھی اگر یقین نصیب ہو جائے تو ساری باتیں سہل ہو جائیں۔

(۱۰) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو ذکر ہی کیا ہے، بچہ بچہ ان کی بہادری سے واقف اور شجاعت کا معترف ہے۔ اسلام کے شروع میں جب مسلمان سب ہی ضُعف کی حالت میں تھے۔

---

① تاریخ الخمیس، الموطن الرابع، سریۃ المنذر بن عمرو الی بیر معونۃ، (۱/۴۵۳)۔

② مسلم، کتاب الامارۃ، باب ثبوت الجنۃ للشہید، ۱۹۰۱، (۳/۱۵۰۹)۔ الطبقات لابن سعد، (۳/۵۲۴)۔

حضور ﷺ نے خود اسلام کی قوت کے واسطے عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبہ کے قریب اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اول اول ہر شخص نے ہجرت چھپ کر کی مگر جب عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی، کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لئے۔ اول مسجد میں گئے، طواف اطمینان سے کیا، پھر نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، اس کے بعد کفار کے مجمعوں میں گئے اور فرمایا کہ جس کا یہ دل چاہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی رانڈ ہو، اس کے بچے یتیم ہوں، وہ مکہ سے باہر آکر میرا مقابلہ کرے۔ یہ الگ الگ جماعتوں کو سنا کر تشریف لے گئے۔ کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہ پڑی کہ پیچھا کرتا①۔

(۱۱)　غزوۂ مُوتہ کا قصہ

حضور اقدس ﷺ نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے، ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بُصریٰ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتہ پہنچے تو شُرَحبیل غسّانی نے جو قیصر کے حکام میں سے ایک شخص تھا ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قاتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور ﷺ کو یہ بات بہت گراں ہوئی اور آپ ﷺ نے تین ہزار کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں، تو عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا اس نے کہا: یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے، پہلے انبیاءؑ کی اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور خود مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر

---

① أسد الغابة، عمر بن الخطاب، ہجرتہ، (۴/۱۳۷)۔

جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کیلئے دعا کی کہ حق تعالیٰ شانُہٗ تم کو سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں تین شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے پھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجہ کو چیرتا ہوا نکل جائے اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے، واقعی تُو تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔

شُرَحبیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا وہ ایک لاکھ فوج کے ساتھ مقابلہ کیلئے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہِرَقل روم کا بادشاہ بھی ایک لاکھ فوج ساتھ لئے ہوئے مقابلہ کے لئے آرہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیّت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا: اے لوگو! تم کس بات سے گھبرا رہے ہو، تم کس چیز کے ارادہ سے نکلے ہو، تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے، ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، دو کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے: یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے۔ حتیٰ کہ موتہ پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شُرَحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہِرَقل کے پاس مدد کیلئے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً دو لاکھ فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیئے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے اور چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اے لوگو! کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی

بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا۔ کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے دو ٹکڑے کر دیئے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر تینتیس (۳۳) سال کی تھی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصہ میں نوے (۹۰) زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونہ میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ تین دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفرؓ تو شہید ہو جائیں اور تُو دنیا میں مشغول رہے۔

آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا اور وہ الگ ہو گئی۔ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش کیا کہ نہ ہمت نہ مقابلہ کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا: او دل! کس چیز کا اشتیاق اب باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو تین طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستہ میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے او دل! تجھے اترنا ہو گا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا۔ سوچ تو آخر تُو ایک قطرۂ منی ہے۔ دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آرہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں

کرتا۔ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے ہی گا۔

اس کے بعد گھوڑے سے اترے، ان کے چچازاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھالو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے ہلّے کی آواز آئی۔ اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے ❶۔

ف: صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے، ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصہ پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے دشمن سے مقابلہ کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔

(12) حضرت سعید بن جُبَیر رحمۃ اللہ علیہ اور حَجاج کی گفتگو

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ **اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ** بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے ❷۔

حَجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے، گو اس زمانہ کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے اور اسوجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعیدؒ بن جبیر نے بھی ابن الاَشۡعَث کے ساتھ مل کر حَجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مَرۡوان کی طرف سے حاکم تھا۔

سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حَجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لئے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے بعد اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا

---

❶ تاریخ الخمیس، الموطن الثامن، سریۃ موتۃ، (۲/ ۷۰)۔ الطبقات لابن سعد، سریۃ موتۃ، (۲/ ۱۱۹)۔

❷ السنن الکبری للنسائی، کتاب البیعۃ: ۷۷۸۶

یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا، اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔

غرض بڑی دِقّت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حَجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا۔ حَجاج: تیرا نام کیا ہے، سعید؟ میرا نام سعید ہے۔ حَجاج: کس کا بیٹا ہے؟ سعید: جبیر کا بیٹا ہوں (سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جَبِیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز)۔ اگرچہ ناموں میں اکثر معنی مقصود نہیں ہوتے، لیکن حَجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس نے کہا: نہیں تو شَقِی بن کسیر ہے۔ (شَقِی کہتے ہیں بدبخت کو اور کسیر ٹوٹی ہوئی چیز) سعید: میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ حَجاج: تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید: غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے۔ (یعنی عَلاّمُ الغُیوب) حَجاج: دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید: تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حَجاج: اب میں تجھ کو زندگی کے بدلہ کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید: اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔

حَجاج: حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے۔ سعید: وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج: خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے۔ سعید: میں ان کا محافظ نہیں ہوں۔ ہر شخص اپنے کئے کا ذمہ دار ہے۔ حَجاج: میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا۔ سعید: جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حَجاج: ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے۔ سعید: جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حَجاج: سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید: اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حَجاج: حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں یا

دوزخ میں؟ سعید: اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔

حَجاج: میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید: میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حَجاج: تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ سعید: میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حَجاج: تو کبھی ہنستا کیوں نہیں۔ سعید: کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج: میں تو ہنستا ہوں۔ سعید: اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حَجاج: میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید: میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حَجاج: میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید: اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حَجاج: میں کیوں جرأت نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

حَجاج: ہم جو کچھ امیر المُؤمنین کیلئے جمع کرتے ہیں اس کو تُو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حَجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیئے۔ سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حَجاج: شرط کیا ہے؟ سعید: یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ کام بھی نہ دے گی۔ حَجاج: ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں؟ سعید: تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حَجاج: کیا تُو اس میں سے کوئی چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حَجاج: تیری لئے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کیلئے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔

حَجاج: (دِق ہو کر) بتلا کہ میں تجھے کس طریقہ سے قتل کروں۔ سعید: جس طرح سے قتل ہونا اپنے لئے پسند ہو۔ حَجاج: کیا تجھے معاف کر دوں۔ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حَجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حَجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا۔ حَجاج: تو کیوں ہنسا۔ سعید: تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حَجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا کہ اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید: میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، پھر قبلہ رخ ہو کر ﴿إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (الانعام: ۷۹) پڑھا، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حَجاج: اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصاریٰ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ (البقرة :۱۱۵) الكافي بالسرائر۔ جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حَجاج: اوندھا ڈال دو (یعنی زمین کی طرف منہ کر دو) ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى (طه: ۵۵)۔ ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔

حجاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ تو اس کو محفوظ رکھنا۔ جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیئے گئے۔ إِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حَجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لئے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم

رہا۔ بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے ❶۔

ف: اس قصہ کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب نقل کئے گئے ہیں، ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا اس لئے اسی پر اکتفاء کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظمؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

آٹھواں باب

علمی وَلوَلہ اور اس کا انہماک

چونکہ اصل دین کلمۂ توحید ہے اور وہی سب کمالات کی بنیاد ہے جب تک وہ نہ ہو کوئی کارِ خیر مقبول نہیں، اس لئے صحابہ کرام رَضِیَ اللہ عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانہ میں زیادہ تر کلمۂ توحید کے پھیلانے اور کفار سے جہاد کرنے میں مشغول تھی اور وہ علمی انہماک کے لئے فارغ و یکسو نہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق و شغف جس کا ثمرہ آج چودہ سو برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے، ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔

ابتدائے اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہو سکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا تو آیتِ کلام اللہ ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ۱۲۲) نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے مسلمان کو یہ نہ چاہیئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آویں، ڈراویں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ﴿اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا﴾ (التوبة: ۴۱)

---

❶ بغية الطلب في تاريخ الحلب، الحجاج بن يوسف، (۲/ ۲۹۲)۔

اور ﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ سے جو عموم معلوم ہوتا ہے اس کو ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ نے منسوخ کر دیا❶۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ شانہٗ نے جامعیت عطا فرمائی تھی اور اس وقت کیلئے یہ چیز نہایت ہی ضروری تھی، کہ وہی ایک مختصر سی جماعت دین کے سارے کام سنبھالنے والی تھی، مگر تابعین کے زمانہ میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی بڑی جماعت اور جمعیت ہو گئی، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی جامعیت بھی باقی نہ رہی تو ہر ہر شعبہ دین کیلئے پوری توجہ سے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ محدثین کی مستقل جماعت بننا شروع ہو گئی جن کا کام احادیث کا ضبط اور ان کا پھیلانا تھا۔ فقہاء کی علیحدہ جماعت ہوئی، صوفیاء، قُرّاء، مجاہدین غرض دین کے ہر ہر شعبہ کو مستقل سنبھالنے والے پیدا ہوئے۔ اس وقت کے لئے یہ ہی چیز مناسب اور ضروری تھی اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ہر شعبہ میں کمال اور ترقی دشوار تھی۔ اس لئے ہر شخص تمام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کر لے یہ بہت دشوار ہے۔ یہ صفت حق تعالیٰ شانہٗ نے انبیاء علیہم الصلوۃ و السلام بالخصوص سیّد الانبیاء علیہ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ وَ السَّلامِ ہی کو عطا فرمائی تھی، اس لئے اس باب میں صحابہ کرامؓ کے علاوہ اور دیگر حضرات کے واقعات بھی ذکر کئے جائیں گے۔

(۱) فتویٰ کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست

اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اِعلائے کَلِمۃُ اللہ کی مشغولی کے باوجود سب ہی علمی مشغلہ میں ہر وقت منہمک تھے اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھا اس کو پھیلانا، پہنچانا یہی اس کا مشغلہ تھا، لیکن ایک جماعت فتویٰ کے ساتھ مخصوص تھی، جو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی فتویٰ کا کام کرتی تھی وہ حضرات حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اُبَی بن کعب، حضرت عبد اللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، حذیفہ، سلمان فارسی، زید بن ثابت، ابو موسیٰ، ابو الدرداء رَضِیَ اللہ عنہم اجمعین ❷۔

ف: یہ ان حضرات کے کمالِ علم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ

---

❶ تفسیر ابن المنذر، سورہ یونس، ۷۱

❷ تلقیح فہوم أہل الأثر، تسمیۃ من کان یفتی، (۱/ ۳۲۱)۔ اعلام الموقعین، المتوسطون في الفتیا، (۱/ ۱۸)۔

لوگ اہلِ فتویٰ شمار کئے جاتے تھے۔

(۲) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مجموعہ کو جلا دینا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے، غرض تمام رات اسی بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہیں، اٹھا لا۔ میں لے کر آئی۔ آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہوں ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا ہو اور واقع میں وہ معتبر نہ ہوں اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو ❶۔

ف: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا احادیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو منبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت کے حاضر باش، سفر حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق، صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے ❷۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں نہ فرمادی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد

---

❶ تذکرۃ الحفاظ، الطبقۃ الاُولیٰ بو بکر الصدیق، (۱/۱۰)۔

❷ بخاری، کتاب الصلوٰۃ: ۴٦٦

تھیں۔ مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔

(۳) تبلیغ حضرت مُصْعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ

مُصْعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کا ایک قصہ ساتویں باب کے نمبر ۵ پر گزر چکا ہے، ان کو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منیٰ کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کیلئے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے۔ لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اَسْعَد بن زُرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مُقْرِی (پڑھانے والا، مدرس) کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اُسَید بن حُضَیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں سرداروں میں سے تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اُسَید سے کہا کہ تم اسعد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسعد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اَسعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو۔ اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مضائقہ نہیں۔ اُسَید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مُصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائیں اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمۂ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سب کام کئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو اَلاَشْہَل کے پاس گئے۔ ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے

کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد ﷺ پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اَشہل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے ❶۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مُبلّغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا جس میں نہ کھیتی مانع تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔

(۴) حضرت اُبَیّ بن کعب رضی اللہ عنہ کی تعلیم

حضرت اُبَی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا دستور عام نہیں تھا۔ اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوا لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضورِ اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنھوں نے حضور ﷺ کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امّت کے بڑی قاری ابی بن کعبؓ ہیں۔ تہجُّد میں آٹھ راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام تھا۔

ایک مرتبہ حضورِ اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں! تیرا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرطِ خوشی سے رونے لگے۔

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

جُندُب بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ ہر استاد کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقہ پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ ہئیت کے ساتھ صرف دو کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے

---

❶ تلقیح فہوم أہل الأثر، ذکر العقبۃ الثانیۃ، (۱/ ۳۰۴)۔ السیرۃ النبویۃ لابن حبان، ذکر بیعۃ العقبۃ الأولی، (۱/ ۱۰۵)۔

بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ بتایا کہ مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زاہدانہ زندگی ❶۔

حضرت اُبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرا امتحان لیا) ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت (برکت اور فضل کے اعتبار سے) کونسی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے ادب مانع ہوا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا: آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا: اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے نماز میں لقمہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا۔ حضرت اُبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا بھی یہ گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہو گا ❷۔

ف: یہ حضرت اُبی رضی اللہ عنہ باوجود اس علمی شغف اور قرآن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔

(۵) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اہتمامِ فتن

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ میں ہیں۔ صاحبُ السِّر (بھیدی) ان کا لقب ہے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں تین سو آدمیوں کے بقدر لوگ شریک ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنہ کا حال اور اس کے مُقتَدَا کا حال مع اس کے نام کے نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا

---

❶ الطبقات لابن سعد، (۲/۶۴۰)۔

❷ مسند أحمد، مسند الأنصار، ۲۱۲۸۱، (۳۵/۲۰۳)۔ صحیح البخاري، کتاب مناقب الأنصار، مناقب ابی بن کعب، ۳۸۰۹، (۵/۳۶)۔

نام، اس کے قبیلہ کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور ﷺ سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ! یہ خیر و خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ہاں! برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد پھر بھلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حذیفہ! اللہ کا کلام پڑھ اور اس کے معانی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ (مجھے فکر سوار تھا)۔

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس برائی کے بعد بھلائی ہو گئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں! پھر بھلائی ہو گی لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہو گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونہ میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا۔ چونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور ﷺ نے سب کا بتلا دیا تھا، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حُکام میں کوئی منافق تو نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے، لیکن نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا۔ غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا ہو گا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق فرماتے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں، اگر حذیفہؓ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھتے ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت تو

مجھے محبوب ہے البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی، اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے۔ یا اللہ! تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لئے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما❶۔

(۶) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ۷ھ میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور ۱۱ھ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً چار برس ہوتی ہے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اصحابِ صُفّہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، اس پر قناعت کئے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے اور ایسی چیزیں یاد کر لیا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چادر بچھا، میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا: اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینہ سے ملا لیا اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا❷۔

ف: اصحابِ صُفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان ہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کئی کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر

---

❶ ابوداؤد، کتاب الفتن، باب ذکر الفتن، ۴۲۴۳، (۹/۵)۔ أسد الغابة، حذیفة بن الیمان، (۴۶۸/۱)۔
❷ صحیح البخاري، کتاب البیوع، باب ماجاء في قوله الله فاذا قضیت الصلوٰة، ۲۰۴۷، (۲۵/۳)۔

جاتے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسرے باب کے قصہ نمبر ۳و ۷ میں گزرا، لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزیؒ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ پانچ ہزار تین سو چوہتر (۵۳۷۴) حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آجائے اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک شریک رہے اس کو دو قیراط ثواب ملتا ہے اور ایک قیراط کی مقدار اُحُد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا: ابوہریرہؓ! سوچ کر کہو، ان کو غصہ آگیا۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قیراط والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! سنی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بیشک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے ❶۔

اس کے ساتھ ہی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بارہ ہزار مرتبہ روزانہ اِسْتِغْفار پڑھتا ہوں اور ایک دھاگہ ان کے پاس تھا جس میں ایک ہزار گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے تھے ❷۔

(۷) قتلِ مُسَیلمہ و قرآن کا جمع کرنا

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مُسَیلمہ کذاب کا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے

---

❶ مسند أحمد، مسند عبد اللہ بن عمر، ۴۴۵۳، (۸/ ۲۰)۔

❷ حلیۃ الاولیاء، ابوہریرہ: ۱۔ ۳۸۳

اس سے لڑائی کی۔ حق تعالیٰ شانہٗ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مُسَیلِمہ قتل ہوا لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المُؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لئے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسے کام کی کیسے جرأت کرتے ہو جس کو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے بالاخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جن کا قصہ باب ۱۱ قصہ نمبر ۱۸ پر آ رہا ہے بلایا۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وحی کے لکھنے پر مامور رہ چکے ہو۔ اس لئے اس کام کو تم کرو۔ لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لئے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمرؓ کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالیٰ شانہٗ نے میرا بھی اسی جانب شرحِ صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیلِ ارشاد میں

لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں بھی محفوظ تھا سب کو تلاش کر کے جمع کیا①۔

ف: اس قصہ میں اوّل تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کیلئے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے۔ جو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھیں ان ہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا اس لئے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑی مگر سب مل گیا۔ اُبی بِن کعب رضی اللہ عنہ جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔

(۸) حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کی احتیاط روایتِ حدیث میں

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہیں اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النَعْل، صاحبُ الوِسادَۃ، صاحبُ المِطْہرَۃ، جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے، القاب بھی ان کے لئے ہیں۔ اس لئے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اترا ہے تو عبد اللہ بن

---

① الدر المنثور، تحت الآیۃ: ۸۳، من سورۃ التوبۃ۔ صحیح البخاري، کتاب فضائل القرآن، باب قولہ لقد جاء رسول من انفسکم، ۴۹۸۶، (۶/ ۱۸۳)۔

مسعودؓ کے طریقہ کے موافق پڑھے۔

حضور ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعودؓ جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں سمجھتے رہے، اس لئے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور ﷺ کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے ❶۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمرو شیبانیؒ کہتے ہیں کہ میں ایک سال تک ابنِ مسعودؓ کے پاس رہا۔ میں نے کبھی ان کو حضور ﷺ کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور ﷺ کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپکپی آجاتی تھی۔ عَمْرو بن میمونؒ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو ایک سال تک ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا رہا۔ میں نے کبھی حضور ﷺ کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا، تو بدن کانپ گیا آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آگیا، رگیں پھول گئیں اور فرمایا: انشاء اللہ یہی فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب تھا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم ❷۔

ف: یہ تھی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احتیاط حدیث شریف کے بارہ میں، اس لئے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے، اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجودیکہ مسائل حضور ﷺ کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے۔ مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ خدانخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بِالمُقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک، بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ حالانکہ حضور ﷺ کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔

---

❶ صحیح البخاري، کتاب المغازي، ۴۳۸۴، (۵/ ۱۷۳)۔

❷ مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۴۳۲۱، (۷/ ۳۴۳)۔

(۹) حضرت ابو الدَّرداء رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کیلئے جانا

کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں۔ صرف حدیث ہی معلوم کرنے کیلئے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کیلئے چلتا ہے حق تعالیٰ شانہٗ اس کیلئے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں اور فرشتے اپنے پَر طالبِ علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں اور طالبِ علم کیلئے آسمان زمین کے رہنے والے اِستِغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ اور عالِم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے ❶۔

ف: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہیں، حکیمُ الاُمَّت کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا، میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکیں تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ پر ہی دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو اور روزانہ چالیس دینار کا نفع ہو اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستہ میں خرچ ہو، پھر بھی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔

---

❶ ابن ماجہ، کتاب العلم، باب فضل العلماء، ۲۲۳، (۱/۱۴۶)۔

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے اپنے مولیٰ سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے ①۔

اوپر کے قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا ہے۔ ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا، ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کیلئے دُور دُور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سَہل تھا۔ شَعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹھے مفت مل گئی ورنہ اس سے کم کے لئے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا کہ ابتداء میں حدیث کا مَخزن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شَغَف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید بن اُلمُسَیَّب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔

امام الائمہ امام بخاریؒ شوال ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے۔ ۲۰۵ھ میں یعنی گیارہ سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبد اللہ بن مبارکؒ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھیں۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکیں ان کو حاصل کر لینے کے بعد ۲۱۶ھ میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا اس وجہ سے یتیم تھے، والدہ سفر میں ساتھ تھیں اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، عَسقَلان، حِمص، دِمشق ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا، حاصل فرمایا اور ایسی نوعمری میں استادِ حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری اٹھارہ برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہؓ اور تابعینؒ کے فیصلے تصنیف کئے۔ حاشدؒ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے۔ ہم لوگ لکھتے اور بخاریؒ ویسے ہی واپس آجاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گئے جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دِق ہی کر دیا، لاؤ تم نے کیا لکھا۔ ہم نے اپنا مجموعۂ احادیث نکالا جو پندرہ ہزار حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا انہوں نے ان سب کو حفظ سنا

---

① تذکرۃ الحفاظ، عویمر بن زید، (۱/۲۳)۔

دیا، ہم دَنگ (حیران) رہ گئے۔

(۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انصاری کے پاس جانا

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی جماعت موجود ہے۔ آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا کہ کیا ان صحابہ کرامؓ کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں۔ میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس آجاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں، تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔ گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی مگر میں وہیں بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔

وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں اس لئے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے بُرا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے، میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا❶۔

ف: مختلف علمی کارنامے: یہی چیز تھی جس نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے وقت میں حِبرُ الاُمّہ اور بحرُ العِلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ محمدؒ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربّانی

---

❶ السنن الدارمی، باب الرحلۃ فی طلب العلم، ۵۸۵

آج رخصت ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جانفشانی کا ثمرہ تھا۔ ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے زَعم میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟! خود آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ❶۔ بخاری میں مجاہدؒ سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبّر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے، یا بیچ دے۔

یحیٰی بن کثیرؒ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعیؒ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دِلی اور اِستِغْناء کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں! جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہؒ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیمؒ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحیٰی بن معینؒ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاریؒ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔

اس قصہ میں جہاں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی علم کا شَغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا، فوراً جاتے اور اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانی پڑتی اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور یہ ضربُ المَثَل ہے ”مَن طَلَبَ العُلٰی سَہِرَ اللَّیَالِیَ“ جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہو گا راتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزیدؒ، ابن شُبْرُمہؒ، قعقاعؒ، مغیرہؒ چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے۔ صبح کی

---

❶ الجامع لاخلاق الراوی، تواضعہ لھم: ۲۔۴۲۷

اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا۔ لیثؒ بن سعد کہتے ہیں کہ امام زہریؒ عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے (۲)۔ دَراوَرْدِیؒ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ مسجدِ نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلہ میں بحث شروع فرماتے اور وہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن و تشنیع ہوتی، نہ تَغلیظ اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے (۳)۔ ابن فُرات بغدادیؒ ایک مُحَدِّث ہیں، جب انتقال ہوا تو اٹھارہ صندوق کتابوں کے چھوڑے جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھیں اور کمال یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک صحتِ نقل اور عمدگیٔ ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حُجّت بھی ہے۔

ابن جوزیؒ مشہور مُحَدِّث ہیں۔ تین سال کی عمر میں باپ نے مفارقت کی، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی لیکن محنت کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ منبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں۔ ڈھائی سو سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا۔ چار جُزو روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالَم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ ایک لاکھ سے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ امراء، وزراء، سلاطین تک مجلسِ درس میں حاضر ہوتے تھے۔ ابن جوزیؒ خود کہتے ہیں کہ ایک لاکھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور بیس ہزار میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا۔ اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں (۴)۔ احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ صرف غسلِ میت کے پانی گرم کرنے ہی کے لئے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد بچ بھی گیا تھا۔

یحییٰ بن معینؒ حدیث کے مشہور استاد ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریرؒ طبری مشہور مؤرّخ ہیں۔ صحابہؓ اور تابعینؒ کے احوال کے ماہر، چالیس سال تک ہمیشہ چالیس ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگردوں

نے روزانہ کی لکھائی کا حساب لگایا تو بلوغ کے بعد سے مرنے تک چودہ ورق روزانہ کا اوسط نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے عام طور سے ملتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمام عالَم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہوگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے کہ تقریباً تیس ہزار ورق پر آئے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پورا کرنے سے پہلے عمریں فنا ہو جائیں گی۔ کہنے لگا کہ اِنَّا لِلّٰہِ، ہمتیں پست ہو گئیں اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً تین ہزار ورق پر لکھی۔ اسی طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا۔ وہ بھی مشہور ہے اور عام طور سے ملتی ہے۔

دار قطنیؒ حدیث کے مشہور مصنف ہیں، حدیث حاصل کرنے کیلئے بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ استاذ کی مجلس میں بیٹھے تھے، استاذ پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے۔ ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے، بتاؤ استاذ نے اب تک کتنی حدیثیں سنائیں وہ سوچنے لگے۔ دار قطنیؒ نے کہا کہ شیخ نے اٹھارہ حدیثیں سنائی ہیں۔ پہلی یہ تھی، دوسری یہ تھی۔ اسی طرح ترتیب وار سب کی سب مع سند کے سنا دیں۔ حافظ اثرمؒ ایک محدث ہیں، احادیث کے یاد کرنے میں بڑے مشّاق تھے۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے۔ وہاں خراسان کے دو بڑے استاذِ حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، یہ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وقت میں لکھ ڈالیں۔

عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدّث ہیں۔ حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنتیں مشہور ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں نے چار ہزار استاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی بن الحسنؒ کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی، میں اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے عشاء کے بعد نکلے۔ دروازہ پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی میں کچھ کہتا رہا وہ بھی فرماتے رہے۔ وہیں کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی۔ حُمَیدِی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو ایک جگہ جمع بھی کیا ہے۔ رات بھر لکھتے تھے

اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن (بڑا برتن) میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ سب سے الگ رہتے تھے۔ شاعر بھی ہیں، ان کے شعر ہیں۔

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُ شَيْئاً سِوَى الْهَذْيَانِ مِنْ قِيْلٍ وَّ قَال
فَاَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ اِلَّا لِاَخْذِ الْعِلْمِ اَوْ اِصْلَاحِ حَال

ترجمہ "لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی بجز قیل و قال کی بکواس کے، اس لئے لوگوں کی ملاقات کم کر بجز اس کے کہ علم حاصل کرنے کے واسطے استاذ سے یا اصلاحِ نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملاقات ہو"۔

امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدّث ہیں، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں کسی نے ان کی کثرتِ تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھیں؟ کہنے لگے کہ تیس برس بوریئے پر گزار دیئے۔ یعنی رات دن بوریئے پر پڑے رہتے تھے۔ ابو العباس شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے تین لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے یہاں تھی جس میں محدّث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی اور بعض مرتبہ ایک ایک مہینہ بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا۔ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی اور قوت حافظہ میں ضربُ المَثَل تھے۔ بعض محدّثین نے ان کا امتحان لیا اور چالیس حدیثیں ایسی سنائیں جو غیر معروف تھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سنا دیں۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کی احادیث کے دو جز نقل کئے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہوگئی۔ میں نے

درخواست کی کہ وہ دونوں جزو، احادیث کے استاذ سے سن بھی لوں، انہوں نے قبول کرلیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جزو میرے پاس ہیں، مگر استاذ کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے دو سادے جزو ہاتھ میں تھے۔ استاذ نے سنانا شروع کیا اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ساتھ میں سادے جزو تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی! میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ استاذ کو یقین نہ آیا فرمایا اچھا سناؤ۔ میں نے سب حدیثیں سنا دیں فرمایا کہ یہ تم کو پہلے سے یاد ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اور نئی حدیثیں سنا دیجئے۔ انہوں نے چالیس حدیثیں اور سنا دیں۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔

محدثین نے جو جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں، ان کو پھیلانے میں کی ہیں ان کا اتباع تو درکنار ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ قرطمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں ان کے ایک شاگرد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حافظہ کا ذکر کرتے ہیں میں نے قرطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جونسی دل چاہے اٹھا لو میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب الاَشرِبَہ اٹھائی وہ ہر باب کے اخیر سے اوّل کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابوزُرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اسحاق بن راہُوَیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور تیس ہزار مجھے ازبر یاد ہیں۔ خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحق رحمۃ اللہ علیہ نے گیارہ ہزار حدیثیں اپنی یاد سے ہمیں لکھوائیں اور پھر ان کو نمبروار سنایا، نہ کوئی حرف کم ہوا نہ زیادہ۔

ابوسعد رحمۃ اللہ علیہ اصبہانی بغدادی سولہ سال کی عمر میں ابونصر رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث سننے کے لئے بغداد پہنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبر سن کر بے ساختہ رو پڑے، چیخیں نکل گئیں کہ ان کی سَند کہاں ملے گی۔ اتنا رنج کہ رونے میں چیخیں نکل جائیں جب ہی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری حفظ یاد تھی اور حفظ ہی طلبہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ گیارہ حج کئے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔

ابو عمر ضریر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نابینا تھے، مگر حُفّاظِ حدیث میں شمار ہیں۔ علمِ فِقہ، تاریخ، فرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابوالحسین رحمۃ اللہ علیہ اِصْفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد تھیں۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کا متن یعنی حدیث پڑھ دیتے اور جو متن پڑھتا اس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین بعْلَبکّی رحمۃ اللہ علیہ نے چار مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی اور ”جمع بین الصَّحِیْحَیْن“ کے بھی حافظ تھے۔ صاحبِ کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ سورۂ اَنعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ حدیث لکھنے میں اخیر تک مشغول رہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے لکھتے لکھتے دوات میں قلم رکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ علامہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں فقہ حاصل کیا۔ اس کے بعد علمِ حدیث کا شغل رہا۔ ہرات میں دس برس قیام کیا جس میں چھ مرتبہ ترمذی شریف اپنے ہاتھ سے لکھی۔ ابنِ مَندہ رحمۃ اللہ علیہ سے غرائب شُعبہ پڑھ رہے تھے کہ اسی حال میں ابنِ مندہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔

پڑھنے والے سے پڑھانے والا کا ولولہ علمی قابلِ قدر ہے کہ اخیر وقت تک پڑھاتے رہے۔ ابو عمرو خَفّاف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لاکھ حدیثیں ازبر تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو شاگردوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر ایک لاکھ سے زائد ہو جاتے تھے ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تو ایک لاکھ بیس ہزار ہوئے۔ اسی وجہ سے بعض الفاظ کو کئی کئی مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”حدَّثنَا اللَیْثُ“ کو چودہ مرتبہ کہنا پڑا۔ ظاہر بات ہے کہ سَوا لاکھ آدمیوں کو آواز پہنچانے کے واسطے بعض لفظوں کو کئی کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس شروع ہوا۔ سات آدمی کھڑے ہو کر لکھواتے تھے۔ جس طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دواتیں شمار کی گئیں تو چالیس ہزار سے زیادہ تھیں اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریابی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں

اسی طرح لکھوانے والے تین سو سولہ تھے، اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔

اس محنت اور مشقّت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، جس میں سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں ہیں اور ہر حدیث لکھتے وقت دو رکعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھی ہے۔ جب یہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کہ دس آدمی متعیّن ہوئے ان میں سے ہر شخص نے دس دس حدیثیں چھانٹیں، ان کو بدل بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جواب میں ’’مجھے معلوم نہیں‘‘ کہتے رہے۔ جب دس کے دس پوچھ چکے، تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث یہ پوچھی تھی تم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث یہ پوچھی تھی وہ اس طرح تم نے بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ غرض اس طرح سو کی سو حدیثیں ترتیب وار بیان فرما دیں کہ ہر حدیث کو اوّل اس طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چودہ برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی، اسی میں اخیر تک مشغول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے تین لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں بارہ ہزار حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پانچ لاکھ احادیث سنی ہیں، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابو داؤد شریف تصنیف کی ہے۔ جس میں چار ہزار آٹھ سو حدیثیں ہیں۔ یوسف مِزّی مشہور محدّث ہیں، اسماءِ رِجال کے امام ہیں۔ اوّل اپنے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ منوّرہ، حلَب، حَمات، بَعْلَبَک وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے لکھیں۔ تہذیب الکمال دو سو جلدوں میں تصنیف کی اور ’’کتاب الاطراف‘‘ اَسّی (۸۰) جلدوں سے زیادہ میں۔ ان کی عادت شریف تھی کہ اکثر چپ رہتے بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے۔ اکثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدوں کی عداوت کا شکار بھی بنے، مگر انتقام

نہیں لیا۔

ان حضرات کے حالات کا احاطہ دُشوار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جانفشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکیں۔ یہاں نمونہ کے طور پر چند حضرات کے دو چار واقعات کا ذکر اس لئے کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ علمِ حدیث جو آج ساڑھے تیرہ سو برس تک نہایت آب و تاب سے باقی ہے وہ کس محنت اور جانفشانی سے باقی رکھا گیا ہے اور جو لوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں وہ کتنی محنت اور مشقت اس کیلئے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت، راحت و آرام، سیر و تفریح اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لگے رہیں، اور حضور ﷺ کے پاک کلام کا یہ شُیُوع (اشاعت) اسی طرح باقی رہے، تو "ایں خیال است و محال است و جنون" کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ❶۔

نواں باب

حضور ﷺ کی فرمانبرداری اور امتثالِ حکم

اور یہ دیکھنا کہ حضور ﷺ کا منشاء مبارک کیا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہر فعل فرمانبرداری تھا اور گزشتہ قِصّوں سے بھی یہ بات خُوب روشن ہے، لیکن خاص طور سے چند قصّے اس باب میں اس لئے ذکر کئے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالتوں کا اس باب سے خاص طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک ﷺ کے احکام کی فرمانبرداری کہاں تک کرتے ہیں جس پر ہم لوگ ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ بَرَکات و ترقیات اور ثَمَرات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوتے تھے، ہمیں بھی حاصل ہوں۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کے متمنّی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیئے جو وہ حضرات کر کے دِکھلا گئے ہیں۔

(۱) حضرت عبد اللہ بن عَمْرو رضی اللہ عنہما کا چادر کو جلا دینا

حضرت عبد اللہ بن عَمرِو بنِ العَاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ

---

❶ السنن الدارمي، باب الرحلة في طلب العلم: ۵۸۵، (۱/۴۶۵)۔ السنن الدارمي، باب مذاكرات العلم: ۶۱۰، (۱/۴۸۵)۔ تذكرة الحفاظ، ابن الجوزي، (۴/۱۳۲۴)۔ الطبقات لابن سعد، ذكر من جمع القرآن، (۲/۳۶۷)۔ أخبار أبي حنيفة وأصحابه، (۸۱)۔

حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو کُسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے دیکھ کر فرمایا: یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا۔ میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا: وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصّہ سُنا دیا۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں تو مضائقہ نہ تھا❶۔

ف: اگرچہ چادر کے جلانے کی ضرورت نہ تھی، مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور ناراضی کی چوٹ لگی ہوئی ہو، وہ اتنی سوچ کا متحمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں! مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نا معلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کس درجہ کی ہے اور دریافت تو کر لوں اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے پوچھا ہی تو ہے، منع تو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔

(۲) انصاری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا مکان کو ڈھا دینا

حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ایک مرتبہ دولت کدہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ایک قُبَّہ (گنبد دار حجرہ) دیکھا جو اونچا بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری نے قُبَّہ بنایا ہے۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سن کر خاموش ہو رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام کیا۔ حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے، صحابہؓ سے جو وہاں موجود تھے، دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کی، کہ میں آج حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم باہر تشریف لے گئے تھے۔ راستہ میں تمہارا قُبَّہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ

---

❶ أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحمراء، ۴۰۶۵، (۴/۴۰۷)۔

کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور ﷺ کا ہی اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ انصاری نے آنحضرت ﷺ کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا قُبَّہ دیکھا ہے۔ انہوں نے آکر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو ❶۔

ف: یہ کمالِ عشق کی باتیں ہیں ان حضرات کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ چہرۂ انور کو رنجیدہ دیکھیں یا کوئی شخص اپنے سے حضور ﷺ کی گرانی کو محسوس کرے۔ ان صحابیؓ نے قُبَّہ کو گرایا اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آ کر کہتے کہ آپ ﷺ کی خوشی کے واسطے گرا دیا بلکہ جب حضور ﷺ کا خود ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے جانا ہوا تو ملاحظہ فرمایا۔

حضور ﷺ کو تعمیر میں روپے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خود ازواجِ مطہرات کے مکانات کھجور کی ٹہنیوں کے ٹٹے تھے جن پر ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے تاکہ اجنبی نگاہ اندر نہ جاسکے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ کہیں سفر میں تشریف لے گئے۔ حضرت اُمِ سلمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ ثروت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے مکان پر بجائے ٹٹوں ❷ کے کچی اینٹیں لگالیں۔ واپسی پر جب حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بدترین چیز جس میں آدمی کا روپیہ خرچ ہو، تعمیر ہے ❸۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری والدہ اپنے مکان کی ایک دیوار کو جو خراب ہو گئی تھی، درست کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے ❹۔

---

❶ أبو داود، أبواب النوم، باب ماجاء في البناء، ۵۱۹۵، (۵/ ۴۴۴)۔

❷ بانس یا پر کنڈوں کا بنا ہوا چھپر جو دروازوں وغیرہ پر لگا ہوتا ہے۔

❸ الطبقات الکبری لِابن سعد، ۱۵۲۸، ۱/ ۴۲۹

❹ أبو داود، باب ماجاء في البناء، ۵۱۹۳، (۵/ ۴۴۴)۔

(۳) صحابہ رضی اللہ عنہم کا سرخ چادروں کو اتارنا

حضرت رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی اِدھر اُدھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لیں ①۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں ہماری زندگی کے اعتبار سے ان پر تعجّب ہوتا ہے۔ ان حضرات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عُروَہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب صلح حدیبیہ میں جس کا قصہ باب نمبر ا کے نمبر ۳ پر گزرا، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑی غور سے مطالعہ کیا تھا اور مکہ واپس جا کر کفار سے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں۔ فارس، روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے ملا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کے یہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ کبھی ان کا بلغم زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اور وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑتا ہے کہ تعمیل کرے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر مَلنے اور لینے کے واسطے ایسے دوڑتے ہیں گویا آپس میں جنگ وجَدَل ہو جاوے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ②۔

(۴) حضرت وائل رضی اللہ عنہ کا ذُباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمتِ ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے۔ میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ذُباب ذُباب“۔

---

① أبو داود، کتاب اللباس، باب في الحمراء، ۴۰۶۸، (۴/ ۴۰۸)۔

② صحیح البخاري، کتاب الشروط، ۲۷۳۱، (۳/ ۱۹۳)۔

میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا۔ میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا، جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لیکن اچھا کیا❶۔

ف: ذُباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں اور بری چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مَر مٹنے کی بات ہے کہ منشاء سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور ﷺ نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لئے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائے اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور ﷺ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے حسبِ معمول سلام کیا چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو چکا تھا۔ حضور ﷺ نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آکر مختلف خیالات نے مجھے گھیرا، کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضی ہوئی۔ کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور ﷺ نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ تب جان میں جان آئی❷۔

(۵) حضرت سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کی عادت اور خُریم رضی اللہ عنہ کا بال کٹوا دینا

دمشق میں سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے۔ بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح اور وظائف میں مسجد میں آتے جاتے۔ راستہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پر جو مشہور صحابی ہیں، گزر ہوتا۔ ابو الدرداءؓ فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور ﷺ کے زمانہ کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے کہ ابو الدرداءؓ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضورِ اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خُریم اَسدی اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہوں: ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں دوسری:

---

❶ أبو داود، كتاب الترجل، باب في تطويل الجمة، ٤١٨٧، (٤٥٦/٤)۔

❷ سنن نسائي، كتاب السهو: ١٢٢٠

لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیئے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی ❶۔

ف: بعض روایات میں آیا ہے کہ خود حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دونوں باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوں گی ❷۔ مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غَیبَت (غیر موجودگی) میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔

(۶) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمرؓ کے ایک صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنالیں گی آزادی اور فساد و آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت ناراض ہوئے۔ برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تُو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کیلئے ان صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا ❸۔

ف: صاحبزادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنالیں گی اپنے زمانہ کی حالت کو دیکھ کر تھا، اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے ❹، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تَرَدُّد یا تامّل کیا جائے اور صرف اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا، عمر بھر نہیں بولے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس میں دِقتیں اٹھانا پڑیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی،

---

❶ أبو داود، کتاب اللباس، ۴۰۸۹، (۴/ ۴۱۵)۔

❷ مسند احمد، حدیث خریم بن فاتک: ۷/ ۱۹۳

❸ مسلم، کتاب الصلوۃ، باب خروج النساء إلى المساجد، ۴۴۲، (۱/ ۳۲۷)۔ أبو داود، کتاب الصلوۃ، باب خروج النساء إلى المسجد، ۵۶۹، (۱/ ۴۲۰)۔

❹ بخاری، کتاب الاذان، باب خروج النساء الی المساجد: ۸۶۹

مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا اور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اجازت بھی مشکل تھی، چنانچہ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا جن کے کئی نکاح ہوئے جن میں سے حضرت عمرؓ سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمرؓ کو گراں ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمرؓ کو گراں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو گراں ہے، تو منع کر دیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ ان کو بھی یہ چیز گراں تھی، مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کیلئے یہ جہاں کو جاتی تھیں راستہ میں بیٹھ گئے اور جب یہ پاس سے گزریں تو ان کو چھیڑا، خاوند تھے اس لئے ان کو تو جائز تھا ہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی۔ اندھیرا تھا کہ یہ کون ہیں۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا۔ کہنے لگیں کہ اب زمانہ نہیں رہا❶۔

(۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کہ نمازِ قصر قرآن میں نہیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن شریف میں مقیم کی نماز کا بھی ذکر ہے اور خوف کی نماز کا بھی، مسافر کی نماز کا ذکر نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ برادرزادہ! اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، ہم لوگ انجان تھے کچھ نہیں جانتے تھے۔ بس جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا، وہ کریں گے❷۔

ف: مقصود یہ ہے کہ ہر مسئلہ کا صراحۃً قرآن شریف میں ہونا ضروری نہیں۔ عمل کے واسطے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا کافی ہے۔ خود حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے قرآن شریف عطا ہوا اور اس کے برابر اور احکام دیئے گئے۔ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پیٹ بھرے لوگ اپنے گدوں پر بیٹھ کر کہیں گے کہ بس قرآن شریف کو مضبوط پکڑ لو جو اس میں احکام ہیں، ان پر عمل کرو❸۔

---

❶ أسد الغابۃ، حرف العین، عاتکہ بن زید: ۷۰۸۷

❷ الشفاء، الفصل الأول، ماورد عن السلف، (۲/ ۱۳)۔

❸ أبو داود، کتاب السنۃ، ۴۵۹۴، (۵/ ۱۸۵)۔ موطا الإمام مالک، باب قصر الصلوۃ في السفر، (۳۳۶)۔

ف: پیٹ بھرے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے فاسد خیال دولت کے نشہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔

(۸) حضرت ابنِ مُغفل رضی اللہ عنہ کا خذف کی وجہ سے کلام چھوڑ دینا

عبد اللہ بن مُغَفَّل رضی اللہ عنہ کا ایک نو عمر بھتیجا خَذَف سے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ برادر زادہ ایسا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نہ شکار ہو سکتا ہے اور نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اتفاقاً کسی کے لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، بھتیجا کم عمر تھا۔ اس نے جب چچا کو غافل دیکھا تو پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا۔ فرمایا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں تو پھر اسی کام کو کرتا ہے۔ خدا کی قسم تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ میں اس کے بعد ہے خدا کی قسم! نہ تیرے جنازہ میں شریک ہوں گا۔ نہ تیری عیادت کروں گا①۔

ف: خَذَف اس کہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کنکری رکھ کر اس کو انگلی سے پھینک دیا جائے۔ بچوں میں عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے، وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس سے شکار ہو سکے۔ ہاں آنکھ میں کسی کے اتفاقاً لگ جائے تو اس کو زخمی ہی کر دے۔ حضرت عبد اللہ بن مُغفل رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہ ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات سنتے ہیں اور ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔

(۹) حضرت حکیم بن حِزام رضی اللہ عنہ کا سوال نہ کرنے کا عہد

حکیم بن حِزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پھر کسی موقع پر کچھ مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مرحمت فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حکیم! یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر یہ دل کے استغناء سے ملے، تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اگر طمع اور لالچ سے حاصل ہو تو اس میں

---

① السنن للدارمی، باب تعجیل العقوبة، ۴۵۴، (۱/۴۰۷)۔ صحیح البخاري، کتاب الذباءح، باب الخذف والبندقة، ۵۴۷۹، (۷/۸۶)۔

برکت نہیں ہوتی، ایسا ہو جاتا ہے (جیسے جُوعُ البَقَر کی بیماری ہو) کہ ہر وقت کھائے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے بعد اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں حکیم رضی اللہ عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا فرمانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصرار کیا، مگر انہوں نے انکار ہی فرمادیا①۔

ف: یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے مالوں میں برکت نہیں ہوتی کہ لالچ اور طمع میں گھرے رہتے ہیں۔

(۱۰) حضرت حُذیفہ رضی اللہ عنہ کا جاسوسی کے لئے جانا

حضرت حُذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوۂ خندق میں ہمارے ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملہ کے لئے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قُریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل وعیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلہ میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جارہی تھی اور حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرمادیتے تھے۔

اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم تین سو (۳۰۰) کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرمارہے تھے اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرمارہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے

---

① صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب الاستعفاف عن المسئلة، ۱۴۷۲، (۱۲۳/۲)۔

واسطے کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کے لئے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی اور وہ میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حُذیفہؓ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ فَوْقِهِ، وَمِنْ تَحْتِهِ۔ "یا اللہ! آپ اس کی حفاظت فرمائیں سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے"۔

حُذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی اور ہر ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو۔ چپ چاپ دیکھ کر آجاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوکھ پر پھیر لیتا ہے اور ہر طرف سے "واپس چل دو واپس چل دو" کی آوازیں آرہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ ہلاک ہو رہے تھے۔

ابوسفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے اس کو نمٹاتا چلوں، ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیو، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لئے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا تو کہنے لگے۔ تم میں سے کوئی جاسوس

ہے ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تُو کون؟ وہ کہنے لگا: سبحان اللہ! تو مجھے نہیں جانتا میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے راستے پر تھا، تقریباً بیس سوار عمامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو، حضور ﷺ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور ﷺ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا، عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ حضور ﷺ نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹالیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور ﷺ کے تلوؤں سے چمٹا لیا①۔

ف: ان ہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور ان ہی کو زیبا تھا کہ اس قدر سختیوں اور دِقّتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من، جان و مال سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرمادیں، تو زہے قسمت۔

دسواں باب

عورتوں کا دینی جذبہ

حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے بر خلاف ہمارے زمانہ میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے، یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے، وہ ظاہر ہیں۔

(۱) تسبیحاتِ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا

---

① کنز العمال، کتاب الغزوات، باب غزوۃ الخندق، ۳۰۰۸۴، (۱۰/۴۴۶)۔

جو حضور ﷺ کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھیں قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا کہ ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضورِ اقدس ﷺ کے پاس کچھ غلام، باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور ﷺ سے ایک خدمت گار مانگ لو تا کہ تم کو کچھ مدد مل جاوے۔ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی۔ اس لئے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگنے میں شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضورِ اقدس ﷺ خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ! کل تم کس کام کیلئے گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینہ پر رسی کے نشان ہو گئے ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ ﷺ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں اس لئے گئی تھیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے۔ رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰؑ اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بچھونا (بستر) تھا، وہ بھی حضرت موسیٰؑ کا چوغہ تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تُو تقویٰ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہ اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ، الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۴ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے راضی ہوں ①۔

---

① أبو داود، کتاب الخروج، ۲۹۸۱، (۳/۴۶۱)۔

ف: یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرے بارہ میں ہو، مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسہ ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکیں۔ پاخانہ میں لوٹا بھی ماما (نوکر) ہی رکھ کر آئے۔ اس واقعہ میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ یہ تینوں کلمے اور ایک مرتبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ بھی آیا ہے ❷۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں دو گونین (تھیلیاں) درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں جن میں ایک لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیئے۔ ایک درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزہ دار تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لئے کچھ لے آؤ۔ وہ ایک روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں اور عرض کرنے لگیں! کیا اچھا ہوتا کہ ایک درہم کا گوشت ہی منگا لیتیں۔ آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگیں: اب طعن دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی ❸۔

ف: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس نوع کے نذرانہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کئے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلہ کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ پچیس ہزار روپے کے قریب تقسیم کر دیا اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔

آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعہ کے سچا ہونے میں تَرَدُّد

---

❷ مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب الذکر: ۵۹۷

❸ تذکرۃ الحفاظ، ام المؤمنین عائشہؓ، (۱/۲۸)۔

ہونے لگا، لیکن اس زمانہ کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزدار تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، ایک فقیر نے آکر سوال کیا۔ خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دیدو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کیا مضائقہ ہے۔ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دیدی ❶۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، فرمایا: اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبراکر آنکھ کھل گئی اور بارہ ہزار درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتے ہیں، صدقہ کئے۔ عُروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ستر ہزار درہم صدقہ کئے اور اپنے کرتہ میں پیوند لگ رہا تھا❷۔

(۳) حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ سے روکنا

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں، انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں، ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا۔ اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نذر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو خالہ کی ناراضی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بہت پریشان ہوئے تو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال کے دو حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے، وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے۔ یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لئے جب وہ دونوں پردہ کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں، تو یہ جلدی سے پردہ میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور

---

❶ موطا الامام مالک، کتاب الجامع، ۳۶۵۵، (۵/۱۴۵۱)۔

❷ الطبقات لابن سعد، ذکر آزواج صلی اللہ علیہ وسلم، (۸/۶۶)۔

خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان حادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں، آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی اس قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں حتیٰ کہ چالیس غلام آزاد کئے اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آجاتا، اتنا روتیں کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیک جاتا❶۔

ف: ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، اس کا جواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقعت ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت زیادہ روتی تھیں۔

(۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت اللہ کے خوف سے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم مسائل کی تحقیق کیلئے آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دس خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقہ کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو ہی چکی۔

---

❶ صحیح البخاري، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، ۳۵۰۵، (۴/ ۱۸۰)۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتیں کہ کاش! میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش! میں پتھر ہوتی، کاش! میں مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش! میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش! میں درخت کا پتا ہوتی، کاش! میں کوئی گھاس ہوتی ①۔

ف: اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے پانچویں چھٹے قصہ میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی۔ اللہ سے ڈرنا انہیں کا حصہ تھا۔

(۵) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کی دعا اور ہجرت

ام المُؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لئے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کرلیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کرلینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ! میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ

---

① صحیح البخاري، کتاب اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، باب قولہ علیہ السلام لو کنت متخذا، ۳۶۶۲، (۵/۵)۔

یہ شہر در شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے جب اس قصہ کی خبر ملی تو وہ میرے میکہ والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے۔ میں اپنے میکہ میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی، اسی طرح پورا ایک سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔

ایک دن میرے ایک چچازاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ غرض میرے چچازاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تُو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ تین چار میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیئے۔ خدا پاک کی قسم! مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت آتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا، اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔

جب قُبا میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہیں ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قُبا ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے پھر کہا کہ خدا کی قسم! عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو ❶۔

ف: اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادہ سے چل دیں۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جَلَّ شَانُہٗ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضہ میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی مَحرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے بشرطیکہ ہجرت فرض ہو۔ اس لئے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔

(۶) حضرت اُمِ زیاد رضی اللہ عنہا کی چند عورتوں کے ساتھ خیبر میں شرکت

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی جس کے واقعات کثرت سے نقل کئے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں ہمیشہ مشتاق رہتی تھیں اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتیں۔ ام زیاد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم چھ عورتیں جہاد میں شرکت کیلئے چل دیں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ انور پر غصہ کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ ہم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! ہم کو اُون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، زخموں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہیں اور کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑنے میں مدد دیں گی اور جو بیمار ہو گا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی۔ ستّو وغیرہ گھولنے اور پلانے میں کام دے دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر جانے کی اجازت دیدی ❷۔

ف: حق تعالیٰ شانُہٗ نے اس وقت عورتوں میں کچھ ایسا ولولہ اور جرأت پیدا فرمائی تھی جو آج کل مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں اور

---

❶ أسد الغابة، أم سعد بن عبادة، (۱/ ۱۴۴۲)۔

❷ أبو داود، كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، ۲۷۲۳، (۳/ ۳۲۳)۔

کتنے کام اپنے کرنے کیلئے تجویز کرے۔ حُنَین کی لڑائی میں ام سلیم رضی اللہ عنہا باوجودیکہ حاملہ تھیں، عبد اللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھے، شریک ہوئیں اور ایک خنجر ساتھ لئے ہوئے رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس لئے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس کے پیٹ میں بھونک دوں گی۔ اس سے پہلے اُحد وغیرہ کی لڑائی میں بھی یہ شریک ہوئی تھیں۔ زخمیوں کی دوا دارو اور بیماروں کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتیں ❶۔

(۷) حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کی غزوۃ البحر میں شرکت کی تمنا

حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر وغیرہ کو وہیں آرام بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرمارہے تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں کس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھلائے گئے جو سمندر پر لڑائی کے ارادہ سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہیں۔ ام حرامؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! دعا فرمادیجئے کہ حق تعالیٰ شانہُ مجھے بھی ان میں شامل فرمادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان میں شامل ہو گی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پھر وہی درخواست کی کہ یارسول اللہ! آپ دعا فرمادیں میں بھی ان میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہو گی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو شام کے حاکم تھے، جزائر قبرس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔

---

❶ الطبقات لِابن سعد: ۱۰/ ۳۹۵۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۸۱۴۲

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ حملہ فرمایا، جس میں ام حرام رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہوئیں اور واپسی پر ایک خچر پر سوار ہو رہی تھیں کہ وہ بدکا اور یہ اس پر سے گر گئیں جس سے گردن ٹوٹ گئی اور انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن کی گئیں ❶۔

ف: یہ ولولہ تھا جہاد میں شرکت کا کہ ہر لڑائی میں شرکت کی دعا کراتی تھیں، مگر چونکہ ان دونوں لڑائیوں میں سے پہلی لڑائی میں انتقال فرمانا متعین تھا اس لئے دوسری لڑائی میں شرکت نہ ہو سکی اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی دعا بھی نہ فرمائی تھی۔

(۸) حضرت ام سُلَیم رضی اللہ عنہا کا لڑکے کے مرنے پر عمل

ام سُلیم رضی اللہ عنہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، جو اپنے پہلے خاوند یعنی حضرت اَنس رضی اللہ عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھیں اور حضرت اَنس رضی اللہ عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جن سے ایک صاحبزادہ ابو عمیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سُلیم رضی اللہ عنہا نے ان کو نہلا یا دھلایا، کفن پہنایا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا۔ خوشبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خاوند آئے، کھانا وغیرہ بھی کھایا، بچہ کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون معلوم ہوتا ہے بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خاوند نے صحبت بھی کی۔ صبح کو جب وہ اٹھے تو کہنے لگیں کہ ایک بات دریافت کرنا تھی اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دیدے پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیئے یا اسے روک لے واپس نہ کرے؟ وہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہیئے، روکنے کا کیا حق ہے؟ مانگی چیز تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سن کر ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر بھی نہ دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو

---

❶ صحیح البخاري، كتاب الجهاد، باب ركوب البحر، ۲۸۹۴، (۴/۳۶)۔

طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس سارے قصہ کو عرض کیا۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ جَلَّ شَانُہٗ اس رات میں برکت عطا فرما دیں۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کے حمل سے عبد اللہ بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کے نو بچے ہوئے اور سب نے قرآن شریف پڑھا❶۔

ف: بڑے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ اپنا بچہ مر جائے اور ایسی طرح اس کو برداشت کرے کہ خاوند کو بھی محسوس نہ ہونے دے، چونکہ خاوند کا روزہ تھا اس لئے خیال ہوا کہ خبر ہونے پر کھانا بھی مشکل ہو گا۔

(۹) حضرت امِّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا

ام المُؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جَحْش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ میں ہی گزارا۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ جیسا کہ باب کے ختم پر بیبیوں کے بیان میں آئے گا۔

نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانہ میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کیلئے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے وہاں بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بسترہ میرے قابل نہیں تھا اس لئے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو۔ اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں۔ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئیں۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو

---

❶ فتح الباری، باب اذا أصاب ثوب المصلی، ۴۴، ۲۶۴، (۱/۴۸۹)۔ صحیح ابن حبان فی کتاب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ذکر کنیۃ ھٰذا الصبي، ۳۵۲۲، (۴/۳۳۴)۔

عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک، باپ ہو یا غیر ہو، حضور ﷺ کے بستر پر بیٹھ سکے ❶۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ سے چاشت کی بارہ رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضورِ اقدس ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں! خاوند کیلئے چار مہینہ دس دن ہیں۔ اس لئے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دیں اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائیں۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی آدمی بھیجا ❷۔

ف: سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتیں، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے۔ آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے اور حضور ﷺ کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترہ کے معاملہ سے ہی ہو گیا۔

(۱۰) حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا اِفک کے معاملہ میں صفائی پیش کرنا

ام المُومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا رشتہ میں حضورِ اقدس ﷺ کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ شروع ہی زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابتداء میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضور ﷺ کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے اور حضور ﷺ کے

---

❶ الطبقات لابن سعد، باب ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، (۸/۹۹)۔

❷ صحیح البخاري، کتاب الجنائز، باب إحداد المرأة علی غیر زوجها، ۱۲۸۰، (۲/۷۸)۔

مُتَبَنّٰی بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمدؐ کہلاتے تھے مگر حضرت زیدؓ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانۂ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنیٰ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیئے، اس لئے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کئے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی۔ جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینبؓ سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ ﴿فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا﴾ ”پس جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیبیوں کے بارہ میں جب کہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں اور خود سجدہ میں گر گئیں اور دو مہینے کے روزوں کی منت مانی۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مقابلہ کی نوبت بھی آجاتی تھی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے قصہ میں جب حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منجملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا۔ بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی

اور تعریف کی۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں۔ اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ازواجِ مُطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال بارہ ہزار درہم بھیجے، تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کا ہے، فرمانے لگیں کہ تقسیم کیلئے تو اور بیبیاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کیلئے ہے تو تعجب سے کہنے لگیں: سبحان اللہ اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونہ میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہؓ سے فرمایا (جو اس قصہ کو نقل کر رہے ہیں) اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ داروں اور غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ عنہا نے بھی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور گنا تو چوراسی (۸۴) درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ! آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ بارہ ہزار تو ختم کر دیئے گئے تو انہوں نے ایک ہزار اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیئے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھیں۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماویٰ المساکین (مساکین کا ٹھکانہ) ان کا

لقب تھا①۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے②۔

ف: عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں اور رنگ وغیرہ سے جو اُنس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال رکھنا جانتی ہی نہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔

(۱۱) حضرت خنساء رضی اللہ عنہا کی اپنے چار بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت

حضرت خنساء رضی اللہ عنہا مشہور شاعرہ ہیں۔ اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آکر مسلمان ہوئیں۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا۔ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانۂ خلافت میں ۱۶ھ میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنساء رضی اللہ عنہا اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا، کہنے لگیں کہ میرے بیٹو! تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبہ لگایا۔ نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے مسلمانوں کیلئے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔

تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا پاک ارشاد ہے ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

---

① الطبقات لابن سعد، زینب، (۸/۱۰۱)۔

② ابو داود، کتاب اللباس، باب فی الحمرۃ، ۴۰۶۸، (۴/۴۰۸)۔ الإصابة، ذکر من اسمها زینب، (۷/۶۶۷)۔

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾۔ (آل عمران: ۲۰۰) ترجمہ ”اے ایمان والو! تکالیف پر صبر کرو (اور کفار کے مقابلہ میں) صبر کرو اور مقابلہ کیلئے تیار رہو، تاکہ تم پورے کامیاب ہو“ لہٰذا کل صبح کو جب تم صحیح و سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آگئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاء اللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔

چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر چاروں شہید ہوئے اور جب ماں کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی ❶۔

ف: ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دیں اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آجائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔

(۱۲) حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہودی کو تنہا مارنا

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ اُحد کی لڑائی میں شریک ہوئیں اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچھا ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھیں۔ غزوۂ خندق میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعہ میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لئے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود

---

❶ أسد الغابة، خنساء بنت عمرو، (۸۸/۷)۔

کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کیلئے قلعہ پر پہنچا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعہ میں واپس آکر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا۔ نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ضعیف تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے تو دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار پر کو یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ محمد عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں ①۔

ف: ۲۰ھ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تہتر (۷۳) سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو ۵ھ میں ہوئی ان کی عمر اٹھاون (۵۸) سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی دوبھر ہو جاتا ہے چہ جائیکہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع۔

(۱۳) حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال

اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا صحابیہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔ یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بیشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس لئے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہے اور مردوں

---

① أسد الغابة، صفية بنت عبد المطلب، (۷/ ۱۷۲)۔

کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں اور جب وہ حج کے لئے یا عمرہ کے لئے یا جہاد کے لئے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لئے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں؟

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارہ میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتادے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا، ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس ہوگئیں①۔

ف: عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے①۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم

---

① أسد الغابۃ، أسماء بنت یزید رقم: ۶۱۸۷، (۷/۱۷)۔

① ابوداود، کتاب النکاح، حق الزوج علی المرءۃ: ۲۱۴۰

نے عرض کیا جب یہ جانور آپ ﷺ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ﷺ کو سجدہ کریں۔ حضور ﷺ نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی ❸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں ❹۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لئے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہو جائے: ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، اور ایک وہ عورت جو کہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہو ❺۔

(۱۴) حضرت اُمِّ عمّارہ رضی اللہ عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت

حضرت اُمِّ عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیعۃ العَقَبہ میں شریک ہوئیں۔ عَقَبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور ﷺ اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے، کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکالیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانہ میں آتے تھے اور مِنیٰ کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں۔ بالخصوص اُحُد، حُدیبیہ، خیبر، عمرہ القضا، حُنَین اور یمامہ کی لڑائی میں۔

اُحُد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر اُحُد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر تینتالیس (۴۳) برس کی تھی ان کے خاوند اور دو بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور ﷺ کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتداء میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھیں۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ

---

❷ شعب الایمان، باب في حقوق الأولاد، ۸۳۶۹، (۱۱/۱۷۷)۔

❸ ترمذي، ابواب الرضاع، حق الزوج علی المرءۃ: ۱۱۶۱

❹ مسلم، کتاب النکاح، باب تحریم امتناعها من فراش زوجها: ۱۴۳۶

❺ شعب الإیمان، حقوق الاولاد والاھلین: ۸۳۵۳

رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے، جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتیں۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں۔ بارہ تیرہ جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔

ام سعید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈھے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا۔ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے، تو ابن قُمیَّہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد (ﷺ) کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں۔ اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مُصعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے ان میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈھے پر وار کیا۔ میں نے بھی اس پر کئی وار کئے مگر اس پر دوہری زرہ تھی اس لئے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور ﷺ نے ”حمراء الاسد“ کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئیں، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لئے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور ﷺ جب حمُراءَ الاَسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی خیریت معلوم کی اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم اُحد کی لڑائی میں آئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی اس وقت اصل مقابلہ کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو ڈھال پر روکتی رہتی اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا اور جب وہ گرتا تو حضور ﷺ میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کیلئے بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔

ان کے بیٹے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں اپنی کمر سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا، کافروں سے مقابلہ کر۔ حضورِ اقدس

ﷺ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ فرمانے لگے: ام عمارہ! اتنی ہمت کون رکھتا ہو گا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضورِ اقدس ﷺ نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور ﷺ نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! دعا فرمایئے کہ حق تعالیٰ شانہٗ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ جب حضور ﷺ نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔

اُحد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضورِ اقدس ﷺ کے وصال کے بعد ارتداد کا زور وشور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ گیارہ زخم بدن پر آئے تھے۔ انہیں زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں①۔

ف: ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں تینتالیس (۴۳) برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً باون (۵۲) برس کی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔

(۱۵) حضرت امِ حکیم رضی اللہ عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت

ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا جو عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف سے اُحد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئیں۔ خاوند سے بہت زیادہ محبت تھی مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور ﷺ سے اپنے خاوند کیلئے

---

① الطبقات لابن سعد، نساء بني نجار، (۸/ ۴۱۲)۔

امن چاہا اور خود یمن پہنچیں۔ خاوند کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو وہ مدینہ طیبہ واپس آکر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں عکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور اسی سفر میں "مَرجُ الصفر" ایک جگہ کا نام ہے وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا جمگھٹا ہے اس کو نمٹنے دیجئے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے اس معرکہ میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے وہ بھی چپ ہو گئیں اور وہیں ایک منزل پر خیمہ میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمہ کا انتظام ہو رہا تھا کہ رومیوں کی فوج چڑھ آئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا نے اس خیمہ کو اکھاڑا جس میں رات گزری تھی اور اپنا سب سامان باندھا اور خیمہ کا کھونٹا لے کر خود بھی مقابلہ کیا اور سات آدمیوں کو تن تنہا قتل کیا❶۔

ف: ہمارے زمانہ کی کوئی عورت تو درکنار مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہوتا اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اس اچانک شہادت پر روتے روتے نہ معلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے، اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کیا اور عورت ہو کر سات آدمیوں کو قتل کیا۔

(۱۶) حضرت سُمَیَّہ ام عمار رضی اللہ عنہا کی شہادت

سُمیہ بنت خیّاط رضی اللہ عنہا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، جن کا قصہ پہلے باب کے ساتویں نمبر پر گزر چکا ہے، یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تا کہ

---

❶ أسد الغابة، أم الحكيم بنت الحارث، ۷۴۲۱، (۷/ ۳۰۹)۔

دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ادھر گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھیں کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا۔ برا بھلا کہا اور غصہ میں برچھا شرمگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئیں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہیں کی ہوئی ①۔

ف: عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کے بیسیوں قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اگر اللہ کے راستہ میں ہو، دین کی خاطر ہو تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، سرخروئی کا سبب ہے اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخرت بھی برباد ہوئی۔

(۱۷) حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی زندگی اور تنگی

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سترہ (۱۷) آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے ستائیس سال پہلے پیدا ہوئیں اور جب حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی چلی آئیں جب قُبا میں پہنچیں تو عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانہ کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے اور اس کے ساتھ ہی اس زمانہ کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرأت ضرب المثل ہیں۔

بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام

---

① أسد الغابة، حرف السين، أم عمارة، ۷۰۲۱، (۱۵۲/ ۷)۔ مصنف لابن أبي شيبة، كتاب المغازي، اسلام أبي بكر، ۳۷۷۴۱، (۱۴/ ۳۱۱)

کرنے والا نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا، میں ہی اونٹ کیلئے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لئے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں۔ میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو دو میل کے قریب تھی، میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹھڑی میرے سر پر تھی۔ راستہ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اونٹ پر تشریف لا رہے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیرؓ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کو بھی یہ ناگوار ہو گا۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم! تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لئے اس سے بہت زیادہ گراں ہے (مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے اس لئے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے) اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی ①۔

ف: عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کُوٹ کر یا چکی میں

---

① صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، ۵۲۲۴، (۷/ ۳۵)۔

دَل کر (کوٹ کر) پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانہ کے طور پر کھلاتے ہیں۔

(۱۸) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نا معلوم راستہ میں کیا ضرورت در پیش ہو کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لئے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار پانچ چھ ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قُحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کیلئے آئے، آکر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا: نہیں دادا ابا! وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے: خیر! یہ اس نے اچھا کیا۔ تمہارے گزارہ کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خدا کی قسم! کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کو تسلی کیلئے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو ❶۔

ف: یہ دل گردہ کی بات ہے ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیئے تھا اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتیں درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی دوسرے گزارہ کی کوئی صورت ظاہر نہیں۔ پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار

---

❶ مسند احمد، حدیث أسماء بنت أبی بکر، ۲۵۷۱۹، (۵۴/ ۳۹۲)۔

اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوۂ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا، سب ہی کچھ لا دیا جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے، اسی وجہ سے حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکرؓ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے ❶۔

(۱۹) حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی سخاوت

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھیں۔ اول جو کچھ خرچ کرتی تھیں اندازہ سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کر نہ رکھا کر اور حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کر۔ تو پھر خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں (کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے) اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی ❷۔

ف: ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔

(۲۰) حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت اور انتقال

دو جہان کے سردار حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے دس برس پہلے جبکہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی عمر شریف تیس برس کی تھی، پیدا ہوئیں اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے ساتھ نہ جا

---

❶ ترمذی، ابواب المناقب: ۳۶۶۱

❷ مسند اسحاق بن راہویہ، باب ما یروی عن أسماء بنت أبی بکر، ۲۲۵۱، (۱۳۵/۵)۔

سکیں، ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کیلئے فدیے ارسال کئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کیلئے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ آبدیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے یہ قرار پایا کہ ابوالعاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کیلئے ساتھ کر دیئے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے دیور کِنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔

کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولہ ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لئے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اَسْوَد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچازاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی کا بھائی ہوا وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار کو ہی لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں، چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابوسفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح عَلَی الاِعْلان چلی جائے یہ تو گوارا نہیں۔ اس وقت واپس چلو پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ دو ایک روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر ۸ھ میں انتقال فرمایا۔ رَضِیَ اللہ عنہا وأرضاها

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ عنہا کے ضُعف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی

سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالیا①۔

ف: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لئے آدمی کو اکثر اوقات قبر کیلئے دعا کرنا چاہیئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذابِ قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ **اَللّٰھُمَّ احۡفَظۡنَا مِنۡہُ بِمَنِّکَ وَ کَرَمِکَ وَ فَضۡلِکَ۔**

(۲۱) حضرت رُبیع بنت مُعَوَّذ رضی اللہ عنہا کی غیرتِ دینی

رُبیع بنتِ معوذ رضی اللہ عنہا ایک انصاری صحابیہ ہیں۔ اکثر لڑائیوں میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہیں۔ زخمیوں کی دوادارو فرمایا کرتی تھیں اور مقتولین اور شہداء کی نعشیں اٹھا کر لایا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہوگئی تھیں۔ ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں چند لڑکیاں خوشی میں شعر پڑھ رہی تھیں جن میں انصار کے اسلامی کارنامے اور ان کے بڑوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے یہ مصرعہ بھی پڑھا۔ **وَ فِیۡنَا نَبِیٌّ یَعۡلَمُ مَا فِیۡ غَدٍ** (ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو منع فرما دیا کیونکہ آئندہ کے حالات اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ رُبیع کے والد حضرت مُعَوَّذ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں ہیں۔

ایک عورت جس کا نام اسماء تھا، عطر بیچا کرتی تھیں۔ وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ حضرت رُبَیع رضی اللہ عنہا کے گھر بھی گئی اور ان سے نام حال پتہ وغیرہ جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، دریافت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام سن کر وہ کہنے لگی کہ تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل چونکہ عرب کا سردار شمار کیا جاتا تھا اس لئے اپنے سردار کا قاتل کہا۔ یہ سن کر ربیع رضی اللہ عنہا کو غصہ آگیا۔ کہنے لگی کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ رُبیع رضی اللہ عنہا کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سنے، اس لئے انہوں نے

---

① تاریخ الخمیس، الباب الثالث، ذکر زینب، (۱/ ۲۷۳)۔ أسد الغابة، زینب، (۷/ ۱۳۰)۔

اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اسماء کو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ ربیع رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھ پر بھی حرام کہ تجھ سے عطر خریدوں۔ میں نے تیرے عطر کے سوا کسی عطر میں گندگی اور بدبو نہیں دیکھی ❶۔

ف: ربیع رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کے جلانے کو کہا تھا، یہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سرداری کا لفظ نہ سن سکیں۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں اور کوئی شخص اگر منع کرے تو وہ تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ❷۔

معلومات

حضور ﷺ کی بیبیاں اور اولاد

اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضورِ اقدس ﷺ کی بیبیوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیئے۔ اس لئے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کیلئے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیئے۔ حضور اقدس ﷺ کا نکاح جن پر محدثین اور مؤرخین کا اتفاق ہے۔ گیارہ عورتوں سے ہوا، اس سے زیادہ میں اختلاف ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ❸۔ جو بیوہ تھیں۔ حضور ﷺ کی عمر شریف اس وقت پچیس برس کی تھی اور حضرت خدیجہ ؓ کی عمر چالیس برس کی تھی۔ حضور ﷺ کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم ؓ کے سب انہیں سے ہوئی۔ جن کا بیان بعد میں آئے گا۔

---

❶ أسد الغابة، الربیع بنت معوذ، (۷/۱۰۷)۔

❷ (۲) أبو داود، کتاب الأدب، باب لا یقول المملوک ربی، ۴۹۳۸، (۵/۳۴۴)۔ مسند اسحاق بن راہویہ، باب ما یروی عن الربیع بنت معوذ، ۲۲۶۵، (۲/۱۴۲)۔

❸ الاستیعاب، خدیجہ بنت خویلد: ۱/۵۸۶

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد دو شخصوں سے نکاح ہوا۔

اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائذ سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، جن کا نام ہند تھا اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئیں اور صاحبِ اولاد بھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبد اللہ یا عبدِ مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوہالہ سے ہوا جن سے ہند اور ہالہ دو اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور ہالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت تک زندہ رہے۔ ابوہالہ کے انتقال کے بعد حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ جس وقت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر چالیس برس کی تھی۔ نکاح کے بعد پچیس برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور رمضان ۱۰ھ نبوی میں پینسٹھ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے وہ بھی بنو الطاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا ❶۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مؤرخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودہؓ سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔

---

❶ (الإستیعاب: ۱/ ۶۰۳)۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضرت سَودہ رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمروؓ کے نکاح میں تھیں۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آکر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد ۱۰ھ نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ (یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں چونکہ بدن کی بھاری تھیں اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہو گی)۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لئے مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ میں اپنی باری عائشہؓ کو دیتی ہوں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حصہ میں آتا تھا۔ ۵۴ھ یا ۵۵ھ میں اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانۂ خلافت میں وفات پائی ❶۔

ان کے علاوہ ایک سودہ اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے پانچ چھ بچے ہیں۔ مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے روئیں چلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا ❷۔

---

❶ أسد الغابة، سودہ بنت زمعہ: ۷۰۳۵

❷ أسد الغابة، سودہ القرشیہ: ۷۰۳۸

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال ۱۰ نبوی میں ہوا۔ جس وقت کہ ان کی عمر چھ سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے چار سال بعد یہ پیدا ہوئیں اور ہجرت کے بعد جب کہ ان کی عمر کو نواں برس تھا، رخصتی ہوئی اور اٹھارہ سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور چھیاسٹھ سال کی عمر میں ۱۷ رمضان ۵۷ھ کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیبیاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریفہ میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئیں۔

عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینہ میں نکاح نامبارک ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کونسی مجھ سے زیادہ نصیبہ ور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد خولہ حکیم رضی اللہ عنہا کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نکاح نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کس سے؟ عرض کیا: کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عائشہ ہے اور بیوہ سودہ بنت زمعہؓ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے منگنی کرنے کیلئے بھیجا ہے۔ ام رومانؓ نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکرؓ کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا

ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا واپس ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی کہا: بلالاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔

ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہؓ کو کیوں نہیں بلا لیتے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کیا جس سے تیاری ہوئی اور شوال ۱ھ سنہ یا ۲ھ سنہ میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے دولت کدہ پر بنا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ تین نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا ❶۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبوت سے پانچ برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں، پہلا نکاح مکہ میں خُنَیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں، جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ بدر میں بھی شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں یا اُحُد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے اور ۲ھ سنہ یا ۳ھ سنہ انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہؓ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آگئیں تھیں، جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہؓ کے لئے عثمانؓ سے

---

❶ (الإصابة، حرف الحاء المهملة، (۷/۵۸۱)۔

بہتر خاوند اور عثمانؓ کے لئے حفصہؓ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔

اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ۲ھ یا ۳ھ خود نکاح کیا اور حضرت عثمانؓ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا اُحد کے۔ بدر ۲ھ میں ہے اور احد ۳ھ میں۔ اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہؓ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہو گی، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے اس لئے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لئے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکرؓ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بڑی عابدہ زاہدہ، تھیں رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیئے تھا۔ حضرت جبرئیلؑ تشریف لائے اور عرض کیا: اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو۔ یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمرؓ کی خاطر بھی منظور ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاُولیٰ ۴۵ھ میں جب کہ ان کی عمر تقریباً تریسٹھ برس کی تھی مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال ۴۱ھ میں اور عمر ساٹھ برس کی لکھی ہے ❶۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حالات

حضرت زینب رضی اللہ عنہا خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبد اللہ بن جحشؓ سے نکاح ہوا تھا جب وہ غزوۂ اُحد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ باب نمبر ۷ کی پہلی حدیث میں گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور بعض نے لکھا کہ

---

❶ أسد الغابة، حفصہ بنت عمر: ۶۸۵۲

ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضورِ اقدس ﷺ سے ہجرت کے اکتیس مہینے بعد رمضان ۳ھ میں ہوا۔ آٹھ مہینے حضور ﷺ کے نکاح میں رہیں اور ربیع الآخر ۴ھ میں انتقال فرمایا۔ حضور ﷺ کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا دو ہی بیبیاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور ﷺ کے سامنے ہوا۔ باقی نو حضور ﷺ کے وصال کے وقت زندہ تھیں جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھیں اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین (مسکینوں کی ماں) تھا۔ ان کے بعد حضورِ اقدس ﷺ کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا❶۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو اُمیّہ کی بیٹی تھیں، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہؓ سے ہوا تھا، جن کا نام عبد اللہ بن عبد الاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آکر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا، جن نام سلمہؓ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی جس کا قصہ اسی باب کے نمبر ۵ پر مفصل گزر چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمرؓ اور دو لڑکیاں دُرّہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دس آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور اُحد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اُحد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر ۴ھ میں ایک سَرِیہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں آٹھ جمادی الاخری ۴ھ میں انتقال کیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت حاملہ تھیں اور زینبؓ پیٹ میں تھیں، جب وہ پیدا ہوئیں تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضورِ اقدس ﷺ نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں

---

❶ (الإصابة، حرف الزاء، من اسمها زینب، (۷/ ۶۷۲)

ہے نہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور غیرت بھی انشاء اللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ ؓ سے کہا کہ حضور ﷺ سے میرا نکاح کر دو۔ اخیر شوال ۴ھ میں حضور ﷺ سے نکاح ہوا۔ بعض نے ۳ھ میں اور بعض نے ۲ھ میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے: ”اَللّٰھُمَّ أَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَاخْلُفْنِیْ خَیْرًا مِّنْھَا“۔ (اے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما) تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے حضور ﷺ سے نکاح کرا دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے حُسن کی بہت شہرت تھی جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر حیلہ سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی حسین نہیں ہیں جتنی شہرت ہے۔ امّہات المُؤمنین سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ۵۹ھ یا ۶۲ھ میں ہوا۔ اس وقت چوراسی (۸۴) سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً نو برس پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان میں مقیم ہوئیں۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جَو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور ﷺ کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا①۔ ان کے بعد حضورِ اقدس ﷺ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حالات

یہ حضورِ اقدس ﷺ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور ﷺ نے اپنے متبنّیٰ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے خود

---

① الإصابة، حرف السين المهملة، (۸/۲۲۱)

ان کا نکاح حضور ﷺ سے کر دیا جس کا قصہ سورۂ اَحزاب میں بھی ہے، اس وقت ان کی عمر پینتیس سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذیقعدہ ۵ھ میں نکاح ہوا بعض نے ۳ھ میں لکھا ہے، مگر صحیح ۵ھ ہے۔ اور اس حساب سے نبوت سے گویا سترہ سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور ﷺ نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ! تیرے رسول ﷺ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور ﷺ پر قرآن شریف کی آیت ﴿فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا﴾ (الاحزاب: ۳۷) نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئیں۔ حضورِ اقدس ﷺ نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا۔ بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھیں اور بڑی محنتی۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرتیں اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتیں۔ ان ہی کے بارہ میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لانبا ہو گا۔ بیبیاں ظاہری لمبائی سمجھیں۔ اس لئے لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیئے۔ دیکھنے میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ سب سے لانبا نکلا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب سمجھیں کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ ۲۰ھ میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ پچاس برس کی عمر تھی ❶۔ ان کا قصہ اسی باب کے نمبر ۱۰ پر بھی گزرا ہے۔ ان کے بعد آپ ﷺ کا نکاح حضرت جُوَیریہ بنت الحارث بن ابی ضرار رضی اللہ عنہا سے ہوا۔

---

❶ (اُسد الغابۃ، زینب بنت جحش، (۷/۱۲۵)۔

حضرت جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار رضی اللہ عنہا کے حالات

یہ غزوۂ مُرَیسِیع میں قید ہو کر آئیں تھیں اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مُسافعِ بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو نو اُوقِیہ سونے پر مُکاتَب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً ساڑھے تین آنے کا۔ اس حساب سے نو اوقیہ کی قیمت ۲۷ روپے ۱۲ آنے ہوئی اور چار آنے کا اگر درہم ہو تو ۹۰ روپے ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جُوَیریہ رضی اللہ عنہا ہوں جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں؟ ان کے لئے اس سے بہتر کیا تھا۔ بخوشی منظور کر لیا اور ۵ھ مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے ۶ھ میں اس قصہ کو بتایا ہے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتہ کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیئے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جُوَیریہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے سو (۱۰۰) گھرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً (۷۰۰) آدمی تھے، اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔

حضرت جُویریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین تھیں، چہرے پر ملاحت تھی، کہتے ہیں جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جُوَیریہ رضی اللہ عنہا نے اس لڑائی سے تین دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر بیس سال کی تھی اور ربیع الاول ۵۰ھ میں صحیح قول کے موافق پینسٹھ برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا اور

بعضوں نے ان کا انتقال ۵۶ھ میں ستر (۷۰) برس کی عمر میں لکھا ہے ❶۔

حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حالات

ام المُومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے ”رَملَہ“، اور بعضوں نے ”ہند“ بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جَحش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا۔ یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہو گی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن حق تعالیٰ شانہُ نے اس کا نِعمَ اُلبدَل یہ عطا فرمایا کہ حضور ﷺ کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور ﷺ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کیلئے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کو عطا کر دیئے اور پاؤں کے چھلے، کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دیں۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے چار سو دینار مہر کے ادا کئے اور بہت کچھ سامان دیا جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیئے اور کھانا کھلایا۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح ۷ھ میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے یا ۶ھ میں، جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحبِ تاریخِ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح ۶ھ میں ہوا اور رخصتی ۷ھ میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچیں۔ نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامانِ جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتبِ تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس قصہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر ۹ پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف

---

❶ الاستیعاب، جویریہ بنت الحارث، (۱/ ۸۲)

ہے۔ اکثر نے ۴۴ھ بتایا ہے اور اس کے علاوہ ۴۲ھ اور ۵۵ھ اور ۵۰ھ وغیرہ اقوال بھی ہیں ❶۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے حالات

ام المُؤمنین حضرت صفیہ حُیَیّ بن اخطب کی بیٹی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اول سلّام بن مشکم کے نکاح میں تھیں اس کے بعد کِنانہ بن ابی حُقَیق کے نکاح میں آئیں۔ اس سے نکاح اس زمانہ میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دِحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے حضور ﷺ سے ایک باندی مانگی۔ حضور ﷺ نے ان کو مرحمت فرما دیا چونکہ مدینہ میں بھی دو قبیلے قُرَیظہ اور نَضِیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لئے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہو گی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اگر حضور ﷺ اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لئے حضور ﷺ نے دحیہ رضی اللہ عنہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو، وہ لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس متفرق چیزیں کھجوریں، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے، ایک چمڑے کا دستر خوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا۔ یہی ولیمہ تھا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، چلی جاؤ اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں شرک کی حالت میں حضور ﷺ کی تمنا کرتی تھی اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں۔ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا، اس نے ایک طمانچہ اس زور سے منہ پر مارا کہ

---

❶ الِاستیعاب، اُم حبیبہ بنت اَبی سفیان، (١/٦٢٦)

آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینہ پر ہے۔ خاوند سے اس کو بھی ذکر کیا۔ اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا۔ اس نے بھی ایک طمانچہ مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند دو مرتبہ دیکھا ہو۔

رمضان ۵۰ھ میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً ساٹھ برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر سترہ سال کی نہیں ہوئی تھی۔

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حالات

ام المُؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حارث بن حزن کی بیٹی ان کا اصل نام برّہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا، پہلے سے ابورحم بن عبد العُزّیٰ کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مؤرخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دو نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذیقعدہ ۷ھ میں جب حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیلئے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع سَرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی۔ اس لئے واپسی میں سَرف ہی میں رخصتی ہوئی اور سَرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا۔ ۵۱ھ میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور بعض نے ۶۱ھ میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر اکیاسی برس تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی اور عرصہ کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید بن اصمؒ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام۔ اگر

دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں ①۔

جن عورتوں کے نکاح پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا، ان گیارہ بیویوں میں سے دو کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا۔ باقی نو بیبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں، ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مورخین نے لکھے ہیں، جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لئے ان بیبیوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔

معلومات

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد

مؤرخین اور محدّثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار لڑکیاں ہوئیں اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے اور عرب میں اس زمانہ میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے، جو ہر بات پوری پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ تین لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب رضی اللہ عنہ اور پانچویں حضرت طاہر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طرح پانچ ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں اس طرح چار ہوئے اور بعض نے کہا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہی کا نام طیب رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ تھا۔ اس طرح تین ہی لڑکے ہوئے اور بعضوں نے دو لڑکے اور بھی بتائے۔ مُطَیَّب رضی اللہ عنہ اور مُطَہَّر رضی اللہ عنہ۔ اور لکھا ہے کہ طیب رضی اللہ عنہ اور مطیب رضی اللہ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے اور طاہر رضی اللہ عنہ اور مُطَہَّر

---

① الإصابة، حرف الميم، (۱۲۶/۸)

رضی اللہ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح سات لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق تین لڑکوں کی ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان سے بڑی تھیں یا چھوٹی، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ دو سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے اور بعض نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔

دوسرے صاحبزادے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب رضی اللہ عنہ اور طاہر رضی اللہ عنہ بھی پڑا اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہوگئی جس پر سورہ ﴿اِنَّآ اَعۡطَیۡنٰکَ﴾ نازل ہوئی اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہوگئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا یہ جواب ملا کہ آج ساڑھے تیرہ سو برس بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہیں۔

تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالاتفاق ذی الحجہ ۸ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن ان کا عقیقہ کیا اور دو مینڈھے ذبح کئے اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاضی رضی اللہ عنہ نے سر کے بال اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیمؑ کے نام پر نام رکھا ہے اور سولہ مہینے کی عمر میں ان صاحبزادہ نے بھی ۱۰ ربیع الاول ۱۰ھ میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے اٹھارہ مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیمؓ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہوگئی۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حالات

صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں اور جن مؤرخین نے اس

کے خلاف لکھا ہے، غلط ہے۔ حضورِ اقدس ﷺ کے نکاح سے پانچ برس بعد جب کہ آپ ﷺ کی عمر شریف تیس برس کی تھی، پیدا ہوئیں اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئیں۔ مسلمان ہوئیں اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوۂ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئیں، جس کا قصہ اسی باب کے نمبر ۲۰ پر گزر چکا ہے اور اسی بیماری کا سلسلہ اخیر تک چلتا رہا یہاں تک کہ ۸ھ کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی ۶ھ یا ۷ھ میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہیں۔ ان سے دو بچے ہوئے ایک لڑکا، ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا۔ جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور ﷺ کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور ﷺ کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت اُمامہ رضی اللہ عنہا تھا جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور ﷺ نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتیں۔ یہ حضور ﷺ کے بعد تک زندہ رہیں۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی۔ البتہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علیؓ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے ان کا انتقال ۵۰ھ میں ہوا۔

حضرت رُقیہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضور ﷺ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے تین برس بعد پیدا ہوئیں جبکہ حضور ﷺ کی عمر شریف تینتیس (۳۳) کی تھی اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی تھیں۔ حضور ﷺ کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ

سے نکاح ہوا تھا، جب سورۂ تبت نازل ہوئی تو ابولہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عُتَیبہ سے (اس کے نکاح میں حضور ﷺ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں) یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد ﷺ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔

یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا خاوند عتبہ مسلمان ہوگئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرصہ ہوا ہوچکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے دونوں مرتبہ حبشہ ہجرت کی تھی جس کا بیان پہلے باب کے نمبر ۱۰ پر گزر چکا اس کے بعد جب حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کردی۔ اس سلسلہ میں حضور ﷺ سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور ﷺ کی ہجرت کے بعد جب حضور ﷺ بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رُقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں اسی لئے حضور ﷺ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے آرہے تھے۔ اسی وجہ سے حضورِ اقدس ﷺ ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہوسکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ ؓ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور چھ سال کی عمر میں ۴ھ سنہ میں انتقال فرمایا اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے ایک سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ہوئی۔

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے حالات

حضورِ اقدس ﷺ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے کونسی بڑی تھیں۔ اکثر کی رائے یہ

ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا بڑی تھیں اول عُتیبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورۂ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیان میں گزرا لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ گزر چکا اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ! اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں۔

چنانچہ عُتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فکر ہے۔ قافلہ کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک زَقَند (چھلانگ) لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہر حال حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے۔ دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے "مَنْ عَادٰی لِیْ وَلِیّاً فَقَدْ اٰذَنْتُہٗ بِالْحَرْبِ"❶ (جو میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے) حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ربیع الاول ۳ھ میں حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے امِ کلثوم کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ بعض روایات میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا۔ پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اولاد کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں ہوئی اور شعبان ۹ھ میں

---

❶ صحیح البخاري، کتاب الرقاق، باب التواضع: ۶۵۰۲، (۸/ ۱۰۵)۔

انتقال فرمایا۔ حضور ﷺ نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میری سو لڑکیاں ہوتیں اور انتقال کرتیں تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات

حضور ﷺ کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو عمر میں اکثر مؤرخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں۔ نبوت کے ایک سال بعد جبکہ حضور ﷺ کی عمر شریف اکتالیس برس کی تھی پیدا ہوئیں اور بعض نے نبوت سے پانچ سال پہلے پینتیس سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فطم کے معنی روکنے کے ہیں یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ ۲ھ محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ سے نکاح ہوا اور نکاح سے سات ماہ اور پندرہ دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جَلَّ شَانُہٗ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپؓ کی عمر پندرہ سال پانچ ماہ کی تھی۔ اس سے بھی اکتالیسویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اکیس سال پانچ ماہ یا چوبیس سال ڈیڑھ ماہ کی تھی۔

حضور ﷺ کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور ﷺ سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور ﷺ سے شکایت کی، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہؓ میرے بدن کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی اُمامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی۔ پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا۔ نئے کپڑے پہنے

پھر فرمایا کہ میرا بستره گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہیں سے چلا اور انشاء اللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی چھ اولاد تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئیں۔

سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسرے سال میں یعنی ۴ھ میں پھر حضرت محسّن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المُومنین سے ہوا جن سے ایک صاحبزادے زیدؓ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عَون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے ہوا ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبد اللہ اور عون اور محمد رضی اللہ عنہم ہیں جن کا قصہ چھٹے باب کے نمبر ۱۱ پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں جن کا نکاح عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے ہوا اور دو صاحبزادے عبد اللہؓ اور عونؓ پیدا ہوئے اور انہیں کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبد اللہ بن جعفرؓ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہے ورنہ حضرت علی کَرَّمَ اللہُ وَجْہَہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئیں اور بھی اولاد ہے۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی

تمام اولاد بتیس لکھی ہے جن میں سولہ لڑکے، سولہ لڑکیاں اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پندرہ لڑکے، آٹھ لڑکیاں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھ لڑکے تین لڑکیاں۔ **رَضِيَ اللہ تعالیٰ عنهم و أرضاهم أجمعين و جعلنا بهديهم متعبين و اللہ أعلم و علمه اتم ملخص من الخميس و الزرقانی علی المو هب و التلقيح و الاصابه و أسد الغابة۔**

گیارھواں باب

بچوں کا دینی جذبہ

کمسن اور نو عمر بچوں میں جو دین کا جذبہ تھا وہ حقیقت میں بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا، اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء (سرپرست) اولاد کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کی بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبر گیری اور اس پر تنبیہ رکھیں تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑیں اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کیلئے بمنزلۂ عادت کے ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف بچے کی ہر بری بات پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جاوے گا۔ حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکتی ہیں جن کا شروع میں بیج بویا جا چکا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالا جائے اور اس سے گیہوں پیدا ہو، یہ مشکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہوں، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو تو بچپن ہی سے اس کو دین کے اہتمام کا عادی بنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بچپن سے ہی اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کا اہتمام کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ایک شخص پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزہ سے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں ①۔

ف: یعنی تو اتنا بڑا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا اس کے بعد اس کو اسّی (۸۰) کوڑے شراب کی سزا میں مارے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔

---

① صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، ۱۹۵۹، (۳/ ۳۷)۔

(۱) بچوں کو روزہ رکھوانا

رُبیع بنت مُعَوِّذ رضی اللہ عنہا جن کا قصہ پہلے باب کے اخیر میں گزرا ہے، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے ❶۔

ف: بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں اگرچہ اس وقت قُویٰ نہایت قَوِی تھے اور اب بہت ضعیف، وہ لوگ اور وہ بچے اس کے متحمل تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے کا اب تحمل ہے، وہی کہاں کیا جاتا ہے۔ تحمل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے مگر اب جس کا تحمل ہو اس میں کوتاہی یقیناً نامناسب ہے۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث اور آیت کا نزول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھ سال کی عمر میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا اور نویں سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں رخصتی ہوئی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اٹھارہ سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں اس قدر دینی مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال ان سے نقل کئے جاتے ہیں کہ حد نہیں۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ مسائل سے واقف اور عالم تھیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کو جو علمی مشکل ہمیں درپیش آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کے متعلق تحقیق ملتی تھی ❷۔ دو ہزار دو سو دس حدیثیں کتبِ حدیث میں ان کی ملتی ہیں ❸۔ خود فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بچپن میں کھیل رہی تھی اس وقت حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ

---

❶ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، ۱۹۶۰

❷ الإصابة، حرف العين، (۸/۱۷)۔

❸ تلقيح فهوم أهل الأثر، أصحاب المئين، (۱/۲۶۳)۔

السَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ ﴾ (القمر: ۴۶)۔ نازل ہوئی ①۔ مکہ مکرمہ میں آٹھ برس کی عمر تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہی ہیں۔ اس کم عمری میں اس آیت کے نازل ہونے کی خبر ہونا اور پھر اس کا یاد بھی رکھنا دین کے ساتھ خاص لگاؤ سے ہی ہو سکتا ہے ورنہ آٹھ برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔

(۳) حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا جہاد کی شرکت کا شوق

حضرت عمیر رضی اللہ عنہ آبی اللحم کے غلام اور کم عمر بچے تھے۔ جہاد میں شرکت کا شوق اس وقت ہر چھوٹے بڑے کی جان تھا۔ خیبر کی لڑائی میں شرکت کی خواہش کی، ان کے سرداروں نے بھی حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اجازت فرما دی جائے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی اور ایک تلوار مرحمت فرمائی جو گلے میں لٹکا لی، مگر تلوار بڑی تھی اور قد چھوٹا تھا اس لئے وہ زمین پر گھسٹتی جاتی تھی، اسی حال میں خیبر کی لڑائی میں شرکت کی چونکہ بچے بھی تھے اور غلام بھی اس لئے غنیمت کا پورا حصہ تو ملا نہیں البتہ بطور عطا کے کچھ سامان حصہ میں آیا ②۔

ف: ان جیسے حضرات کو یہ بھی معلوم تھا کہ غنیمت میں ہمارا پورا حصہ بھی نہیں، اس کے باوجود پھر یہ شوق کہ دوسرے حضرات سے سفارش کرائی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ دینی جذبہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اطمینان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔

(۴) حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا بدر کی لڑائی میں چھپنا

حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک نو عمر صحابی ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ کو بدر کی لڑائی کے وقت دیکھا کہ لشکر کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ مجھے یہ بات دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں حضورِ

---

① صحیح البخاري، کتاب تفسیر القرآن، بل الساعة موعدهم، ۴۸۷۶

② أبو داود، کتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد یحذیان، ۲۷۲۴، (۳/۳۲۴)۔

اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم مجھے نہ دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جانے کی ممانعت کر دیں کہ پھر نہ جا سکوں گا اور مجھے تمنا ہے کہ لڑائی میں ضرور شریک ہوں، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی طرح شہادت نصیب فرمائیں۔ آخر جب لشکر پیش ہوا تو جو خطرہ تھا وہ پیش آیا اور حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے انکار فرما دیا، مگر شوق کا غلبہ تھا تحمل نہ کر سکے اور رونے لگے۔ حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو شوق کا اور رونے کا حال معلوم ہوا تو اجازت عطا فرما دی۔ لڑائی میں شریک ہوئے اور دوسری تمنا بھی پوری ہوئی اور اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی سعد رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں اس کے تسموں میں گرہیں لگاتا تھا کہ اونچی ہو جائے ❶۔

(۵) دو انصاری بچوں کا ابوجہل کو قتل کرنا

حضرت عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ مشہور اور بڑے صحابہؓ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے، میرے دونوں جانب یہ بچے ہیں یہ کیا مدد کر سکیں گے۔ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا: چچا جان! تم ابوجہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں: پہچانتا ہوں تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی شان میں گالیاں بکتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابوجہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لئے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی

---

❶ الإصابة، ذکر من اسمه عمیر، (۴/ ۷۲۵)۔

شروع کر دی یہاں تک کہ اس کو گرا دیا①۔

ف: یہ دونوں صاحبزادے مُعاذ بن عَمرو بن جموح اور معاذ بن عفرا رضی اللہ عنہما ہیں۔ مُعاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابوجہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابوجہل گھوڑے پر سوار تھا۔ صفوں کو درست کر رہا تھا جس وقت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لئے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابوجہل کی ٹانگ پر حملہ کیا جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابوجہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پڑا تڑپتا رہے۔ مگر مُعَوَذ بن عفراء رضی اللہ عنہ ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔

مُعاذ بن عَمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تھا تو اس کا لڑکا عکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈھے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا②۔ لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دِقّت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا③۔

(۶) حضرت رافع اور ابنِ جُندُب رضی اللہ عنہما کا مقابلہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لئے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے۔ ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ اُحُد کی لڑائی کے لئے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور نو عمر لڑکوں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دی، جن میں حضرات ذیل بھی

---

① صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، ۳۱۴۱، (۴/ ۹۱)۔

② الإصابۃ، ذکر من اسمہ معاذ، (۶/ ۱۴۳)۔

③ تاریخ الخمیس، الموطن الثانی، لطیفۃ في استماع الطبل، (۱/ ۳۸۳)۔

تھے۔ عبد اللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازب، عَمرو بن حزم، اُسَید بن ظہیر، عرابہ بن اوس، ابو سعید خدری، سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم کہ ان کی عمریں تقریباً تیرہ چودہ برس کی تھیں۔

جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں اُبھر اُبھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لانبا معلوم ہو۔ حضور ﷺ نے اجازت عطا فرما دی تو سَمُرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اپنے سوتیلے باپ مُرَّہ بن سنان سے کہا کہ حضور ﷺ نے رافع رضی اللہ عنہ کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی حالانکہ میں رافع رضی اللہ عنہ سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ لوں گا۔ حضور ﷺ نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرۃ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو واقعی پچھاڑ لیا۔ اس لئے حضور ﷺ نے سَمُرَۃ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت عطا فرما دی اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں رات ہو گئی۔ حضور ﷺ نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور پچاس آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذکوانؓ۔ حضور ﷺ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور ﷺ نے نام دریافت کیا عرض کیا: ابو سُبع (سبع کا باپ)۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ حضورِ اقدس ﷺ نے نام دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا: ابن عبد القیس (عبد قیس کا بیٹا) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور ﷺ نے دعا کی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور ﷺ کے خیمہ کی حفاظت فرماتے رہے ①۔

---

① تاریخ الخمیس، الموطن الثالث، غزوۂ احد، (۱/ ۴۲۳)۔

ف: یہ شوق اور وَلوَلے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا۔ اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع بن خَدِیج رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی پھر احد میں پیش کیا جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ اُحد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور اخیر زمانہ میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا❶۔

(۷) حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قرآن کی وجہ سے تقدُّم

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت گیارہ سال کی تھی اور چھ سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اجازت نہ ملی۔ پھر اُحد کی لڑائی میں نکلے مگر واپس کر دیئے گئے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ چونکہ سمرۃ اور رافع رضی اللہ عنہما دونوں کو اجازت ہو چکی تھی جیسا کہ ابھی اس سے پہلے قصہ میں گزرا، اس لئے ان کو بھی اجازت ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ تبوک کی لڑائی میں بنو مالک کا جھنڈا حضرت عُمارہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ عُمارہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی یا کوئی وجہ ناراضی پیش آئی۔ دریافت کیا: یا رسول اللہ! میری کوئی شکایت حضور تک پہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا: یہ بات نہیں بلکہ زید قرآن شریف میں تم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو جھنڈا اٹھانے میں مقدم کر دیا❷۔

ف: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے۔ یہاں اگرچہ لڑائی کا موقعہ تھا اور قرآن شریف کے زیادہ پڑھے ہوئے ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زیادتی کی وجہ سے جھنڈے کے اٹھانے میں ان کو مقدم فرمایا۔ اکثر چیزوں میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

---

❶ أسد الغابۃ، رافع بن خدیج، (۲/ ۱۹۰)۔

❷ أسد الغابۃ، زید بن ثابت، (۲/ ۲۷۸)۔

اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک قبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی تو جس کا قرآن شریف زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا، اس کو مقدم فرماتے تھے جیسا کہ غزوۂ اُحد میں کیا۔

(۸) حضرت ابو سعید خُدری رضی اللہ عنہ کے باپ کا انتقال

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا۔ تیرہ سال کی میری عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے قُویٰ اچھے ہیں، ہڈیاں بھی موٹی ہیں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے، پھر نیچے کر لیتے تھے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں اور جو پاکبازی اللہ سے مانگتا ہے، حق تعالیٰ شانُہ اس کو پاکباز بنا دیتے ہیں اور جو غِنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں۔

میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر کچھ نہ مانگا۔ چپکے ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانُہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ نو عمر صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس بڑے درجہ کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا ❶۔

ف: بچپن کی عمر اور باپ کے صدمہ کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا۔ کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے۔؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانُہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کیلئے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو خاتمہ میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو چنا ہے ❷۔

---

❶ الإصابة، السين بعدها العين، (۳/۷۹)۔ الاستیعاب، سعد بن مالک، ۹۵۴، (۲/۶۰۲)۔

❷ تاریخ ابن عساکر، عبد اللہ بن صالح: ۶۰۰۲

(۹) حضرت سلمہ بن اَکْوَع رضی اللہ عنہ کی غابہ پر دوڑ

غابہ مدینہ طیبہ سے چار پانچ میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیئے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لئے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی، بچے تھے دوڑتے بہت تھے، کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔

حضرت سلمہ بن اَکْوَع رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھی ہی، ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لئے حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کئے اور اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے۔ اس لئے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس گھوڑے کے تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لُوٹے تھے، وہ میرے پیچھے ہو گئے اور اس کے علاوہ تیس برچھے اور تیس چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں عُیَیْنہ بن حصن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ بھی چڑھ گئے جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو۔ تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے۔ میں نے کہا کہ میں ابن الاَکْوَع ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا

چاہے تو نہیں پکڑ سکتا اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہر گز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔

سَلَمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس مدد تو پہنچ گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آجائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف سے غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی، ان میں سے سب سے آگے اَخُرم اَسدی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیئے جس سے وہ گھوڑا گرا اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ انکے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا جس سے وہ گرے اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اَسدی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہا تھا، سوار ہو گئے ❶۔

ف: بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کو حملہ سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سو (۱۰۰) آدمی کر دیں میں ان کا پیچھا کروں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے ❷۔

---

❶ ابو داود، کتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، ۲۷۵۲، (۸۱/۳)۔
❷ الطبقات الكبرىٰ: ۷۹/۲

اکثر تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت بارہ یا تیرہ برس کی تھی۔ بارہ تیرہ برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لُوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیں اور اپنا سامان بھی چھوڑ جائیں یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا تھا۔

(۱۰) بدر کا مقابلہ اور حضرت براء رضی اللہ عنہ کا شوق

بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ مُہتَمّ بالشّان لڑائی ہے اس لئے کہ اس میں مقابلہ میں نہایت سخت تھا۔ مسلمانوں کی جماعت نہایت قلیل کل تین سو پندرہ آدمی تھے۔ جن کے پاس صرف تین گھوڑے، چھ یا نَو زِرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں اور ستر اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اور کفار کی جماعت ایک ہزار کے قریب تھی جن میں سو گھوڑے اور سات سو اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر کہ مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعا مانگی: یا اللہ! یہ مسلمان ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے۔ یہ ننگے بدن ہیں تُو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ یہ بھوکے ہیں تُو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ یہ فقیر ہیں تو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے راستہ میں سے لوٹا دیا ❶۔ یہ دونوں حضرات اُحد کی لڑائی میں سے بھی واپس کئے گئے تھے جیسا کہ پہلے قصہ گزر چکا ہے۔ احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے ایک سال بعد ہوئی، جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کئے گئے تو بدر میں بطریقِ اولیٰ بچے تھے۔ مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچپن ہی سے یہ وَلوَلہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھا اور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے۔

---

❶ (ا) تاریخ الخمیس، الموطن الثانی، غزوۂ بدر الکبریٰ، (۱/۳۶۸)۔ اُسد الغابۃ، براء بن عازب، (۱/۲۰۵)۔

(۱۱) حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن اُبَی رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ سے معاملہ

۵ھ میں بنو المُصطَلِق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں جماعتیں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑ کر صلح کرا دی۔ عبد اللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لئے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانا دیا۔ اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھوں آدھ بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جاویں اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم! ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نو عمر بچے تھے وہاں موجود تھے یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم! تو ذلیل ہے تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمٰن کی طرف سے بھی عزت دیئے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبد اللہ بن اُبَی نے کہا کہ اچھا چُپکا رہ۔ میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر حضرت زید نے جا کر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبد اللہ بن اُبَی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا، زید رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ! عبد اللہ قوم کا سردار ہے بڑا آدمی شمار ہوتا

ہے۔ ایک بچہ کی بات اس کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں۔ ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اس کا عذر قبول فرمالیا۔

حضرت زید رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کو جب اس کی خبر ہوئی اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، بالآخر سورۂ منافقون نازل ہوئی جس سے حضرت زید رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی سچائی اور عبد اللہ بن اُبی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی وُقعت موافق، مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی اور عبد اللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبد اللہ بن اُبَی کے بیٹے جن کا نام بھی عبد اللہ تھا اور بڑے پکے مسلمانوں میں تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تُو ذلیل ہے اور محمد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزدہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے مقابلہ میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ واللہ! میں ذلیل ہوں اور محمد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا ①۔

(۱۲) حضرت جابر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی حَمۡراءُ الاَسد میں شرکت

اُحد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ سفر اور لڑائی کی تکان خوب تھی۔ مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے لڑائی سے واپسی پر ''حمراء الاسد'' (ایک جگہ کا نام ہے) پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ اُحد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیئے تھا کہ نہ معلوم پھر ایسا وقت آسکے یا نہ آسکے۔ اس لئے حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو نعوذ باللہ قتل کر کے لوٹنا چاہیئے تھا۔ اس ارادہ سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اعلان فرمادیا کہ جو لوگ اُحد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہوں اور دوبارہ حملہ کیلئے چلنا چاہیئے۔

---

① تاریخ الخمیس، غزوہ المریسع، (۱/۴۷۱)۔

اگرچہ مسلمان اس وقت تھکے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو اُحد میں ساتھ تھے اس لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! میری تمنا اُحد میں بھی شرکت کی تھی مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری سات بہنیں ہیں، کوئی مرد اور ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے اور وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے اس لئے مجھے اجازت نہ دی تھی۔ اُحد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بھی ہمرکاب چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ان کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو اُحد میں شریک نہ ہو①۔

ف: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اس شوق و تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابلِ رشک ہے کہ والد کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ قرضہ بھی باپ کے ذمہ بہت سا ہے، وہ بھی یہود کا جو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے۔ اس سب کے علاوہ بہنوں کے گُذَران کا فکر کہ سات بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اُحد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب ہے۔

(۱۳) حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بہادری روم کی لڑائی میں

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ۲۶ھ میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عَمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی بجائے جب عبد اللہ بن ابی سَرح رضی اللہ عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے بیس ہزار کے مجمع کے ساتھ نکلے، رومیوں کا لشکر دو لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جَرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبد اللہ بن ابی سرح کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور ایک لاکھ دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو علم ہوا۔

---

① تاریخ الخمیس، الموطن الثالث، غزوہ حمراء الاسد، (۱/۴۴۷)۔

انہوں نے کہا کہ یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کو جو جرجیر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور ایک لاکھ دینار انعام اور مزید یہ کہ اس کو ان شہروں کا امیر بھی بنادیا جائے گا۔

الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ دو باندیاں مور کے پروں سے اس پر سایہ کئے ہوئے ہیں، انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑھے آرہے ہیں، کوئی پیغامِ صلح لے کر آئے ہیں۔ مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچھے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے ❶۔

ف: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نو عمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں ان ہی کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لئے کہ ایک سال تک کسی مہاجری کے کوئی لڑکا نہ ہوا تھا تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا ❷۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو سات برس کی عمر میں بیعت فرمالیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر چوبیس پچیس سال کی تھی۔ اس عمر میں دو لاکھ کے مجمع کو پھلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔

(۱۴) حضرت عَمْرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا

عَمْرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے؟ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں: مجھ پر وحی آتی ہے، یہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ میں کم عمر بچہ تھا وہ جو بیان کرتے اس کو یاد کر لیا کرتا۔

---

❶ الکامل فی التاریخ، سنۃ سبع وعشرین، ذکر ولایۃ عبد اللہ بن سعد، (۱/ ۴۸۴)۔

❷ بخاری، کتاب العقیقۃ، باب تسمیۃ المولود: ۵۴۶۹

اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لئے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضرِ خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی۔ جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کیلئے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا اس لئے سب سے زیادہ حافظِ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت چھ سات برس کی تھی جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا❶۔

ف: یہ دین کی طرف طبعی میلان اور رجحان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا۔ رہا بچہ کی امامت کا قصہ، یہ مسئلہ کی بحث ہے جس کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس سے مراد نہیں تھے۔

(۱۵) حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے غلام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور علماء میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کیلئے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤں جاؤں نہیں۔ وہ مجھے قرآن شریف پڑھاتے اور حدیث شریف پڑھاتے❷۔

ف: حقیقت میں پڑھنا اسی صورت سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ پڑھنے کے زمانہ میں سیر وسفر اور بازار کی تفریح کے شوق میں رہتے ہیں وہ بیکار اپنی عمر ضائع کرتے ہیں۔ اسی چیز کا

---

❶ صحیح البخاري، کتاب المغازي، ۴۳۰۲، (۵/ ۱۵۰)۔ أبو داؤد، کتاب الصلوۃ، باب من احق بالإمامة، ۵۸۸، (۱/ ۴۲۷)۔
❷ صحیح البخاري، کتاب الخصومات، باب التوسق ممن تخشی معرته، ۲۴۲۲، (۳/ ۱۲۳)۔ الطبقات لابن سعد، باب مولد التابعین من الانصار، (۵/ ۲۸۷)۔

اثر تھا کہ پھر عکرمہ غلام، حضرت عکرمہ بن گئے کہ ”بحر الاُمّہ“ اور ”حِبرُ الامہ“ کے القاب سے یاد کیے جانے لگے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمام تابعین میں زیادہ عالم چار ہیں جن میں سے ایک عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

(۱۶) حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا بچپن میں حفظ قرآن

خود حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے دس برس کی عمر میں اخیر کی منزل پڑھ لی تھی ❶۔

ف: اس زمانہ کا پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس زمانہ میں ہم لوگ غیر زبان والوں کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ مع تفسیر کے پڑھتے تھے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں کہ بچپن کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کی حدیثیں جتنی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہیں، بہت کم دوسرے حضرات سے اتنی نقل ہوں گی۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بہترین مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں ❷۔ ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم کو قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے اس کے بعد دوسری دس آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی دس آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا ❸۔ تیرہ سال کی عمر تھی جس وقت کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس عمر میں جو درجہ تفسیر و حدیث میں حاصل کیا وہ کھلی کرامت اور قابلِ رشک ہے کہ امام تفسیر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم تفسیر ان سے دریافت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا کا ثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے۔ باہر تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

---

❶ (۱) صحیح البخاري، کتاب فضائل القرآن، باب تعلیم الصبیان القرآن، ۵۰۳۵، (۶/ ۱۹۳)۔ فتح الباری، باب سنقرءک فلا تنسیٰ، (۹/ ۸۴)۔
❷ مستدرک حاکم، ذکر عبد اللہ بن عباس: ۶۲۹۱
❸ مسند احمد: ۲۳۴۸۲

خدمت پسند آئی اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم اور کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائیں ❶۔

اس کے بعد ایک مرتبہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے یہ بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھینچ کر برابر کھڑا کر لیا کہ ایک مقتدی اگر ہو تو اس کو برابر کھڑا ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں مشغول ہو گئے یہ ذرا سا پیچھے کو ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریافت فرمایا۔ عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے برابر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و فہم کے زیادہ ہونے کی دعا دی ❷۔

(۱۷) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا حفظِ حدیث

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان عابد اور زاہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھے کہ روزانہ ایک کلام مجید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا۔ آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھرا جائیں گی۔ بدن کا بھی حق ہے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے متمتع ہونے کی اجازت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا بیس روز میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہت کم ہے۔ مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی اجازت دیجئے۔ غرض اسی طرح عرض کرتا رہا۔ اخیر میں تین دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادت کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہیں۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ”صادقہ“ رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال آدمی ہیں، کبھی غصہ اور کبھی ناراضی

---

❶ مستدرک حاکم، ذکر عبد اللہ بن عباس: ۶۲۸۰

❷ الإصابة، ذکر من اسمہ عبد اللہ، (۴/ ۱۴۳)۔

میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس منہ سے غصہ میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی ❶۔

ف: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما باوجود اس قدر زاہد و عابد ہونے کے کہ کثرت عبادت میں ممتاز شمار کئے جاتے ہیں پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبد اللہ بن عمروؓ کے کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا ❷۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانہ میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں۔

(۱۸) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا حفظ قرآن

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے عالم اور بڑے مفتی شمار ہوتے تھے۔ بالخصوص فرائض (علم المیراث) کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فتویٰ، قضاء، فرائض، قرأت میں ان کا شمار چوٹی کے لوگوں میں تھا۔ جب حضورِ اقدس ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کم عمر بچے تھے۔ گیارہ برس کی عمر تھی اسی وجہ سے باوجود خواہش کے ابتدائی لڑائیوں یعنی بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوئی۔ ہجرت سے پانچ برس پہلے چھ سال کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے تھے۔ حضور ﷺ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو جیسے اور لوگ حاضر خدمت ہو رہے تھے اور حصول برکت کے واسطے بچوں کو بھی ساتھ لا رہے تھے، زید رضی اللہ عنہ بھی خدمت میں حاضر کئے گئے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ قبیلۂ نجّار کا ایک لڑکا ہے۔ آپ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل ہی اس نے سترہ سورتیں قرآن پاک کی حفظ کر لیں۔ حضور ﷺ

---

❶ مسند أحمد، مسند عبد اللہ بن عمر بن العاص، ۶۵۷۹۔ أبو داؤد، کتاب العلم، باب في کتاب العلم، ۳۶۴۱، (۴/۲۳۸)۔
❷ بخاری، کتاب العلم: ۱۱۳

نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا۔ میں نے سورہ ق حضور ﷺ کو سنائی۔ حضور ﷺ کو میرا پڑھنا پسند آیا۔

حضورِ اقدس ﷺ کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجنا ہوتے تھے وہ یہود ہی لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی جو خط و کتابت ہوتی ہے اس پر مجھ کو اطمینان نہیں کہ گڑبڑنہ کر دیتے ہوں، تُو یہود کی زبان سیکھ لے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صرف پندرہ دن میں ان کی زبان عبرانی میں کامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو تحریر ان کو جاتی وہ میں ہی لکھتا اور جو تحریر یہود کے پاس سے آتی وہ میں ہی پڑھتا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضورِ اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خطوط لکھنا پڑتے ہیں اس لئے مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کیلئے ارشاد فرمایا۔ میں نے سترہ دن میں سریانی زبان سیکھ لی تھی ❶۔

(۱۹) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ

سیّد السادات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان ۳ھ میں ہے، اس اعتبار سے حضورِ اقدس ﷺ کے وصال کے وقت ان کی عمر سات برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی۔ سات برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابو الحورا رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ہیں انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور ﷺ کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں حضورِ اقدس ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضورِ اقدس ﷺ نے کخ کخ (ہاہا) فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے اور میں نے پانچوں نمازیں حضور ﷺ سے سمجھی ہیں ❷۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وتر میں پڑھنے کیلئے حضورِ اقدس ﷺ نے یہ دعا بتائی تھی:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ فِیْمَنْ هَدَیْتَ وَعَافِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ وَتَوَلَّنِیْ فِیْمَنْ تَوَلَّیْتَ وَبَارِکْ لِیْ فِیْمَا

---

❶ الاِصابۃ، زید بن ثابت، (۲/۵۹۲)۔ فتح الباری، کتاب الفتن، باب ترجمۃ الحکام، (۱۳/۱۸۶)۔

❷ مسند احمد، مسند اهل البیت، حدیث حسن بن علی، ۱۶۲۵

اَعْطَیْتَ وَ قِنِیْ شَرَّ مَا قَضَیْتَ فَاِنَّکَ تَقْضِیْ وَ لَا یُقْضٰی عَلَیْکَ اِنَّہٗ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ تَبَارَکْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَیْتَ۔ ترجمہ: اے اللہ! تو مجھے ہدایت فرما، من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرما، ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت بخشی اور تُو میرے کاموں کا مُتَوَلّی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا، اس میں برکت عطا فرما اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا کہ تُو تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اور جس کا تُو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔

امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوعِ آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل کئے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور پرہیزگار۔ مُسند احمد میں متعدد روایات ان سے نقل کی گئی ہیں اور صاحب تلقیح نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے تیرہ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ سات برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے اس وقت کی اتنی احادیث کا یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظہ کا کمال ہے اور شوق کی انتہاء۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سات برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔

(۲۰) حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ

سید السادات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی ایک سال چھوٹے تھے اس لئے ان کی عمر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی یعنی چھ برس اور چند مہینے کی تھی۔ چھ برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اس کو کوئی مصیبت

پہنچی ہو پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ ”اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بِسْمِ اللّٰہِ مَجْرٖھَا وَ مُرْسٰھَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (سورۃ ھود: ۴۱) پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پچیس حج پیدل کئے ہیں۔ نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو ➊۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔

ف: اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کئے اور یاد رکھے۔ محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت پانچ برس کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے یہاں ایک کنواں تھا اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی ➋۔ ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں جھوٹے جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کریں تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن

➊ أسد الغابة، باب الحاء والسين، الحسين بن علي، ۱۱۷۳، (۲ / ۲۴)۔ الإصابة ذكر البقية حرف الميم: ۶ / ۳۹

➋ بخاری، کتاب العلم، باب متی یصح سماع الصغیر: ۷۷

پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دِقّت ہو، نہ وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نَوَّر اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کا جب دودھ چھڑایا گیا ہے تو پاؤ پارہ حفظ ہو چکا تھا اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی مُعْتَدبہ حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔

فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور چھ سات گھنٹہ میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ چھ ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ چھ ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا اور وہ بھی سات برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے۔ چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اس لئے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے، اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح تین کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے۔ مگر ان کا طریقۂ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلبہ کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے اگر وہ مطلب صحیح ہوتا، تو آگے چلو فرما دیتے اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے اسی صدی کا واقعہ ہے لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے قُویٰ اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔

بارھواں باب

حضورِ اقدس ﷺ کے ساتھ محبت کے واقعات

اگرچہ جتنے قصے اب تک نقل کئے گئے ہیں وہ سب ہی محبت کے کرشمے تھے کہ محبت ہی ان حضرات کی والہانہ زندگی کا سبب تھی جس کی وجہ سے نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا، نہ مال کا خیال تھا نہ تکلیف کا خوف، نہ موت سے ڈر۔ اس کے علاوہ محبت حکایت کی چیز بھی نہیں۔ وہ ایک کیفیت ہے جو الفاظ و عبارات سے بالاتر ہے۔ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے، نہ اس کے سامنے ننگ و ناموس کوئی چیز ہے نہ عزت و شرافت کوئی شے۔ حق تعالیٰ شانُہ اپنے لطف سے اور اپنے محبوب کے وسیلہ سے اپنی اور اپنے پاک رسول ﷺ کی محبت عطا فرمائیں تو ہر عبادت میں لذت ہے اور دین کی ہر تکلیف میں راحت۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف

ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتّی الوُسع مخفی رکھتا تھا۔ حضورِ اقدس ﷺ کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے، اِخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار انتالیس تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضورِ اقدس ﷺ نے اول انکار فرمایا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرمالیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضورِ اقدس ﷺ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے تین دن بعد حضرت عمرؓ مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔

خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجودیکہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مُسلَّم تھی اس قدر مارا کہ تمام چہرۂ مبارک خون میں بھر گیا۔ ناک کان سب لہولہان

ہو گئے تھے۔ پہچانے نہ جاتے تھے جوتوں سے، لاتوں سے مارا۔ پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی وہ وہاں سے اٹھا کر لائے کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مارے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیہوشی رہی۔ باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور ان ہی کے لے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بد دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ اُمِ خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کیلئے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اُمِ جمیل (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن) کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔

ام خیر نے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں۔ بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بدکرداروں نے کیا حال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ

ان کو اپنے کیئے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکرؓ نے پھر پوچھا کہ حضور ﷺ کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپؓ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ عنہا نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا، نہ پیوؤں گا جب تک حضور ﷺ کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھالیں اور انہوں نے قسم کھالی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لئے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ مبادا! کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔

جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے لپٹ گئے۔ حضورِ اقدس ﷺ بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں۔ آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضورِ اقدس ﷺ نے اول دعا فرمائی اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں①۔

ف: عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت و تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کے وصال پر رنج

حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو آج ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد بھی شہرۂ آفاق ہے اور باوجودیکہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفاء گوارا

---

① تاریخ الخمیس، ذکر اسلام حمزۃ، (۱/۲۹۴)۔

نہ ہوا۔ حضور ﷺ کے ساتھ محبت کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضورِ اقدس ﷺ کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوگئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضورِ اقدس ﷺ تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیٰ نَبِیّنا وعلیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عنقریب حضور ﷺ واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور ﷺ کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل گم سم تھے اور دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی۔ چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔

حضرت علی کَرَّمَ اللہُ وَجہَہٗ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصہ میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور ﷺ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد ﷺ کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور ﷺ کا وصال ہو چکا لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ شانُہٗ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ط قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (ال عمران: ۱۴۴) اخیر تک تلاوت فرمائی ①۔ ترجمہ محمد ﷺ نرے رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے) سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا (اپنا ہی کچھ کھو دے گا) اور خدا تعالیٰ شانُہٗ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔

ف: چونکہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا

---

① تاریخ الخمیس، الموطن الحادی عشر، ذکر وقت موتہ علیہ السلام، (۲/۱۶۷)۔

اس لئے ان کی شایانِ شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھا، کسی میں بھی نہ تھا اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضورِ اقدس ﷺ کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو۔ لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے ❶۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ سے سنا کہ ہم لوگوں (یعنی انبیاء) کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ❷۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے اس پر لعنت ہے ❸۔ نیز حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے مُتولّی ہیں وغیرہ وغیرہ ❹۔

(۳) ایک عورت کا حضور ﷺ کی خبر کیلئے بے قرار ہونا

اُحد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذیت بھی بہت پہنچی اور شہید بھی بہت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر تحقیقِ حال کیلئے گھر سے نکل پڑیں۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو بے تابانہ پوچھا کہ حضور ﷺ کیسے ہیں؟ اس مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اِنَّا لِلّٰہِ پڑھی اور پھر بے قراری سے حضور ﷺ کی خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کسی نے خاوند کے انتقال کی خبر سنائی اور کسی نے بیٹے کی اور کسی نے بھائی کی کہ یہ سب ہی شہید ہو گئے تھے۔ مگر انہوں نے پوچھا کہ حضور ﷺ کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور ﷺ بخیریت ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے اطمینان نہ ہوا، کہنے لگیں کہ مجھے بتا دو، کہاں ہیں۔ لوگوں نے اشارہ کر

---

❶ مصنف عبد الرزاق، باب لا ینقل الرجل من حیث لا یموت: ۶۵۳۴

❷ بخاری، کتاب اصحاب النبی علیہ السلام، باب قرابۃ الرسول علیہ السلام: ۳۷۱۲

❸ مسند احمد، مسند ابی بکر صدیق، ۲۱

❹ سنن البیھقی الکبری، کتاب قتال اھل البغی: ۱۶۳۱۴

کے بتایا کہ اس مجمع میں ہیں۔ یہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی آنکھوں کو حضور ﷺ کی زیارت سے ٹھنڈا کر کے عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ ﷺ زندہ وسلامت ہیں تو مجھے کسی کی ہلاکت کی پرواہ نہیں ❶۔

ف: اس قسم کے متعدد قصے اس موقع پر پیش آئے ہیں اسی وجہ سے مؤرخین میں ناموں میں اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس نوع کا واقعہ کئی عورتوں کو پیش آیا ہے۔

(۴) حدیبیہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور مُغیرہ کا فعل اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرزِ عمل

حُدَیبیہ کی مشہور لڑائی ذیقعدہ ۶ھ میں ہوئی جبکہ حضورِ اقدس ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے تشریف لارہے تھے۔ کفارِ مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے لئے بہت بڑے پیمانہ پر تیار کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کی۔ ذُوالحُلَیفَہ سے حضورِ اقدس ﷺ نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے کیلئے بھیجا جو مکہ سے حالات کی تحقیق کر کے ''عُسفان'' پر حضور ﷺ سے ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلہ کی بہت بڑے پیمانہ پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کیلئے بلا رکھا ہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیئے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آجائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس وقت آپ ﷺ بیت اللہ کے

---

❶ تاریخ الخمیس، غریبۃ فی امر معاویۃ، (۱/۴۴۳)۔

ارادہ سے تشریف لائے ہیں لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں۔ اس لئے آگے بڑھے چلیں اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ حضور ﷺ نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔

حدیبیہ میں پہنچ کر بُدَیل بن ورقا خُزاعی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ ﷺ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے وہ تو لڑائی پر تُلے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور قریش کو روزمرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے، اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے تو مجھ سے تعرّض نہ کریں، میں ان سے تعرض نہ کروں۔ مجھے اوروں سے نمٹنے دیں اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک کہ اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ بُدیل نے عرض کیا: اچھا میں آپ ﷺ کا پیام ان تک پہنچائے دیتا ہوں وہ لوٹے اور جا کر پیام پہنچایا مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح طرفین سے آمد ورفت کا سلسلہ جاری رہا جن میں ایک مرتبہ عُروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور ﷺ نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بُدیل سے کی تھی۔ عُروہ نے عرض کیا۔ اے محمد! (ﷺ) اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں، تم نے کبھی سنا نہ ہو گا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو۔ اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا۔ یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے یہ جملہ سن کر غصہ میں بھر گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو اپنے معبود ”لات“ کی پیشاب گاہ کو چاٹ۔ کیا ہم حضور ﷺ سے بھاگ جائیں گے اور آپ ﷺ کو اکیلا چھوڑ دیں

گے۔ عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور ﷺ سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور ﷺ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی۔ عُروہ کے بھتیجے حضرت مُغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سر پر خود (لوہے کی ٹوپی) اوڑھے ہوئے ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے کو رکھو۔ عُروہ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مغیرہ۔ عروہ نے کہا کہ او غدار! تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں اور تیرا یہ برتاؤ؟ (حضرت مُغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دِیَت عروہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ تھا)۔

غرض وہ طویل گفتگو حضور ﷺ سے کرتے رہے اور نظریں بچا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش! میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں۔ قیصر و کِسریٰ اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسی محمد ﷺ کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے، اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے، جو بات محمد ﷺ کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو دوسرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے۔ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں

اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔

اسی دوران حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سردارانِ مکہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باوجود مسلمان ہو جانے کے، مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اس لئے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو رشک ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو مزے سے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا جہاں دل چاہے چلو پھرو، تم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمانؓ ابوسفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لوں۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اخیر دم تک لڑنے پر بیعت لی۔ جب کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبرا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا❶۔

ف: اس قصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا مارنا، صحابہ رضی اللہ عنہم کا عام برتاؤ جس کو عُروہ نے بہت غور سے دیکھا۔ حضرت عثمانؓ کا طواف سے انکار، ہر واقعہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہاء عشق و محبت کی خبر دیتا ہے۔ یہ بیعت جس کا اس قصہ میں ذکر ہے "بَیعۃُ الشَّجَرَۃ" کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ الایۃ (الفتح: ۱۸) میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری آیت مع ترجمہ کے عنقریب خاتمہ میں ہی آ رہی ہے۔

---

❶ تاریخ الخمیس، الموطن السادس، غزوہ الحدیبیہ، (۲/۱۷)

(۵) حضرت ابن زبیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا کا خون پینا

حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ سینگیاں لگوائیں اور جو خون نکلا وہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا کو دیا کہ اس کو کہیں دبا دیں، وہ گئے اور آکر عرض کیا کہ دبا دیا۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا کہاں: عرض کیا: میں نے پی لیا۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، مگر تیرے لئے بھی لوگوں سے ہلاکت ہے اور لوگوں کو تجھ سے ❶۔

ف: حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے فُضلات، پاخانہ، پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں، اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے اس ارشاد کا مطلب کہ ”ہلاکت ہے“۔ علماء نے لکھا ہے کہ سلطنت اور امارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہو گی اور لوگ اس میں مُزاحم ہوں گے۔ چنانچہ عبد اللہ بن زبیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ایک مینڈھا ہے بھیڑیوں کے درمیان، ایسے بھیڑیئے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ❷۔ چنانچہ یزید اور عبد المَلِک دونوں کے ساتھ حضرت ابن زبیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا کی مشہور لڑائی ہوئی اور آخر شہید ہوئے۔

(۶) حضرت مالک بن سَنان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا خون پینا

اُحُد کی لڑائی میں جب نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے چہرۂ انور یا سر مبارک میں خَود کو دو حلقے گھس گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ عَنْہُ دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ دوڑے اور آگے بڑھ کر خود کے حلقے دانت سے کھینچنے شروع کئے۔ ایک حلقہ نکالا جس سے ایک دانت حضرت ابو عبیدہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا ٹوٹ گیا اس کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا حلقہ کھینچا جس سے دوسرا دانت بھی ٹوٹا لیکن حلقہ بھی کھینچ ہی لیا۔ ان حلقوں کے نکلنے سے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے پاک جسم سے خون نکلنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے والد ماجد مالک بن سَنان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے اپنے لبوں سے اس خون کو چوس لیا اور

---

❶ تاریخ الخمیس، الموطن الأول، ولادۃ النعمان بن بشیر، (۱/۳۵۴)۔

❷ ایضاً

نگل لیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون ملا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ❶۔

(۷) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ کو انکار

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانۂ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننھیال جا رہے تھے، بنو قیس نے قافلہ کو لوٹا جس میں زید رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لئے ان کو خرید لیا۔ جب حضور ﷺ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو حضورِ اقدس ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا اور ہونا ہی چاہیئے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید رضی اللہ عنہ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تا کہ اس کی امید کی جائے یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم! مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید! نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش! مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے اور جب بارش ہونے کے ہوتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا، اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آگئی تو خیر کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا دیں مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا

---

❶ المعجم الأوسط، باب الميم من اسمه مسعدة، ۹۰۹۸، (۹/ ۴۷)۔

کرتے تھے۔

اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو پہچانا۔ باپ کا حال سنایا۔ شعر سنائے ان کی یاد و فراق کی داستاں سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ تین شعر کہہ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں۔ خیریت سے ہوں۔ تم غم اور صدمہ نہ کرو۔ میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید رضی اللہ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے اور پتہ بتایا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا: اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار! تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی۔ تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بات ہے؟ عرض کیا: زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بس اتنی سی بات ہے۔ عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)! بس یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نذر ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا۔ یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں۔ آپ میرے لئے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان

دونوں باپ چچانے کہا کہ زید! غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلہ میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں! میں نے ان میں (حضور ﷺ کی طرف اشارہ کرکے) ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرسکتا۔ حضور ﷺ نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنالیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ❶۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کردینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے، وہ ظاہر ہے۔

(۸) حضرت اَنَس بن نضر رضی اللہ عنہ کا عمل اُحد کی لڑائی میں

احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہورہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑادی کہ حضور ﷺ بھی شہید ہوگئے، اس وحشت ناک خبر سے جو اثر صحابہ رضی اللہ عنہم پر ہونا چاہیئے تھا، وہ ظاہر ہے۔ اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹنے ٹوٹ گئے۔ حضرت اَنَس بن نضر رضی اللہ عنہ چلے جا رہے تھے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں حضرت عمر اور حضرت طلحۃ رضی اللہ عنہما نظر پڑے کہ سب حضرات پریشان حال تھے۔ حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہورہا ہے کہ مسلمان پریشان نظر آرہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ حضور ﷺ شہید ہوگئے۔ حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضور ﷺ کے بعد تم ہی زندہ رہ کر کیا کروگے۔ تلوار ہاتھ میں لو اور چل کر مرجاؤ۔ چنانچہ حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جمگھٹے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہوئے ❷۔

ف: ان کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کیلئے جینا تھا جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر گویا جی کر ہی کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار کردی۔

---

❶ تاریخ الخمیس، الموطن الثامن، ذکر زید بن حارثہ، (۲/۷۳)۔

❷ تاریخ الخمیس، الموطن الثالث، غزوۂ احد، (۱/۴۳۴)۔ الإصابة، النون بعدھا الصاد، (۶/۴۸۶)۔

(۹) سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا پیام اُحد میں

اسی اُحد کی لڑائی میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تلاش کیلئے بھیجا وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی خبر لاؤں، تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی۔ یہ اس طرف بڑھے جا کر دیکھا کہ سات مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دیا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عطا کیا ہو اور مسلمانوں کو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہے یعنی وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہیں چلے گا اور یہ کہہ کر جاں بحق ہو گئے ❶۔

ف: "فَجَزَاہُ اللّٰہُ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَزٰی صَحَابِیًّا عَنْ اُمَّۃِ نَبِیِّہٖ" درحقیقت ان جانثاروں نے (اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے) اپنی جانثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں۔ دم توڑ رہے ہیں مگر کیا مجال ہے کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ وَلولہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا۔ کاش! مجھ جیسے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور آکر عرض کیا کہ مجھے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ شریفہ کھولا۔ انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما

---

❶ تاریخ الخمیس، الموطن الثالث، غزوۂ احد، (۱/۴۴۰)۔

گئیں رَضِیَ اللہ عنہا وارضاہا ①۔

ف: کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لاسکیں اور وہیں جان دے دی۔

(۱۱) صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت کے متفرق قصے

حضرت علی کَرَّمَ اللہُ وَجْہَہٗ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم! حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے ②۔

ف: سچ فرمایا، درحقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی حالت تھی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ وہ حضرات کامل الایمان تھے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے۔ ﴿قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾۔ (التوبة: ۲۴)

(ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرہو (اگر یہ سب چیزیں) تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا"۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان سب چیزوں پر کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری

---

① الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، القسم الثانی، فصل فیما روی عن السلف والائمۃ، (۲/۱۶)۔

② الشفاء أیضا۔

محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے ❶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبتِ اختیاری مراد ہے۔ غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمالِ درجہ کا ایمان ہو جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔

حضرت اَنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ماسوا سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے، اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا ❷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مؤمن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''اَلْاٰنَ یَاعُمَرُ'' (اس وقت اے عمر رضی اللہ عنہ) ❸۔

علماء نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول ہی سے ہونا چاہیئے تھی۔ سہیل تُستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آکر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کیلئے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں

---

❶ مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب المحبۃ: ۶۹

❷ بخاری، کتاب الاکراہ: ۶۹۴۱

❸ بخاری، کتاب الایمان: ۶۶۳۲

ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو ❶۔

حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ ” آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہو گا جس سے اس کو محبت ہے “ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے نقل کیا ہے، جن میں عبد اللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، صفوان، ابو ذر رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی ہے کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ❷، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور ﷺ کی محبت تو ان کے رگ وپے میں تھی پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مکان شروع میں حضور ﷺ سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ کا مکان آپ ﷺ کے قریب ہے، ان سے فرمادیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی فوراً حاضر ہو کر عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جونسا پسند ہو بدل لیں۔ یارسول اللہ! میں اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے۔ یارسول اللہ! خدا کی قسم! جو مال آپ ﷺ لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا ❸۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ﷺ کی محبت مجھے میرے جان ومال اور اہل وعیال سے زیادہ ہے میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ ﷺ کا خیال آجاتا ہے تو صبر نہیں آتا یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آکر زیارت نہ کرلوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ ﷺ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے بعد آپ ﷺ تو انبیاءؑ کے درجے پر چلے جائیں گے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ

---

❶ بخاری، کتاب الادب، باب ماجاء فی قول الرجل ویلک: ۶۱۶۷

❷ ایضاً

❸ الطبقات لابن سعد، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، (۸/۲۲)

پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سنائی۔ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا٥ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ عَلِيمًا٥ (سورة النساء: ٦٩)۔

ترجمہ: جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے گا، تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاءؑ اور صدیقین اور شہداء، اور صلحاء اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو"۔

اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے۔ "عشق است وہزار بدگمانی"۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آجاتا ہے اگر اس وقت میں آکر زیارت نہ کرلوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے۔ مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو تب بھی آپ سے تو نیچے درجہ میں ہوں گا۔ مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سنائی ①۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا: یارسول اللہ! ایک سوچ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا سوچ ہے۔ عرض کیا: یارسول اللہ! ہم صبح وشام حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ کل آپ تو انبیاء علیہم السلام کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی ②۔

---

① المعجم الكبير، الشعبي عن ابن عباس: ١٢٥٥٩

② تفسیر طبری، النساء: ٦٩

ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ اشکال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی ❶۔ ایک حدیث میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجہ اونچے ہوں گے تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہو گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجہ والے نیچے کے درجہ والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے بات چیت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی یہ تمنا ہو گی کہ کاش! اپنے اہل وعیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے کیلئے لیٹتے تو اتنے آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے اور مہاجرین وانصار صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہی کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع ہیں (یعنی بڑے اور چھوٹے) اور ان کی طرف میرا دل کھنچا جارہا ہے۔ یا اللہ! مجھے جلدی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی نسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے اس لئے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لئے کہ آپ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے ❷۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرمارہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان پڑی جو اون کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بیشک یارسول اللہ! آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور اخیر راتوں کو رونے والے تھے۔ کاش! مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے نہ معلوم

---

❶ ایضاً

❷ المعجم الکبیر، باب الصاد: ۷۲۶۴

میری موت کس حالت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے ❶۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے ہی کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگیں کہ ہائے افسوس! وہ کہنے لگے: سبحان اللہ! کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملیں گے ❷۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قصہ باب ۵ کے قصہ نمبر ۹ میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم! مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدہ پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی جماعت کو ان سے ہے۔

تنبیہ: علماء نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ماسویٰ پر ترجیح دیتا ہے۔ یہی معنی محبت کے ہیں ورنہ محبت نہیں محض دعویٔ محبت ہے۔ پس حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے مہتمّ بالشان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو ختیار کرے اور آپ کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، آپ کے احکامات کی بجا آوری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ خوشی میں رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ وَیَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوۡبَکُمۡ وَاللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ (سورۃ آل عمران: ۳۱) ترجمہ: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔

---

❶ الزھد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ۱۰۲۴

❷ تاریخ ابن عساکر، بلال بن رباح، ۱۰-۴۷۵

خاتمہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ برتاؤ اور ان کے اجمالی فضائل

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ چند قصے نمونہ کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی ضخیم کتابوں میں بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اردو میں بھی متعدد کتابیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا پھر مدرسہ کے مشاغل اور وقتی عوارض کی وجہ سے تعویق (تاخیر) میں پڑ گیا۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کرتا ہوں کہ جتنے لکھے جا چکے ہیں وہ قابلِ انتفاع ہو جائیں۔ اخیر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی اشد ضروری ہے کہ وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانہ میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے وہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حق شناسی اور ان کے ادب واحترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کی بنیاد ہیں۔ دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ شانہٗ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لئے اس خاتمہ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شفاء کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے، درج کرتا ہوں اور اسی پر اس رسالہ کو ختم کرتا ہوں۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اعزاز واکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لئے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا اور ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا اور مؤرخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اِعراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں اور اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تاویل کرے اور کوئی اچھا محمل تجویز کرے کہ وہ اس کے مستحق ہیں اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے، بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے

فضائل بیان کیا کرے اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر (یعنی برا ذکر) ہو تو سکوت کیا کرو❶۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالیٰ شانہُ کا ارشاد ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا o (سورة الفتح: ۲۹) (ترجمہ): ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان اور اے مخاطب! تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں، کبھی سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عبدیت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدہ کے ان کے چہرہ پر نمایاں ہیں، یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں۔ اور انجیل میں ان کی یہ مثال ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا (یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی) پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنہ پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی (اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں اول ضُعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس لئے یہ نشوونما دیا) تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلاوے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔“

یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیت ہو اور آیت کے فرق سے ترجمہ میں بھی فرق ہو جائے گا جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی سورۃ میں دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا o وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ

---

❶ المعجم الکبیر، ثعبان، ۱۴۲۷

اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا٥ (سورة الفتح: ۱۸) ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے (جو کہ آپ ﷺ کے ہم سفر ہیں) خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ ﷺ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ (اخلاص اور عزم) تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی (مراد اس سے فتحِ خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی) اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔" یہ ہی وہ بیعت ہے جس کو بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے، اخیر باب کے قصہ نمبر ۴ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایک جگہ ارشادِ خداوندی ہے۔ ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا٥ (الاحزاب: ۲۳)، ترجمہ: ان مؤمنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے (یعنی شہید ہو چکے) اور بعض ان میں اس کے مشتاق و منتظر ہیں (ابھی شہید نہیں ہوئے) اور اپنے ارادہ میں کوئی تغیر و تبدُّل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشادِ خداوندی ہے۔ ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ۱۰۰)، ترجمہ: اور جو مہاجرین وانصار (ایمان لانے میں سب امت سے) مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔"

ان آیات میں اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا اقتداء کیا کرو①۔ ایک حدیث

---

① مسند احمد، حدیث حذیفہ بن الیمان: ۲۳۲۴۵

میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کرو گے، ہدایت پاؤ گے ❶۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے اور اسی وجہ سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ پر اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعدّدِ طُرُق (روایتوں کی کثرت) کی وجہ سے ان کے نزدیک قابلِ اعتبار ہو یا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہو۔ (کیونکہ فضائل میں معمولی ضعف کی روایتیں ذکر کردی جاتی ہیں)۔

حضرت انَس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہوسکتا ❷۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، جو شخص ان کو اذیّت دے اس نے مجھ کو اذیت دی اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ آجائے ❸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں نہ دیا کرو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مُد (گرام ۸۸۴) یا آدھے مُد کی برابر بھی نہیں ہوسکتا ❹۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل ❺۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاءؑ کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو چھانٹا ہے اور ان میں سے چار کو ممتاز کیا ہے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کو میرے سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل قرار دیا ❻۔

ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہم سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پالیا اور جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی

---

❶ جامع بیان العلم، ۲۔ ۱۸۳

❷ مسند ابی یعلی، ۲۷۶۲

❸ ترمذی: ۳۸۶۲

❹ مسلم، باب تحریم سب الصحابۃ: ۲۵۴۰

❺ الغرائب، ۲۸۴۱

❻ تاریخ ابن عساکر: ۲۹۔ ۱۸۴

اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی، منافق، سنت کا مخالف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو❶۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اے لوگو! میں ابو بکر سے خوش ہوں تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو، میں عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، عبد الرحمن بن عوف سے، ابو عبیدہ سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو رضی اللہ عنہم۔ اے لوگو! اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرمادی، تم میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں میری رعایت کیا کرو اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا❷۔

ایک جگہ ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو، جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ شانُہٗ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بَری ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں، کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آجائے❸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں میری رعایت کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہونگا❹۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوضِ کوثر پر پہنچ سکے گا اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچ سکے گا اور مجھے دور ہی سے دیکھے گا❺۔ سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم نہ کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنے لطف و فضل سے اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو

---

❶ الشفا، ۲۔۵۵

❷ کذا فی المعجم الکبیر، ۵۴۶۰۔۶/۱۰۶

❸ ایضا، عباس الانصاری: ۱۰۱۲

❹ فضائل صحابہ لابن حنبل: ۱۰

❺ المعجم الکبیر، سالم عن ابن عمر: ۱۳۱۲۵

اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو اور ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو، تلامذہ کو اور سب مومنین کو محفوظ رکھے اور ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔

آمین، بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْن، وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْن۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ اَلْاَتَمَّانِ الْاَکْمَلَانِ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْن وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاہِرِیْنَ وَعَلٰی اَتْبَاعِہٖ وَاَتْبَاعِہِمْ حَمَلَۃِ الدِّیْنَ الْمَتِیْن۔ تَمَّتْ

محمد زکریا عفی عنہ کاندھلوی
مقیم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور
۱۲؍ شوال ۱۳۵۷؁ھ وشنبہ

فضائلِ قرآن

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قَدَّسَ اللہ سِرُّہٗ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَیَانَ وَاَنْزَلَ لَهُ الْقُرْاٰنَ وَجَعَلَهٗ مَوْعِظَةً وَّشِفَآءً وَّهُدًی وَّرَحْمَةً لِّذَوِی الْاِیْمَانِ لَارَیْبَ فِیْهِ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا وَّاَنْزَلَهٗ قَیِّمًا حُجَّةً نُوْرًا لِّذَوِی الْاِیْقَانِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْاَکْمَلَانِ عَلٰی خَیْرِ الْخَلَآئِقِ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجَآنِّ الَّذِیْ نَوَّرَ الْقُلُوْبَ وَالْقُبُوْرَ نُوْرُهٗ وَرَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ظُهُوْرُهٗ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِیْنَ هُمْ نُجُوْمُ الْهِدَایَةِ وَنَاشِرُو الْفُرْقَانِ وَعَلٰی مَنْ تَبِعَهُمْ بِالْاِیْمَانِ وَبَعْدُ فَیَقُوْلُ الْمُفْتَقِرُ اِلٰی رَحْمَةِ رَبِّهِ الْجَلِیْلِ عَبْدُهُ الْمَدْعُوُّ بِزَکَرِیَّا بْنِ یَحْیٰی بْنِ اِسْمٰعِیْلَ هٰذِهِ الْعُجَالَةُ اَرْبَعُوْنَةٌ فِیْ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ اَلَّفْتُهَا مُمْتَثِلًا لِاَمْرِ مَنْ اِشَارَتُهٗ حُکْمٌ وَّ طَاعَتُهٗ غُنْمٌ۔

تمام تعریف اس پاک ذات کے لئے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی اور اس کیلئے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے بنایا، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے اور حجت و نور ہے یقین والوں کے لئے، اور کامل و مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہوجیو، جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرمادیا اور جس کا ظہور تمام عالم کیلئے رحمت ہے اور آپ ﷺ کی اولاد اور اصحاب رضی اللہ عنہم پر جو ہدایت کے ستارے ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔

حمد و صلوۃ کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق "فضائل قرآن" میں ایک چہل حدیث ہے جس کو میں نے ایسے حضرات کے امتثالِ حکم میں جمع کیا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت ہر طرح مُغْتَنَم ہے۔

حق سبحانہ وتقدّس کے ان انعامات خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہارنپور کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے ہیں، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسے کے اجمالی حالات سنانے کیلئے منعقد ہوتا ہے، مدرسے کے اس جلسہ میں مقررین واعظین اور مشاہیر اہل ہند کے جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے، قلوب والے، گمنامی میں رہنے والے مشائخ کے اجتماع کی سعی کی جاتی ہے۔

وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جب کہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قَدَّسَ اللّٰہُ سِرَّہٗ العزیز اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی۔ مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جب کہ ان مجددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لئے زندگی و نورانیت کے لئے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔

دورِ حاضر میں مدرسے کا جلسہ اُن بُدورِ ہدایت سے بھی گو محروم ہو گیا، مگر ان کے سچے جانشین حُضَّارِ جلسہ کو اب بھی اپنے فیوض وبرکات سے مالامال فرماتے ہیں جو لوگ امسال جلسے میں شریک رہے ہیں وہ اس کے لئے شاہدِ عدل ہیں، آنکھوں والے برکات دیکھتے ہیں لیکن ہم سے بے بصر بھی اتنا ضرور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔

مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں اگر کوئی شخص شستہ تقاریر، زوردار لیکچروں کا طالب بن کر آئے تو شاید وہ اتنا مسرور نہ جائے جس قدر کہ دوائے دل کا طالب کامگار وفیض یاب جائے گا۔ فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃُ

اسی سلسلہ میں سال رواں ۲۷ ذیقعدہ ۱۳۴۸ھ کے جلسہ میں حضرت الشاہ حافظ محمد یٰسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نگینوی نے قدم رنجہ فرما کر اس سیہ کار پر جس قدر شفقت ولطف کا مینہ برسایا یہ ناکارہ اس کے تشکر سے بھی قاصر ہے، ممدوح کے متعلق یہ معلوم ہو جانے کے

بعد کہ آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، پھر آپ کے اوصاف جلیلہ، یک سوئی، تقدس، مظہر انوار وبرکات وغیرہ کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔

جلسہ سے فراغت کے بعد ممدوح جب مکان واپس تشریف لے گئے تو گرامی نامہ، مُکرَمت نامہ، عزت نامہ سے مجھے اس کا حکم فرمایا کہ فضائل قرآن میں ایک چہل حدیث جمع کرکے اس کا ترجمہ خدمت میں پیش کروں اور نیز یہ کہ اگر ممدوح کے حکم سے میں نے انحراف کیا تو وہ میرے جانشین شیخ اور مثیل والد چچا جان مولانا الحافظ الحاج مولوی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اس حکم کو مؤکد کرائیں گے اور بہر حال یہ خدمت ممدوح کو مجھ جیسے ناکارہ ہی سے لینی ہے۔

یہ افتخار نامہ اتفاقاً ایسی حالت میں پہنچا کہ میں سفر میں تھا اور میرے چچا جان یہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے میری واپسی پر یہ گرامی نامہ اپنے تاکیدی حکم کے ساتھ میرے حوالے فرمایا کہ جس کے بعد نہ مجھے کسی معذرت کی گنجائش رہی اور نہ اپنی عدم اہلیت کے پیش کرنے کا موقع رہا، میرے لئے شرح مؤطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشغولیت بھی ایک قوی عذر تھا مگر ارشادات عالیہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کو چند روز کے لئے ملتوی کرکے ماحضر خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں اور ان لغزشوں سے جن کا وجود میری نااہلیت کے لئے لازم ہے، معافی کا خواستگار ہوں۔

رِجَاءَ الْحَشْرِ فِیْ سِلْکِ مَنْ قَالَ فِیْهِمُ النَّبِیُّ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَلٰی اُمَّتِیْ اَرْبَعِیْنَ حَدِیْثًا فِیْ اَمْرِ دِیْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِیْهًا وَّکُنْتُ لَهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ شَافِعًا وَّشَهِیْدًا قَالَ الْعَلْقَمِیُّ اَلْحِفْظُ ضَبْطُ الشَّیْءِ وَمَنْعُهٗ مِنَ الضِّیَاعِ فَتَارَةً یَکُوْنُ حِفْظُ الْعِلْمِ بِالْقَلْبِ وَاِنْ لَّمْ یَکْتُبْ وَتَارَةً فِی الْکِتَابِ وَاِنْ لَّمْ یَحْفَظْهُ بِقَلْبِهٖ

اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کی امید میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے لئے ان کے دینی امور میں چالیس حدیثیں محفوظ کرے گا حق تعالیٰ شانہ اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا اور میں اس کے لئے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ علقمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محفوظ کرنا شئ کے منضبط کرنے

فَلَوْ حَفِظَ فِيْ كِتَابٍ ثُمَّ نَقَلَ اِلَى النَّاسِ دَخَلَ فِيْ وَعْدِ الْحَدِيْثِ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ قَوْلُهٗ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِيْ اَيْ نَقَلَ اِلَيْهِمْ بِطَرِيْقِ التَّخْرِيْجِ وَالْاِسْنَادِ وَقِيْلَ مَعْنٰى حِفْظِهَا اَنْ يَنْقُلَهَا اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنْ لَّمْ يَحْفَظْهَا وَلَا عَرَفَ مَعْنَاهَا وَقَوْلُهٗ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا صِحَاحًا اَوْ حِسَانًا قِيْلَ اَوْ ضِعَافًا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْفَضَائِلِ انتهى فَلِلّٰهِ دَرُّ الْاِسْلَامِ مَا اَيْسَرَهٗ وَلِلّٰهِ دَرُّ اَهْلِهٖ مَا اَجْوَدَ مَا اسْتَنْبَطُوْا رَزَقَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِيَّاكُمْ كَمَالَ الْاِسْلَامِ وَمِمَّا لَابُدَّ مِنَ التَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ اِنِّيْ اِعْتَمَدْتُّ فِي التَّخْرِيْجِ عَلَى الْمِشْكٰوةِ وَتَخْرِيْجِهٖ وَشَرْحِهِ الْمِرْقَاةِ وَشَرْحِ الْاِحْيَاءِ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِنِ الْمُرْتَضٰى وَالتَّرْغِيْبِ لِلْمُنْذِرِيِّ وَمَا عَزَوْتُ اِلَيْهَا لِكَثْرَةِ الْاَخْذِ عَنْهَا وَمَا اَخَذْتُ عَنْ غَيْرِهَا عَزَوْتُهٗ اِلٰى مَاْخَذِهٖ وَيَنْبَغِيْ لِلْقَارِيْ مُرَاعَاةُ آدَابِ التِّلَاوَةِ عِنْدَ الْقِرَأَةِ

اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے چاہے بغیر لکھے برزبان یاد کرلے یا لکھ کر محفوظ کرلے اگرچہ یاد نہ ہو پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا، مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری امت پر محفوظ کرلینے سے مراد ان کی طرف نقل کرنا ہے سند کے حوالے کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ برزبان یاد نہ ہوں نہ ان کے معنی معلوم ہوں، اسی طرح چالیس حدیثیں بھی عام ہیں کہ سب صحیح ہوں یا حسن یا معمولی درجہ کی ضعیف جن پر فضائل میں عمل جائز ہو، اللہ اکبر! اسلام میں بھی کیا کیا سہولتیں ہیں اور تعجب کی بات ہے کہ علماء نے بھی کس قدر باریکیاں نکالی ہیں، حق تعالیٰ شانہ کمال اسلام مجھے بھی نصیب فرماویں اور تمہیں بھی۔

اس جگہ ایک ضروری امر پر متنبہ کرنا بھی لابدی ہے وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکوٰۃ، تنقیح الرواۃ، مرقاۃ اور احیاء العلوم کی شرح اور منذری رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر اعتماد کیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے، اس لئے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں سمجھی، البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیا ہے تو اس کا حوالہ نقل کردیا۔

نیز قاری کے لئے تلاوت کے وقت اس کے آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ مقصود سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلام مجید پڑھنے کے کچھ آداب بھی لکھ دیئے جائیں کہ

ع بے ادب محروم گشت از فضلِ رب

مختصر طور پر آداب کا خلاصہ یہ ہے، کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے، محبوب ومطلوب کے فرمودہ الفاظ ہیں۔

جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی، محبوب کی تقریر وتحریر کی کسی دل کھوئے ہوئے کے یہاں کیا وقعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو شیفتگی وفریفتگی کا معاملہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیئے وہ قواعد وضوابط سے بالاتر ہے

ع محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھادے گی

اس وقت اگر جمالِ حقیقی اور انعاماتِ غیر متناہی کا تصور ہو تو محبت موجزن ہوگی، اس کے ساتھ ہی وہ اَحۡکَمُ الۡحَاکِمِیۡنَ کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، اس سَطوَت وجَبَروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے سے ہوئی اور نہ ہوسکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑچکا ہے وہ تجربے سے اور جن کو سابقہ نہیں پڑا وہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کی ہیبت قلوب پر کیا ہوسکتی ہے، کلام الٰہی محبوب وحاکم کا کلام ہے، اس لئے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔

حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب کلامِ پاک پڑھنے کے لئے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہوجاتا تھا ”هٰذَا كَلَامُ رَبِّیۡ، هٰذَا كَلَامُ رَبِّیۡ“① (یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے)۔

یہ ان آداب کا اجمال ہے اور ان تفصیلات کا اختصار ہے جو مشائخ رحمہم اللہ نے آدابِ تلاوت میں لکھے ہیں جن کی کسی قدر توضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نوکر بن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا ومالک، محسن و

---

① المعجم الکبیر، عکرمہ بن ابی جہل، ۱۰۱۸(۱۷/۳۷۱)

مُنعِم کا کلام پڑھے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے کو قرأت کے آداب سے قاصر سمجھتا رہے گا وہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتا رہے گا اور جو اپنے کو رضا و عُجب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ ترقی سے دور ہو گا۔

☆آداب☆

مسواک اور وضو کے بعد کسی یک سوئی کی جگہ میں نہایت وقار و تواضع کے ساتھ رو بہ قبلہ بیٹھے اور نہایت ہی حضورِ قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ وعزّاِسمُہ کو کلامِ پاک سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیاتِ وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت ورحمت مانگے اور آیاتِ عذاب ووعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں، آیات تنزیہ وتقدیس پر سبحان اللہ کہے اور از خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو بہ تکلف رونے کی سعی کرے۔

وَ اَلَذُّ حَالَاتِ الْغَرَامِ لِمُغْرَمِ شِکْوَی الْھَوٰی بِالْمِدْمَعِ الْمُھْرَاق

ترجمہ: کسی عاشق کے لئے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو اس طرح کہ آنکھوں سے بارش ہو۔

پس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، کلام پاک کو رحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے، تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے، اگر کوئی ضرورت پیش ہی آجاوے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے اور پھر اس کے بعد "اعوذ" پڑھ کر دوبارہ شروع کرے، اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے چھ آداب ظاہری اور چھ باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔

ظاہری آداب: اول: غایتِ احترام سے باوضو، رو بہ قبلہ بیٹھے، دوم: پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل و تجوید سے پڑھے۔ سوم: رونے کی سعی کرے چاہے بہ تکلف ہی کیوں نہ ہو، چہارم: آیاتِ رحمت وآیاتِ عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پنجم: اگر ریا کا

احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف وحرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے۔ ششم: خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔

باطنی آداب: اول: کلامِ پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ دوم: حق سبحانہ وتقدّس کی عُلوّشان اور رفعت وکبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔ سوم: دل کو وساوس وخطرات سے پاک رکھے۔ چہارم: معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم ﷺ نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دی ①:

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (المائدہ: ۱۱۸)	اے اللہ! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر مغفرت فرما دے تو عزت وحکمت والا ہے۔

سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی۔

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (یٰس: ۵۹)	او مجرمو! آج قیامت کے دن فرمانبرداروں سے الگ ہو جاؤ②۔

پنجم: جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنا دے، مثلاً اگر آیتِ رحمت زبان پر ہے، دل سرورِ محض بن جائے اور آیتِ عذاب اگر آگئی ہے تو دل لرز جائے۔

ششم: کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا خود حق سبحانہ وتقدّس کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے، حق تعالیٰ شانہ محض اپنے لطف وکرم سے مجھے بھی ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی۔

مسئلہ: اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی العیاذ باللہ حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں، بلکہ زَرکشی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں۔

اس زمانۂ ضلالت وجہالت میں جہاں ہم مسلمانوں میں اور بہت سے دینی امور میں

---

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب صلوٰۃ التطوع، ۸۳۶۸ (۲/ ۲۲۴)

② احیاء العلوم، ۱/ ۲۸۲

گمراہی پھیل رہی ہے وہاں ایک عام آوازہ (شہرت) یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جارہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور تضییعِ اوقات کہا جاتا ہے، اگر ہماری بددینی کی یہی ایک وبا ہوتی تو اس پر کچھ تفصیل سے لکھا جاتا، مگر یہاں ہر ادا مرض ہے اور ہر خیال باطل ہی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس لئے کس کس چیز کو رویئے اور کس کس کا شکوہ کیجئے، **فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ۔**

(۱) عَنْ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهٗ۔

(متفق علیہ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔

رواہ البخاری کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن: ۴۷۳۹، (۴/۱۹۱۹) **وابوداود،** کتاب الصلوٰۃ، باب ثواب قراءۃ القرآن: ۱۴۴۷، (۲/۲۶۷) والترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی تعلیم القرآن: ۲۹۰۷، (ص ۲۵۰)۔ **والنسائی** فی الکبری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من تعلم القرآن: ۷۹۸۳، (۷/۲۶۷ ۳) **وابن ماجۃ،** کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۳، (۱/۱۳۹) **ھذا فی الترغیب:** ۱۴۱۵، (۲/۵۸۴) **وعزاہ الی مسلم ایضاً لکن حکی الحافظ فی الفتح،** باب خیر کم من تعلم القران (۹/۷۵) **عن ابی العلاء ان مسلما سکت عن اخراج ھٰذا الحدیث فی صحیحہ۔**

اکثر کتب میں یہ روایت ”واؤ“ کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا، اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لئے ہے جو کلامِ پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت ”أوْ“ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لئے مستقل خیر وبہتری ہے۔

کلامِ پاک چونکہ اصلِ دین ہے اس کی بقاء واشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لئے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں، البتہ اس کی انواع مختلف ہیں، کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب ومقاصد سمیت سیکھے اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیثِ مذکور کی تائید کرتا ہے جو سعید بن سُلَیم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کرلے اور پھر کسی دوسرے شخص

کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالیٰ شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلامِ پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی ہے ❶۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلامِ الٰہی سب کلاموں سے افضل ہے جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیئے۔

ایک دوسری حدیث سے مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا ❷۔ سہل تُستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلامِ پاک کی محبت قلب میں ہو ❸۔ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سایہ کے نیچے رہیں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔

(۲) وَعَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم یَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِیْ وَمَسْئَلَتِیْ اَعْطَیْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِیَ السَّآئِلِیْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰی سَآئِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰی خَلْقِهٖ۔

(ض)

رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ، ابواب فضائل القرآن، باب: ۲۹۲۶، (۶۵۴)۔ **وَالدَّارِمِیُّ** (فی سننه)، کتاب فضائل القرآن باب فضل کلام اللّٰہ: ۳۳۵۶، (۳۲۷/۲)، **وَالْبَیْهَقِی** فِیْ الشُّعَبِ، کتاب الایمان، الباب التاسع عشروهو باب في تعظيم القرآن، فصل فی ادمان تلاوة القرآن: ۱۸۶۰، (۳۹۳/۳)

ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ وتقدّس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔

یعنی جس شخص کو قرآنِ پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی

---

❶ تفسیر ابن عطیہ، (۱/۳۶)
❷ شعب الاِیمان، باب تعظیم القرآن: ۲۳۵۲، (۴/۱۹۱)
❸ تفسیر قرطبی

ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آسکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے، ایک دوسری حدیث میں اس موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا①۔

(۳) وعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاْتِيَ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ اِثْمٍ وَّلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقْرَأُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ نَّاقَتَيْنِ وَثَلٰثٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثٍ وَّاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ۔

(صحیح)

رَوَاهُ مُسْلِم، کتاب صلوٰۃ المسافرین، باب فضل قراءۃ القرآن: ۱۸۷۰ (۳۳۰/۶) **وابوداود،** کتاب الصلوٰۃ، باب فی ثواب قراءۃ القرآن: ۱۴۵۱ (۲۶۹/۲)۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار ”بطحان“ یا ”عقیق“ میں جاوے اور دو اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر دو آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے، اور تین آیات کا تین اونٹنیوں سے، اسی طرح چار کا چار سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔

”صُفَّہ“ مسجد نبوی میں ایک خاص معیّن چبوترہ کا نام ہے جو فقراءِ مہاجرین کی نشست گاہ تھی، اصحابِ صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی، علامہ سیوطیؒ نے ایک سو ایک نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان

---

① الضعفاء للعقیلی، باب المیم: ۱۶۰۰

اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس دو جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا، عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی بالخصوص، وہ اونٹنی جس کا کوہان فربہ ہو۔

بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر کسی سے لی جاتی ہے یا یہ کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کرلے یا کسی کا مال چرالے، اس لئے حضور اکرم ﷺ نے ان سب کی نفی فرمادی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر وافضل ہے چند آیات کا حاصل کرلینا۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ ایک دو اونٹ درکنار ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جاوے تو کیا، آج نہیں تو کل موت اس سے جبراً جدا کردے گی، لیکن ایک آیت کا اجر ہمیشہ کے لئے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ کسی شخص کو ایک روپیہ عطا فرمادیجئے اس کی اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ ایک ہزار روپیہ اس کے حوالے کردیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آکر لے لوں گا کہ اس صورت میں بجز اس پر بارِ امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔

درحقیقت اس حدیث شریف میں فانی وباقی کے تقابل پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکت وسکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کررہا ہوں یا باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والا وبال کماتے ہوں۔

حدیث کا اخیر جملہ اور ''ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے'' تین مطالب کا محتمل ہے: اول یہ کہ چار کے عدد تک بالتفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے مافوق (زائد) کو اجمالاً فرما دیا کہ جس قدر آیات کوئی شخص حاصل کرے گا اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے۔ اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے خواہ اونٹ ہوں یا اونٹنیاں اور بیان ہے چار سے زیادہ کا، اس لئے کہ چار تک کا ذکر خود تصریحاً مذکور ہوچکا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اعداد کا ذکر ہے جو پہلے مذکور ہوچکے اور مطلب یہ ہے کہ رغبات مختلف ہوا کرتی ہیں: کسی کو اونٹنی پسند ہے تو کوئی اونٹ کا گرویدہ ہے، اس لئے حضور ﷺ نے اس لفظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر آیت ایک اونٹنی سے بھی افضل ہے اور اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو ایک

آیت ایک اونٹ سے بھی افضل ہے۔

تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان انہی اعداد کا ہے جو پہلے ذکر کئے گئے، چار سے زائد کا نہیں ہے، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری کہ ایک اونٹنی یا ایک اونٹ سے افضل ہے، یہ نہیں بلکہ مجموعہ مراد ہے کہ ایک آیت ایک اونٹ اور ایک اونٹنی دونوں کے مجموعہ سے افضل ہے، اسی طرح ہر آیت اپنے موافق عدد اونٹنی اور اونٹ دنوں کے مجموعے سے افضل ہے تو گویا فی آیت کا مقابلہ ایک جوڑا سے ہوا۔

میرے والد صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ نے اسی مطلب کو پسند فرمایا ہے کہ اس میں فضیلت کی زیادتی ہے، اگرچہ یہ مراد نہیں کہ ایک آیت کا اجر ایک اونٹ یا دو اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ صرف تنبیہ اور تمثیل ہے، میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ایک آیت جس کا ثواب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہفت اقلیم کی بادشاہت سے جو فنا ہو جانے والی ہے، افضل اور بہتر ہے۔

مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بعض تجارت پیشہ احباب نے ان سے درخواست کی کہ جہاز سے اترنے کے وقت حضرت جدّہ تشریف فرما ہوں تاکہ جناب کی برکت سے ہمارے مال میں نفع ہو اور مقصود یہ تھا کہ تجارت کے منافع سے حضرت کے بعض خدام کو کچھ نفع حاصل ہو۔ اول تو حضرت نے عذر فرمایا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تمہیں زائد سے زائد جو نفع مالِ تجارت میں ہوتا ہے وہ کیا مقدار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مختلف ہوتا ہے، زائد سے زائد ایک کے دو ہو جاتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ”اس قلیل نفع کے لئے اس قدر مشقت اٹھاتے ہو؟ اتنی سی بات کے لئے ہم حرم محترم کی نماز کیسے چھوڑ دیں جہاں ایک کے لاکھ ملتے ہیں“۔

در حقیقت مسلمانوں کے غور کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ذرا سی دنیوی متاع کی خاطر کس قدر دینی منافع کو قربان کر دیتے ہیں۔

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا

الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِیْ یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَیَتَتَعْتَعُ فِیْهِ وَهُوَ عَلَیْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ

(متفق علیه)

ماہر اُن ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دِقّت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔

رواه البخاری، کتاب التفسیر، باب عبس وتولی: ۴۶۵۳، (۱۸۸۲/۴)۔**ومسلم** کتاب صلوٰة المسافرین، باب فضل الماهرفی القرآن: ۱۸۵۹، (۳۲۵/۲)۔**وابوداود،** کتاب الصلوٰة، باب فی ثواب قراءة القرآن: ۱۴۴۹، (۲۶۸/۲)۔**والترمذی،** ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل قارئ القرآن: ۱۴۴۹، (۹۴۹)۔**والنسائی** فی سننه، کتاب فضائل القرآن، باب المتتعتع فی القرآن: ۷۹۹۲، (۲۶۹/۷)۔**وابن ماجة،** کتاب الادب، باب ثواب القرآن، ۳۷۷۹(۲۳۸/۴)۔

قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو اور اگر معانی و مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا۔ ملائکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے، تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہو گا۔

اٹکنے والے کو دوہرا اجر، ایک اس کی قرأت کا دوسرا اس کی اس مشقت کا جو اس بار بار کے اٹکنے کی وجہ سے وہ برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جاوے، ماہر کے لئے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا، لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیئے۔

مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”طبرانی“ اور ”بیہقی“ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا رہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالیٰ شانہ اس کا حُفّاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے ❶۔

(۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا حَسَدَ اِلَّا عَلَی اثْنَیْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ یَقُوْمُ بِهٖ اٰنَآءَ اللَّیْلِ

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو حق

---

❶ المعجم الکبیر، اسماعیل بن عبید اللہ، ۱۳۶، ۲۰ / ۷۲

وَاٰنَآءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَآءَ اللَّيْلِ وَاٰنَآءَ النَّهَارِ۔

(متفق علیه)

رواہ البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن: ۴۷۳۷، (۱۹۱۹/۴)۔ **والترمذی،** ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی الحسد: ۱۹۳۶، (۴۴۲)۔ **والنسائی فی الکبری،** کتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن: ۸۰۱۹، (۲۸۰/۷)۔

تعالیٰ شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے، دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔

قرآن شریف کی آیات اور احادیثِ کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا مطلقاً معلوم ہوتا ہے، اس حدیث شریف سے دو آدمیوں کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے، چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور و کثیر ہیں اس لئے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں: اول یہ کہ حسد اس حدیث شریف میں رشک کے معنی میں ہے جس کو عربی میں غِبطہ کہتے ہیں۔

حسد اور غِبطہ میں یہ فرق ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، خواہ اپنے پاس حاصل ہو یا نہ ہو اور رشک میں اپنے پاس اس کے حصول کی تمنا و آرزو ہوتی ہے، عام ہے کہ دوسرے سے زائل ہو یا نہ ہو۔ چونکہ حسد بالاجماع حرام ہے اس لئے علماء نے اس لفظِ حسد کو مجازاً غبطہ کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے جو دنیوی امور میں مباح ہے اور دینی امور میں مستحب۔ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ بسا اوقات کلام عَلٰی سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ مستعمل ہوتا ہے یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں جائز ہوتا۔

(٦) عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال تُرُنج ① کی سی ہے اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف

---

① چکوترہ

حُلْوٌ وَّمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِیْ لَا یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ کَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَیْسَ لَهَا رِیْحٌ وَّ طَعْمُهَا مُرٌّ وَّمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِیْ یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّیْحَانَةِ رِیْحُهَا طَیِّبٌ وَّطَعْمُهَا مُرٌّ۔

(متفق علیه)

رواہ البخاری، کتاب الاطعمة، باب ذکرالطعام: ۵۱۱۱، (۵/۲۰۷۰)۔ **ومسلم،** کتاب صلوٰة المسافرین، باب فضیلة حافظ القرآن: ۱۸۵۷، (۶/۳۲۴)۔ **والنسائی،** فی سننه، کتاب الایمان، باب مثل الذی یقراء القرآن: ۵۰۳۸، (۸/۱۲۴)۔ **وابن ماجة،** کتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۴، (۱/۱۳۹)۔

نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا، اس کی مثال حَنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔

مقصود اس حدیث سے غیر محسوس شے کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تاکہ ذہن میں فرق کلام پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں سہولت سے آجاوے، ورنہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی حلاوت ومہک سے کیا نسبت ترنج وکھجور کو، اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ میں خاص نکات بھی ہیں جو علوم نبویہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کے علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہیں۔

مثلاً ترنج ہی کو لے لیجئے منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، معدہ کو صاف کرتا ہے، ہضم میں قوت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ منافع ایسے ہیں کہ قراتِ قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں، مثلاً منہ کا خوشبودار ہونا، باطن کا صاف کرنا، روحانیت میں قوت پیدا کرنا، یہ منافع تلاوت میں ہیں جو پہلے منافع کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک خاص اثر ترنج میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جس گھر میں ترنج ہو وہاں جن نہیں جاسکتا، اگر یہ صحیح ہے تو پھر کلام پاک کے ساتھ خاص مشابہت ہے، بعض اطبّاَء سے میں نے سنا ہے کہ ترنج سے حافظہ بھی قوی ہوتا ہے اور حضرت علی کَرَّمَ اللہُ وَجْہَہٗ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ تین چیزیں حافظہ کو بڑھاتی ہیں:۔ (۱) مسواک (۲) روزہ (۳) تلاوت کلامُ اللہ شریف ①۔

ابوداؤد کی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ

---

① احیاء العلوم، (۱/۲۷۴)

بہتر ہم نشیں کی مثال مشک والے آدمی کی سی ہے، اگر تجھے مشک نہ مل سکا تو اس کی خوشبو تو کہیں گئی نہیں، اور بدتر ہم نشیں کی مثال آگ کی بھٹی والے کی طرح سے ہے کہ اگر سیاہی نہ پہنچے تب بھی دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں ❶، نہایت ہی اہم بات ہے۔ آدمی کو اپنے ہم نشینوں پر بھی نظر کرنا چاہیئے کہ کس قسم کے لوگوں میں ہر وقت نشست و برخاست ہے۔

(۷) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَّيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ۔

(صحیح)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضورِ اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔

یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا و آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ و تقدّس ان کو ذلیل کرتے ہیں، کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ ایک جگہ ارشاد ہے ﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ (البقرة:۲۶)۔ حق تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا﴾ (بنی اسرائیل:۸۱)۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے ❷۔ بعض مشائخ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم ہونے تک اس پر لعنت کرتے ہیں ❸۔

بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے۔ ﴿اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى

---

❶ ابوداؤد، کتاب الادب: ۴۸۲۹ (۴/۲۵۹)

❷ مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو: ۶۶۳۳ (۱۱/۲۱۲)

❸ احیاء العلوم، (۱/۲۷۵)

الظّٰلِمِیْنَ ﴾ (ھود، ۱۸) اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑھتا ہے ﴿لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴾ (آل عمران) اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے ❶۔

عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک دفعہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ابن ابزیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابنِ ابزیٰ رضی اللہ عنہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفعِ درجات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست کرتے ہیں ❷۔

(۸) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَّ بَطْنٌ وَّالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِيْ اَلَا مَنْ وَّصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ۔

(ض)

رواہ البغوی فی شرح السنة، کتاب البر والصلة، باب ثواب صفة الرحم: ۳۴۳۳، (۱۳/۱۲)

عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کیلئے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے اور جس نے مجھ کو توڑا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔

ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمالِ قُرب ہے، یعنی حق سبحانہ وتقدّس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب

---

❶ أيضا

❷ مسند احمد، مسند عمر بن خطاب: ۲۲۳۲ (۱/۳۵۵)

یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربارِ حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔

مُلا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایتِ ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہِ الٰہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں تو حق تعالیٰ شانہ کرامت کا تاج مرحمت فرماویں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالیٰ شانہ اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرماویں گے پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ! آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ وتقدّس اس سے رضا کا اظہار فرماویں گے ❶ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔

شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں دو مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے ذرا غور فرمالیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے، موت بہر حال آنے والی چیز ہے اس سے کسی طرح مَفرّ نہیں۔

قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا جس کی طرف حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی ❷۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطالب ہیں جو حسبِ استعداد مختلف ہوتے ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے ❸۔ مگر کلام پاک کے معنی کے لئے جو شرائط و

---

❶ ترمذی، ابواب فضائل القرآن: ۲۹۱۵ (۲۸/۵)
❷ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۲۹۵۲، (۵۰/۵)
❸ شعب الایمان، باب تعظیم القرآن: ۱۸۰۸، ۳۴۷/۳

آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمے دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے۔

اہل فن نے تفسیر کے لئے پندرہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے، وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطنِ کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول: لغت جس سے کلامِ پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جاویں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کو جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدونِ معرفتِ لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے ❶ اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اس لئے کہ بسا اوقات لفظ چند معنی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے: نحو کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔

تیسرے: صرف کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ بناء اور صیغوں کے اختلاف سے معانی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابنِ فارس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صَرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زَمَخشَری رحمۃ اللہ علیہ اعجوباتِ تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ (بنی اسرائیل: ۷۱) ترجمہ (جس دن کو پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیش رو کے ساتھ) اس کی تفسیر علمِ صَرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ، امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو اُمّ کی جمع سمجھ گیا۔ اگر وہ ''صَرف'' سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ اُم کی جمع امام نہیں آتی۔

چوتھے: اشتقاق کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ لفظ جب کہ دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مَسح سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں اور مساحت سے بھی ہیں جس کے

---

❶ البرھان فی علوم القرآن، (۱/ ۲۹۲)

معنی پیمائش کے ہیں۔

پانچویں: علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔

چھٹے: علمِ بیان کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔

ساتویں: علم بدیع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ تینوں فن علمِ بلاغت کہتے ہیں۔ مُفَسِرّ کے اہم علوم میں سے ہیں، اس لئے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے اس سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔

آٹھویں: علم قرأت کا جاننا بھی ضروری ہے اس لئے کہ مختلف قرأتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہو جاتی ہے۔

نویں: علمِ عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ کلام پاک میں بعض ایسی آیات بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ وتقدّس پر صحیح نہیں، اس لئے ان میں کسی تاویل کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ ﴿ يَدُ اللهِ فَوۡقَ اَيۡدِيۡهِمۡ ﴾ (الفتح ۱۰)۔ دسویں: اصولِ فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وجوہِ استدلال واستنباط معلوم ہو سکیں۔

گیارھویں: اسبابِ نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شانِ نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہونگے اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شانِ نزول پر موقوف ہوتا ہے۔

بارھویں: ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام ”معمول بہا“ سے ممتاز ہو سکیں۔

تیرھویں: علمِ فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ جزئیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔

چودھویں: ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی تفسیر واقع ہوئی ہیں۔

ان سب کے بعد پندرھواں: وہ علمِ وہبی ہے جو حق سبحانہ وتقدّس کا عطیۂ خاص ہے،

اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے۔

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (جبکہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا) ①۔

اسی کی طرف حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ نے اشارہ فرمایا جب کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے ہیں یا خاص وصایا جو عام لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔؟ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی، اس فہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لئے کسی کو عطا فرمادیں ②۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علومِ قرآن اور جو اس سے حاصل ہو وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔

یہ علوم جو بیان کئے گئے مفسر کیلئے بطور آلہ کے ہیں، اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے علوم عربیہ طبعاً حاصل تھے اور بقیہ علوم مشکوٰۃِ نبوت سے مستفاد تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید تجھے یہ خیال ہو کہ علم وہبی کا حاصل کرنا بندہ کی قدرت سے باہر ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پر حق تعالیٰ شانہ اس کو مرتب فرماتے ہیں مثلاً علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ وغیرہ۔

کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی: اول: وہ جو علومِ عربیہ سے واقف نہ ہو، دوسرے: وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مُصِر ہو یا بدعتی ہو کہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے۔ تیسرے: وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلہ میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے طبیعت اچٹتی ہو، اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا۔ اَللّٰھُمَّ احْفَظْنَا مِنْھُمْ۔

(۹) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس

---

① حلیۃ الاولیاء، ترجمہ احمد بن ابی الحواری، (۱۰/۱۵)

② ترمذی، ابواب الدیات: ۱۴۱۲، (۳/۷۷)

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَ رَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا ارشاد نقل کیا ہے (کہ قیامت کے دن) صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔

(صحیح بالشواھد)

رواه احمد، في مسند عبدالله بن عمرو: ۶۷۹۹، (۳/۲۱۲)۔ **والترمذي،** ابواب فضائل القرآن، باب الذي ليس في جوفه شيئ: ۲۹۱۴، (۶۵۱) **وابوداود،** كتاب الصلوٰة۔ باب استحباب الترتيل في القراءة: ۱۴۶۴، (۲/۷۳)۔ **والنسائي** في الكبرىٰ۔ كتاب فضائل القرآن، باب الترتيل: ۸۰۰۲، (۷/۲۷۲)۔ **وابن ماجة،** كتاب الادب، باب ثواب القرآن: ۳۷۸۰، (۴/۲۳۸)۔ **وابن حبان في صحيحه،** كتاب الرقاق، باب قراءة القرآن: ۷۶۶، (۳/۴۳)۔

صاحبُ القرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے اور مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لئے ہے، ناظرہ خواں اس میں داخل نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ صاحبِ قرآن کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے "حَتّٰى يَقْرَأَ شَيْئًا مَّعَهٗ" ❶ (یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے) یہ لفظ اس امر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مراد ہے، اگرچہ محتمل وہ ناظرہ خواں بھی ہے جو کہ قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ مرقاۃ میں لکھا ہے: وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لعنت کرتا ہو۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے ❷، اس لئے اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہوں تو قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

ترتیل کے متعلق شاہ عبد العزیز صاحب نَوَّرَ اللّٰهُ مَرْقَدَهٗ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں اور شرع شریف میں کئی چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حرفوں کو صحیح نکالنا یعنی اپنے

---

❶ مسند احمد، مسند ابی سعید خدری: ۱۰۹۹۳، (۲۲۔۴۷۸)

❷ احیاء العلوم، کتاب آداب تلاوت القرآن: ۱/ ۲۷۴

مخرج سے پڑھنا تاکہ "طا" کی جگہ "تا" اور "ضاد" کی جگہ "ظا" نہ نکلے۔ دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جاوے، تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا یعنی زیر، زبر، پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔ چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔ پانچویں آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جاوے اور دل پر جلدی اثر کرے، کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اس سے روح کو قوت اور تاثر زیادہ ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے اطبّاء نے کہا ہے کہ جس دوا کا اثر دل پر پہنچانا ہو اس کو خوشبو میں ملا کر دیا جائے کہ دل اس کو جلدی کھینچتا ہے اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو تو اس کو شیرینی میں ملایا جائے کہ جگر مٹھائی کا جاذب ہے، اسی وجہ سے بندہ کے نزدیک اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا خاص استعمال کیا جاوے تو دل پر تاثیر میں زیادہ تقویت ہو گی۔

چھٹے تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جاوے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے۔ ساتویں آیاتِ رحمت و عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ تمہید میں گزر چکا۔ یہ سات چیزیں ہیں جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہے یعنی کلامِ پاک کا فہم و تدبر۔

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ شریف کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں کو بڑھاتے تھے ❶۔ یعنی زیر، زبر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا۔ ترتیل سے تلاوت مستحب ہے اگرچہ معنیٰ نہ سمجھتا ہو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ترتیل سے اَلْقَارِعَۃُ اور اِذَا زُلْزِلَتِ پڑھوں تو یہ بہتر ہے کہ اس سے کہ بلا ترتیل سورۂ بقرہ اور آل عمران پڑھوں ❷۔

شُرّاح اور مشائخ کے نزدیک حدیثِ بالا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا۔ اس لئے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ

---

❶ سنن نسائی الکبریٰ، کتاب المساجد عن انس: ۱۰۸۸، ۲/۲۶

❷ الزھد لابن المبارک، ۱۱۹۳، (۱/۴۲۰)

جنت کے درجات کلام اللہ شریف کی آیات کے برابر ہیں۔ لہٰذا جو شخص جتنی آیات کا ماہر ہو گا اتنے ہی درجے اوپر اس کا ٹھکانہ ہو گا اور جو شخص تمام کلام پاک کا ماہر ہو گا وہ سب سے اوپر کے درجے میں ہو گا۔

مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں پس قُرّاء آیات کی بقدر ترقی کریں گے ❶ اور علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ سے اہل فن کا اس پر اتفاق نقل کیا کہ قرآن شریف کی آیات چھ ہزار (۶۰۰۰) ہیں لیکن اس کے بعد کی مقدار (یعنی تعداد میں) اختلاف ہے اور اتنے اقوال نقل کئے ہیں: ۲۰۴۔ ۱۴۔ ۱۹۔ ۲۵۔ ۳۶۔

شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں، پس قاری سے کہا جاوے گا کہ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ۔ جو شخص قرآن پاک تمام پورا کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہوا ہو گا وہ اس کی بقدر درجات پر پہنچے گا۔ بالجملہ منتہائے ترقی منتہائے قرأت ہو گی۔

بندہ کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ فَاِنْ کَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللہِ وَاِنْ کَانَ خَطَأً فَمِنِّیْ وَمِنَ الشَّیْطَانِ وَاللہُ وَرَسُوْلُہٗ مِنْہُ بَرِیْئَانِ۔ اگر درست ہو تو حق تعالیٰ شانہ کی اعانت سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری اپنی تقصیر سے ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔

حاصل اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثِ بالا سے درجات کی وہ ترقی مراد نہیں جو آیات کے لحاظ سے فی آیت ایک درجہ ہے اس لئے کہ اس ترقی میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، جب ایک آیت پڑھی جائے تو ایک درجہ کی ترقی ہو گی۔ عام ہے کہ ترتیل سے ہو یا بلا ترتیل۔ بلکہ اس حدیث میں بظاہر دوسری ترقی باعتبار کیفیت مراد ہے جس میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو دخل ہے لہٰذا جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے آخرت میں پڑھ سکے گا، اور اس کے موافق درجات میں ترقی ہوتی رہے گی۔ مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت

---

❶ شعب الایمان، فصل فی ادمان التلاوۃ، ۱۸۴۳

کرتا رہا تب تو اس وقت بھی یاد ہوگا ورنہ بھول جائے گا ❶۔

اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنا فضل فرماویں کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے دینی شوق میں یاد کرادیا تھا مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بالمقابل بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرتا ہوا اور اس میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہوا مر جائے، وہ حُفّاظ کی جماعت میں شمار ہوگا۔ حق تعالیٰ کے یہاں عطا میں کوئی کمی نہیں، کوئی لینے والا ہو۔

اس کے الفاظ تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

(۱۰) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ وَ لٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَ لَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ

(صحیح بالمتابعة)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لئے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الٓمّٓ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔

رواہ الترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب فی من قرا حرفا، ٢٩١٠، (٦٥١)۔ **وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسناد، والدارمی** (فی سننه)، کتاب فضائل القرآن باب خيار كم من تعلم القرآن ۳۳۳۷، (۲/۳۲۴)۔

مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے۔ کلام پاک میں ایسے نہیں بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کئے جاتے ہیں اور اس لئے تلاوتِ کلام پاک میں ہر ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے اور ہر نیکی پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ﴿مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا﴾ (الانعام ۱۶۰) (جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو دس نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے) دس حصہ اجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل (کم سے کم) درجہ ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ (حق تعالیٰ شانہ جس کے لئے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرمادیتے

---

❶ مستخرج ابی عوانہ، کتاب الحج: (۲/۴۵۶)

ہیں)۔

ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادی کہ آلمٓ پورا ایک حرف شمار نہیں ہو گا بلکہ الف، لام، میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کئے جائیں گے اور اس طرح پر الم کے مجموعہ پر تیس نیکیاں ہو گئیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ الٓمٓ سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا ﴿اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ﴾ مراد ہے۔ اگر سورۂ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے اور لکھنے میں چونکہ وہ بھی تین ہی حروف لکھے جاتے ہیں اس لئے تیس نیکیاں ہوئیں اور اگر اس سے سورۂ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورۂ بقرہ کے شروع میں جو الٓمٓ ہے وہ نو حروف ہیں، اس لئے اس کا اجر نوے نیکیاں ہو گئیں۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے بلکہ ب، س، م، یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہیں ❶۔

(۱۱) عَنْ مَعَاذِ ن الْجُهَنِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَ عَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْئُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِيْ عَمِلَ بِهٰذَا۔

(ض)

رواہ احمد، فی مسند معاذ بن انس الجهنی: ۱۶۰۵۰، (۴۱۴/۶)۔ **و ابوداود،** کتاب الصلوٰة، باب ثواب قرائة القرآن: ۱۴۴۸، (۲۶۸/۲)۔ **وصححه الحاکم**۔ وکتاب فضائل القرآن، باب ذکر فضائل السور ۲۰۵۸، (۷۵۶/۱) واقره الزهبی۔

معاذ جُہنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہو گی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔

یعنی قرآنِ پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ

---

❶ شعب الایمان، الباب التاسع العشر، ۱۹۸۳، (۳۴۱/۲)

ہو، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے اگر وہ گھر کے اندر آجائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہو گا تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہو گی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے اور جب کہ والدین کے لئے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا جاوے کہ کس قدر ہو گا کہ جب اس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا حال بدرجہا زیادہ ہو گا کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب ہوئے ہیں۔

آفتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس میں علاوہ ازیں کہ قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ایک اور لطیف امر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے انس و الفت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے مُبدَّل بہ انس ہو جاوے گی تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ موانست کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی ہو گی کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص نفع اٹھاتا ہے لیکن اگر وہ کسی کو ہبہ کر دیا جائے تو اس کے لئے کس قدر افتخار کی چیز ہو۔

حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بُرَیدہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہو گا اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جاویں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ! یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں؟ تو ارشاد ہو گا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں ①۔

جمعُ الفوائد میں طبرانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلا دے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں چودھویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جاوے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جاوے گا کہ پڑھنا

---

① مستدرک حاکم، کتاب فضائل القرآن: ۲۰۸۶، (۱/۷۵۶)

شروع کر، جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جاوے گا حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہو ①۔

بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر باپ کے لئے یہ فضائل ہیں اور اسی پر بس نہیں، دوسری بات بھی سن لیجئے کہ اگر خدانخواستہ آپ نے اپنے بچے کو چار پیسے کے لالچ میں دین سے محروم رکھا تو یہ ہی نہیں کہ آپ اس لایزال (دائمی) ثواب سے محروم رہیں گے، بلکہ اللہ کے یہاں آپ کو جوابدہی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ اس ڈر سے کہ یہ مولوی یا حافظ پڑھنے کے بعد صرف مسجد کے ملّانے اور ٹکڑے کے محتاج بن جاتے ہیں اس وجہ سے اپنے لاڈلے بچے کو اس سے بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سے آپ اس کو تو دائمی مصیبت میں گرفتار کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے اوپر بھی بڑی سخت جوابدہی لے رہے ہیں۔

حدیث کا ارشاد ہے: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ② ہر شخص سے اس کے ماتحتوں اور دست نگروں کا بھی سوال ہو گا کہ ان کو کس قدر دین سکھلایا۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ ان عیوب سے آپ بچنے اور بچانے کی کوشش کیجئے، مگر جوئوں کے ڈر سے کپڑا نہ پہننا کوئی عقل کی بات نہیں، البتہ اس کے صاف رکھنے کی ضرور کوشش چاہیئے۔

بالجملہ اگر آپ اپنے بچے کو دینداری کی صلاحیت سکھلائیں گے، اپنی جوابدہی سے سبک دوش ہوں گے اور اس وقت تک وہ زندہ رہے جس قدر نیک اعمال کرے گا، دعا و استغفار آپ کے لئے کرے گا، آپ کے لئے رفع درجات کا سبب بنے گا۔ لیکن دنیا کی خاطر چار پیسے کے لالچ سے آپ نے اس کو دین سے بے بہرہ رکھا تو یہی نہیں کہ خود آپ کو اپنی حرکت کا وبال بھگتنا پڑے گا، جس قدر بداطواریاں، فسق و فجور اس سے سرزد ہوں گے آپ کے نامۂ اعمال بھی اس ذخیرہ سے خالی نہ رہیں گے۔ خدارا! اپنے حال پر رحم کھائیں، دنیا بہرحال گزر جانے والی چیز ہے اور موت ہر بڑی سے بڑی تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے بعد موت بھی نہیں اس کا کوئی منتہا نہیں۔

(۱۲) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

---

① المعجم الاوسط، باب الالف، من اسمہ احمد: ۱۹۳۵، (۲/ ۲۶۴)

② بخاری، کتاب الجمعۃ، باب الجمعہ فی القریٰ، ۸۹۳، (۲/ ۵)۔

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْاٰنُ فِيْ اِهَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ۔
(ض)

کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جاوے تو نہ جلے۔

رواه الدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب خيار كم من تعلم القرآن: ۳۳۵۳، (۳۲۰/۲)۔

مشائخِ حدیث اس روایت کے مطلب میں دو طرف گئے ہیں: بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو اور آگ سے دنیوی آگ مراد ہے، اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے جو حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا جیسا کہ اور انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے جہنم۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہو گا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہو گا، یعنی جو شخص کہ حافظِ قرآن ہو اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جاوے گا تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔

ایک روایت میں ﴿مَا مَسَّتْهُ النَّارُ﴾ ① کا لفظ بھی آیا ہے یعنی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ ابو امامہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی روایت جس کو شرح السنۃ سے مُلّا علی قاری رَحمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ نے نقل کیا ہے اس دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ اس قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو ②۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نص ہے، جو لوگ حفظِ قرآن شریف کو فضول بتلاتے ہیں وہ خدارا! ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظِ قرآن پر جان دے دینا چاہیئے۔ اس لئے کہ کون شخص ایسا ہو گا جس نے گناہ نہ کئے ہوں جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو۔

شرحِ احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک اور وحشت اثر دن میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، حضرت علی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی حدیث سے بروایتِ دیلمی رَحمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ نقل کیا ہے کہ حاملین قرآن یعنی حُفاظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء عَلَیْہِمُ

---

① مسند احمد، حدیث عقبۃ بن عامر الجہنی، ۱۷۴۲۱، (۶۳۶/۲۸)

② شرح السنہ، کتاب فضائل القرآن: ۱۱۸۰، (۴۳۷/۴)

السّلام اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے ①۔

(۱۳) عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَ حَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهٗ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

(ض)۔

رواہ احمد، مسند علی بن ابی طالب،: ۱۲۷۷، (۲/۴۲۰) والترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القاری: ۲۸۳۰، (۵/۱۷۱)۔**وقال ھذا حدیث غریب وحفظ بن سلیمان الراوی لیس ھو بالقوی یضعف فی الحدیث۔ورواہ ابن ماجة** فی السنن، کتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۶، (۱/۱۴۱)۔**والدارمی**

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت میں داخل فرماویں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرماویں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

دخولِ جنت ویسے تو ہر مومن کیلئے انشاء اللہ ہے ہی، اگرچہ بد اعمالیوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حفّاظ کے لئے یہ فضیلت ابتداءِ دخول کے اعتبار سے ہے۔ وہ دس شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ فسّاق و فُجّار ہیں جو مرتکب کبائر کے ہیں، اس لئے کہ کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ﴿ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴾ (المائدۃ: ۷۲)۔ (مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں) دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ الآیة (التوبة: ۱۱۳) (نبی اور مسلمانوں کیلئے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں) وغیرہ وغیرہ۔

نصوص اس مضمون میں صاف ہیں کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لئے حُفّاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے معاصی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے

---

① الغرائب الملتقطة، (۱/۷۰)

ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دیں کہ اس کے طفیل یہ بھی اپنی بد اعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر ① جس کے باپ، چچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سب ہی حافظ ہیں۔ اللّٰھُمَّ زِدْ فَزِدْ۔

(۱۴) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ فَاقْرَأُوْهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَ قَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوْحُ رِیْحُهٗ كُلَّ مَكَانٍ وَّ مَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهٗ فَرَقَدَ وَ هُوَ فِیْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِیَ عَلٰی مِسْكٍ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو، پھر اس کو پڑھو۔ اس لئے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔

(اسنادہ لاباس بہ)

رواہ الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورة البقرة: ۲۸۰۱، (۱۵۶/۵)۔ **والنسائی** فی الکبریٰ، کتاب السیر، باب من اولیٰ بالامارة: ۸۶۹۶، (۸۱/۸)۔ **وابن ماجة،** فی السنن، کتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۷، (۱۴۱/۱)۔ **وابن حبان** فی صحیحہ، کتاب الصلوٰة، باب فرض متابعة الامام: ۲۱۲۶، (۴۹۹/۵)۔

یعنی جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی خبر گیری کی، راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے کہ جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے، اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے اور اگر وہ حافظ سو جاوے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو بہر حال مشک ہی ہے، اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے لیکن اس کا قلب تو بہر حال اس مشک کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

(۱۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

---

① حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہٗ مؤلف کتاب ھٰذا مراد ہیں

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ۔

کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔

(اسنادہ لاباس بہ)

رواه الترمذی، ابوب فضائل القرآن، باب ماجاء فی من قرا حرفا: ۲۸۳۷ (۵/۱۷۷)۔ **وقال هٰذا حديث صحيح۔ ورواه الدارمی،** كتاب فضائل القرآن، باب خياركم من تعلم القرآن: ۳۳۰۶، (۲/۳۲۰)۔ **والحاكم،** كتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن جملة: ۲۰۳۷، (۱/۷۴۱) واَقرّہٗ الذهبیُّ

ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے وہ یہ کہ ”خانۂ خالی را دیو مے گیرد“۔ (یعنی خالی اور غیر آباد گھر پر دیو اور جنات قبضہ کر لیتے ہیں) اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیاطین کا اس پر تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل وعیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر وبرکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں ①۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو ②۔

(۱۶) عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِي الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِيْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِيْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روزہ سے افضل ہے

---

① مختصر قیام اللیل وقیام الرمضان، (۱/۱۷۲)

② مصنف عبد الرزاق، کتاب فضائل القرآن، ۵۹۹۸، (۳/۳۶۸)

وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ۔

اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔

(ض)

رواہ البیھقی فی شعب الایمان، باب التاسع عشر وھو باب فی تعظیم القرآن، فصل فی فضل استحباب القراءۃ: ۲۰۴۹، (۳/۵۱۸)۔

تلاوت کا اذکار سے افضل ہونا ظاہر ہے اس لئے کہ یہ کلامِ الٰہی ہے اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اوروں کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے مخلوق پر۔

ذکر اللہ کا افضل ہونا صدقہ سے اور روایات میں بھی وارد ہے اور صدقہ کا روزہ سے افضل ہونا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسری بعض روایات کے خلاف ہے جن سے روزہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہے بعض حالتوں میں روزہ افضل ہے اور بعض میں صدقہ۔ اسی طرح لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کیلئے روزہ افضل ہے اور جب کہ روزہ آگ سے بچاؤ ہے جس کا درجہ اس روایت میں سب سے اخیر میں ہے تو پھر تلاوتِ کلام اللہ کا کیا کہنا جو سب سے اول ہے۔

صاحب احیاء نے حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر سو نیکیاں ملیں گی اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کیلئے پچاس (۵۰) نیکیاں اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کیلئے پچیس نیکیاں اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کیلئے دس نیکیاں اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ صرف پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے، اس کیلئے بھی ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ①۔

(۱۷) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَیُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰی اَهْلِهٖ اَنْ یَّجِدَ فِیْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو تین اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل

---

① اتحاف السادۃ المسلمین: ۴/۴۰۵

قَالَ فَثَلَاثُ اٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔

(صحیح)

رواہ مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین، باب فضل قراءۃ القرآن: ۱۸۶۹، (۶/۳۳۰)۔

جاویں؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک (ضرور پسند کرتے ہیں) حضور ﷺ نے فرمایا کہ تین آیتیں جن کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ لے وہ تین حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں۔

اس سے ملتا جلتا مضمون حدیث نمبر ۳ میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث شریف میں چونکہ نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے اور وہ بغیر نماز کے پڑھنے سے افضل ہے اس لئے تشبیہ حاملہ اونٹنیوں سے دی گئی اس لئے کہ وہاں بھی دو عبادتیں ہیں، نماز اور تلاوت، ایسے ہی یہاں بھی دو چیزیں ہیں، اونٹنی اور اس کا حمل۔ میں حدیث نمبر ۳ کے فائدے میں لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کی احادیث سے صرف تشبیہ مراد ہوتی ہے، ورنہ ایک آیت کا باقی اجر ہزار فانی اونٹنیوں سے افضل ہے۔

(۱۸) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَوْسِ نِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قِرَأَةُ الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِيْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَأَتُه فِي الْمُصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلٰى ذَالِكَ اِلٰى اَلْفَيْ دَرَجَةٍ۔

(ض)

رواہ البیہقی فی شعب الایمان، باب التاسع عشر فی فضل قراءۃ القرآن: ۲۰۲۶، (۳/۵۰۷)۔

اوس ثقفی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار تک بڑھ جاتا ہے۔

حافظِ قرآن کے متعدد فضائل پہلے گزر چکے ہیں، اس حدیث شریف میں جو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے میں تدبر اور فکر کے زیادہ ہونے کے علاوہ وہ کئی عبادتوں کو متضمن ہے، قرآن پاک کو دیکھنا، اس کو چھونا وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے یہ افضل ہوا، چونکہ روایات کا مفہوم مختلف ہے اسی وجہ سے علماء نے اس میں اختلاف فرمایا ہے کہ کلامِ پاک کا حفظ پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کر۔

ایک جماعت کی رائے ہے کہ حدیث بالا کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن رہتا ہے، قرآن پاک پر نظر رہتی ہے، قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا زیادتیٔ خشوع کا سبب ہوتا ہے، ریا سے دور ہوتا ہے اور نیز نبی کریم ﷺ کی عادتِ شریفہ حفظ پڑھنے کی تھی، حفظ کو ترجیح دیتی ہے۔ امام نوَوِی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے، بعض کیلئے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے جس کو اس میں تدبر و تفکر زیادہ حاصل ہوتا ہے اور جس کو حفظ میں تدبر زیادہ حاصل ہوتا ہو اس کیلئے حفظ پڑھنا افضل ہے۔

حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”فتح الباری“ میں اسی تفصیل کو پسند کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کثرتِ تلاوت کی وجہ سے دو کلام مجید پھٹے تھے۔ عمرو بن میمون نے شرح احیاء میں نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کھولے اور بقدر سو آیت کے پڑھ لے، تمام دنیا کی بقدر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے①۔ قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لئے مفید بتلایا جاتا ہے۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثِ مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتلایا②۔ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات عشاء کے بعد قرآن شریف کھولتے تھے اور صبح کی نماز کے وقت بند کرتے تھے۔

(۱۹) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَاُ كَمَا يَصْدَاُ الْحَدِيْدُ اِذَآ اَصَابَهُ الْمَآءُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَآؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

(ض)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، پوچھا گیا کہ حضور! ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

---

① احیاء العلوم، (۱/ ۲۷۴)

② شعب الایمان، فصل فی قراۃ القرآن من المصحف، ۲۰۴۷

رواہ البیھقی فی شعب الایمان، الباب التاسع عشر باب تعظیم القرآن، فصل فی ادمان تلاوۃ القرآن: ۱۸۵۹، (۳/۳۹۲)۔

یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے اور کلامِ پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کیلئے صَیْقَل (ریگ مال) کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے جس قدر وہ دھندلا ہو گا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہو گا اور جس قدر صاف اور شفاف ہو گا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہو گا۔ اسی لئے آدمی جس قدر معاصی شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہو گا اسی قدر معرفت سے دور ہو گا اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کیلئے مشائخِ سلوک ریاضیات و مجاہدات، اَذکار و اَشغال تلقین فرماتے ہیں۔

احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اسکے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شُدہ شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہو تا ہے ①۔ اَللّٰھُمَّ احْفَظْنَا مِنْہُ۔

اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ (المطففین: ۱۴) (بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بد اعمالیوں نے)۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا، دوسرا خاموش، بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد ②۔

حضور ﷺ کا ارشاد سر آنکھوں پر، مگر واعظ تو اس کیلئے ہو جو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے، جہاں سرے سے دین ہی بیکار ہو، ترقی کی راہ میں مانع ہو، وہاں نصیحت کی ضرورت کسے، اور نصیحت کریگی کیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو

---

① ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، ۳۳۳۴، (۵/۲۹۱)

② العاقبۃ فی ذکر الموت، (۱/۳۹)

اس پر عمل کرتے تھے اور تم لوگ اس کے حروف اور زبر وزیر تو بہت درست کرتے ہو مگر اس کو فرمانِ شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔

(۲۰) عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا يَّتَبَاهَوْنَ بِهٖ وَاِنَّ بَهَاءَ اُمَّتِيْ وَشَرَفَهَا الْقُرْاٰنُ۔

(اسنادہ ضعیف)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کیلئے کوئی شرافت وافتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے۔

رواہ ابو نعیم **فی الحلیۃ** فی ترجمۃ الحسن البصری، (۲/۱۷۵)۔

یعنی لوگ اپنے آباؤ اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں، میری امت کیلئے ذریعۂ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھنے سے اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے، غرض اس کی ہر چیز قابلِ افتخار ہے اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلامِ پاک کا شرف و کمال دائمی ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کیلئے ان میں کا ہر ایک کافی ہے، چہ جائیکہ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں، مثلاً اس کی حسنِ تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے طعن کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں جیسے کہ یہود کا باوجود اِدّعائے محبت ① کے موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہو، مجنون بنانے دینے والے محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں دس دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو بیس دفعہ سے اکتا جائے گا، بیس سے نہ سہی چالیس سے اکتاوے گا، بہر حال اکتاوے گا، پھر

---

① محبت کا دعویٰ

اکتاوے گا، مگر کلامِ پاک کا رکوع یاد کیجئے، دو سو مرتبہ پڑھئے، چار سو مرتبہ پڑھئے، عمر بھر پڑھتے رہئے، کبھی نہ اکتاوے گا۔ اگر کوئی عارض پیش آجاوے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا، جتنی کثرت کیجیے اتنی ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

یہ امور ایسے ہیں کہ ایسے اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جاوے، خواہ پورے طور سے نہ ہو تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے، پھر جب کہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور علی وجہ الکمال پائے جاتے ہوں تو اس میں کتنا افتخار ہوگا۔

اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظِ قرآن ہونے پر فخر ہے یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظِ قرآن ہونا باعث شرف ہے، ہماری شرافت، ہمارا افتخار، اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیوی جاہ وجلال اور مرنے کے بعد چھوٹ جانے والے، مال ومتاع سے ہے۔ فَإِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى۔

(۲۱) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اَوْصِنِیْ قَالَ عَلَیْكَ بِتَقْوَی اللّٰہِ فَاِنَّهٗ رَأْسُ الْاَمْرِ کُلِّهٖ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ زِدْنِیْ قَالَ عَلَیْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ فِی الْاَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِی السَّمَاۗءِ۔

(ض)

رواہ ابن حبان فی صحیحہ فی حدیث طویل، کتاب البر والاحسان، باب ذکر الاستحباب للمرء: ۸۰۷، (۱/۵۳۲)۔

ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، حضور ﷺ نے فرمایا، تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماویں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔

تقویٰ حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ ﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ۲) (جو شخص تقویٰ حاصل کرے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے ہر ضیق میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں اور اس طرح اس

کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا)۔

تلاوت کا نور ہونا پہلی روایات سے بھی معلوم ہو چکا، شرح احیاء میں معرفۃ ابونعیمؒ سے نقل کیا ہے کہ حضرت باسط رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلامِ پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کیلئے ایسے چمکتے ہیں کہ جیسا کہ زمین والوں کیلئے آسمان پر ستارے❶، یہ حدیث ”ترغیب“ وغیرہ میں اتنی ہی نقل کی گئی، یہ مختصر ہے اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مختصر نقل کیا ہے اگرچہ ہمارے رسالہ کے مناسب اتنا ہی ہے جو اوپر گزر چکا، مگر چونکہ پوری حدیث بہت سے ضروری اور مفید مضامین پر مشتمل ہے اس لئے تمام احادیث کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے جو حسبِ ذیل ہے:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سو صحائف اور چار کتابیں، پچاس صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اور تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور دس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دس صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے اور ان کے علاوہ چار کتابیں توراۃ، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی، میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھیں مثلاً: او متسلط ومغرور بادشاہ! میں نے تجھ کو اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسہ پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لئے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اسکا انتظام کر دے اس لئے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔

بندہ ناچیز کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو منجملہ اور نصائح کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے: ”**وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ**“❷ کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لئے کہ

---

❶ شعب الایمان، فصل فی ادمان التلاوۃ، ۱۸۲۹، (۳/۳۷۰)

❷ صحیح ابن حبان، کتاب الزکوۃ، باب الامر بقسم الصدقۃ، ۲۳۴۶، (۴/۵۸)

اس کے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کے درمیان میں حجاب اور واسطہ نہیں۔

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آید

نیز ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کیلئے ضروری ہے جب تک کہ وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے کہ اپنے تمام اوقات کو تین حصوں میں منقسم کرے، ایک حصہ میں اپنے رب کی عبادت کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ کتنے کام اچھے کئے اور کتنے بُرے اور ایک حصہ کو کسبِ حلال میں خرچ کرے، عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے، اپنے حالات کی درستگی کے فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے، جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لئے ضروری ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخرت کے لئے توشہ مقصود ہو یا کچھ فکر معاش ہو یا تفریح بشرطیکہ مباح ہو۔

میں نے پوچھا: یارسول اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں، مثلاً میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو (اس لئے کہ جب کسی شخص کو مثلاً یہ یقین ہو جاوے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا، عنقریب سولی پر چڑھنا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا)۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے پھر وہ ہنستا ہے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اطمینان کرلیتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کو عنقریب حساب کا یقین ہے پھر نیک اعمال نہیں کرتا۔

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور ﷺ نے سب سے اول تقویٰ کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی اضافہ فرمادیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تلاوت قرآن اور ذکرُ اللہ کا اہتمام کر کہ یہ

دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے، میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ زیادہ ہنسی سے احتراز کر، کہ اس سے دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے (یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے) میں نے اور اضافہ کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جہاد کا اہتمام کر کہ میری امت کے لئے یہی رہبانیت ہے (راہب پہلی امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے کہ جو دنیا کے سب تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاویں) میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ، ان کو دوست بنا، ان کے پاس بیٹھا کر، میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھا کر (تاکہ شکر کی عادت ہو) اپنے سے اوپر کے درجہ والوں کو مت دیکھ، مبادا! اللہ کی نعمتوں پر جو تجھ پر ہیں تحقیر کرنے لگے۔

میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرف گیری سے روک دیں اور ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر، کہ تو ان میں خود مبتلا ہے۔ تجھے عیب لگانے کیلئے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہیں اور تو ان سے بے خبر ہے اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا کہ ابوذر! تدبیر کی برابر کوئی عقلمندی نہیں اور ناجائز امور سے بچنے کے برابر تقویٰ نہیں اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں ①۔

اس میں خلاصہ اور مطلب کا زیادہ لحاظ کیا گیا، تمام الفاظ کے ترجمہ کا لحاظ نہیں کیا گیا۔

(۲۲) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِیْ بَیْتٍ مِّنْهُمْ بُیُوْتِ اللّٰهِ یَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَیَتَدَارَسُوْنَهٗ بَیْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّكِیْنَةُ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَآئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوتِ کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے،

---

① صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، ۳۶۱، (۲/۷۶)

اللّٰہُ فِیْمَنْ عِنْدَہٗ۔ (صحیح)

رواہ مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن: ۶۷۹۳، (۲۳/۱۷)۔**وابوداود،** کتاب الصلوٰۃ، باب فی ثواب قراءۃ القرآن: ۱۴۵۰، (۲۶۸/۲)۔

ملائکۂ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

اس حدیث شریف میں مکاتب اور مدرسوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی گئی، جو بہت سی انواعِ اکرام کو شامل ہے، ان میں سے ہر ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے، پھر چہ جائیکہ ایسے ایسے متعدد انعامات فرمائے جائیں، بالخصوص آخری فضیلت، آقا کے دربار میں ذکرِ محبوب کی مجلس میں یاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔

سکینہ کا نازل ہونا متعدد روایات میں وارد ہوا ہے، اس کے مصداق میں مشائخِ حدیث کے چند قول ہیں لیکن ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس سے آپس میں کچھ تعارض ہو بلکہ سب کا مجموعہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے سکینہ کی تفسیر یہ نقل کی گئی کہ وہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرہ جیسا ہوتا ہے ❶، علامہ سُدّی رَحمۃُ اللّٰہِ علیہ سے نقل کیا گیا کہ وہ جنت کے ایک طشت کا نام ہے جو سونے کا ہوتا ہے اس میں انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خاص رحمت ہے۔ طبری رَحمۃُ اللّٰہِ علیہ نے اس کو پسند کیا ہے اس سے سکونِ قلب مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ طمانیت مراد ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر وقار سے کی ہے، تو کسی نے ملائکہ سے۔ بعض نے اور بھی اقوال کہے ہیں۔

حافظ رَحمۃُ اللّٰہِ علیہ کی رائے فتح الباری میں یہ ہے کہ سکینہ کا اطلاق سب پر آتا ہے، نوَوی رَحمۃُ اللّٰہِ علیہ کی رائے ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جامع ہے طمانیت رحمت وغیرہ کو، اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے: ﴿فَاَنْزَلَ اللّٰہُ سَکِیْنَتَہٗ عَلَیْہِ﴾ (التوبۃ: ۴۰) دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿ھُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ السَّکِیْنَۃَ فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ (فتح: ۴)۔ ایک جگہ ارشاد ہے ﴿فِیْہِ سَکِیْنَۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ﴾ (البقرۃ: ۲۴۸)۔ غرض متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے اور احادیث میں متعدد روایات میں اس کی بشارت فرمائی گئی ہے۔

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، ۳۱۵۴، (۳۲۱/۲)

احیاء میں نقل کیا گیا کہ ابنِ ثوبان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا کہ اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا کہ کیا مانع پیش آیا، مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، خیال ہوا کہ وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں کہ موت کا اطمینان نہیں، کبھی رات میں مر جاؤں اور وہ ذمہ پر باقی رہ جائیں، میں دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آیا جس میں ہر نوع کے پھول وغیرہ تھے اس کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ صبح ہو گئی ❶۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو بزرگوں کے حالات میں درج ہیں، لیکن ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ماسوا سے انقطاع ہو جاوے اور اسی جانب توجہ کامل ہو جاوے۔

ملائکہ کا ڈھانکنا بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے، اُسید بن حُضیر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا مفصل قصہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس کیا، حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے جو قرآن شریف سننے کیلئے آئے تھے ملائکہ اژدہام کی وجہ سے ابر سا معلوم ہوتے تھے ❷، ایک صحابی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کو ایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھا یعنی رحمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی تھی ❸۔

مسلم شریف میں یہ حدیث زیادہ مفصل آئی جس میں اور بھی مضامین ہیں، اخیر میں ایک جملہ یہ بھی زیادہ ہے "مَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُه" ❹ (جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کریں اس کا عالی نسب ہونا، اونچے خاندان کا ہونا رحمت سے قریب نہیں کر سکتا) ایک شخص جو پشتانی (پشتوں سے) شریف النسب ہے، مگر فسق وفجور میں مبتلا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس رذیل اور کم ذات مسلمان کی برابری کسی طرح بھی نہیں کر سکتا جو متقی پرہیزگار ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ (الحجرات: ۱۳)۔

(۲۳) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لَا

ابوذر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ

---

❶ احیاء العلوم، (۱/ ۲۸۸)

❷ بخاری، باب نزول الملائکہ، ۸۹۹

❸ مستخرج ابی عوانہ، کتاب الحج: ۳۹۳۸، (۲/ ۴۸۷)

❹ مسلم، کتاب الذکر والدعاء، ۶۷۹۳، (۱۷/ ۲۳)

تَرْجِعُوْنَ اِلَی اللّٰہِ بِشَیْءٍ اَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْہُ یَعْنِیْ اَلْقُرْاٰنَ

جَلَّ شَانُہٗ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرُّب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ سے نکلی ہے، یعنی کلامِ پاک۔

(حسن بالشواھد)

رواہ الحاکم، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن جملۃ: ۲۰۷۷، (۲/۱۱۱)۔ واقرہ الذھبی۔ **وصححہ ابوداؤد** فی مراسیلہ **عن جبیر بن نفیر،** باب فی البدعۃ: ۵۳۴، (۵۳۴)۔ **والترمذی عن ابی امامۃ بمعناہ،** ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی من قرا حرفا: ۲۹۱۲ (۵:۱۷۷)

متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے دربار میں کلامِ پاک سے بڑھ کر تقرُّب کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ شانہ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرُّب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد! میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے، دونوں طرح موجبِ تقرُّب ہے①۔

اس حدیث شریف کی توضیح اور تلاوتِ کلامِ پاک کا سب سے بہتر طریقۂ تقرُّب ہونے کی تشریح حضرت اقدس بقیۃ السلف حجۃ الخلف مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی نَوَّرَ اللہ مَرْقَدَہٗ کی تفسیر سے مستنبط ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سُلُوک الی اللہ یعنی مرتبۂ احسان حق سبحانہ وتقدُّس کی حضوری کا نام ہے جو تین طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے: اول تصور جس کو عرفِ شرع میں تفکر وتدبر سے تعبیر کرتے ہیں اور صوفیہ کے یہاں مراقبہ سے۔ دوسرا: ذکر لسانی اور تیسرا: تلاوتِ کلامِ پاک۔

سب سے اول طریقہ بھی چونکہ ذکرِ قلبی ہے اس لئے دراصل طریقے دو ہی ہیں: اول ذکر، عام ہے کہ زبانی ہو یا قلبی، دوسرے تلاوت۔ سو جس لفظ کا اطلاق حق سبحانہ وتقدُّس پر ہو گا اور اس کو بار بار دہرایا جاوے گا جو ذکر کا حاصل ہے تو مُدرِکہ کے اس ذات کی طرف توجہ اور التفات کا سبب ہو گا اور گویا وہ ذات مُسْتَحضَر ہو گی اور استحضار کے دوام کا نام معیت ہے جس کو اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے: **”لَا یَزَالُ عَبْدِیْ یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰی اُحِبَّتُہٗ فَکُنْتُ سَمْعَہُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِہٖ وَبَصَرَہُ الَّذِیْ یُبْصِرُ بِہٖ وَیَدَہُ الَّتِیْ یَبْطِشُ بِہَا“**②

---

① مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزی، ۵۸۳

② بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، ۶۵۰۲، (۸/۱۰۵)

(حق سبحانہ وتقدّس کا ارشاد ہے کہ بندہ نفل عبادتوں کے ساتھ میرے ساتھ تقرُّب حاصل کرتا رہتاہے یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب بنالیتاہوں حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتاہوں جس سے وہ سنتاہے اورآنکھ بن جاتاہوں جس سے وہ دیکھتاہے اورہاتھ جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتاہے اورپاؤں جس سے وہ چلتاہے)۔

یعنی جب کہ بندہ کثرتِ عبادت سے حق تعالیٰ شانہ کا مقرب بن جاتاہے توحق تعالیٰ شانہ اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں اورآنکھ کان وغیرہ سب مرضیٔ آقا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور نفل عبادات کی کثرت اس لئے ارشاد فرمائی کہ فرائض متعین ہیں جن میں کثرت نہیں ہوتی اوراس کیلئے ضرورت ہے دوامِ استحضار کی، جیسا کہ پہلے معلوم ہوچکا۔

لیکن تقرُّب کا یہ طریقہ صرف اسی محبوب کی پاک ذات کیلئے ہے، اگر کوئی چاہے کہ کسی دوسرے کے نام کی تسبیح پڑھ کراس سے تقرُّب حاصل کرلے تو یہ ممکن نہیں، اس وجہ سے کہ اس قسم کے تقرُّب میں جس کی طرف تقرُّب ہواس میں دوبات کا پایاجاناضروری ہے: اول یہ کہ اس کا علم محیط ہو ذاکرین کے قلبی اورزبانی اذکار کو، اگرچہ وہ مختلف زمانوں اورمختلف اوقات میں ذکر کریں۔ دوسرے یہ کہ ذکر کرنے والے کے مُدرِکہ میں تجلی اور اس کے پُرکردینے کی قدرت ہو جس کو عرف میں "دُنُوّ اور تَدَلِّی" نزول اور قرب سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ دونوں باتیں چونکہ اسی مطلوب میں پائی جاتی ہیں اس لئے طریق بالاسے تقرُّب بھی اسی پاک ذات سے حاصل ہوسکتاہے اوراسی کی طرف اس حدیثِ قدسی میں اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے "مَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْرًا اتقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا" ❶ (جو شخص میری طرف ایک بالشت نزدیک ہوتاہے تومیں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتاہوں اورجو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتاہے میں اس کی طرف ایک باع آتاہوں، یعنی دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے بقدر، اورجو شخص میری طرف معمولی رفتارسے آتاہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتاہوں)۔ یہ سب تشبیہات سمجھانے کیلئے ہیں ورنہ حق سبحانہ وتقدّس چلنا پھرنا وغیرہ سب سے مبُرّا (بری) ہیں۔

---

❶ ترمذی، ابواب الدعوات: ۵،۳۶۰۳/ ۵۸۱

مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ وتقدّس اپنے یاد کرنے اور ڈھونڈنے والوں کی طرف ان کی طلب اور سعی سے زیادہ توجہ اور نزول فرماتے ہیں اور کیوں نہ فرماویں کہ کریم کے کرم کا مقتضٰی یہی ہے، پس جب کہ یاد کرنے والوں کی طرف یاد کرنے میں دوام ہوتا ہے تو پاک آقا کی طرف سے توجہ اور نزول میں دوام ہوتا ہے۔ کلامِ الٰہی چونکہ سراسر ذکر ہے اور اس کی کوئی آیت ذکر و توجہ الی اللہ سے خالی نہیں، اس لئے یہی بات اس میں بھی پائی جاتی ہے۔

مگر اس میں ایک خصوصیت زیادہ ہے جو زیادتیٔ تقرُّب کا سبب ہے وہ یہ کہ ہر کلام متکلم کی صفات واثرات اپنے اندر لئے ہوئے ہوا کرتا ہے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ فسّاق و فجّار کے اشعار کا وِرد رکھنے سے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اور اَتقیاء کے اشعار سے ان کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے منطق فلسفہ میں غُلو سے نخوت، تکبر پیدا ہوتا ہے اور حدیث کی کثرتِ مزاولت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فارسی اور انگریزی نفسِ زبان ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن مصنفین جن کی کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کے اختلافِ اثرات سے ثمرات میں بھی اختلاف ہوتا ہے، بالجملہ چونکہ کلام میں ہمیشہ متکلم کے تاثرات پائے جاتے ہیں اس لئے کلامِ الٰہی کے تکرار اور ورد سے اس کے متکلم کے اثرات کا پیدا ہونا اور ان سے طبعاً مناسبت پیدا ہو جانا یقینی ہے، نیز ہر مصنف کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کی تالیف کا اہتمام کیا کرتا ہے تو فطرۃً اس کی طرف التفات اور توجہ ہوا کرتی ہے اس لئے حق تعالیٰ شانہ کے کلام کا ورد رکھنے والے کی طرف حق سبحانہ وتقدّس کی زیادتیٔ توجہ بھی بدیہی اور یقینی ہے جو زیادتیٔ تقرُّب کا سبب ہوتی ہے۔ آقائے کریم اپنے کرم سے مجھے بھی اس لطف سے نوازیں اور تمہیں بھی۔

(۲۴) عَنْ اَنَسٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ

انس ؓ نے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے لئے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں، صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ قرآن شریف

(صحیح) والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص۔

رواہ **النسائی** فی الکبری، کتاب فضائل القرآن، باب اہل القرآن: ۷۹۷۷، (۲۶۳/۷)، **وابن ماجه**، کتاب السنة، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۵، (۱۴۰/۱)۔ **والحاکم**، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن: ۲۰۸۴، (۱۳۱/۲) وسکت عنه الذہبی۔ **واحمد**، مسند انس بن مالک: ۱۲۶۱۳، (۳۵۸/۵)۔

قرآن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلامِ پاک میں مشغول رہتے ہوں، اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں، ان کا اللہ کے اہل اور خواص ہونا ظاہر ہے اور گزشتہ مضمون سے واضح ہو گیا کہ جب یہ ہر وقت کلامِ پاک میں مشغول رہتے ہیں تو الطافِ باری بھی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جو لوگ ہر وقت کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ اہل اور خواص ہوتے ہی ہیں۔

کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ ذرا سی محنت و مشقت سے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کے اہل شمار کئے جاتے ہیں اور اس کے خواص ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، دنیوی دربار میں صرف داخلہ کی اجازت کیلئے، ممبروں میں صرف شمول کیلئے کس قدر جانی اور مالی قربانی کی جاتی ہے، ووٹروں کے سامنے خوشامد کرنی پڑتی ہے، ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اس سب کو کام سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن شریف کی محنت کو بے کار سمجھا جاتا ہے۔

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا

(۲۵) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَّتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ

(متفق علیه)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں، جو کلامِ الٰہی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔

رواہ **البخاری** فی صحیحه، کتاب فضائل القرآن، باب من لم یتغن بالقرآن: ۵۰۲۴، (۱۹۱/۶)۔ **ومسلم**، کتاب صلوٰۃ المسافرین، باب استحباب تحسین الصوت: ۱۸۴۲، (۳۱۹/۶)۔

پہلے معلوم ہو چکا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھنے والوں میں انبیاء عَلَیْهِمَ السَّلَام چونکہ آدابِ تلاوت کو بکمالِہ ادا کرتے ہیں اس لئے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے پھر جب کہ حسنِ آواز اس کے ساتھ مل جاوے تو سونے پر سہاگہ ہے، جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے اور انبیاء عَلَیْهِمَ السَّلَام کے بعد الاُفضل

فَالْافضل حسبِ حیثیت پڑھنے والے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

(۲۶) عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلّٰهُ اَشَدُّ اُذُنًا اِلٰى قَارِئِ الْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهٖ

(اسنادہ لاباس بہ)

فُضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔

رواہ ابن ماجة، کتاب اقامة الصلوٰة، باب فی حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت باالقرآن: ۱۳۴۰، (۴۲۵/۱). **وابن حبان** فی صحیحه، کتاب الرقاق، باب قراءة القرآن: ۷۷۱، (۲۴۲/۱)۔ **والحاکم** فی المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب ذکر فضائل السور: ۲۱۴۲، (۱۲۸/۲)۔ **کذافی شرح الاحیاء** اتحاف سادة المتقین، کتاب آداب تلاوة القرآن، (۴۶۵/۴)۔ **قلت وقال الحاکم صحیح علی شرطهما وقال الذهبی منقطع۔**

گانے کی آواز کی طرف فطرۃً اور طبعاً توجہ ہوتی ہے، مگر شرعی روک کی وجہ سے دیندار لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے لیکن گانے والی اپنی مملوکہ ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں، اس لئے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے۔

البتہ کلامِ پاک میں یہ ضروری ہے کہ گانے کی آواز میں نہ پڑھا جائے، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ایک حدیث میں ہے: ”اِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ“ ❶ یعنی اس سے بچو کہ جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنا بنا کر موسیقی قوانین پر پڑھتے ہیں، اس طرح مت پڑھو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گناہ گار ہے، مگر گانے کے قواعد کی رعایت کئے بغیر خوش آوازی مطلوب ہے۔ حدیث میں متعدد جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو ❷۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے کلام اللہ شریف کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے ❸۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”غُنْیَۃ“ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے نواح میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا، ایک گوّیا جس کا نام زاذان تھا گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا، ابنِ مسعود رضی اللہ عنہما نے اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا: کیا ہی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی

---

❶ نوادر الاصول، الاصل الثالث والخمسون والمائتان، (۲۵۵/۳)

❷ سنن ابی داود، تفریع ابواب الوتر: ۱۴۶۸، (۷۴/۲)

❸ سنن دارمی، باب التغنی بالقرآن، ۳۵۴۴

اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرے ہوئے چلے گئے، زاذان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور یہ ارشاد فرما گئے۔ اس پر اس مقولہ کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں اور قصہ مختصر کہ وہ اپنے سب آلات توڑ کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگ لئے اور علّامہ ُوقت ہوئے ①۔

غرض متعدد روایات میں اچھی آواز سے تلاوت کی مدح آئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو عرب کی آواز میں پڑھو، عشق بازوں اور یہود و نصاریٰ کی آواز میں مت پڑھو، عنقریب ایک قوم آنے والی ہے جو گانے اور نوحہ کرنے والوں کی طرح سے قرآن شریف کو بنا بنا کر پڑھے گی، وہ تلاوت ذرا بھی ان کیلئے نافع نہ ہوگی، خود بھی وہ لوگ فتنے میں پڑیں گے اور جن کو وہ پڑھنا اچھا معلوم ہوگا ان کو بھی فتنہ میں ڈالیں گے ②۔

طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھی آواز سے پڑھنے والا کون شخص ہے ③؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اس کو تلاوت کرتے دیکھے تو محسوس کرے کہ اس پر اللہ کا خوف ہے، یعنی اس کی آواز سے مرعوب ہونا محسوس ہوتا ہو۔

اس سب کے ساتھ اللہ جَلَّ وعلا کا بڑا انعام یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت وطاقت کے موافق اس کا مکلف ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق سبحانہ وتقدّس کی طرف سے فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ جو شخص کلام پاک پڑھے اور کماحَقُّہ اس کو درست نہ پڑھ سکے تو وہ فرشتہ اس کو درست کرنے کے بعد اوپر لے جاتا ہے ④۔ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَیْکَ۔

(۲۷) عَنْ عُبَیْدَةَ الْمُلَیْکِیِّ رضی اللہ عنہ وَکَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم یَا اَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ

عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قرآن والو! قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب وروز ایسی

---

① تنبیہ الغافلین، ۱۳۹، (۱/۱۲۰)

② نوادر الاصول، (۳/۲۵۵)

③ سنن دارمی، باب التغنی بالقرآن، ۳۴۸۹

④ التدوین فی اخبار قزوین، ۲۶۷

تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاۗءِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَا تُعَجِّلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا

(ض)

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ، باب التاسع عشرفی تعظیم القرآن، فصل فی ادمان تلاوة القرآن: ۱۸۵۲، (۳/۳۸۸)۔

کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ (دنیا میں) طلب نہ کرو کہ (آخرت میں) اس کیلئے بڑا اجر وبدلہ ہے۔

حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں: (۱) قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے دو مفہوم ہیں: اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلافِ ادب ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ کنایہ ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پر رکھا رہے، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرہانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے، یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔

(۲) اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا، ارشاد ہے۔ ﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ﴾ (البقرة: ۱۲۱) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے) یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیئے (۳) اور اس کی اشاعت کرو یعنی تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے، جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی حبِّ رسولؐ اور حبِ اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی
کیں رہ کہ تو می روی بتر کستان است

آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اسکی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے، جبریہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں، ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں اس لئے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے، مَسَلَّمُ وہ یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ سبک دوش ہو جاتے ہیں، یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے؟ اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے، وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآنِ پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے، یہ حُمّیٰ دِق کا علاج سنکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے، عدالتِ عالیہ میں اپنے اس جواب کو "اس لئے جبراً تعلیم قرآن سے ہٹا دیا ہے کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے" آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے؟ بنئیے کی دکان پر جانے کے واسطے یا انگریزوں کی چاکری کے واسطے ۴/۳ کی تعلیم اہمیت رکھتی ہو، مگر اللہ کے یہاں تعلیمِ قرآن سب سے اہم ہے۔

(۴) خوش آوازی سے پڑھو جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا۔

(۵) اور اس کے معنی میں غور کرو۔ تورات سے " احیاء "میں نقل کیا ہے حق سبحانہ وتقدّس ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے بندے! تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آجاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے، میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تُو اس پر غور کرے اور تُو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے! تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمہ تن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو تُو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں

کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں ❶؟

تدبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث نمبر ۸ میں مذکور ہو چکا ہے۔

(۶) اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لے لیا جاوے گا تو ایسا ہے جیسا کہ روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو برکت وحی سے یعنی فہمِ قرآن سے محروم ہو جائیگی ❷، كَذَافِي الْاَحْيَاءِ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَامِنْه۔

(۲۸) عَنْ وَاثِلَةَ رضی اللہ عنہ رَفَعَهٗ اُعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرٰةِ السَّبْعَ وَاُعْطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُوْرِ الْمِئِيْنَ وَاُعْطِيْتُ مَكَانَ الْاِنْجِيْلِ الْمَثَانِيَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ

(حسن)

واثلہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلے میں سبع طُوَل ملی ہیں اور زبور کے بدلہ میں مِئین اور انجیل کے بدلہ میں مثانی، اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔

رواہ احمد، مسند الشامیین: ۱۷۴۴۵، (۷/۸۵)۔ **والمعجم الکبیر**، باب الواو: ۱۸۷، (۲۲/۷۶)۔ **کذافی جمع الفوائد**، کتاب التفسیر، باب فضل القرآن: ۶۷۷۱، (۳/۸۸)۔

کلامِ پاک کی اول سات سورتیں طُوَل کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی گیارہ سورتیں مئین کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی بیس سورتیں مثانی، اس کے بعد ختمِ قرآن تک مفصل، یہ مشہور قول ہے۔ بعض بعض سورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول میں داخل ہیں یا مئین میں، اس طرح مثانی میں داخل ہیں یا مفصل میں، مگر حدیثِ شریف کے مطلب و مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتبِ مشہورہ سماویہ (آسمانی) پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے اور ان کے علاوہ

---

❶ اتحاف السادۃ (شرح الاحیاء)، (۴/۵۰۴)

❷ نوادر الاصول، (۲/۲۷۰)

مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔

(۲۹) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ رضی اللہ عنہ قَالَ جَلَسْتُ فِیْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَآءِ الْمُهَاجِرِیْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَیَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْیِ وَقَارِئٌ یَقْرَأُ عَلَیْنَا اِذَا جَآءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَیْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا كُنَّا نَسْتَمِعُ اِلٰی كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِیْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِیْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسَطَنَا لِیَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِیْنَا ثُمَّ قَالَ بِیَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ اَبْشِرُوْا یَا مَعْشَرَ صَعَالِیْكِ الْمُهٰجِرِیْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِیَآءِ النَّاسِ بِنِصْفِ یَوْمٍ وَذَالِكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ

(حسن بالمتابعة)

رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ فی سننه، تاب العلم، باب فی القصص: ٣٦٦، ص (٣٢٣/٣)۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں، بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس ﷺ تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور ﷺ نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کیلئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور ﷺ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا، سب حضور ﷺ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین! تمھیں مژدہ ہو، قیامت کے دن

نورِ کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے
آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور
یہ آدھا دن پانسو برس کے برابر ہوگا۔

ننگے بدن سے بظاہر محلِ ستر کے علاوہ مراد ہے، مجمع میں ستر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے اس لئے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آوے، حضور ﷺ کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی لیکن جب حضور ﷺ بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا، اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہوگئے۔

حضور ﷺ کا دریافت فرمانا بظاہر اظہارِ مسرت کے لئے تھا ورنہ حضور ﷺ قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے ہزار برس کے برابر ہوتا ہے ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج:۴۷) اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غداً کے ساتھ آتا ہے جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب باعتبار اَغلب اور عام مومنین کے ہے ورنہ کافرین کیلئے وارد ہوا ہے: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج: ۴) ایسا دن جو پچاس ہزار برس کا ہوگا، اور خواص مومنین کے لیے حسبِ حیثیت کم معلوم ہوگا، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مؤمنین کے لئے بمنزلہ دو رکعت فجر کے ہوگا❶۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں بے حد ہیں، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا ہے۔

بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لئے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر وفاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے یا وہ مالدار جو شکر

---

❶ شعب الایمان، حشر الناس بعد ما یبعثون: ۳۶۲، (۱/ ۳۲۵)

کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔

(۳۰) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللهِ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے، اس کیلئے دو چند نیکی لکھی جاتی ہے اور جو تلاوت کرے اس کیلئے قیامت کے دن نور ہو گا۔

(ض)

رواہ احمد، مسند ابی ھریرۃ: ۸۷۱۸، (۳۴۲/۴)۔ **عن عبادۃ بن میسرہ واختلف فی توثیقہ عن الحسن عن ابی ھریرۃ والجمھور علی ان الحسن لم یسمع عن ابی ھریرۃ،** تھذیب التھذیب، حرف الحاء، (۳۸۹/۱)۔

محدثین نے سند کے اعتبار سے اگرچہ اس میں کلام کیا ہے، مگر مضمون بہت سی روایات سے مؤیّد ہے کہ کلامِ پاک کا سننا بھی بہت اجر رکھتا ہے ❶ حتی کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے سے بھی افضل بتلایا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا، میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہی ہوا، حضور کو کیا سناؤں، ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ❷۔ ایک مرتبہ سالم مولیٰ حذیفہ رضی اللہ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی ❸۔

(۳۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے اور آہستہ پڑھنے

---

❶ شعب الایمان، باب تعظیم القرآن: ۱۹۱۸

❷ مسلم، فضل استماع القرآن: ۸۰۰، (۵۵۱/۱)

❸ ابن ماجہ، باب فی حسن الصوت، ۱۳۳۸، (۴۲۵/۱)

(صحیح) والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔

رواہ الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی من قرا حرفا من القرآن: ۲۹۱۹، (۱۸۰/۵)۔ **وابو داود،** کتاب الصلوٰۃ، باب فی رفع الصوت بقراء ۃ: ۱۳۳۳ (۳۸/۲) . **والنسائی** فی سننہ، کتاب الزکوٰۃ، باب المسر بالصدقۃ: ۲۵۱۴، (۸۰/۵)۔ **والحاکم** فی المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن جملۃ: ۲۰۳۸، (۷۴۱/۱)۔ **وقال علی شرط البخاری** واقرہ الذھبیؒ۔

صدقہ بعض اوقات علانیہ افضل ہوتا ہے جس وقت دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو یا اور کوئی مصلحت ہو، اور بعض اوقات مخفی افضل ہوتا ہے جہاں ریا کا شبہ ہو یا دوسرے کی تذلیل ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کلام اللہ شریف کا بعض اوقات آواز سے پڑھنا افضل ہے جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو اور اس میں دوسرے کے سننے کا ثواب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات آہستہ پڑھنا افضل ہوتا ہے جہاں دوسروں کو تکلیف ہو یا ریا (دکھلاوے) کا احتمال ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے زور سے اور آہستہ سے دونوں طرح پڑھنے کی مستقل فضیلتیں بھی آئی ہیں کہ بعض اوقات یہ مناسب تھا اور بعض وقت وہ افضل تھا، آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقہ والی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشُّعَب میں (مگر یہ روایت بقواعدِ محدثین ضعیف ہے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ آہستہ کا عمل اعلانیہ کے عمل سے ستر حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ❶، جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ پکار کر اس طرح مت پڑھو کہ ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ خلط ہو جائے ❷، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو آواز سے تلاوت کرتے سنا تو اس کو منع کر دیا، پڑھنے والے نے کچھ حجت کی تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے واسطے پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھ اور لوگوں کی خاطر پڑھتا ہے تو پڑھنا بیکار ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ سے پکار کر پڑھنے کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ❸، شرح احیاء میں دونوں طرح کی روایات و آثار ذکر کئے گئے ❹۔

(۳۲) عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ سے

---

❶ شعب الایمان، باب فی السرور بالجنۃ عن ابن عمر: ۶۶۱۲

❷ المعجم الاوسط، من اسمہ ابراھیم، ۲۳۶۲

❸ مسند البزار، مسند معاذ بن جبل: ۲۶۵۵

❹ اتحاف السادۃ المتقین: ۴/۵۲۷

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُّشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهٗ اَمَامَهٗ قَادَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ سَاقَطَهٗ اِلَى النَّارِ

نقل کیا کہ قرآن شریف ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کرلیا گیا، جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے، اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے اور جو اس کو پس پشت ڈال دے، اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔

(صحیح)

رواہ ابن حبان فی صحیحہ، کتاب العلم، باب فی ذکر البیان بان القرآن من جعلہ امامہ: ۱۲۴، (۱/۳۲۷)۔ **والحاکم مطولا وصححہ**، کتاب فضائل القرآن، باب الذکر فضائل السور: ۲۱۲۹، (۲/۱۲۵) واقرہ الذہبی۔

یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالیٰ شانہ کے یہاں مقبول ہے اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑے کی تفصیل حدیث نمبر ۸ کے ذیل میں گذر چکی ہے کہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے لئے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھ لے یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا لے اس کو جنت میں پہنچادیتا ہے اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس کا اتباع نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔

بندہ کے نزدیک کلامِ پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پروائی پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم ﷺ کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا حضور ﷺ کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا❶۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں کہ درحقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جاوے مناسب ہے۔

---

❶ بخاری، باب تعبیر الرویا، ۷۰۴۷

(۳۳) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ رَبِّ اِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِي النَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ۔

(ض)

رواہ احمد، مسند عبداللہ بن عمرو: ۶۶۲۶، (۲/۱۷۴)۔ **وابن ابی الدنیا والطبرانی فی الکبیر**، باب العین، ابوعبدالرحمن الحنبلی: ۸۸، ص (۱۳/۳۸)۔ **والحاکم**، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن: ۲۰۳۶، (۱/۷۴۰)۔ **وقال صحیح علی ماشرط مسلم**، واقرہ الذہبی۔

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لئے شفاعت کرتے ہیں، روزہ عرض کرتا ہے کہ یااللہ! میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یااللہ! میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

ترغیب میں ”اَلطَّعام والشَّراب“ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ کیا گیا، حاکم (کتاب کا نام ہے) میں شراب کی جگہ شہوات کا لفظ ہے یعنی میں نے روزہ دار کو دن میں کھانے اور خواہشاتِ نفسانیہ سے روکا ❶۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کو خواہشاتِ نفسانیہ سے جدا رہنا چاہیئے اگرچہ وہ جائز ہوں جیسا کہ پیار کرنا، لپٹنا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ قرآن مجید جوانمرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں پیاسا رکھا ❷۔ نیز اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اس طرف کہ کلام اللہ شریف کے حفظ کا مقتضٰی (تقاضہ) یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کرے، حدیث نمبر ۲۷ میں اس کی تصریح بھی گزر چکی، خود کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب ہوئی، ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (بنی اسرائیل: ۷۹)، دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴾ (المرسلات: ۲۶) ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴾ ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴾ (الفرقان:

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب فضائل القرآن، ۲۰۳۶، (۱/۷۴۰)

❷ مستدرک حاکم، کتاب فضائل القرآن، ۲۰۴۳، (۱/۷۴۲)

٦٥)۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام تمام رات گزر جاتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے❶، اسی طرح عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرمالیا کرتے تھے، سعید بن جُبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دو رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا❷، ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور اسی طرح ابو حَرّہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، ابو شیخ ہنائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں دو قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے دس پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا ابھی پورا کرلیتا، صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں دو کلام مجید پورے کرتے تھے، منصور بن زاذان رحمۃ اللہ علیہ صلوۃ الضحیٰ (چاشت کی نماز) میں ایک کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ عمامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی جیسا کہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے ''قیام اللیل'' میں تخریج کیا ہے۔

شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادات ختم قرآن مجید میں مختلف رہی ہیں: بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض دو ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رمضان المبارک میں تھا اور یہی معمول اسود رحمۃ اللہ علیہ اور صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جُبیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض کا معمول تین ختم روزانہ کا تھا، چنانچہ سُلَیم بن عتر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں شمار کئے جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتحِ مصر میں شریک تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ''قصص'' کا امیر ان کو بنایا تھا ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں تین ختم قرآن شریف کے کرتے تھے۔

نوَوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں آٹھ قرآن شریف

---

❶ ترمذی، باب القرآت، ۲۹۴۶، (۵/ ۱۹۹۶)

❷ مختصر قیام اللیل، ۱۴۷

روزانہ پڑھتے تھے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں اکسٹھ قرآن شریف پڑھتے تھے ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا❶، اسی وجہ سے ابن حزمؒ وغیرہ نے تین دن سے کم میں ختم کو حرام بتلایا ہے۔

بندہ کے نزدیک یہ حدیث شریف باعتبار اکثر افراد کے ہے، اس لئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے، اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں جتنے ایام میں بسہولت ہو سکے کلام مجید ختم کرے، مگر بعض علماء کا مذہب ہے کہ چالیس دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم تین پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، غرض چالیس دن کے اندر اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جاوے۔

جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو، نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، صاحبِ مجمعؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے "مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ عَزَّبَ"❷ جس شخص نے قرآن شریف چالیس رات میں ختم کیا اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینہ میں ایک ختم کرنا چاہیئے اور بہتر یہ ہے کہ سات روز میں ایک کلام مجید ختم کرلے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول عامہ یہی نقل کیا جاتا ہے جمعہ کے روز شروع کرے اور سات روز میں ایک منزل روزانہ کر کے پنجشنبہ کے روز ختم کر لے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ پہلے گزر چکا کہ سال میں دو مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، لہٰذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیئے۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ کلام پاک ختم اگر دن کے شروع میں ہو، تو تمام دن، اور

---

❶ ترمذی، ابواب القرآت، ۲۹۴۹، (۵/۱۹۸)

❷ غریب الحدیث لابن الجوزی، باب العین مع الزاء، (۲/۹۱)

رات کے شروع میں ہو تو تمام رات ملائکہ اس کیلئے رحمت کی دعا کرتے ہیں ①۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا ہے کہ گرمی کے ایام میں دن کے ابتداء میں ختم کرے اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں تا کہ بہت سا وقت ملائکہ کی دعا کا میسر ہو۔

(۳۴) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَا نَبِيٌّ وَّلَا مَلَكٌ وَّلَا غَيْرُهٗ

سعید بن سُلَیم رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ وغیرہ۔

(مرسل)

قال العراقی رواہ عبدالملک بن حبیب، کذافی شرح الاحیاء، احیاء علوم الدین مع تخریج الحافظ العراقی، کتاب آداب تلاوۃ القرآن، الباب الاول فی فضل القرآن، (۴/۴۶۳)۔

کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجہ کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعدد روایات سے معلوم ہو چکا۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لئے اس کو شفیع بنا دے نہ کہ فریقِ مخالف اور مدعی۔

"اَللَّآلِی الْمَصْنُوْعَه" (نام کتاب) میں بزّار کی روایت سے نقل کیا ہے اور وضع (حدیث کے من گھڑت ہونے کا) حکم بھی اس پر نہیں لگایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے سرہانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے، جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے، جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔

اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں

---

① حلیۃ الاولیاء، باب من ختم القرآن، (۵/۲۶)

جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ، تو بے فکر رہ، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ مَلاءِ اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے ①۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرماویں اور تمھیں بھی۔

یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو تطویل کے خوف سے مختصر کر دیا ہے۔

(۳۵) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما **اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ اَنَّهٗ لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ لَايَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يَّجِدَ مَعَ مَنْ وَّجَدَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِيْ جَوْفِهٖ كَلَامُ اللّٰهِ۔**

(رجالہ ثقات)

رواہ الحاکم فی المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن جملة: ۲۰۶۶، ص (۱۰۹/۲)۔ **وقال صحیح الاسناد** واقرہ الذہبی۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس طرف وحی نہیں بھیجی جاتی، حامل قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔

چونکہ وحی کا سلسلہ نبی کریم ﷺ کے بعد ختم ہو گیا، اس لئے وحی تو اب آ نہیں سکتی لیکن چونکہ یہ حق سبحانہ وتقدّس کا پاک کلام ہے اس لئے علمِ نبوت ہونے میں کیا تامل ہے اور جب کوئی شخص علومِ نبوت سے نوازا جاوے تو نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق سے احتراز کرے۔

فُضَیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حافظِ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اس کے لئے مناسب نہیں کہ لہو ولعب میں لگنے والوں میں لگ جاوے، یا غافلین میں شریک ہو جاوے، یا بے کار لوگوں میں داخل ہو جاوے ②۔

(۳۶) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما **قَالَ قَالَ رَسُوْلُ**

ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس ﷺ کا ارشاد

---

① مسند البزار، مسند معاذ بن جبل، ۲۶۵۵، ۷/۹۷

② حلیۃ الاولیاء، فضیل بن عیاض، (۸/۹۲)

اللّٰہِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِّسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَآئِقِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ بِهٖ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَدَاعٍ يَّدْعُوْ اِلَى الصَّلٰوتِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ

(ض)

رواه الطبرانی فی المعاجم الثلاثه، فی الکبیر، باب العین: ۱۳۵۸۴، (۴۳۳/۱۲)۔ فی الاوسط، باب من اسمه ولید: ۹۲۸۰، (۱۱۳/۹) وفی الصغیر، باب حرف النون من اسمه ولید: ۱۱۱۶، (۲۵۲/۲)۔

نقل کرتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہو گا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑیگا اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے، ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے، دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے، تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔

قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جاوے یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے مُغتَنَم ہے، پھر اس کے ساتھ اگر تفریح و تنعُّم بھی نصیب ہو جاوے تو خوشا نصیب اس شخص کے جس کو یہ میسر ہو اور بربادی و خسران ہے ان بے حسوں کے لئے جو اس کو لغو، بیکار اور اضاعت وقت سمجھتے ہیں۔

”معجم کبیر“ میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقدس ﷺ سے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ غرض سات دفعہ یہ لفظ کہا یعنی اگر سات مرتبہ سنا نہ ہوتا کبھی نقل نہ کرتا❶۔

(۳۷) عَنْ اَبِیْ ذَرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ

---

❶ المعجم الکبیر، عطاء بن ابی رباح، ۱۳۵۸۴، (۱۲/ ۴۳۳)

اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَاذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ

(ض)

نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر! اگر تو صبح کو جاکر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی سو رکعات سے افضل ہے اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بہ ہو یا نہ ہو تو ہزار رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے

رواہ ابن ماجۃ باسناد حسن، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن: ۲۱۹، (۱/۷۹)۔

بہت سی احادیث اس مضمون میں وارد ہیں کہ علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے ❶، فضائلِ علم میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں ان کا احاطہ بالخصوص اس مختصر رسالہ میں دشوار ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر ❷، ایک جگہ ارشاد ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے ❸۔

(۳۸) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ اٰيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہو گا

رواہ الحاکم فی المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضائل القرآن جملۃ: ۲۰۷۹، (۲/۱۱۲)۔ **وقال صحیح علی شرط مسلم** واقرہ الذہبی۔

دس آیات کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو گی۔

(۳۹) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں فرض نمازوں پر مداومت (ہمیشگی) کرے

---

❶ جامع بیان العلم، ۷۵، ص: ۵۷

❷ ترمذی، ابواب العلم، ۲۶۸۵، (۵/۵۰)

❸ ابن ماجہ، باب فضل العلم، ۲۲۲، (۱/۸۱)

الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ

(صحیح)

وہ غافلین سے نہیں لکھا جاوے گا، جو شخص سو آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جاوے گا۔

رواہ ابن خزیمة فی صحیحه، کتاب الصلوٰة، باب ذکر فضیلة قراءة مائة آیة: ۱۱۴۲، (۱۸۰/۲)۔ **والحاکم،** کتاب الوتر، باب صلوة التطوع: ۱۱۸۸، (۴۱۹/۱) **وقال صحیح علی شرطهما،** واقرہ الذهبی۔

حسن رحمۃ اللہ علیہ بصری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص سو آیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جاوے گا، جو دو سو پڑھ لے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا اور جو پانچ سو سے ہزار تک پڑھ لے اس کے لئے ایک قنطار ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ قنطار کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارہ ہزار کے برابر (درہم مراد ہوں یا دینار)①۔

(۴۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهٗ أَنَّهٗ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ قَالَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ

(لم اقف علی سند هذا الحدیث)

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف۔

رواہ رزین، فی تجرید الصحاح **کذافی الرحمة المهداة،** باب فضائل القرآن، ص (۱۱۳)۔

کتاب اللہ پر عمل بھی فتنوں سے بچنے کا کفیل ہے اور اس کی تلاوت کی برکت بھی فتنوں سے خلاصی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر ۲۲ میں گزر چکا کہ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، فتنوں سے مراد خروجِ دجال، فتنۂ تاتار وغیرہ علماء نے بتلائے ہیں۔

حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ سے بھی ایک طویل روایت میں حدیثِ بالا کا مضمون وارد ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالیٰ شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے اور اس کی مثال

---

① سنن دارمی، کتاب فضائل القرآن، ۳۵۰۲، (۲۱۷۵/۴)

ایسی ہے کہ جیسے کوئی قوم اپنے قلعہ میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے بھی وہ حملہ کرنا چاہے اسی جانب میں اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پاوے گا اور وہ اس دشمن کو دفع کر دے گا ❶۔

---

❶ مسند البزار، مسند علی بن ابی طالب: ۶۹۵، (۲/ ۲۷۵)

خاتمہ

فِيْ عِدَّةِ رِوَايَاتٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْاَرْبَعِيْنَةِ لَابُدَّمِنْ ذِكْرِهَا لِاَغْرَاضٍ تُنَاسِبُ الْمَقَامَ

(۱) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَآءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفاء ہے۔

(مرسل رجالہ ثقات)

رواہ الدارمی فی سننہ، کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحۃ الکتاب: ۳۳۷۰، (۳۷۰/۲)۔ **والبیہقی فی شعب الایمان**، الباب التاسع عشرفی تعظیم القرآن، فصل فی ذکر فاتحۃ الکتاب: ۲۱۵۴، (۴۳/۴)۔

خاتمہ میں بعض ایسی سورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر لیکن فضائل میں بہت بڑھی ہوئی ہیں اور اسی طرح دو ایک ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قرآن پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے۔

سورۃ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں: ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے حضور ﷺ نے ان کو بلایا وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا: ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ﴾ (الانفال، ۲۴) (اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلاویں) پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں؟ پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی سات آیتیں ہیں، یہ سبع مثانی ہیں اور قرآنِ عظیم ❶۔

بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آگیا اور جو کلامِ پاک میں ہے وہ سب سورۂ فاتحہ میں آگیا اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آگیا اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی "ب" میں آگیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ ب کے

---

❶ بخاری، کتاب تفسیر القرآن، ۴۴۷۴

معنی اس جگہ ملانے کے ہیں اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جَلَّ شَانُہٗ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ "ب" میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گیا یعنی واحدانیت، کہ نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ میں تمام مقاصد دینی و دنیوی آ گئے۔

ایک دوسری روایت میں حضور ﷺ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں①۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان ویقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفاء ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیوی، ظاہری ہو یا باطنی، لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لئے نافع ہے۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوؤں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورۂ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور حضور ﷺ نے اس کو جائز بھی رکھا②۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ پر حضور ﷺ نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعابِ دہن درد کی جگہ لگایا③۔

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادہ سے لیٹے اور سورۂ فاتحہ اور "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد" پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے④۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں دو تہائی قرآن کے برابر ہے⑤۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانہ سے کسی کو نہیں ملی: (۱) سورۂ فاتحہ (۲) آیت الکرسی (۳) سورۂ بقرہ کی آخری آیات اور (۴) سورۂ کوثر⑥۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورۂ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا⑦۔

---

① سنن للبیہقی، سورۃ الأنفال، ۱۱۴۱

② بخاری، کتاب الإجارہ، ۲۲۷۶،

③ المعجم الکبیر، باب السین، ۶۶۹۲

④ مسند البزار، مسند ابی حمزہ، ۷۳۹۳

⑤ مسند عبد بن حمید، ۶۷۸

⑥ المعجم الکبیر داود بن قیس، ۷۹۲۰

⑦ فضائل القرآن لابن سلام، ۳۲۶

ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی چار مرتبہ نوبت آئی: اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرے جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جب کہ حضور اکرم ﷺ کو نبوت ملی، چوتھے جب کہ سورۂ فاتحہ نازل ہوئی ❶، شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور دردِ گردہ کی شکایت کی، شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر، اس نے پوچھا کہ اساسُ القرآن کیا ہے، شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ''سورۂ الفاتحہ'' ❷۔

مشائخ کے اعمال مُجرَّب میں لکھا ہے کہ سورۂ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لئے پڑھنی چاہیئے اور اس کے دو طریقے ہیں: ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمد للہ کا لام ملا کر اکتالیس بار چالیس دن تک پڑھے، جو مطلب ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ حاصل ہو گا اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کیلئے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلاوے۔ دوسرے یہ کہ نوچندی ❸ اتوار کو صبح کی سنت اور فرص کے درمیان بلا قید میم ملانے کے ستر بار پڑھے اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور دس دس بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جاوے، اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جاوے فبِھا (تو ٹھیک) ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔

نیز اس سورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک وزعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا چالیس روز تک امراض مُزْمِنَہ (یعنی پرانے امراض) کے لئے مجرب ہے، نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لئے سات بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے (یہ سب مضمون ''مظاہر حق'' سے مختصر طور پر سے نقل کیا گیا)۔

مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راویت ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا، پھر اس فرشتہ نے عرض کیا کہ دونوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیئے گئے ❹۔ ایک سورۂ فاتحہ،

---

❶ حلیۃ الاولیاء، مجاہد بن جبر، ۲۹۹/۳
❷ تفسیر الثعلبی الفاتحہ
❸ چاند رات کی پہلی اتوار
❹ باب فضل الفاتحہ، ۸۰۶

دوسرا خاتمہ سورۂ بقرہ یعنی سورۂ بقرہ کا اخیر رکوع۔ ان کو نور اس لئے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔

(۲) عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِیْ رَبَاحٍ رضی اللہ عنہ قَالَ بَلَغَنِیْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ یٰسٓ فِیْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهٗ۔

(اسنادہ ضعیف ومرسل)

عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یٰسٓ کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔

رواہ الدارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل یٰس: ۳۴۱۸، (۲/۳۳۶)۔

احادیث میں سورہ یٰسٓ کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورۂ یٰسٓ ہے، جو شخص سورۂ یٰسٓ پڑھتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے دس قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے ❶، ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سورۂ طٰہٰ اور سورۂ یٰسٓ کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا، جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لئے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لئے جو اس کو تلاوت کریں گی ❷۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۂ یٰسٓ کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ❸، ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۂ یٰسٓ کا نام توراۃ میں مُنْعِمَہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا وآخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے اور یہ دنیا وآخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے ❹۔ اس سورۃ کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یٰسٓ میرے ہر امتی کے دل میں ہو ❺۔

ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۂ یٰسٓ کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ❻، ایک روایت میں ہے کہ جو یٰسٓ کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھوک

---

❶ ترمذی، ابواب فضائل القرآن، ۲۸۸۷
❷ سنن دارمی، فضل سورہ طٰہٰ، ۳۴۵۷
❸ شعب الایمان ذکر سورۃ الحج، ۲۲۳۱
❹ نوادر الاصول، ۳۲۵۸
❺ کشف الاستار، فضائل القرآن: ۲۳۰۵
❻ المعجم الاوسط، باب المیم من اسمہ محمد: ۷۰۱۸

کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پالیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پالیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو، اس کے لئے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے ❶۔

مُقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لئے سورۂ یٰسٓ پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۂ یٰسٓ اور وَ الصّٰفّٰت جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے ❷۔ (اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے، مگر مشائخِ حدیث کو بعض روایات کی صحت میں کلام ہے)

(۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهٖ يَقْرَأْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ (ض)

رواه **البيهقى فى الشعب،** الباب التاسع عشر فى تعظيم القرآن، فصل فی تخصیص سورتها بالذكر: ۲۲۶۹، (۱۱۹/۴)۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۂ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہو گا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورۃ کو پڑھیں۔

سورۂ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورۂ حدید اور سورۂ واقعہ اور سورۂ رحمٰن پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے ❸، ایک روایت میں ہے کہ سورۂ واقعہ سورۃ الغنیٰ ہے اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ ❹، ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیبیوں کو سکھاؤ ❺ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے ❻۔ مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ چار پیسے کے لئے اس کو پڑھا جاوے، البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے

---

❶ شعب الایمان ذکر سورہ یسین، ۲۲۳۹
❷ الدر المنثور عن ابن النجار، والصافات
❸ شعب الایمان، فضائل السور، ۲۲۶۶
❹ الدر المنثور، الواقعہ
❺ الغرائب الملتقطہ، ۲۰۴۱
❻ فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ۴۱۳

پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گی۔

(۴) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ سُوْرَةً فِي الْقُرْاٰنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهٗ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔

ابو ہریرہ ؓ نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت تیس آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے، وہ سورت ”تبارک الذی“ ہے۔

(صحیح بالشواھد)

رواه ابوداؤد، کتاب الصلوٰة، باب فی عدد الآی: ۱۳۹۵، (۲۴۲/۲)۔**واحمد،** مسند ابی ھریرة، **والنسائی** فی الکبریٰ، کتاب التفسیر، باب تبارک الذی بیده: ۱۱۵۴۸، (۳۰۹/۱۰)۔**وابن ماجة،** کتاب الادب، باب فی ثواب القرآن: ۳۷۸۶، (۱۲۴۴/۲)۔ **والحاکم،** کتاب فضائل القرآن، باب ذکر فضائل السور: ۲۱۱۶، (۱۲۲/۲) **وصححه** ووافقه الذهبی۔**وابن حبان فی صحیحه،** کتاب الرقاق، باب قراءة القرآن: ۷۸۷، (۶۷/۳)۔

سورۂ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور ﷺ کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو ❶۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ﴾ اور ﴿الٓمّٓ سَجْدَه﴾ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ❷۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا، اس کے لئے ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ستر برائیاں دور کی جاتی ہیں ❸۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لئے عبادتِ لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ (کذا فی المظاہر)

ترمذی ؒ نے ابن عباس ؓ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ ؓ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورۂ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا، تو حضور ﷺ سے آکر عرض کیا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے ❹۔ حضرت جابر ؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک ﴿الٓمّٓ سَجْدَه﴾ اور ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ﴾ نہ پڑھ لیتے تھے ❺۔

---

❶ شعب الایمان، فضائل السور، ۲۲۷۷

❷ الدر المنثور عن ابن مردویہ، تبارک الذی

❸ سنن دارمی، کتاب فضائل القرآن، ۳۴۵۲

❹ ترمذی، فضائل القرآن، ۲۸۹۰

❺ ایضاً

خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورۂ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا، اس سورت نے اپنے پَر اس شخص پر پھیلا دیئے کہ اے رب! یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے ❶۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پَر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذابِ قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے اور یہی سارا مضمون وہ "تبارک الذی" کے بارے میں بھی کہتے ہیں ❷۔ خالد بن معدان رضی اللہ عنہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں سورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں تمام قرآن کی ہر سورت پر ساٹھ نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں ❸۔

عذابِ قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازلِ آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس کے عذاب سے نجات پا لے آئندہ کے واقعات اس کے لئے سہل ہوتے ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ مُتَوَحّش کوئی منظر نہیں ❹۔ **اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ بِفَضْلِكَ وَمَنِّكَ**

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین اعمال میں سے کونسا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

---

❶ سنن دارمی، فضائل القرآن، ۳۴۵۱

❷ سنن دارمی، فضل سورۃ التنزیل، ۳۴۵۳

❸ الدر المنثور، تبارک الذی

❹ ابن ماجہ، کتاب الزھد، ۴۲۶۷

مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَهٗ وَمِنْ اٰخِرِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اَوَّلَهٗ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ۔

(ض)

ارشاد فرمایا کہ حالِ مُرتحل، لوگوں نے پوچھا کہ حالِ مُرتحل کیا چیز ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحب القرآن ہے جو اول سے چلے حتی کہ اخیر تک پہنچے اور اخیر کے بعد پھر اول پر پہنچے، جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے۔

رواه الترمذی، ابواب القراءۃ، باب ماجاء ان القرآن انزل: ۹۴۸، (۱۹۷/۵)۔ **کما فی الرحمة**، باب فضائل القرآن، ص (۱۱۳)۔ **والحاکم**، کتاب فضائل القرآن، باب ذکر فضائل السور: ۲۱۳۰، (۱۲۵/۲)۔ **وقال تفرد به صالح المری وھو من زھاد اھل البصرة الاان الشیخین لم یخرجاه وقال الذھبی صالح متروک**، میزان الاعتدال، (فی ترجمة۔ صالح (۳۹۶/۳) قلت (ای المؤلف) **ھو من رواة ابی داؤد والترمذی** انظر الترمذی: ۲۱۳۳ و۲۲۶۶۔

حال کہتے ہیں منزل پر آنے والے کو اور مُرتحِل کوچ کرنے والے کو، یعنی یہ کہ جب کلام پاک ختم ہو جائے تو پھر از سرِ نو شروع کرے، یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا دوبارہ پھر دیکھا جائے گا، کنز العُمّال کی ایک روایت میں اس کی شرح وارد ہوئی ہے: **اَلْخَاتِمُ الْمُفَتِّحِ:** ختم کرنے والا اور ساتھ ہی شروع کرنے والا، یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے بعد ساتھ ہی دوسرا شروع کرلے ①۔

اسی سے غالباً وہ عادت ماخوذ ہے جو ہمارے دیار میں متعارف ہے کہ ختمِ قرآن شریف کے بعد مُفْلِحُوْنَ تک پڑھا جاتا ہے، مگر اب لوگ اسی کو مستقل ادب سمجھتے ہیں اور پھر پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ دراصل معاً دوسرا قرآن شریف شروع کرنا بظاہر مقصود ہے جس کو پورا بھی کرنا چاہیئے، شرحِ احیاء میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ''اتقان'' میں بروایتِ دارمی نقل کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھا کرتے تو سورۂ بقرۃ سے مُفْلِحُوْنَ تک ساتھ ہی پڑھتے اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا فرماتے تھے ②۔

(۶) عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات

---

① الزھد لابن المبارک، ص۸۰۰

② الاتقان، الفصل الخامس والعشرون، ص: ۳۸۵

مِّنَ الْاِبِلِ فِیْ عُقُلِهَا۔

(متفق علیه)

رواه البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب استذکار القرآن: ۵۰۳۳، (۱۹۳/۶)۔ **ومسلم**، کتاب صلوة المسافرین، باب الامربتعاهدالقرآن: ۱۸۴۱، (۳۱۹/۶)۔

پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔

یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جاوے اور وہ رسی سے نکل جاوے تو بھاگ جاوے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جاوے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جاوے گا، اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا درحقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب بہ محال ہے، اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورۂ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی۔: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ﴾ (القمر:۱۷) کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کیلئے سہل کر رکھا ہے کوئی ہے حفظ کرنے والا۔

صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں امر کے معنی میں ہے، تو جس چیز کو حق تعالیٰ شانہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہوں اس کو ہم مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار اضاعتِ وقت سے تعبیر کرتے ہوں، اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لئے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر عَلَیْہِ السَّلَام اگر اپنی یاد سے تورات لکھا دیں تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جاویں ① اور مسلمانوں کے لئے اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اس لطف واحسان کو عام فرما رکھا ہے تو اس کی یہ قدر دانی کی جاوے: ﴿فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ﴾ (الشعراء:۲۲۷)۔

بالجملہ یہ محض حق تعالیٰ شانہ کا لطف وانعام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہی پائی جاتی ہے تو اس سے بھلا دیا جاتا ہے، قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کئے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن

---

① تفسیر الطبری، التوبہ: ۳۰

شریف پڑھ کر بھلا دے ❶۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑھی حاضر ہو گا ❷۔ "جمع الفوائد" میں رزین کی روایت سے آیتِ ذیل کو دلیل بنایا ہے اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴾ (طٰه: ۱۲۵) جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ! میں تو آنکھوں والا تھا مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ ارشاد ہو گا، اس لئے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، پس آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، یعنی تیری کوئی اعانت نہیں ❸۔

(۷) عَنْ بُرَيْدَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ۔

(ض)

رواه البیهقی فی شعب الایمان، الباب التاسع عشر فی تعظیم القرآن، فصل فی ترک قراءة القرآن: ۲۳۸۴، (۱۹۵/۴)۔

بُریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہو گا، جس پر گوشت نہ ہو گا۔

یعنی جو لوگ قرآن شریف کو طلبِ دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں عجمی و عربی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، عنقریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے یعنی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے اور یہ سب دنیا کے واسطے ہو گا، آخرت سے ان لوگوں کو کچھ بھی سروکار نہ ہو گا ❹۔

مقصد یہ ہے کہ محض خوش آوازی بیکار ہے جب کہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جاوے۔ چہرہ پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے

---

❶ ترمذی، فضائل القرآن، ۲۹۱۶

❷ ابو داؤد، ابواب الوتر، ۱۴۷۴

❸ جمع الفوائد، کتاب التفسیر، ٦٧٢٢

❹ ابن النجار (کنز العمال، ۴۱۲۴)

اَشْرَفُ الْاَشْیَاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا تو اَشْرَفُ الْاَعْضَاء چہرہ کو رونق سے محروم کیا جائیگا۔

عمران بن حُصَین رضی اللہ عنہما کا ایک واعظ پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا، یہ دیکھ کر انہوں نے اناللہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے، اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے ❶۔ مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے دنیا کماوے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے، اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جاوے گا، مگر چہرہ سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے ﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى﴾۔ الآیۃ (البقرۃ: ۱۶) (یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے پس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں)۔

اُبَی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ کے طور پر دی، میں نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی ❷۔ اس طرح کا واقعہ عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق نقل کیا اور حضور ﷺ کا جواب یہ نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے مونڈھوں کے درمیان لٹکا دی ❸۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر چاہے کہ جہنم کا ایک طوق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے ❹۔

یہاں پہنچ کر میں ان حفّاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے، بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ للہ! اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجیے، جو لوگ آپ کی بدنیتوں کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کرانا بند کرتے ہیں اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے جواب دہ اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں،

---

❶ ترمذی، فضائل القرآن، ۲۹۱۷

❷ ابن ماجہ، کتاب التجارات، ۲۱۵۸

❸ ابو داود، ابواب الاجارہ، ۳۴۱۷

❹ ابن ماجہ، کتاب التجارات، ۲۱۵۷

لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں، جن کی بداطواریاں اور بدنیتیاں دنیا کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھیں، علماء نے تعلیم کی تنخواہ کو اس لئے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنالیں، بلکہ حقیقتاً مدرسین کی اصل غرض صرف تعلیم اور اشاعت علم و قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے اور تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں، بلکہ رفعِ ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔

تَتِمّہ

قرآن پاک کے ان سب فضائل اور خوبیوں کے ذکر کرنے سے مقصود اس کے ساتھ محبت پیدا کرنا ہے، اس لئے کلام اللہ شریف کی محبت حق تعالیٰ شانہ کی محبت کے لئے لازم و ملزوم ہے اور ایک کی محبت دوسرے کی محبت کا سبب ہوتی ہے، دنیا میں آدمی کی خلقت صرف اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی معرفت کے لئے ہوئی ہے اور آدمی کے علاوہ سب چیز کی خلقت آدمی کے لئے۔

ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند　　تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار　　شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نبری

کہتے ہیں بادل و ہوا، چاند، سورج، آسمان و زمین غرض ہر چیز تیری خاطر کام میں مشغول ہے، تاکہ تو اپنی حوائج ان کے ذریعے سے پوری کرے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ آدمی کی ضروریات کے لئے یہ سب چیزیں کس قدر فرماں بردار مطیع اور وقت پر کام کرنے والی ہیں اور تنبیہ کے لئے کبھی کبھی ان میں تَخَلُّف بھی تھوڑی دیر کے لئے کر دیا جاتا ہے۔ بارش کے وقت بارش نہ ہونا، ہوا کے وقت ہوا نہ چلنا، اسی طرح گرہن کے ذریعے سے چاند، سورج غرض ہر چیز میں کوئی تغیر بھی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ایک غافل کے لئے تنبیہ کا تازیانہ بھی لگے۔

اس سب کے بعد کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تیری وجہ سے یہ سب چیزیں تیری ضروریات کے تابع کی جاویں اور ان کی فرماں برداری بھی تیری اطاعت اور فرمانبرداری کا

سبب نہ بنے اور اطاعت و فرمانبر داری کے لئے بہترین مُعین محبت ہے ''اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ''۔ جب کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے، عشق و فریفتگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی اطاعت و فرماں بر داری طبیعت اور عادت بن جاتی ہے اور اس کی نافرمانی ایسی ہی گراں اور شاق ہوتی ہے جیسے کہ بغیر محبت کے کسی کی اطاعت خلاف عادت و طبع ہونے کی وجہ سے بار ہوتی ہے۔

کسی چیز سے محبت پیدا کرنے کی صورت اس کے کمالات و جمال کا مشاہدہ ہے، حواسِ ظاہرہ سے ہو یا حواس باطنہ میں استحضار سے، اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس سے وابستگی ہو جاتی ہے تو کسی کی دل آویز آواز بھی بسا اوقات مقناطیس کا اثر رکھتی ہے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کیں دولت از گفتار خیزد

عشق ہمیشہ صورت ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بسا اوقات یہ مبارک دولت بات سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، کان میں آواز پڑ جانا اگر کسی کی طرف بے اختیار کھینچتا ہے تو کسی کے کلام کی خوبیاں، اس کے جوہر، اس کے ساتھ الفت کا سبب بن جاتی ہیں۔

کسی کے ساتھ عشق پیدا کرنے کی تدبیر اہلِ فن نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کی خوبیوں کا استحضار کیا جاوے، اس کے غیر کو دل میں جگہ نہ دی جاوے، جیسا کہ عشق طبعی میں یہ سب باتیں بے اختیار ہوتی ہیں، کسی کا حسین چہرہ یا ہاتھ نظر پڑ جاتا ہے تو آدمی سعی کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ بقیہ اعضاء کو دیکھے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، قلب کو تسکین ہو، حالانکہ تسکین ہوتی نہیں، ''مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی''۔ کسی کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اگر اس کی آبپاشی کی خبر نہ لی گئی تو پیداوار نہیں ہوتی، اگر کسی کی محبت دل میں بے اختیار آجانے کے بعد اس کی طرف التفات نہ کیا جاوے، تو آج نہیں تو کل دل سے محو ہو جاوے گی، لیکن اس کے خط و خال، سراپا اور رفتار و گفتار کے تصور سے اس قلبی بیج کو سینچتا رہے تو اس میں ہر لمحہ اضافہ ہوگا۔

مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

اس سبق کو بھلا دو گے فوراً چھٹی مل جاوے گی، جتنا جتنا یاد کرو گے اتنا ہی جکڑے جاؤ

گے۔ اسی طرح کسی قابلِ عشق سے محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے کمالات اس کی دل آویزیوں کا تتبع (تلاش) کرے، جوہروں کو تلاش کرے اور جس قدر معلوم ہو جاویں اس پر بس نہ کرے، بلکہ اس سے زائد کا متلاشی ہو کہ فنا ہونے والے محبوب کے کسی ایک عضو کے دیکھنے پر قناعت نہیں کی جاتی، اس سے زیادہ کی ہوَس جہاں تک کہ امکان میں ہو باقی رہتی ہے۔

حق سبحانہ وتقدُّس جو حقیقتاً ہر جمال وحسن کا منبع ہیں اور حقیقتاً دنیا میں کوئی بھی جمال ان کے علاوہ نہیں ہے، یقیناً ایسے محبوب ہیں کہ جن کے کسی جمال وکمال پر بس نہیں، نہ اس کی کوئی غایت، ان ہی بے نہایت کمالات میں سے ان کا کلام بھی ہے، جس کے متعلق میں پہلے اجمالاً کہہ چکا ہوں کہ اس انتساب کے بعد پھر کسی کمال کی ضرورت نہیں، عشاق کے لئے اس انتساب کے برابر اور کون سی چیز ہو گی۔ ؎

اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری

قطعِ نظر اس سے کہ اس انتساب کو اگر چھوڑ بھی دیا جاوے کہ اس کا موجد کون ہے اور وہ کس کی صفت ہے، تو پھر حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے ساتھ اس کو جو جو نسبتیں ہیں، ایک مسلمان کی فریفتگی کے لئے وہ کیا کم ہیں؟ اگر اس سے بھی قطعِ نظر کی جائے تو خود کلام پاک ہی میں غور کیجئے کہ کون سی خوبی دنیا میں ایسی ہے جو کسی چیز میں پائی جاتی ہے اور کلام پاک میں نہ ہو۔ ؎

دامانِ نگہ تنگ وگل حسن تو بسیار　　گل چیں بہار تو ز داماں گلہ دارد
فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر　　ادائیں لاکھ اور بیتاب دل ایک

احادیثِ سابقہ کو غور سے پڑھنے والوں پر مخفی نہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی طرف احادیث بالا میں متوجہ نہ کر دیا ہو اور انواعِ محبت وافتخار میں سے کسی نوع کا دلدادہ بھی ایسا نہ ہو گا کہ اسی رنگ میں کلام اللہ شریف کی افضلیت وبرتری اس نوع میں کمال درجہ کی نہ بتلا دی گئی ہو، مثلاً کلی اور اجمالی بہترائی جو دنیا بھر کی چیزوں کو شامل ہے ہر جمال وکمال اس میں داخل ہے۔

سب سے پہلی حدیث (۱) نے کلی طور پر ہر چیز سے اس کی افضلیت اور برتری بتلادی، محبت کی کوئی سی نوع لے لیجئے، کسی شخص کو اسبابِ غیر متناہیہ میں سے کسی وجہ سے کوئی پسند آئے، قرآن شریف اسی کلی افضلیت میں اس سے افضل ہے، اس کے بعد بالعموم جو اسباب تعلق و محبت ہوتے ہیں، جزئیات و تمثیل کے طور سے ان سب پر قرآن شریف کی افضلیت بتلادی گئی۔ حدیث (۲) اگر کسی کو ثمرات اور منافع کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا وعدہ ہے کہ ہر مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ اگر کسی کو ذاتی فضلیت، ذاتی جوہر، ذاتی کمال سے کوئی بھاتا ہے تو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے بتلا دیا کہ دنیا کی ہر بات پر قرآن شریف کو اتنی فضیلت ہے جتنی خالق کو مخلوق پر، آقا کو بندوں پر، مالک کو مملوک پر۔ حدیث (۳) اگر کوئی مال ومتاع، حشم وخدم اور جانوروں کا گرویدہ ہے اور کسی نوع کے جانور پالنے پر دل کھوئے ہوئے ہے، تو جانوروں کے بے مشقت حاصل کرنے سے تحصیلِ کلام پاک کی افضلیت پر متنبہ کر دیا۔

حدیث (۴) اگر کوئی صوفی منش تقدُّس وتقویٰ کا بھوکا ہے اس کے لئے سرگرداں ہے تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے بتلا دیا کہ قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہے جن کے برابر تقویٰ کا ہونا مشکل ہے کہ ایک آن بھی خلافِ اطاعت نہیں گزار سکتے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص دوہرا حصہ ملنے سے افتخار کرتا ہے یا اپنی بڑائی اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کی رائے دورایوں کے برابر شمار کی جاوے تو اٹکنے والے کے لئے دوہرا اجر ہے۔ حدیث (۵) اگر کوئی حاسد بداخلاقیوں کا متوالا ہے، دنیا میں حسد ہی کا خوگر ہو گیا ہو، اس کی زندگی حسد سے نہیں ہٹ سکتی تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے بتلادیا کہ اس قابل جس کے کمال پر واقعی حسد ہو سکتا ہے، وہ حافظِ قرآن ہے۔

حدیث (۶) اگر کوئی فواکہ (پھل) کا متوالا ہے، اس پر جان دیتا ہے پھل بغیر اس کو چین نہیں پڑتا تو قرآن شریف تُرُنج کی مشابہت رکھتا ہے۔ اگر کوئی میٹھے کا عاشق ہے، مٹھائی بغیر اس کا گزر نہیں تو قرآن شریف کھجور سے زیادہ میٹھا ہے۔ حدیث (۷) اگر کوئی شخص عزت ووقار کا دلدادہ ہے، ممبری اور کونسل بغیر اس سے نہیں رہا جاتا تو قرآن شریف دنیا

اور آخرت میں رفعِ درجات کا ذریعہ ہے۔

حدیث (۸) اگر کوئی شخص مُعین و مدد گار چاہتا ہے، ایسا جاں نثار چاہتا ہے کہ ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے تو قرآن شریف سلطان السلاطین، مَلِکُ الملوک شہنشاہ سے اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہے۔ مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی نکتہ رس باریک بینیوں میں عمر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک ایک باریک نکتہ حاصل کرلینا دنیا بھر کی لذات سے اعراض کو کافی ہے تو بطنِ قرآن شریف دقائق کا خزانہ ہے۔ مزید برآن اسی طرح اگر کوئی شخص مخفی رازوں کا پتہ لگانا کمال سمجھتا ہے، محکمہ سی آئی ڈی میں تجربہ کو ہنر سمجھتا ہے، عمر کھپاتا ہے، تو بطنِ قرآن شریف ان اسرار مخفیہ پر متنبہ کرتا ہے جن کی انتہا نہیں۔

(۹) اگر کوئی شخص اونچے مکان بنانے پر مر رہا ہے، ساتویں منزل پر اپنا خاص کمرہ بنانا چاہتا ہے تو قرآن شریف ساتویں ہزار منزل پر پہنچاتا ہے، حدیث (۱۰) اگر کوئی اس کا گرویدہ ہے کہ ایسی سہل تجارت کروں جس میں محنت کچھ نہ ہو اور نفع بہت سا ہو جاوے تو قرآن شریف ایک حرف پر دس نیکیاں دلاتا ہے۔ حدیث (۱۱) اگر کوئی تاج وتخت کا بھوکا ہے، اس کی خاطر دنیا سے لڑتا ہے تو قرآن شریف اپنے رفیق کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چمک دمک کی دنیا میں کوئی نظیر ہی نہیں۔ حدیث (۱۲) اگر کوئی شعبدہ بازی میں کمال پیدا کرتا ہے، آگ ہاتھ پر رکھتا ہے، جلتی دیا سلائی منہ میں رکھ لیتا ہے تو قرآن شریف جہنم تک کی آگ کو اثر کرنے سے مانع ہے۔

حدیث (۱۳) اگر کوئی حُکّام رسی پر مرتا ہے، اس پر ناز ہے کہ ہمارے ایک خط سے فلاں حاکم نے اس ملزم کو چھوڑ دیا، ہم نے فلاں شخص کو سزا نہیں ہونے دی، اتنی سی بات حاصل کرنے کے لئے جج وکلکٹر ❶ کی دعوتوں اور خوشامدوں میں جان ومال ضائع کرتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی حاکم کی دعوت میں سرگرداں رہتا ہے تو قرآن شریف اپنے ہر رفیق کے ذریعے ایسے دس شخصوں کو خلاصی دلاتا ہے جن کو جہنم کا حکم مل چکا ہے۔

حدیث (۱۴) اگر کوئی خوشبوؤں پر مرتا ہے، چمن اور پھولوں کا دلدادہ ہے تو قرآن

---

❶ ٹیکس وصول کرنے والا

شریف بالچھڑ ❶ ہے، مزید یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی عطور کا فریفتہ ہے، حنائے مشکی میں غسل چاہتا ہو تو کلام مجید سراپا مشک ہے اور غور کروگے تو معلوم ہو جاوے گا کہ اس مشک سے اس مشک کو کچھ بھی نسبت نہیں، چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک ؎

کار زلفِ تست مشک افشانی اما عاشقاں مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

حدیث (۱۵) اگر کوئی جوتہ کا آشناڈر سے کوئی کام کر سکتا ہے، ترغیب اس کے لئے کار آمد نہیں، تو قرآن شریف سے خالی ہونا گھر کی بربادی کے برابر ہے۔ حدیث (۱۶) اگر کوئی عابد افضل العبادات کی تحقیق میں رہتا ہے اور ہر کام میں اس کا مُتمنّی ہے کہ جس چیز میں زیادہ ثواب ہو اسی میں مشغول رہوں تو قراءتِ قرآن افضل العبادات ہے اور تصریح سے بتلادیا کہ نفل نماز، روزہ، تسبیح و تہلیل وغیرہ سب سے افضل ہے۔

حدیث (۱۷۔ ۱۸) بہت سے لوگوں کو حاملہ جانوروں سے دلچسپی ہوتی ہے، حاملہ جانور قیمتی داموں میں خریدے جاتے ہیں، حضور ﷺ نے متنبہ فرمادیا اور خصوصیت سے اس جزو کو بھی مثال میں ذکر فرمایا کہ قرآن شریف اس سے بھی افضل ہے۔ حدیث (۱۹) اکثر لوگوں کو صحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے، ورزش کرتے ہیں، روزانہ غسل کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، علی الصبح تفریح کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگوں کو رنج و غم، فکر و تشویش، دامنگیر رہتی ہے، حضور ﷺ نے فرمادیا کہ سورۂ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے اور قرآن شریف دلوں کی بیماری کو دور کرنے والا ہے۔

حدیث (۲۰) لوگوں کے افتخار کے اسباب گزشتہ افتخارات کے علاوہ اور بھی بہت سے ہوتے ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، اکثر اپنے نسب پر افتخار ہوتا ہے، کسی کو اپنی عادتوں پر، کسی کو اپنی ہر دلعزیزی پر، کسی کو اپنے حسنِ تدبیر پر، حضور ﷺ نے فرمادیا کہ حقیقتاً قابل افتخار جو چیز ہے وہ قرآن شریف ہے اور کیوں نہ ہو کہ در حقیقت ہر جمال و کمال کو جامع ہے۔ ؎

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

حدیث (۲۱) اکثر لوگوں کو خزانہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کھانے اور پہننے میں تنگی

---

❶ ایک قسم کی خوشبودار گھاس

کرتے ہیں تکالیف برداشت کرتے ہیں اور ننانوے کے پھیر میں ایسے پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا دشوار ہوتا ہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ کے قابل کلامِ پاک ہے جتنا دل چاہے آدمی جمع کرے کہ اس سے بہتر کوئی خزینہ نہیں۔ حدیث (۲۲) اسی طرح اگر برقی روشنیوں کا آپ کو شوق ہے، آپ اپنے کمرے میں دس قمقمے بجلی کے اس لئے نصب کرتے ہیں کہ کمرہ جگمگا اٹھے تو قرآن شریف سے بڑھ کر نورانیت کس چیز میں ہو سکتی ہے؟

مزید برآں یہ کہ اگر آپ اس پر جان دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہدایا آیا کریں، دوست روزانہ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہا کریں تو آپ توسیعِ تعلقات اسی کی خاطر کرتے ہیں، جو دوست آشنا اپنے باغ کے پھلوں میں آپ کا حصہ نہ لگائے تو آپ اس کی شکایت کرتے ہیں تو قرآن شریف سے بہتر تحائف دینے والا کون ہے کہ سکینہ اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ پس آپ کے کسی پر مرنے کی اگر یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے پاس روزانہ کچھ نذرانہ لاتا ہے تو قرآن شریف میں اس کا بھی بدل ہے۔

اگر آپ خواہاں ہیں اور آپ کسی وزیر کے اس لئے ہر وقت قدم چومتے ہیں کہ وہ دربار میں آپ کا ذکر کر دے گا کسی پیش کار کی اس لئے خوشامد کرتے ہیں کہ وہ کلکٹر کے یہاں آپ کی کچھ تعریف کر دے گا یا کسی کی آپ اس لئے چاپلوسی کرتے ہیں کہ محبوب کی مجلس میں آپ کا ذکر کر دے تو قرآن شریف احکم الحاکمین محبوبِ حقیقی کے دربار میں آپ کا ذکر خود محبوب وآقا کی زبان سے کراتا ہے۔

حدیث (۲۳) اگر آپ اس کے جویاں ① رہتے ہیں کہ محبوب کو سب سے زیادہ مرغوب چیز کیا ہے کہ اس کے مہیا کرنے میں پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکالی جائے تو قرآن شریف کے برابر آقا کو کوئی چیز بھی مرغوب نہیں۔ حدیث (۲۴) اگر آپ درباری بننے میں عمر کھپا رہے ہیں، سلطان کے مصاحب بننے کے لئے ہزار تدابیر اختیار کرتے ہیں تو کلام اللہ شریف کے ذریعے آپ اس بادشاہ کے مصاحب شمار ہوتے ہیں جس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے کی بادشاہت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔

مزید برآں کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کونسل کی ممبری کے لئے اور اتنی سی بات

---

① متلاشی

کے لئے کہ کلکٹر صاحب شکار میں جاویں تو آپ کو بھی ساتھ لے لیں، آپ کس قدر قربانیاں کرتے، راحت و آرام، جان ومال نثار کرتے ہیں، لوگوں سے کوشش کراتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو برباد کرتے ہیں، صرف اس لئے کہ آپ کی نگاہ میں اس سے آپ کا اعزاز ہوتا ہے، تو پھر کیا حقیقی اعزاز کے لئے، حقیقی حاکم و بادشاہ کی مصاحبت کے لئے واقعی درباری بننے کے لئے آپ کو ذرا سی توجہ کی بھی ضرورت نہیں؟ آپ اس نمائشی اعزاز پر عمر خرچ کیجئے مگر خدارا! اس عمر کا تھوڑا سا حصہ، عمر دینے والے کی خوشنودی کے لئے بھی تو خرچ کیجئے۔ حدیث (۲۵) اسی طرح اگر آپ میں چشتیت پھونک دی گئی ہے اور ان مجالس بغیر آپ کو قرار نہیں تو مجالسِ تلاوت اس سے کہیں زیادہ دل کو پکڑنے والی ہیں اور بڑے سے بڑے مستغنی کے کان اپنی طرف متوجہ کرلیتی ہیں۔ حدیث (۲۶) اسی طرح اگر آپ آقا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کیجئے۔ حدیث (۲۷) اورآپ اسلام کے مدعی ہیں، مسلم ہونے کا دعویٰ ہے تو حکم ہے نبی کریم ﷺ کا کہ قرآن شریف کی ایسی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اگر آپ کے نزدیک اسلام صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرماں برداری سے بھی آپ کے اسلام کو کوئی سروکار ہے تو یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے اس کی تلاوت کا حکم ہے۔

مزید برآں اگر آپ میں قومی جوش بہت زور کرتا ہے، ترکی ٹوپی کے آپ صرف اس لئے دلدادہ ہیں کہ وہ آپ کے نزدیک خالص اسلامی لباس ہے، قومی شعار میں آپ بہت خاص دلچسپی رکھتے ہیں، ہر طرح اس کے پھیلانے کی آپ تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین شائع کرتے ہیں، جلسوں میں ریزولیوشن (قرارداد) پاس کرتے ہیں تو اللہ کا رسول آپ کو حکم دیتا ہے کہ جس قدر ممکن ہو قرآن شریف کو پھیلاؤ۔

بے جا نہ ہوگا اگر میں یہاں پہنچ کر سربرآوردگانِ قوم کی شکایت کروں کہ قرآن پاک کی اشاعت میں آپ کی طرف سے کیا اعانت ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ خدارا! ذرا غور سے جواب دیجیے کہ اس کے سلسلہ کو بند کرنے میں آپ کا کس قدر حصہ ہے، آج اس کی تعلیم کو بیکار بتلایا جاتا ہے، اضاعتِ عمر سمجھا جاتا ہے، اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ عرق

ریزی کہا جاتا ہے، ممکن ہے کہ آپ اس کے موافق نہ ہوں، لیکن ایک جماعت جب ہمہ تن اس میں کوشاں ہے تو کیا آپ کا سکوت اس کی اعانت نہیں ہے؟ مانا کہ آپ اس خیال سے بیزار ہیں مگر آپ کی اس بیزاری نے کیا فائدہ دیا ع

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

آج اس کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لئے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے ملانوں نے اپنے ٹکڑوں کے لئے دھندا کر رکھا ہے، گویہ عامۃً نیتوں پر حملہ ہے جو بڑی سخت ذمہ داری ہے اور اپنے وقت پر اس کا ثبوت دینا ہو گا، مگر میں نہایت ہی ادب سے پوچھتا ہوں کہ خدارا! ذرا اس کو تو غور کیجئے کہ ان خود غرض ملانوں کی ان خود غرضیوں کے ثمرات آپ دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ان بے غرضانہ تجاویز کے ثمرات کیا ہوں گے اور نشر واشاعت کلام پاک میں آپ کی ان مفید تجاویز سے کس قدر مدد ملے گی، بہر حال حضور ﷺ کا ارشاد آپ کے لئے قرآن شریف کے پھیلانے کا ہے، اس میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس ارشاد نبوی کا کس درجہ امتثال (اطاعت) آپ کی ذات سے ہوا اور ہو رہا ہے۔

دیکھئے ایک دوسری بات کا بھی خیال رکھیں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس خیال میں شریک نہیں تو ہم کو کیا، مگر اس سے آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھا: ”**اَنُهْلَکُ وَفِيْنَا الصّٰلِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ**“❶۔ (کیا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہو جاویں گے کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں! جب خباثت غالب ہو جاوے) اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ایک گاؤں کے الٹ دینے کا حکم فرمایا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس میں فلاں بندہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، ارشاد ہوا کہ صحیح ہے، مگر یہ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا❷۔

در حقیقت علماء کو یہی امور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز امور کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کریں جس کو ہمارے روشن خیال تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی اس

---

❶ البخاری، کتاب المناقب: ۳۵۹۸، (۴/۱۹۸)

❷ شعب الایمان، وجوب الامر، ۷۱۸۹

وسعت خیالی اور وسعت اخلاق پر مطمئن نہ رہیں کہ یہ فریضہ صرف علماء ہی کے ذمہ نہیں، ہر اس شخص کے ذمہ ہے جو کسی ناجائز بات کا وقوع دیکھے اور اس پر ٹوکنے کی قدرت رکھتا ہو پھر نہ ٹوکے۔ بلال بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معصیت جب مخفی طور سے کی جاتی ہے تو اس کا وبال صرف کرنے والے پر ہوتا ہے لیکن جب کھلم کھلا کی جاوے اور اس پر انکار نہ کیا جاوے تو اس کا وبال عام ہوتا ہے ❶۔

حدیث (۲۸) اسی طرح اگر آپ تاریخ کے دلدادہ ہیں جہاں کہیں معتبر تاریخ، پرانی تاریخ آپ کو ملتی ہے آپ اس کے لئے سفر کرتے ہیں تو قرآن شریف میں تمام ایسی کتب کا بدل موجود ہے جو قرونِ سابقہ میں حجت و معتبر مانی گئی ہیں۔ حدیث (۲۹) اگر آپ اس قدر اونچے مرتبے کے متمنی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور شریک ہونے کا حکم ہو تو یہ بات بھی صرف کلام اللہ شریف میں ہی ملے گی۔ حدیث (۳۰) اگر آپ اس قدر کاہل ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بے محنت و مشقت اکرام بھی آپ کو صرف کلام اللہ شریف میں ملے گا کہ چپ چاپ کسی مکتب میں بیٹھے بچوں کا کلام مجید سنے جایئے اور مفت کا ثواب لیجئے۔

حدیث (۳۱) اگر آپ مختلف اَلوان کے گریدہ ہیں، ایک نوع سے اکتا جاتے ہیں تو قرآن شریف کے معنی میں مختلف اَلوان، مختلف حاصل کیجئے، کہیں رحمت، کہیں عذاب، کہیں قصے، کہیں احکام اور کیفیتِ تلاوت میں کبھی پکار کر پڑھیں اور کبھی آہستہ۔ حدیث (۳۲) اگر آپ کی سیہ کاریاں حد سے متجاوز ہیں اور مرنے کا آپ کو یقین بھی ہے تو پھر تلاوت کلام پاک میں ذرا بھی کوتاہی نہ کیجئے کہ اس درجہ کا سفارشی نہ ملے گا اور پھر ایسا کہ جس کی سفارش کے قبول ہونے کا یقین بھی ہو۔

حدیث (۳۳) اسی طرح اگر آپ اس قدر باوقار واقع ہوئے ہیں کہ جھگڑالُو سے گھبراتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے کے ڈر سے آپ بہت سی قربانیاں کر جاتے ہیں تو قرآن شریف کے مطالبہ سے ڈریئے کہ اس جیسا جھگڑالو آپ کو نہ ملے گا، فریقین کے جھگڑے میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی طرفدار ہوتا ہے، اس کے جھگڑنے میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور ہر

---

❶ شعب الایمان، وجوب الامر بالمعروف، ۷۱۹۶

شخص اسی کو سچا بتلائے گا اور آپ کا کوئی طرف دار نہ ہو گا۔ حدیث (۳۴) اگر آپ کو ایسا رہبر درکار ہے اور اس پر آپ قربان ہیں جو محبوب کے گھر تک پہنچا دے تو تلاوت کیجئے اور اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جیل خانہ نہ ہو جائے تو ہر حالت میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر چارہ نہیں۔

حدیث (۳۵) اگر آپ علومِ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گرویدہ اور شیدائی ہیں تو قرآن شریف پڑھئے اور جتنا چاہے کمال پیدا کیجئے، اسی طرح اگر آپ بہترین اخلاق پر جان دینے کو تیار ہیں تو بھی تلاوت کی کثرت کیجئے۔ حدیث (۳۶) اگر آپ کا مچلا ہوا دل ہمیشہ شملہ اور منصوری کی چوٹیوں ہی پر تفریح میں بہلتا ہے اور سو جان سے آپ ایک پہاڑ کے سفر پر قربان ہیں تو قرآن پاک مشک کے پہاڑوں پر ایسے وقت میں تفریح کراتا ہے کہ تمام عالم میں نفسا نفسی کا زور ہو۔ حدیث (۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹) اگر آپ زاہدوں کی اعلیٰ فہرست میں شمار چاہتے ہیں اور رات دن نوافل سے آپ کو فرصت نہیں تو کلامِ پاک سیکھنا، سکھانا اس سے پیش پیش ہے، حدیث (۴۰) اگر دنیا کے ہر جھگڑے سے آپ نجات چاہتے ہیں، ہر مخمصہ سے آپ علیحدہ رہنے کے دلدادہ ہیں تو صرف قرآن پاک ہی میں ان سے مخلصی (چھٹکارا) ہے۔

حدیث خاتمہ

(۱) اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں تو سورۂ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ (۲) اگر آپ کی بے نہایت غرضیں پوری نہیں ہوتیں تو کیوں روزانہ سورۂ یٰسین کی تلاوت آپ نہیں کرتے؟۔ (۳) اگر آپ کو پیسہ کی محبت ایسی ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی کے بھی نہیں تو کیوں روزانہ سورۂ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتے؟۔ (۴) اگر آپ کو عذاب قبر کا خوف دامن گیر ہے اور آپ اس کے متحمل نہیں تو اس کے لئے بھی کلام پاک میں نجات ہے۔ (۵) اور اگر آپ کو کوئی دائمی مشغلہ درکار ہے کہ جس میں آپ کے مبارک اوقات ہمیشہ مصروف رہیں تو قرآن پاک سے بڑھ کر نہ ملے گا۔

حدیث (۶۔ ۷) مگر ایسا نہ ہو کہ یہ دولت حاصل ہونے کے بعد چھن جاوے کہ

سلطنت ہاتھ آنے کے بعد پھر ہاتھ سے نکل جانا زیادہ حسرت و خسران کا سبب ہوتا ہے اور کوئی حرکت ایسی بھی نہ کر جایئے کہ نیکی برباد گناہ لازم۔ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ۔

مجھ سا ناکارہ قرآن پاک کی خوبیوں پر کیا متنبہ ہو سکتا ہے، ناقص سمجھ کے موافق جو ظاہر طور پر سمجھ میں آیا ظاہر کر دیا، مگر اہلِ فہم کے لئے غور کا راستہ ضرور کھل گیا اس لئے کہ اسبابِ محبت جن کو اہل فن نے کسی کے ساتھ محبت کا ذریعہ بتلایا ہے، پانچ چیز میں منحصر ہے۔

اول اپنا وجود کہ طبعاً آدمی اس کو محبوب رکھتا ہے، قرآن شریف میں حوادث سے امن ہے اس لئے وہ اپنی حیات و بقا کا سبب ہے، دوسرے طبعی مناسبت جس کے متعلق اس سے زیادہ وضاحت کیا کر سکتا ہوں کہ کلام صفتِ الٰہی ہے اور مالک اور مملوک، آقا اور بندہ میں جو مناسبت ہے وہ واقفوں سے مخفی نہیں۔

ہست رب الناس را با جان ناس　　اتصال بے تکیف و بے قیاس
سب سے ربطِ آشنائی ہے اسے　　دل میں ہر اک کے رسائی ہے اُسے

تیسرے جمال، چوتھے کمال، پانچویں احسان۔

ان ہر سہ (تینوں) امور کے متعلق احادیثِ بالا میں اگر غور فرمائیں گے تو نہ صرف اس جمال و کمال پر جس کی طرف ایک ناقص الفہم نے اشارہ کیا ہے، اقتصار کریں گے بلکہ وہ خود بے تردد اس امر تک پہنچیں گے کہ عزت، افتخار، شوق و سکون، جمال و کمال، اکرام واحسان، لذت وراحت، مال و متاع غرض کوئی بھی ایسی چیز نہ پاویں گے جو محبت کے اسباب میں ہو سکتی ہے اور نبی کریم ﷺ نے اس پر تنبیہ فرما کر قرآن شریف کو اسی نوع میں اس سے افضل ارشاد نہ فرمایا ہو۔

البتہ حجاب میں مستور ہونا دنیا کے لوازمات میں سے ہے لیکن عقلمند شخص اس وجہ سے کہ لیچی کا چھلکا خاردار ہے اس کے گودہ سے اعراض نہیں کرتا اور کوئی دل کھویا ہو اپنی محبوبہ سے اس لئے نفرت نہیں کرتا کہ وہ اس وقت برقعہ میں ہے، پردہ کے ہٹانے کی ہر ممکن سے ممکن کوشش کرے گا اور کامیاب نہ بھی ہو سکا تو اس پردہ کے اوپر ہی سے

آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اس کا یقین ہو جاوے کہ جس کی خاطر برسوں سے سرگرداں ہوں وہ اسی چادر میں ہے، ممکن نہیں کہ پھر اس چادر سے نگاہ ہٹ سکے۔ اسی طرح قرآنِ پاک کے ان فضائل و مناقب اور کمالات کے بعد اگر وہ کسی حجاب کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے تو عاقل کا کام نہیں کہ اس سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے بلکہ اپنی تقصیر اور نقصان پر افسوس کرے اور کمالات میں غور۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر قلوب نجاست سے پاک ہو جاویں تو تلاوتِ کلام اللہ سے کبھی بھی سیری نہ ہو۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیس برس میں نے کلام پاک کو مشقت سے پڑھا اور بیس برس سے مجھے اس کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے پس جو شخص بھی معاصی سے توبہ کے بعد غور کرے گا کلامِ پاک کو "آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری" کا مصداق پائے گا، اے کاش! کہ ان الفاظ کے معنی مجھ پر بھی صادق آتے!۔ میں ناظرین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ کہنے والے کی طرف التفات نہ فرمائیں کہ میری ناکارگی آپ کو اہم مقصود سے نہ روکے، بلکہ بات کی طرف توجہ فرمائیں اور جہاں سے یہ امور ماخوذ ہیں اس کی طرف التفات کیجئے کہ میں درمیان میں صرف نقل کا واسطہ ہوں۔

یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ کی ذات سے بعید نہیں کہ وہ کسی دل میں حفظِ قرآن پاک کا ولولہ پیدا کر دے، پس اگر بچہ کو حفظ کرانا ہے تو اس کے لئے کسی عمل کی ضرورت نہیں کہ بچپن کی عمر خود حفظ کے لئے مُعین و مجرب ہے، البتہ اگر کوئی شخص بڑی عمر میں حفظ کا ارادہ کرے تو اس کیلئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک مجرب عمل لکھتا ہوں جس کو ترمذی حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاویں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتلاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور

جس کو تو بتلا دے اس کے لئے بھی نافع ہو اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے؟ حضرت علی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی شب آوے تو اگر یہ ہو سکتا ہو کہ رات کے اخیر تہائی حصہ میں اٹھے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا ہے اور دعا اس وقت میں خاص طور پر قبول ہوتی ہے، اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب عَلَیْہِ السَّلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ﴿سَوۡفَ اَسۡتَغۡفِرُ لَکُمۡ رَبِّیۡ﴾ (یوسف: ۹۸) ”عنقریب میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب کرونگا“ (یعنی جمعہ کی رات کے آخری حصہ میں) پس اگر اس وقت میں جاگنا دشوار ہو تو آدھی رات کے وقت، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑا ہو اور چار رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۂ یٰس شریف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ دخان اور تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۂ الٓم سجدہ ❶ اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ ٔ ملک پڑھے اور جب التحیات سے فارغ ہو جاوے تو اول حق تعالیٰ شانہ کی خوب حمد وثنا کر، اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیج، اس کے بعد تمام انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام پر درود بھیج، اس کے بعد تمام مومنین کے لئے اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لئے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کر اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ ❷۔

ف: دعا آگے آرہی ہے اس کے ذکر سے قبل مناسب ہے کہ حمد وثنا وغیرہ جن کا حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے حکم فرمایا ہے دوسری روایات سے جن کو شروحِ حصن اور مناجاتِ مقبول وغیرہ میں نقل کیا ہے، مختصر طور پر ایک ایک دعا نقل کر دی جاوے، تاکہ جو لوگ اپنے طور سے نہیں پڑھ سکتے وہ اسکو پڑھیں اور جو حضرات خود پڑھ سکتے ہیں وہ اس پر قناعت نہ کریں، بلکہ حمد وثنا کو بہت اچھی طرح سے مبالغہ سے پڑھیں۔ دعا یہ ہے:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ عَدَدَ خَلۡقِهٖ	تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے لئے
وَرِضَا نَفۡسِهٖ وَزِنَةَ عَرۡشِهٖ وَمِدَادَ کَلِمٰتِهٖ	ہے ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات کے
اَللّٰهُمَّ لَا اُحۡصِیۡ ثَنَاءً عَلَیۡكَ اَنۡتَ كَمَا	اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے

---

❶ ترتیب قرآن میں یہ سورت پہلی دونوں سورتوں سے مقدم ہے۔ مگر اول تو نوافل میں فقہاء نے اس قسم کی گنجائش فرمائی ہے، دوسرے نوافل کا ہر شفعہ مستقل نماز کا حکم رکھتا ہے اور اس شفعہ کی دونوں صورتیں آپس میں مرتب ہیں۔ اس لئے کوئی کراہت نہیں۔ ھکذا فی الکوکب الدری وھامشہ

❷ ترمذی، باب فی دعاء الحفظ، ۳۵۷۰

اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَاشِمِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ ط

موافق ہو، اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو، اس کے کلمات کی سیاہیوں کے برابر ہو۔ اے اللہ! میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود بیان کی، اے اللہ! ہمارے سردار نبی امی اور ہاشمی پر درود وسلام اور برکات نازل فرما اور تمام نبیوں اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی، اے ہمارے رب! ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے رب! تو مہربان اور رحیم ہے۔ اے الہ العالمین! میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیشک تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو حضور اقدس ﷺ نے حدیث بالا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی اور وہ یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ

اے الہ العالمین! مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما،

الَّتِيْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ وَارْزُقْنِيْ اَنْ اَقْرَأَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِيْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِيْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِيْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِيْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِيْ فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِيْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

اے اللہ! زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ! اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھا دی اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کردے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جاوے، اے اللہ! زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن، اے اللہ! اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کردے اور میری زبان کو اس پر جاری کردے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کردے اور میرے سینے کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق پر تیرے سوا میرا

کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ
آرزو کوئی پوری نہیں کرسکتا اور گناہوں
سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی،
مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔

پھر حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! اس عمل کو تین جمعہ یا پانچ جمعہ یا سات جمعہ کر، انشاء اللہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کسی مومن سے بھی قبولیتِ دعا نہ چوکے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو پانچ یا سات ہی جمعہ گزرے ہونگے کہ وہ حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! پہلے میں تقریباً چار آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھیں اور اب تقریباً چالیس آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہو جاتی ہیں کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو ذہن میں نہیں رہتی تھیں اور اب احادیث سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔

حق تعالیٰ شانہ اپنے نبی ﷺ رحمت کے طفیل مجھے بھی قرآن وحدیث کے حفظ کی توفیق عطا فرماویں اور تمہیں بھی۔ **وَصَلَّى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ**

تَکْمِلَه

اوپر جو چہل حدیث لکھی گئی ہے وہ ایک خاص مضمون کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ سے اس میں اختصار کی رعایت نہیں ہو سکی۔ اس زمانے میں چونکہ ہمتیں نہایت پست ہوگئی ہیں، دین کے لئے کسی معمولی سی مشقت کا بھی برداشت کرنا گراں ہے، اس لئے اس جگہ ایک دوسری چہل حدیث نقل کرتا ہوں جو نہایت ہی مختصر ہے اور نبی کریم ﷺ سے ایک ہی جگہ منقول ہے، اس کے ساتھ ہی بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ مہمات دینیہ کو ایسی جامع ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، ''کنز العمال'' میں قدمائے محدثین کی ایک جماعت کی طرف اس کا

انتساب کیا ہے اور متاخرین میں سے مولانا قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والے حضرات کم از کم اس کو ضرور حفظ کرلیں کہ کوڑیوں میں لعل (موتی) ملتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے:

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا نِ الَّتِيْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ اُمَّتِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ وَتُصَلِّيَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَا تَتْرُكُهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَّلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَأْكُلْ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفْ بِاللّٰهِ كَاذِبًا وَلَا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زُوْرٍ وَلَا تَعْمَلْ بِالْهَوٰى وَلَا تَغْتَبْ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْذِفِ الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَغُلَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبْ وَلَا تَلْهُ مَعَ اللَّاهِيْنَ وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيْرِ يَا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ عَيْبَهٗ وَلَا تَسْخَرْ بِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاَخَوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى نِعْمَتِهٖ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَآءِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَأْمَنْ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَلَا تَقْطَعْ اَقْرِبَائَكَ وَصِلْهُمْ وَلَا تَلْعَنْ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَلَا تَدَعْ حُضُوْرَ الْجُمْعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ۔

رواہ الحافظ ابو القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندۃ والحافظ ابو الحسن علی بن ابی القاسم بن بابویہ الرازی فی الاربعین۔ وابن عساکر، فی تاریخہ، باب حرف المیم فی آباء من اسمہ علی، (۱۴۵/۴۳)۔ **والرافعی، عن سلمان** فی کتابہ، التدوین فی اخبار قزوین، باب العین، (۳۷۲/۳)۔

ترجمہ: سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ چالیس حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کو یاد کرلے جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) اللہ پر ایمان لاوے یعنی اس کی ذات وصفات پر۔ (۲) اور آخرت کے دن پر۔ (۳) اور فرشتوں کے وجود پر۔ (۴) اور کتابوں پر۔ (۵) اور تمام انبیاء علیہم السّلام پر۔ (۶) اور

مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ (۷) اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ (۸) اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم ﷺ اس کے سچے رسول ہیں۔ (۹) ہر نماز کے وقت کامل وضو کرکے نماز کو قائم کرے، کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لئے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو کہ یہ مستحب ہے اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے، چنانچہ دوسری روایت میں وارد ہے، ”اِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ۔“ یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا کہ کسی قسم کی کجی یا درمیان میں خلا نہ رہے ❶، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ (۱۰) زکوٰۃ ادا کرے۔ (۱۱) اور رمضان کے روزے رکھے۔ (۱۲) اگر مال ہو تو حج کرے یعنی جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، چونکہ اکثر مانع مال ہی ہوتا ہے اس لئے اسی کو ذکر فرمادیا ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کے شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرے۔ (۱۳) بارہ رکعات سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے، اس کی تفصیل دوسری روایات میں اس طرح آتی ہے کہ صبح سے پہلے دو رکعت، ظہر سے قبل چار، ظہر کے بعد دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت۔ (۱۴) اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے۔ (چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے اس لئے اس کو تاکیدی لفظ سے ذکر فرمایا) (۱۵) اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ (۱۶) اور والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ (۱۷) اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاوے، یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو، جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو مضائقہ نہیں۔ (۱۸) اور شراب نہ پیئے۔ (۱۹) زنا نہ کرے۔ (۲۰) جھوٹی قسم نہ کھاوے۔ (۲۱) جھوٹی گواہی نہ دے۔ (۲۲) خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے۔ (۲۳) مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ (۲۴) عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے (اسی طرح عفیف مرد کو)۔ (۲۵) اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے۔ (۲۶) لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ (۲۷) تماشائیوں میں شریک نہ ہو۔ (۲۸) کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو، یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ

---

❶ (البخاری، کتاب الاذان، باب اقامۃ الصف من اقامۃ الصلوٰۃ: ۷۲۳، (۱/ ۱۴۵)

ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جاتا ہو، نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو جیسا کہ کسی کا نام بدھو پڑ جاوے تو مضائقہ نہیں، لیکن طعن کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ (۲۹) کسی کا مذاق مت اڑا۔ (۳۰) نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر۔ (۳۱) اور ہر حال میں اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی نعمتوں پر اس کا شکر کر۔ (۳۲) بلا اور مصیبت پر صبر کر۔ (۳۳) اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو۔ (۳۴) اعزہ سے قطعِ تعلق مت کر۔ (۳۵) بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ (۳۶) اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر۔ (۳۷) سُبْحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ ان الفاظ کا اکثر ورد رکھا کر۔ (۳۸) جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ۔ (۳۹) اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف وراحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ (۴۰) اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑ۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کرلے اس کو کیا اجر ملے گا، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ وتقدّس اس کا انبیاء اور علماء کے ساتھ حشر فرمادیں گے۔

حق سبحانہ وتقدّس ہماری سیئات سے درگذر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرمائیں تو اس کی کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں، پڑھنے والے حضرات سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر سے اس سیہ کار کی بھی دستگیری فرماویں۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَکَّلْتُ وَاِلَیْہِ اُنِیْبُ۔

محمد زکریا کاندھلوی عفی عنہ
مقیم مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور، ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۴۸ھ پنجشنبہ

فضائلِ نماز

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدّسَ اللہ سِرُّہٗ

خطبہ و تمہید

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

نَحۡمَدُہٗ وَنَشۡكُرُہٗ وَنُصَلِّيۡ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡكَرِیۡمِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحۡبِہٖ وَاَتۡبَاعِہٖ الۡحُمَاةِ لِلدِّیۡنِ الۡقَوِیۡمِ، وَبَعۡدُ فَھٰذِہٖ اَرۡبَعُوۡنَةٌ فِيۡ فَضَائِلِ الصَّلٰوةِ جَمَعۡتُھَا اِمۡتِثَالاً لِاَمۡرِ عَمِّيۡ وَصِنۡوِ أَبِيۡ، رَقَاہُ اللّٰہُ اِلَی الۡمَرَاتِبِ الۡعُلۡیَا وَوَفَّقَنِيۡ وَاِیَّاہُ لِمَا یُحِبُّ وَیَرۡضٰی۔ اَمَّا بَعۡدُ:

اس زمانہ میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاجِ بیان نہیں، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہو گا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپروائی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت بارآور نہیں ہوتی، تجربہ سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے، اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ سے بے بضاعت کیلئے کافی ہیں، تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی الذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، یہ پاک الفاظ انشاء اللہ تعالیٰ ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام وصاحبِ کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے، نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے، اس لئے اس رسالہ میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ چونکہ نفسِ تبلیغ کے متعلق بندۂ ناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلۂ تبلیغ کا نمبر ۲ قرار دیکر فضائل نماز کے نام کیساتھ موسوم کرتا ہوں۔ وَمَا تَوۡفِیۡقِيۡ إِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیۡہِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡہِ اُنِیۡبُ

نماز کے بارے میں تین قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں: ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی، دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر لاپروائی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس لئے اس رسالہ میں تینوں

مضامین کی مناسبت سے تین باب ذکر کئے گئے ہیں اور ہر باب میں نبی اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا، مگر ترجمہ میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے، لفظی ترجمہ کی زیادہ رعایت نہیں، نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لئے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عربی میں لکھ دیئے گئے ہیں، کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اور ترجمہ و فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیئے گئے ہیں۔

☆☆☆☆☆

باب اول

نماز کی اہمیت کے بیان میں

اس باب میں دو فصلیں ہیں: فصل اول میں نماز کی فضیلت کا بیان ہے اور دوسری فصل میں نماز کے چھوڑنے پر جو وعید اور عتاب حدیث میں آیا ہے، اس کا بیان ہے۔

فصل اول

نماز کی فضیلت کے بیان میں

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ، وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔

(متفق عليه)

وقال المنذري في الترغيب، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوٰت الخمس، ۵۲۱، (۱/۱۴۲)۔ **رواه البخاري**، كتاب الإيمان، باب بنى الإسلام على خمس: ۸، (۱/۱۲)۔ **ومسلم**، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الاسلام: ۱۱۳، (۱/۱۳۰)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے، سب سے اول لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

ف: یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم اَرکان ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو پانچ ستونوں پر قائم ہوتا ہے، پس کلمۂ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں اَرکان بمنزلہ ان چار ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں، اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو، تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا لیکن جونسے کونے کی لکڑی نہیں ہو گی وہ جانب

ناقص اور گری ہوئی ہو گی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیئے، کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کونسا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے، اسلام کے یہ پانچوں ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کیلئے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد ❶۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیثِ صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے ”اَلصَّلٰوۃُ خَیْرُ مَوْضُوْعٍ“ ❷۔ یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کیلئے مقرر فرمایا، وہ نماز ہے۔ اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان، ابن عمرو، سلمہ، ابو امامہ، عُبادہ رضی اللہ عنہم، پانچ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ عنہما سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے ❸۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور امِ فروہ رضی اللہ عنہا سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے، مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔

(۲) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي الشِّتَآءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ شَجَرَةٍ، قَالَ:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے

---

❶ بخاری، کتاب مواقیت الصلوٰۃ، باب فضل الصلوٰۃ لوقتھا: ۵۲۷

❷ (المعجم الاوسط، باب الالف من اسمہ محمد: ۴۳، (۱/۸۴)

❸ ابو داؤد، باب المحافظہ علی وقت الصلوٰۃ: ۴۲۶

فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَقَالَ: يَا أَبَاذَرٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ۔

(حسن بالشواهد)

رواه أحمد بإسناد حسن، أخرجه أحمد في مسنده في حديث أبي ذر الغفاري بلفظ: خرج زمن الشتاء، : ۲۲۱۷۷، (۵۷۳/۸-۵۷۴) من طبعة، دار الكتب۔ **كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب فی الصلوٰة، : ۳۸۴، (۱/۱۹۷)۔

درختوں پر سے گر رہے تھے، آپ ﷺ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لے لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے، آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوذر! مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں، جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔

ف: سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعضے درختوں پر ایک بھی پتہ نہیں رہتا، نبی اکرم ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا، مگر ایک بات قابلِ لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہِ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لئے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے، البتہ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔

(۳) عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ رضی اللہ عنہ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ غُصْنًا مِّنْهَا يَابِسًا فَهَزَّهٗ حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهٗ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ، أَلَا تَسْأَلُنِيْ لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا؟ قُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهٗ؟ قَالَ: هٰكَذَا فَعَلَ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا مَعَهٗ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَ أَخَذَ

ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کیساتھ ایک درخت کے نیچے تھا انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان! تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا: بتا دیجئے،

مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا، فَهَزَّهٗ حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهٗ، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، أَلَا تَسْأَلُنِيْ لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا؟ قُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهٗ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلٰوتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّ هٰذَا لْوَرَقُ، وَقَالَ: اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ؕ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ۔

(صحيح بالشواهد والمتابعات)

رواه أحمد، في مسنده، في حديث سلمان الفارسي: ۲۴۳۵۰، (٦١١/٩) من طبعة دار الكتب۔ **والنسائي، والطبراني** في الكبير، باب السين، سهل بن حنظلة، : ٦١٥١، (١٥٦٥/٥)۔ و **رواة أحمد** محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زيد **كذا في الترغيب**۔

کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ ﷺ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے، پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان! پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے، کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں، پھر آپ نے قرآن کی آیت ﴿اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کیلئے۔

ف: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تَعَشُّق کی ادنیٰ مثال ہے، جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے، جو لوگ

محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے، جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے، پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے، علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جیسا پہلے معلوم ہو چکا ہے، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہیں ارشاد فرمائی تھیں: ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو، اولاً اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گیا، تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے، مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضیٰ یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے اس کو چین نہ آئے، البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات (دھیان) نہیں ہوتا ہے اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا اور نماز میں أَلتَّحِيَّاتُ کی اخیر دعا "اَللّٰهُمَّ إِنِيِّ ظَلَمْتُ نَفسِيْ" میں تو توبہ و استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے، مثلاً ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے، ستر درجہ افضل ہے ❶۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں دس فائدے ہیں: (۱) منہ کو صاف کرتی ہے۔ (۲) اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ (۳) شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ (۴) مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ (۵) مسوڑھوں کو قوت

---

❶ مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطہارۃ، باب في السواک، ۱۸۰۳، (۱/۱۵۶)

دیتی ہے۔ (۶) بلغم کو قطع کرتی ہے۔ (۷) منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ (۸) صفرا کو دور کرتی ہے۔ (۹) نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ (۱۰) منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے❶ (منبہات ابن حجرؒ)۔

علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں ستر (۷۰) فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمۂ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں ستر (۷۰) مضرّتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے اور اس سے حضور ﷺ فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔

(۴) عَنْ اَبِی هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ؟ قَالُوْا: لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ۔ قَالَ: فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر نہر جاری ہو جسمیں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔

(متفق علیه)

رواه البخاري في كتاب الصلوة، باب الصلوات الخمس كفارة، : ۵۰۵، (۱/۱۹۷)۔ **ومسلم** في كتاب الصلوة، باب المشي الى الصلوة: ۱۵۲۰، (۵/۱۷۳)۔ **والترمذي** في أبوب الامثال، باب مثل الصلوات الخمس: ۲۸۶۸، (۶/۱۵۱)۔ **والنسائي** في، سننه في كتاب الصلوة، باب فضل الصلوات الخمس: ۶۲، (۱/۲۳۰)۔ **كذافي الترغيب**، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الصلوة: ۳۵۲، (۱/۱۸۷)۔

(۴ - ب) عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال

---

❶ الغرائب الملتقط، ۲۲۳۵

الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ
عَلٰى بَابِ اَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ
يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ۔

ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر
ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس
میں روزانہ پانچ دفعہ غسل کرے۔

(صحیح)

رواه مسلم في كتاب الصلوٰة، باب المشي الى الصلوٰة: ۱۵۲۱، (۱۷۳/۵) **كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوات الخمس، :۳۵۶، (۱۸۹/۱)۔

ف: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا، اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اسی لئے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئیگی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں، تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے، جس قسم کا مضمون ان دو حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کیلئے کفارہ ہیں❶، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے، جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں پانچ نہریں پڑتی ہیں، جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے پانچوں نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے، اس لئے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون

---

❶ مسلم، کتاب الطهارة، باب الصلوٰة الخمس، ۲۳۳، (۲۰۹/۱)

کو واضح فرمادیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کا مقتضٰی یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کئے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم پر قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتادیا، اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا①، کیا ٹھکانا ہے اللہ کی دَین اور عطا کا؟ اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔

(۵) عَنْ حُذَيْفَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهٗ أَمْرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ۔

(ض)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔

أخرجه أحمد في مسنده، في مسند حذيفة بن اليمان: ۲۳۹۴۳، (۴۹۶/۹)۔ **وأبوداود** في كتاب الصلوٰة، باب قيام النبی صلی اللہ علیه وسلم من الليل: ۱۳۱۳، (۲۰۴/۲)۔ **وابن جرير** في تفسيره تحت الاية: ۴۵، البقرة۔ **كذا في الدر المنثور** تحت الآية: ۴۵، البقرة۔

ف: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لئے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور جب رحمت الٰہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی، مسجد سے نہ نکلتے②۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً

---

① ابو داود، کتاب الصلوہ، ابواب قیام اللیل، ۱۳۱۴، (۲/ ۳۴)

② المطر والرعد لابن ابی الدنیا، ۱۳۱

نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ❶۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اونٹ سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی پھر "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور قرآن پاک کی آیت ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ (البقرة: ۴۵) تلاوت کی ❷۔

ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کے بھائی قُثم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی، راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی اور التحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے، اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ﴾ تلاوت فرمائی ❸۔ (ترجمہ) اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آرہا ہے، انہیں کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدہ میں گر گئے، کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدہ میں (یعنی نماز میں) مشغول ہو جاؤ، اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو گا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا ❹۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے، ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے اور جب میری روح نکل جائے، تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لئے کہ اللہ جل شانہ نے ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا ❺۔ حضرت ام

---

❶ مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عباس، ۱۸۹۳۷

❷ شعب الایمان، الباب السبعون فی الصبر، ۹۶۸۲

❸ تفسیر سنن سعید بن منصور، ۲۲۹، (۱/۲۷۰)

❹ ابو داود، ابواب الوتر، ۱۱۹۷، (۱/۳۱۱)

❺ شعب الایمان، فصل فی ستره علی نفسه، ۹۲۳۴

کلثوم رضی اللہ عنہا خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کی سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا، حضرت ام کلثومؓ اٹھیں اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئیں تو حضرت عبد الرحمنؓ کو بھی افاقہ ہوا، لوگوں سے پوچھا: کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو اَحکَمُ الحَاکِمِینَ کی بارگاہ میں تمھارا فیصلہ ہونا ہے، وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں، اس کے بعد ایک مہینہ تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا ❶۔

حضرت نضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑتا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دریافت کیا کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا: خدا کی پناہ! حضور ﷺ کے زمانہ میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی، تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آگئی ❷۔ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ﴿وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا﴾ (طہ: ۱۳۲) الآیہ۔ (ترجمہ) اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے ❸۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو، یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، تو انشاء اللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہو گی ❹، دعا یہ ہے:۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، ۳۰۶۶

❷ ابو داود، کتاب الصلوۃ، باب الصلوٰۃ عند الظلمۃ، ۱۱۹۶، (۱/۳۱۱)

❸ شعب الایمان، کتاب الصلوۃ، باب تحسین الصلوۃ، ۲۹۱۱

❹ ترمذی، باب فی صلوۃ الحاجۃ، ۴۷۹، (۲/۳۴۴)

الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُکَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِکَ، وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِکَ، وَالْغَنِيْمَةِ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَّا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهٗ، وَلَّا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهٗ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَکَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

وھب بن مُنَبِّہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا، کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک قلی تھا، جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جارہا تھا، راستہ میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا: فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کرلے؟ قلی نے اس کو منظور کرلیا وہ سوار ہوگیا، راستہ میں ایک دوراہا ملا، سوار نے پوچھا: کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے شارع عام کا راستہ بتایا، سوار نے کہا: یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لئے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا: میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا: میں بارہا اس راستہ پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا: اچھی بات ہے، اسی راستہ کو چلیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہوگیا، جہاں بہت سے مردے پڑے تھے، وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا، کہ ایسا نہ کر۔ یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر، اس نے نہ مانا اور قسم کھالی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ لوں گا، اس نے بہت عاجزی کی، مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا: اچھا مجھے دو رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا: جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کررہا تھا کہ جلدی ختم کر، بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، ﴿**اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ**﴾۔ (النمل:

۶۲)۔ الآیہ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا، جس کے سر پر چمکتا ہوا خَود (لوہے کی ٹوپی) تھا، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا، جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے، یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو؟ کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں، اب تم مامون (امن میں) ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا①۔

در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکونِ قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور دو رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے، تو میں دو رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لئے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور دو رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو (یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو)، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں②۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہو گا③۔

(۶) عَنْ اَبِیْ مُسْلِمٍ التَّغْلَبِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰی اَبِیْ اُمَامَةَ وَهُوَ فِی الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: یَا اَبَا اُمَامَةَ: اِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِیْ مِنْكَ اَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّاَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، غَسَلَ یَدَیْهِ وَوَجْهَهٗ، وَمَسَحَ عَلٰی رَاْسِهٖ وَاُذُنَیْهِ، ثُمَّ قَامَ اِلٰی صَلٰوةٍ

ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز

---

① نزہۃ المجالس ② مسند احمد، حدیث ابی امامہؓ، ۲۲۱۶۷ ③ شعب الایمان، ۸۳۸۵

مَّفْرُوْضَةٍ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ فِی ذٰلِكَ الْیَوْمِ مَا مَشَتْ اِلَیْهِ رِجْلَاهُ، وَقَبَضَتْ عَلَیْهِ یَدَاهُ، وَسَمِعَتْ اِلَیْهِ اُذُنَاهُ، وَنَظَرَتْ اِلَیْهِ عَیْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهٖ نَفْسُهٗ مِنْ سُوْءٍ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُهٗ مِنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا۔

(صحيح بالمتابعة والشواهد)

رواه أحمد بلفظة: مرارا، مكان: "مالا احصيه"، مسند ابى أمامة الباهلي،: ۲۲۹۱۰، (۹/۲۲۰) **من طبعة دار الكتب۔ والغالب على سنده الحسن، وتقدم له شواهد في الوضوء كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوٰة: ۲۰۹، (۱/۱۰۹)۔ قلت: وقد روى معنى الحديث عن ابى أمامة بطريق في مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء،: ۱۱۲۵، (۱/۵۱۶)

پڑھے، تو حق تعالیٰ جل شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہیں، اور وہ گناہ جن کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم ﷺ سے کئی دفعہ سنا ہے۔

ف: یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان، حضرت ابوہریرہ، حضرت انس، حضرت عبد اللہ صُنابحی، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہم، وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں، ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کونسا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ "کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے" ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لئے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں، ان کو اگر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف وکرم سے قبول فرما لیں تو ان کا لطف، احسان وانعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس

---

① ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ثواب الطہور، ۲۸۵،(۱/۱۰۵)

وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کریں در گزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے در گزر کرنے کو کہہ دیا ہے، جان جان کر اس کی نافرمانیاں کریں۔

(۷) عَنِ ابي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ۔ حَيٌّ مِّنْ قُضَاعَةِ۔ اَسْلَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتُشْهِدَ اَحَدُهُمَا، وَاُخِّرَ الْاٰخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: فَرَاَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، اُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ، فَاَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَوْ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: اَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهٗ رَمَضَانَ، وَصَلّٰى سِتَّةَ اٰلَافِ رَكْعَةٍ، وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلٰوةَ سَنَةٍ۔

(صحیح بالشواہد)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک قبیلہ کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئیں۔

رواه أحمد بإسناد حسن في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة،: ۱۴۱۹، (۴۵۲/۱)۔ **ورواه ابن ماجه** في كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا،: ۳۹۲۵، (۱۲۹۳/۲)۔ **وابن حبان في صحيحه**، كتاب الجناءز، فصل في أعمال هٰذه الا مة،: ۲۹۸۲، ص (۲۴۸/۷)۔ **والبيهقي في شعب الإيمان**، الباب الحادي عشر، فصل في صلوات وما في أدا ءهن،: ۲۵۵۷، ص (۳۰۴/۴) كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه۔ **وزاد ابن ماجه وابن حبان في اٰخره: "فلما بينهما اطول ما بين السماء والا رض"۔ كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوات الخمس،: ۵۴۸، (۱۴۹/۱)۔ ولفظ أحمد في النسخة التي بايدينا: الخمس،: "او كذا و كذا ركعة" بلفظ: او۔ وفي الدر تحت الاية: **۲۵۳**، البقرة: أخرجه مالک في المؤطا، كتاب النداء للصلوٰة، باب جامع الصلوٰة،: ۶۰۰، (۲۷۳/۲)۔ **وأحمد۔۔۔۔۔ والنسائي** في الكبرىٰ، كتاب

الجناٸز، باب الدعاء، : ۲۱۲۳، (۲/۴۴۷)۔ وابن خزيمة في كتاب الصلوٰة باب فضائل الصلوات الخمس: ۳۱۰، (۱/۱۶۰)۔ **والحاكم** في كتاب الصلوٰة، باب في فضل الصلوات الخمس، : ۷۱۸، (۱/۳۱۶) **وصححه، وأقر عليه الذهبي۔ والبيهقي في شعب الإيمان**، عن عامر بن سعد، قال: ”سمعت سعدا وناسا من الصحابة، يقولون: كان رجلأن أخران في عهد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الأخر فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الأخر بعده أربعين ليلة“ الحديث، قد مر تخريجه۔۔ وقد أخرج أبو داود بمعنى حديث الباب، من حديث عبيد بن خالد، بلفظ: ”قتل أحدهما ومات الأخر بعده بجمعة“ الحديث، قد مر تخريجه۔

ف: اگر ایک سال کے تمام مہینے انیتس دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی بیس رکعتیں شمار کی جائیں، تب بھی چھ ہزار نو سو ساٹھ رکعتیں ہوتی ہیں اور جتنے مہینے تیس دن کے ہوں گے بیس بیس رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کئے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔

ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے، اس میں حضرت طلحہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ جو خواب دیکھنے والے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو آدمی حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے، ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں، اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا، اندر جانے کی اجازت ہو گئی اور جو صاحب شہید ہوئے تھے، وہ کھڑے رہ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمھارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔

میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی؟ آخر حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا: بے شک کی۔ ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے پورے ایک رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا

گیا: بیشک رکھے۔ ارشاد فرمایا: کیا انہوں نے اتنے اتنے سجدے ایک سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیئے؟ عرض کیا گیا: بیشک کیئے، حضور ﷺ نے فرمایا: پھر ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا①۔

اس نوع کے قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داؤد شریف میں دو صحابہ رضی اللہ عنہما کا قصہ اسی قسم کا صرف آٹھ دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال ایک ہفتہ بعد ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے②۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور ﷺ کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک چالیس روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا چالیس روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بیشک مسلمان تھے، مگر معمولی درجہ میں تھے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمھیں کیا معلوم کہ ان چالیس دن کی نمازوں نے ان کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے، جو دروازہ پر جاری ہو اور آدمی پانچ دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن میں کیا میل رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد دوبارہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمھیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے جو بعد میں پڑھی گئیں، اس کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے③۔

(۸) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضی اللہ عنہ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهٗ قَالَ: يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلٰوةٍ، فَيَقُوْلُ: يَا بَنِيْ اٰدَمَ، قُوْمُوْا فَاَطْفِئُوْا مَا اَوْقَدْتُمْ عَلٰى اَنْفُسَكُمْ، فَيَقُوْمُوْنَ، فَيَتَطَهَّرُوْنَ،

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد! اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے (گناہوں کی بدولت) اپنے اوپر جلانا شروع

---

① ابن ماجہ، کتاب تعبیر الرؤیا، باب تعبیر الرءیا، ۳۹۲۵

② کتاب الجہاد، ۲۵۲۴، (۳/۱۶)

③ مؤطا امام مالک، باب النداء، ۶۰۰

وَيُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ، فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، فَيَنَامُوْنَ، فَمُدْلِجٌ فِيْ خَيْرٍ، وَمُدْلِجٌ فِيْ شَرٍّ۔

(ض)

رواه الطبراني في الكبير، باب العين: ۱۰۲۵۲، (۸/۲۵۷۰)۔ **كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوات الخمس: ۳۵۹، (۱/۱۸۹)۔

کر دیا ہے، بجھاؤ، چنانچہ (دیندار لوگ) اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی (صبح سے ظہر تک کی) مغفرت کر دی جاتی ہے، اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، (غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے) عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں (زناکاری، بدکاری، چوری، وغیرہ) کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں (نماز، وظیفہ، ذکر، وغیرہ) کی طرف چلنے لگتے ہیں۔

ف: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گذرا، اس لئے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (الهود: ۱۴۵) جیسا کہ حدیث نمبر ۳ میں گذرا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے، تو تمام آدمی تین جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں: ایک وہ جماعت ہے جس کیلئے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت

سمجھتے ہیں اور جب لوگ اپنے اپنے راحت وآرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کیلئے اجر وثواب بن جاتی ہے، دوسری وہ جماعت ہے جس کیلئے رات وبال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے اس کیلئے نہ وبال ہے نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا①۔

(۹) عَنْ اَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اِنِّيْ افْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلٰوٰتٍ، وَعَهِدْتُّ عِنْدِيْ عَهْدًا اَنَّهٗ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ، اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ فِيْ عَهْدِيْ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهٗ عِنْدِيْ۔

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمھاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔

(حسن بالشواهد)

كذافي الدرالمنثور، تحت الآية: ۲۵۳، البقرة۔ برواية ابی داود، كتاب الصلوٰة، باب في المحافظة على وقت الصلوات: ۴۲۸، (۱/۳۵۲)۔ **وابن ماجه،** كتاب إقامة الصلوٰة، باب ما جاء في فرض الصلوات ا: ۱۴۰۳، (۱/۴۵۰)۔ وفيه أيضا: أخرج مالک في كتاب صلوٰة الليل، باب الامر بالوتر: ۱۴، (۱/۱۲۳)۔ **وابن ابی شيبة** في مصنفه في كتاب الصلوٰة، باب من قال: الوتر واجب،: ۶۹۲۳، (۲/۲۶۹)۔ **وأحمد و أبو داود،** قد مر التخريج۔ **والنسائي** في سننه في كتاب الصلوٰة، باب المحافظه على الصلوات الخمس: ۴۶۱، (۱/۲۳۰)۔ **وابن ماجه،** قد مر۔ **وابن حبان** في كتاب الصلوٰة، باب فضل صلوات الخمس،: ۱۷۳۲، (۵/۲۳)۔ **والبيهقي** في السنن الصغرىٰ، كتاب الصلوٰة، باب مواقيت الصلوٰة،: ۲۶۴، (۱/۱۹۴) عن عبادة بن الصامت، فذكر معنى حديث الباب مرفوعا، بأطول منه۔

ف: ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپروائی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع وخضوع سے پڑھے، حق تعالیٰ شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا

---

① المعجم الكبير، سلمان الفارسی، ۶۰۵۱

کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائیں، چاہے عذاب دیں❶۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے، یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے، یا کسی قسم کی ضمانت کر لے، تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپروائی کرتے ہیں، اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔

(۱۰) عَنِ ابْنِ سَلْمَانَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهٗ، قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ، اَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبِيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَاءِمَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَّا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهٗ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْوَادِيْ۔ قَالَ: وَيْحَكَ! وَمَا رَبِحْتَ؟ قَالَ: مَا زِلْتُ أَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلٰثَ مِائَةِ اُوْقِيَةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ۔ قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ۔

(ض)

أخرجه ابوداود، كتاب الجهاد، باب التجارة في الغزو، : ۲۷۸۵،

ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے، تو لوگوں نے اپنے مالِ غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے اور خرید و فروخت شروع ہو گئی، (کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) اتنے میں ایک صحابیؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہ مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور! میں سامان خریدتا اور بیچتا رہا جس میں تین سو اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

---

❶ ابو داود، کتاب الصلوۃ، باب فی المحافظہ علی الصلوۃ ۴۲۵، (۱/۱۱۵)

(۳۵۲/۳)۔ وسکت عن اخراج هذا الحديث المنذري۔

نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا: حضور! ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دو (۲) رکعت نفل۔

ف: ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً چار آنہ کا، تو اس حساب سے تین ہزار روپیہ ہوا، جس کے مقابلہ میں دو جہاں کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا۔ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور دو رکعت نماز کے مقابلہ میں تین ہزار روپے کی وقعت نہ رہے، تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت، اسی وجہ سے حضور اقدس، سید البشر فخر رُسُل نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے ❶۔ متعدد حدیثوں میں اس کی وصیت مذکور ہے، منجملہ ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی ❷۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا ❸۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کیلئے لشکر بھیجا، جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مالِ غنیمت لے کر آیا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہیں، آفتاب نکلنے کے بعد (جب مکروہ وقت جو تقریباً بیس منٹ رہتا ہے، نکل جائے) تو دو

---

❶ ابن ماجہ، کتاب الوصایا، ۲۶۹۸، (۹۰۱/۲)

❷ ابن ماجہ، کتاب الجنائز، ۱۶۲۵، (۵۱۹/۱)

❸ مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۵۸۵

رکعت (اشراق کی) نماز پڑھیں، یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں[۱]۔

حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے پانچ چیزیں تلاش کیں ان کو پانچ جگہ پایا: (۱) روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ (۲) اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ (۳) منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا، تو اس کو قرأت میں پایا۔ (۴) پل صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقہ میں پایا۔ (۵) عرش کا سایہ خلوت میں پایا[۲]۔ حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے تبرکاً چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہو گا[۳]۔ (۲) نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو[۴]۔ (۳) آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے[۵]۔ (۴) اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے، وہ مومن ہے[۶]۔ (۵) حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے، تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے، فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں[۷]۔ (۶) نماز دین کا ستون ہے[۸]۔ (۷) نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے[۹]۔ (۸) نماز مومن کا نور ہے[۱۰]۔ (۹) نماز افضل جہاد ہے[۱۱]۔ (۱۰) جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹاتے ہیں[۱۲]۔

(۱۱) جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی

---

[۱] ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۶۱، (۵/۵۵۹)

[۲] نزہۃ المجالس

[۳] حلیۃ الاولیاء، (۵/۲۳۳)

[۴] شعب الایمان، ۱۰۵۴۲

[۵] ابن ماجہ، ۱۰۸۰، (۱/۳۴۲)

[۶] مسند الشہاب، ۱۶۵

[۷] الغرائب، ۴۳۸

[۸] شعب الایمان، ۲۸۰۷

[۹] الغرائب، ۱۹۵۹

[۱۰] ابن ماجہ، ۴۲۱۰

[۱۱] المعجم الکبیر، ۳۵۹

[۱۲] ابو داود، ۹۰۹

ہے[1]۔ (۱۲) اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی[2]۔ (۱۳) اللہ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرمادیا[3]۔ (۱۴) سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے[4]۔ (۱۵) اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے[5]۔ (۱۶) اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے[6]۔ (۱۷) جنت کی کنجیاں نماز ہیں[7]۔ (۱۸) جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو[8]۔ (۱۹) نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے[9]۔ (۲۰) نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں[10]۔ (۲۱) نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے (نماز کے ذریعہ سے) بنالے[11]۔ (۲۲) جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرمادیتے ہیں[12]۔ (۲۳) زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے[13]۔ (۲۴) جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرمالیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں[14]۔

(۲۵) جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے[15]۔ (۲۶) جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے[16]۔ (۲۷) جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو

---

[1] شعب الایمان، ۲۶۸۰
[2] سنن کبری للنسائي، ۳۰۷
[3] مسند احمد، ۷۹۲۷
[4] نسائي، ۶۱۱
[5] المعجم الاوسط، ۶۰۷۵
[6] مسلم، ۴۸۲
[7] شعب الایمان، ۲۴۵۵
[8] المعجم الکبیر، ۷۹۸۰
[9] الغرائب، ۹۰۵
[10] المعجم الاوسط، ۲۲۹۲
[11] الغرائب، ۱۹۲۳
[12] الاحاد والمثانی، ۲۰۴۰
[13] المعجم الکبیر، ۱۱۴۷۰
[14] کنز العمال، ۱۹۰۱۸
[15] تاریخ ابن عساکر، ۵۰۵۵
[16] کنز العمال، ۱۹۰۴۰

اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے جنت اس کیلئے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے[۱]۔ (۲۸) مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے[۲]۔ (۲۹) سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے[۳]۔ (۳۰) نماز ہر متقی کی قربانی ہے[۴]۔ (۳۱) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے[۵]۔

(۳۲) صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے[۶]۔ (۳۳) ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی چار رکعتوں کا[۷]۔ (۳۴) ظہر سے پہلے چار رکعتیں تہجد کی چار رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں[۸]۔ (۳۵) جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الٰہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے[۹]۔ (۳۶) افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں[۱۰]۔ (۳۷) میرے پاس حضرت جبرئیلؑ آئے اور کہنے لگے اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں (بھلا یا برا) اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغناء ہے[۱۱]۔ (۳۸) اخیر رات کی دو ۲ رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا[۱۲]۔ (۳۹) تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے، تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے[۱۳]۔ (۴۰) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد! تو دن کے شروع میں چار رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا[۱۴]۔

---

[۱] مسند أحمد، ۱۸۳۴۵
[۲] الغرائب، ۲۹۶۲
[۳] بخاري، ۷۵۳۴
[۴] مسند الشھاب، ۲۶۵
[۵] نسائي، ۶۱۱
[۶] ابن ماجہ، ۲۲۳۴
[۷] ترمذی، ۳۱۲۸
[۸] المعجم الاوسط، ۶۳۳۲
[۹] ابوداود، ۹۴۵
[۱۰] السنن الکبری، ۱۳۱۰
[۱۱] المعجم الاوسط، ۱۰۰۵۷
[۱۲] کنز العمال، ۱۲۷۸۲
[۱۳] ترمذی، ۳۵۴۹
[۱۴] ابوداود، ۱۲۸۹

حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں، چالیس ۴۰ کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے، تو چالیس حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو، اسی دولت کی وجہ سے حضور ﷺ نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی ❶ اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس ﷺ رات کا اکثر حصہ نماز میں ہی گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی ❷، متعدد احادیث میں ارشاد نبوی نقل کیا گیا: "إِتَّقُو اللّٰهَ فِي الصَّلٰوة"، "نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو" ❸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے ❹۔

ایک صحابیؓ کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور ﷺ کے پیچھے نیت باندھ لی، حضور ﷺ سورۂ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ سو آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا دو سو پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم ہی پر کریں گے، جب سورت ختم ہوئی تو حضور ﷺ نے کئی مرتبہ "أَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ" پڑھا اور سورۂ آلِ عمران شروع کر دی، میں سوچ میں پڑ گیا، آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں ہی گے، حضور ﷺ نے اس کو ختم فرمایا اور تین مرتبہ "أَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ" پڑھا اور سورۂ مائدہ شروع کر دی، اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم" پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا، اس کے بعد اسی طرح سجدہ میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى" بھی پڑھتے رہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورۂ اَنعام شروع کر دی، میں حضور ﷺ کے ساتھ نماز

---

❶ نسائی، باب حب النساء، ۳۹۴۰
❷ مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۵۸۸
❸ سنن ابی داود، باب فی حق المملوک، ۵۱۵۶
❹ بخاری، ۵۲۷

پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا ❶۔

پہلی رکعت میں تقریباً پانچ سیپارے ہوئے اور پھر حضور اقدس ﷺ کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے تھے ❷، ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہو نگی۔ انہیں وجوہ سے آپ ﷺ کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آجاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحٰق سبیعیؒ مشہور محدث ہیں، سو (۱۰۰) برس کی عمر میں انتقال فرمایا اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا، دو رکعتوں میں صرف دو سورتیں سورۂ بقرہ اور سورۂ آل عمران پڑھی جاتی ہیں، زیادہ نہیں پڑھا جاتا ❸۔ یہ دو سورتیں بھی پونے چار پاروں کی ہیں۔

محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑہ رہ گیا، اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ذرا سمجھاؤ، میں ایک مرتبہ اپنے دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اسے بلایا، وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا: چچا! شاید آپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں گے، چچا جان! میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لئے گئے، جب وہ بلائے گئے، تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، میرا عمل دن میں دوبار ان پر ظاہر ہوتا ہو گا، وہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے۔ چچا جان! ان جوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کئے، ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا، جن کو سن کر ہم لوگ متحیر رہ گئے، اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا، تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ رحمہ اللہ رحمةً واسعةً (نزہۃ)۔

اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں، جو رات کا

---

❶ مصنف عبد الرزاق، باب قرأت السور فی الرکعۃ، ۲۸۴۲

❷ نسائی، کتاب قیام اللیل، ۱۶۲۹

❸ تہذیب التہذیب، حرف العین، ۸/۸۵۸

اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں کی تبلیغ و تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے نامِ نامی سے کون شخص ہندوستان میں ناواقف ہو گا، ان کے ایک خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ارشاد فرمایا: کیا جنت میں نماز نہ ہو گی؟ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہو، وہ تو اعمال کے بدلہ کی جگہ ہے نہ کہ عمل کرنے کی، اس پر ایک آہ کھینچی اور رونے لگے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیونکر گزرے گی؟۔ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے پر مرمٹنے والوں کے طفیل اس روسیاہ کو بھی نواز دے تو اس کے لطفِ عام سے کیا بعید ہے۔

ایک پُر لطف قصہ پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجرؒ نے "مُنَبّہات" میں لکھا ہے: ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) خوشبو، (۲) عورتیں (۳) اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: آپ نے سچ فرمایا اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) آپ کے چہرہ کا دیکھنا (۲) اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا (۳) اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا سچ ہے اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) امر بالمعروف (۲) نہی عن المنکر (اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا) اور (۳) پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ نے سچ کہا اور مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: (۱) بھوکوں کو کھلانا (۲) ننگوں کو کپڑا پہنانا اور (۳) قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: آپ نے سچ فرمایا اور مجھے تین چیزیں پسند ہیں: (۱) مہمان کی خدمت (۲) گرمی کا روزہ (۳) دشمن پر تلوار۔ اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالیٰ شانہ نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ اگر میں (یعنی جبرئیل) دنیا والوں میں ہوتا، تو بتاؤں مجھے کیا پسند ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بتاؤ۔ عرض کیا: (۱) بھولے ہوؤں کو راستہ بتانا (۲) غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور (۳) عیال دار مفلسوں کی مدد کرنا۔

اور اللہ جل شانہ کو بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں: (اللہ کی راہ میں) طاقت کا خرچ کرنا، (مال سے ہو یا جان سے) اور (گناہ پر) ندامت کے وقت رونا اور فاقہ پر صبر کرنا۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ”زادُ المعاد“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرہ کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرحِ صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے۔ اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذابِ الٰہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمن سے قرب پیدا کرتی ہے۔ غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تاثیر ہے، نیز دنیا و آخرت کی مضرتوں کے دور کرنے میں اور دونوں جہان کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔

فصلِ دوم

نماز کے چھوڑنے پر جو وعید اور عتاب حدیث میں آیا ہے اس کا بیان

حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت سخت عذاب ذکر کئے گئے ہیں، نمونے کے طور پر چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کیلئے کافی تھا، مگر حضور اقدس ﷺ کی شفقت کے قربان کہ آپ نے کئی کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا، ان کی امت کہیں اس میں کوتاہی نہ کرنے لگے، پھر افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم حضور ﷺ کے اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور بے غیرتی اور بے حیائی سے اپنے کو امتی اور متبع رسول اور اسلام کا دھنی بھی سمجھتے ہیں۔

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: بَیْنَ الرَّجُلِ وَبَیْنَ الْکُفْرِ تَرْکُ الصَّلٰوۃِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔

(صحیح)

رواہ أحمد في مسندہٖ مسند جابربن عبداللّٰہ ولفظہ بین الرجل وبین الشرک اوالکفر: ۱۵۵۷۴، (۲۸۶/۶-۲۸۷)۔ ومسلم۔ کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوٰۃ: ۲۴۳، ص (۲۵۹/۲)۔ **وقال بین الرجل وبین الشر والکفر ترک الصلوۃ۔ ابوداود** کتاب السنۃ، باب في رد الارجاء: ۴۶۴۵، (۲۱۶/۱) **والنسائي لفظہ لیس بین العبدوبین الکفرالاترک الصلوۃ،** کتاب الصلوٰۃ، باب الحکم في تارک الصلوٰۃ: ۴۶۰، (۲۳۲/۱)۔ **والترمذی** ولفظہ وقال بین الکفروالایمان ترک الصلوۃ، ابواب الایمان، باب ماجاء في ترک الصلوٰۃ: ۲۶۱۸، (۱۳/۵)۔ **وابن ماجہ** ولفظہ قال بین العبد وبین الکفرترک الصلوۃ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ، باب ماجاء من ترک الصلوٰۃ: ۱۰۷۹، (۳۴۲/۱)۔ **کذا في الترغیب** للمنذری، کتاب الصلوٰۃ، باب من ترک الصلوٰہ متعمدا: ۸۰۷، (۲۱۳/۱)۔ وقال السیوطی في الدرتحت الآیۃ ۲۵۳، البقرۃ۔ حدیث جابرأخرجہ ابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا، باب۔۔۔: ۳۱۰۳۳، (۳۴/۱۱)۔ **وأحمد۔۔۔ومسلم۔ وابوداود۔ والترمذی والنسائي، وابن ماجہ** ثم قال وأخرج ابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا: ۳۱۰۳۵، (۳۴/۱۱)۔ وأحمد۔۔۔وابوداود والترمذی، ابواب الایمان، باب ماجاء في ترک الصلوٰۃ: ۲۶۲۱، (۱۳/۵)۔ وصححہ والنسائي، کتاب الصلوٰۃ، باب الحکم في تارک الصلوٰۃ: ۴۶۳، (۲۳۱/۱)۔ **وابن ماجہ،** کتاب اقامۃ الصلوٰۃ، باب ماجاء في من ترک الصلوٰۃ: ۱۰۷۰، (۳۴۲/۱)۔ وابن حبان، کتاب الصلوٰۃ، باب ماجاء الوعید علی ترک الصلوٰۃ: ۱۴۵۴، (۳۰۵/۴)۔ **والحاکم وصححہ،** کتاب الایمان، ۱۱، (۴۸/۱)۔ **عن بریدہ مرفوعاً** العہدالذی بینناوبینہم الصلوۃ فمن ترکھافقد کفر۔

ف: اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے ①، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے، اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، گو علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مُقیّد فرمایا ہے، مگر حضور ﷺ کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور اقدس ﷺ کی وقعت اور حضور ﷺ کے ارشاد کی اہمیت ہو گی، اس کیلئے یہ ارشادات نہایت سخت ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہؓ جیسا کہ حضرت عمر، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات کا یہی مذہب ہے کہ بلا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحٰق بن راہوَیہ، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی

---

① صحیح ابن حبان، کتاب الصلوٰۃ، ۱۴۶۳، (۳۲۳/۴)

مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ **اَللّٰھُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ**

(۲) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ، قَالَ: اَوْصَانِیْ خَلِیْلِیْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ خِصَالٍ: فَقَالَ: لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا، وَّاِنْ قُطِّعْتُمْ اَوْ حُرِّقْتُمْ اَوْ صُلِّبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدِيْنَ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّهَا سَخَطُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبُوْا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا۔

حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سات نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے چار یہ ہیں: اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمھارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاویں، یا تم جلا دیئے جاؤ، یا تم سولی چڑھا دیئے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیئو، کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔

(لم اعثر على سنده وان كان الحديث مرويا بالفاظ اخر)

الحديث رواه الطبراني في الكبير، باب الميم: ۱۵۶، (۸۲/۲۰)۔ **ومحمد بن نصر في كتاب الصلوة بإسنادين لا باس بهما،** في باب ذكر إكفار تارك الصلوٰة: ۹۱۱، (۸۸۴/۲)، **كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب من ترك الصلوٰة متعمدا،: ۳۰۰، (۲۵۵/۱)۔ **وهكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور** تحت الآية: ۲۵۳، البقرة۔ وعزاه اليهما في المشكوٰة، كتاب الصلوٰة، الفصل الثالث،: ۵۸۰، (۱۸۳/۱)۔ **برواية ابن ماجه،** كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء،: ۴۳۴، (۱۳۳۹/۲)۔ **عن ابن ابی الدرداء نحوه۔)**

ف: ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی اس قسم کا مضمون نقل فرماتے ہیں، کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاویں، یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ شانہ بری الذمّہ ہیں۔ تیسری شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

(۳) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ، قَالَ: اَوْصَانِیْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ: لَا تُشْرِكْ

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فرمائی: (۱) یہ کہ اللہ کے

بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَّاِنْ قُتِلْتَ: اَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَا لِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَّكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإِنَّهٗ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ، وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَاِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى اَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا، وَاَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ۔

ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے، یا جلا دیا جائے۔ (۲) والدین کی نافرمانی نہ کرنا گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے، یا سارا مال خرچ کر دے۔ (۳) فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ (۴) شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ (۵) اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ (۶) لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ (۷) اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے، (جیسے طاعون وغیرہ) تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ (۸) اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ (۹) تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔

(حسن بالشواهد)

رواه أحمد في مسنده، مسند معاذ بن جبل عن معاذ: ۲۲۷۰۸، (۱۴۲/۹)۔ **والطبراني في الكبير**، في باب الميم: ۱۵۶، (۸۲/۲۰)۔ وإسناد أحمد صحيح، لو سلم من الانقطاع، فان عبد الرحمن ابن جبير لم يسمع من معاذ۔ كذا في الترغيب، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب من ترك الصلوٰة متعمدا: ۸۱۹، (۲۱۶/۱)۔ واليهما عزاه السيوطي في الدر تحت الآية: ۲۵۳،، البقرة۔ ولم يذكر الانقطاع، ثم قال: وأخراج الطبراني عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصنى فقال: لا تشرك بالله شيأ وإن قطعت أو حرقت، ولا تعص والديک، وإن أمراک أن تخلى من أهلک ودنياک فتخله ولا تشربن خمراً فانه مفتاح كل شر ولا تتركن صلوٰة متعمداً، فمن فعل ذالک فقد برأت منه ذمة الله ورسوله۔ المعجم الكبير، باب الميم،: ۴۷۹، (۱۹۰/۲۴)۔

ف:۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہوں کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدودِ شرعیہ کے تحت کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے، کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں، تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے

اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے، کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہو گی، عملِ جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے، منہ بنائے، بھاگے، بہر حال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔

بہت سی حدیثوں میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچہ کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو❶۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو❷۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کیلئے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لئے پانی❸۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے❹۔ ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر غلہ کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے❺۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے❻۔

(۴) عَنْ نَوْفَلَ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ۔

(متفق علیہ)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔

رواه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلوٰة، باب الزجر عن ترك المواظبة الأمر على الصلوات: ۲۵۲۲، (۳۳۹/۳)۔ **كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب من فوات العصر: ۴۸۱، (۲۲۷/۱)۔ **زاد السيوطي في الدر** تحت الآية: ۲۵۳، البقرة۔ **والنسائي ايضاً** في كتاب الصلوٰة، باب الصلوٰة العصر في السفر: ۴۷۸، (۲۳۷/۱)۔ **قلت: ورواه أحمد في مسنده،** مسند نوفل بن معاوية: ۲۴۵۱۶، (۲۶۳/۹)۔

ف: نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، گویا بال بچے اور مال و دولت

---

❶ ابو داود، کتاب الصلوٰۃ، ۴۹۴، (۱۳۳/۱)
❷ المعجم الکبیر، ۹۱۵۵
❸ الزھد لأحمد بن حنبل، زھد عیسی علیہ السلام، ۴۹۶،
❹ ترمذی، باب فی ادب الولد، ۱۹۵۱، (۳۳۷/۴)
❺ الغرائب، ۱۶۰۷
❻ ترمذی، ۱۹۵۲، (۳۳۸/۴)

سب ہی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج وصدمہ اس حالت میں ہو، اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آجائے کہ فلاں راستہ لُٹتا ہے اور جو رات کو اس راستہ سے جاتا ہے، تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستہ سے رات کو چلے، رات کو تو در کنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول ﷺ کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں، کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور ہم مسلمان حضور ﷺ کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے۔

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا۔

(ض)

رواه الحاكم في كتاب الإمامة، باب التأمين، : ۱۰۴۸، (۳۸۳/۱)۔ **وقال: حنش هو ابن قيس، ثقة**، وقال: الذهبي معقبا على توثيق الحاكم لحنش: بل ضعفوه۔ **وقال الحافظ: بل واه بمرة، لا نعلم أحدا أوثقه غير حصين بن نمير۔ كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب من ترک الصلوٰة، : ۳۱۴، (۲۶۰/۱)۔ **زاد السيوطي في الدر** تحت الآية: ۱۳۱، النساء، **والترمذي ايضا** في ابواب الصلوٰة، باب ما جاء في الجمع بين الصلوٰتين، : ۱۸۸، (۳۵۶/۱)۔ **وذكر في اللالى له شواهد**، اللالى المصنوعة، كتاب الصلوٰة، (۲۱/۲)۔ **وكذا في التعقبات**، باب الصلوٰة: ۵۱، ص (۹۰)۔ **وقال: الحديث أخرجه الترمذي وقال: حنش ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند اهل العلم فأشار بذٰلک الى أن الحديث اعتضد بقول اهل العلم، وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به، وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله** اه انظر تدريب الراوي۔

ف: حضرت علی کَرَّمَ اللهُ وَجْهَهٗ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کر: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے (یعنی فوراً نکاح کر دینا)❶۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی کئی نمازیں معمولی بہانہ سے، سفر کا ہو، دوکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آکر

---

❶ مسند احمد، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، ۸۲۸

اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ گناہِ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جاوے، گو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہوئی۔

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّ بُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَّهُ نُوْرٌ وَّلَا بُرْهَانٌ وَّلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہو گی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہو گی اور نجات کا سبب ہو گی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کیلئے قیامت کے دن نہ نور ہو گا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہو گی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، ہامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہو گا۔

(صحیح)

أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين وغيرهم: ٦٧٣٣، (٥٥٣/٣)۔ **وابن حبأن** في كتاب الصلوٰة، باب ذكر الزجر عن ترك المرء الى المحافظة: ٢٤٤٩، (٣٠١/٣)۔ **والطبراني** في الأوسط، باب من اسمه أحمد: ١٧٦٧، (٢١٣/٢)۔ **كذافي الدرالمنثور، للسيوطي** تحت الآية: ٢٥٣،، البقرة۔ **وقال الهيثمي** في مجمع الزوائد، كتاب الصلوٰة، باب فرض الصلوٰة: ١٦١١، (٢١/٢): **رواه أحمد والطبراني في الكبير**، باب العين: ١٦٣، (٦٧/١٣)۔ **والأوسط**، قد مر۔ **ورجال أحمد ثقات۔ وقال ابن حجرفي الزواجر**، تحت العنوان: الكبيرة السابعة والسبعون: تعمد تاخير الصلوٰة، ص (١٣٩): **أخرجه أحمد بسند جيد، وزادفيه: "قارون" ايضامع "فرعون" وغيره۔ وكذا زاده في منتخب الكنز، برواية ابن نصر**، كتاب الصلوٰة، الفصل الأول، (١٢٩/٣)۔ **والمشكوٰة ايضا**، كتاب الصلوٰة، الفصل الثالث: ٥٧٨، (١٢٧/١)۔ **برواية أحمد والدارمي**، كتاب الرقاق، باب المحافظ على الصلوٰة: ٢٧٢١، (٢٤٠/٢)۔ **والبيهقي في الشعب**، كتاب الصلوٰة، فصل في الصلوات: ٢٥٦٥، (٣١٢/٤)۔ **وابن القيم في كتاب الصلوٰة**، فصل في الاستدلال بالسنة، ص (٢٩)۔

ف: فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجہ کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ہامان اس کے وزیر کا نام ہے اور اُبَیّ بن خلف مکہ کے مشرکین میں سب سے بڑا سخت دشمنِ اسلام تھا، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر (نعوذ باللہ) تم کو قتل کروں گا، حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاء اللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ اُحد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس ﷺ کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو

میری خیر نہیں، چنانچہ حملہ کے ارادہ سے وہ حضور ﷺ کے قریب پہنچ گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو، جب وہ قریب ہوا تو حضور ﷺ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سے برچھا لیکر اس کو مارا، جو اسکی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آگیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑھکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلّاتا تھا کہ خدا کی قسم! مجھے محمد ﷺ نے قتل کر دیا، کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد (ﷺ) نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم! اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلّانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔

ابوسفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے، اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ محمد (ﷺ) کی مار ہے، مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے لات اور عُزّیٰ (دو مشہور بتوں کے نام ہیں) کی قسم! اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں، محمد (ﷺ) نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے، تو میں اس سے بھی مر جاتا، چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستہ میں ہی مر گیا①۔ ہم مسلمانوں کیلئے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور ﷺ کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور ﷺ کو نبی ماننے کے باوجود، حضور ﷺ کو سچا ماننے کے باوجود، حضور ﷺ کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور ﷺ کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور ﷺ کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور ﷺ نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر

---

① مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، سورہ الانفال، ٣٢٦٣

شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ''کتاب الزواجر'' میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہو گا اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ۔ اور وزارت (یعنی ملازمت یا مصاحبت) ہے تو ہامان کے ساتھ۔ اور تجارت ہے تو اُبَی بن خلف کے ساتھ ①۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیثیں مُتَکَلَّم فیہ ہوں، ان میں کوئی اِشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے اور وہ لوگ ہمیشہ کیلئے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔

(۷) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ أَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِخَمْسِ خِصَالٍ! يَرْفَعُ عَنْهُ ضِيْقَ الْعَيْشِ، وَعَذَابَ الْقَبْرِ، وَيُعْطِيْهِ اللّٰهُ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وَمَنْ تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلٰوةِ عَاقَبَهُ اللّٰهُ بِخَمْسَ عَشَرَةَ عُقُوْبَةً: خَمْسَةٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلٰثَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَثَلٰثٌ فِيْ قَبْرِهٖ، وَثَلَاثٌ عِنْدَ خُرُوْجِهٖ مِنَ الْقَبْرِ، فَأَمَّا اللَّوَاتِيْ فِي الدُّنْيَا: فَالْأُوْلٰى: تُنْزَعُ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ پانچ طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں: ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے (جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامۂ اعمال داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں

---

① الزواجر، کتاب الصلوٰۃ، (۱/۲۲۱)

الْبَرَكَةُ مِنْ عُمُرِهٖ، وَالثَّانِيَةُ، تُمْحٰى سِيْمَاءُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ وَجْهِهٖ، وَالثَّالِثَةُ: كُلُّ عَمَلٍ يَّعْمَلُهٗ لَا يَأْجُرُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَالرَّابِعَةُ: لَا يُرْفَعُ لَهٗ دُعَآءٌ إِلَى السَّمَاءِ، وَالْخَامِسَةُ: لَيْسَ لَهٗ حَقٌّ فِيْ دُعَآءِ الصَّالِحِيْنَ۔ وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ عِنْدَ الْمَوْتِ: فَإِنَّهٗ يَمُوْتُ ذَلِيْلًا، وَالثَّانِيَةُ: يَمُوْتُ جُوْعًا، وَالثَّالِثَةُ: يَمُوْتُ عَطْشَانًا، وَلَوْ سُقِيَ بِحَارَ الدُّنْيَا مَارُوِيَ مِنْ عَطْشِهٖ۔ وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ فِيْ قَبْرِهٖ: فَالْاُوْلٰى يَضِيْقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهٗ، وَالثَّانِيَةُ، يُوْقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ نَارًا فَيَتَقَلَّبُ عَلَى الْجَمْرِ لَيْلًا وَّنَهَارًا، وَالثَّالِثَةُ: يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فِيْ قَبْرِهٖ ثُعْبَانٌ اِسْمُهُ الشُّجَاعُ الْاَقْرَعُ، عَيْنَاهُ مِنْ نَّارٍ، وَاَظْفَارُهٗ مِنْ حَدِيْدٍ، طُوْلُ كُلِّ ظُفُرٍ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ، يُكَلِّمُ الْمَيِّتَ، فَيَقُوْلُ: اَنَا الشُّجَاعُ الْاَقْرَعُ، وَصَوْتُهٗ مِثْلُ الرَّعْدِ الْقَاصِفِ، يَقُوْلُ: اَمَرَنِيْ رَبِّيْ اَنْ اَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ اِلَى الْعَصْرِ، وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ، وَاَضْرِبَكَ عَلٰى تَضْيِيْعِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِلَى الْعِشَآءِ، وَاَضْرِبَكَ عَلٰى

گے) اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں بغیر حساب جنت میں داخل ہونگے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پندرہ طریقہ سے عذاب ہوتا ہے: پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح سے موت کے وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے پانچ تو یہ ہیں: اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھے اسکی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا اور موت کے وقت کے تین عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے تین عذاب یہ ہیں: اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس

تَضِيِعِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ اِلَى الْفَجْرِ، فَكُلَّمَا ضَرَبَهٗ ضَرْبَةً، يَغُوْصُ فِي الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا، فَلَا يَزَالُ فِي الْقَبْرِ مُعَذَّبًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَاَمَّا الَّتِيْ تُصِيْبُهٗ عِنْدَ خُرُوْجِهٖ مِنَ الْقَبْرِ فِيْ مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ: فَشِدَّةُ الْحِسَابِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ، وَدُخُوْلُ النَّارِ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَإِنَّهٗ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَأمة وَعَلٰى وَجْهِهٖ ثَلَاثَةُ اَسْطُرٍ مَّكْتُوْبَاتٌ: اَلسَّطْرُ الْاَوَّلُ: يَا مُضَيِّعَ حَقِّ اللهِ، اَلسَّطْرُ الثَّانِيْ: يَا مَخْصُوْصًا بِغَضَبِ اللهِ، الثَّالِثُ: كَمَا ضَيَّعْتَ فِي الدُّنْيَا حَقَّ اللهِ، فَأْيِسْ اَلْيَوْمَ اَنْتَ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ۔

(لم يثبت بهذا الالفاظ وان كان له اصل)

وما ذكر في هذا الحديث من تفصيل العدد، لا يطابق جملة الخمس عشرة، لأن المفصل أربع عشرة فقط، فلعل الراوي نسى الخامس، عشر كذا في الزواجر لابن حجر المكى، باب الكبيرة السابعة والسبعون: تعمدتا خير الصلوٰة، ص (۱۴۲)۔ قلت: (اى المؤلف) وهو كذلک، فان ابا الليث السمر قندى ذكر الحديث في قرة العيون، الباب الأول في عقوبة تارک الصلوٰة، ص (۱۵)، فجعل سنة في الدنيا فقال: الخامسة: تمقته الخلائق في الدار الدنيا، والسادس: ليس له حظ في دعاء الصالحين۔ ثم ذكر الحديث بتمامه، ولم يعزه الى احد۔ وفي تنبيه الغافلين للشيخ نصربن محمد بن ابراهيم السمر قندي، باب الصلوات الخمس،: ۳۷۸، ص (۲۰۸) : يقال: من داوم على الصلوة الخمس في الجماعة اعطاه الله خمس خصال، ومن تهاون بها في الجماعة عاقبه الله باثنى عشر خصلة: ثلثة في الدنيا، وثلثة عند الموت، وثلثة في القبر، وثلثة يوم القيامة، ثم ذكر نحوها، ثم قال: وروي عن ابى ذر، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا۔ وذكر السيوطي في ذيل اللآلى، كتاب الصلوٰة، ص (۱/۳۰۲)۔ بعدما أخرج بمعناه من تخريج ابن النجار في تاريخ بغداد، بسنده الى ابى،

پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے، جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لانبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں، جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا اور قبر سے نکلنے کے بعد کے تین عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالیٰ شانہ کا اس پر غصہ ہو گا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائیگا۔ یہ کل میزان چودہ ہوئی، ممکن ہے کہ پندرھواں بھول سے رہ گیا ہو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے

هريرة رضی اللہ عنہ، قال في الميزان: هذا حديث باطل، ركبه محمد بن علی بن عباس علی ابی بکربن زیادالنیساپوری، قلت: لکن ذکر الحافظ في المنبهات، ص (۴۵)۔ عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ مرفوعاً: الصلوة عماد الدين، وفيها عشر خصال، الحديث ذكرته في الهندية، وذكر الغزالی في دقائق الأخبار بنحو هذا اتم منه وقال: من حافظ عليها اكرمه الله بخمس عشرة إلخ مفصلاً)

پر تین سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں: پہلی سطر: او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے! دوسری سطر: او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص! تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔

ف: یہ حدیث پوری اگر چہ عام کتبِ حدیث میں مجھے نہیں ملی، لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کئے گئے ہیں ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آرہی ہیں اور پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو کچھ مذکور ہے اور آئندہ آرہا ہے وہ سب اس فعل کی سزا ہے، اس کے مستحقِ سزا ہونے کے بعد اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ (النساء: ۱۱۶) کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرمادیں گے۔

اس آیتِ شریفہ اور اس جیسی آیات اور احادیث کی بناء پر اگر معاف فرمادیں تو زہے قسمت۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں تین عدالتیں ہیں: ایک کفر و اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمہ ہے، یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائیگا، تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیئے جائیں گے ①۔

اس بناء پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو احادیث میں وارد ہوئیں، لیکن مراحمِ خُسروانہ (شاہی مہربانیاں) اس سے بالاتر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں

---

① مستدرک حاکم، طاعۃ اولی الامر، ۷۰۷۰

ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرماتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا، حضور ﷺ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حسبِ معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا، جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ منجملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑھکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اتنے اس میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور ﷺ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا①۔

ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبرئیل سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے②۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسی حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد میں ہوئی③۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گا کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے راضی ہوں گے④۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، تو

---

① بخاری، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرویا، ۷۰۴۷

② مسند البزار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک، ۹۵۱۸

③ الدر المنثور، الانعام، ۱۵

④ شعب الایمان، باب اخلاص العمل، ۶۴۴۰

عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں ①۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرمالیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا ②۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لئے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں ③۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے حق تعالیٰ شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں ④۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی تک واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لئے آتے ہیں، اس وقت اگر وہ مومن ہے، تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے، اور زکوۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب اور باقی جتنے بھلائی کے کام کئے تھے وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں۔ اور ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں ⑤۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی، تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ ﴿وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾ (طٰہٰ: ۱۳۲)۔ ”اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیئے، ہم آپ سے روزی (کموانا) نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیز گاری ہی کا ہے ⑥“۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی،

---

① شعب الایمان، کتاب الصلاۃ، باب فضل المشی الی الصلاۃ، ۲۶۸۵
② شعب الایمان، کتاب الزھد وقصر الامل، ۱۰۱۷۴
③ شعب الایمان، باب فضل المشی الی الصلاۃ، ۲۶۸۲
④ المعجم الاوسط، باب المیم، من اسمہ محمد، ۶۳۸۳
⑤ صحیح ابن حبان، کتاب الجنائز، ۳۱۱۳
⑥ المعجم الاوسط، من اسمہ احمد، ۸۸۶

اس وقت اعلان ہو گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہو گا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہو گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی ❶۔

ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہو گا کہ آج محشر والے دیکھیں گے اور اعلان ہو گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے ❷؟ شیخ نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تنبیہ الغافلین“ میں بھی یہ حدیث لکھی ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک (عُنُق) لمبی گردن ظاہر ہو گی جو لوگوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی، اس میں دو چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہو گی، وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسا کہ جانور دانہ چگتا ہے، ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دی، ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی، اس کے بعد سہ بارہ پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو گا ❸۔

کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں شیطان آدمیوں کو نظر آجاتا تھا، ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں، شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل

---

❶ اتحاف الخیرۃ، ۷۷۰

❷ شعب الایمان، الباب العاشر فی محبۃ اللہ، ۱۶۹۳

❸ تنبیہ الغافلین، ۳۷۶

چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر، ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا، شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کرلیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت اُبَی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ❶۔

ایک حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد! ملا اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو علم نہیں، تو حق تعالیٰ شانہ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینہ کے اندر تک محسوس ہوئی اور اس کی برکت سے تمام عالَم مجھ پر منکشف ہو گیا، پھر مجھ سے ارشاد فرمایا: اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں، جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل میں، اور ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھنے رہنے کی فضیلت میں۔ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا، بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا ❷۔ متعدد احادیث میں آیا ہے، حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو دن کے شروع میں میرے لئے چار رکعت پڑھ لیا کر میں تمام دن کے تیرے کام بنادیا کروں گا ❸۔

"تنبیہ الغافلین" میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کیلئے

---

❶ مسند احمد، مسند الانصار، حدیث ابی العالیہ، ۲۱۲۲۲

❷ مسند الشامیین، عبد الرحمن بن یزید، ۵۹۷

❸ مسند احمد، حدیث نعیم بن عمار، ۲۲۴/۱۷

ہتھیار ہے، نمازی کیلئے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، مُنکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کیلئے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "منبہات" میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالیٰ شانہ نو چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں: اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرہ پر صلحاء کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہو گا جن کے بارے میں ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ الآیہ، وارد ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں دس خوبیاں ہیں: چہرہ کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمالناموں کی ترازو کا وزن ہے، (کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے) اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے، جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑا، اپنے دین کو گرا دیا ❶۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو ❷۔ اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدہ کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرہ والی ہو گی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی ❸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی

---

❶ شعب الایمان، باب الحادی والعشرین، ۲۸۰۷

❷ ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوۃ، باب ما جاء فی التطوع فی البیت، ۱۳۷۵

❸ مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۴۳۱۷

ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹائی جاتی ہے ①۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو جلائے، (یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل بھی ہو گا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہو گا، اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا②)۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے③، ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفاء ہے④، دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفاء ہے⑤۔

حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کے گھسٹنے کی آواز بھی سنائی دی، صبح کو حضور ﷺ نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تُو (دنیا کی طرح سے) میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، عرض کیا: رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں، اس کے بعد (تحیۃ الوضو کی) نماز جتنی مقدر ہو، پڑھتا ہوں⑥۔ سفیریؒ نے کہا کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ او فاجر سے پکارتے ہیں اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسِر (خسارہ والے) سے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو ”او مُضِیع“ (اللہ کا حق ضائع کرنے والے) سے پکارتے ہیں۔

علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کہ لوگ نمازی نہ ہوں، ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھنس جانا کچھ بھی مستبعَد نہیں اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں مجھے دوسروں سے کیا غرض، اس لئے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے، (خود حدیث

---

① شعب الایمان، کتاب الصلاۃ، ۲۶۸۶

② مسند احمد، مسند ابی ھریرۃ، ۷۹۲۷

③ الغرائب الملتقطہ، ۱۹۵۹

④ ابن ماجہ، کتاب الطب، ۳۴۵۸

⑤ ایضاً

⑥ ترمذی، باب فی مناقب عمر بن خطاب، ۳۶۸۹

شریف میں مذکور ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں! جب خباثت کا غلبہ ہو جائے ①۔ اس لئے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں۔

(۸) رُوِيَ أَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قال: مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى مَضٰى وَقْتُهَا، ثُمَّ قَضٰى، عُذِّبَ فِي النَّارِ حُقُبًا، وَالْحُقُبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلٰثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا، كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار اسی (۸۰) برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس تین سو ساٹھ دن کا۔ اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہو گا (اس حساب سے) ایک حُقب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوئی۔

(منکر بهذا الفظ والمعنى له اصل)

كذافي مجالس الأبرار، المجلس الخمسون، ص: ۳۲۰۔ قلت: لم اجده في ماعندى من كتب الحديث، الا أن مجالس الأبرار مدحه شيخ مشائخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمہ اللہ، ثم قال الراغب في المفردات، باب الحاء (۱/۱٦٦)، في قوله تعالٰى: لا بثين فيها احقابا: قيل: جمع الحقب، اى: الدهر، قيل: والحقبة ثمانون عاماً۔ والصحيح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمة۔ وأخرج ابن كثير فى تفسير قوله تعالىٰ "فويل للمصلين۔ الذين هم عن صلوٰتهم ساهون" عن ابن عباس: ان في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعماءة مرة، اعد ذٰلك الوادى للمرائين من أمة محمد الحديث وذ كر ابو لليث السمرقندي في قرة العيون، باب عقوبة تارك الصلوٰة، ص: ۱۴۔ عن ابن عباس: "وهو مسكن من يؤخر الصلوة عن وقتها"۔ وعن سعد بن ابى وقاص مرفوعا، أخرجه البيهقى في سننه الكبرىٰ، باب الترغيب في حفظ وقت الصلوٰة: ۲۹۸۳، ص (۲/۲۱۴): "الذين هم عن صلوٰتهم ساهون": قال: هم الذين يؤخرون الصلوة عن وقتها۔ وصحح الحاكم والبيهقي وقفه في السنن الكبرىٰ۔ وأخرج الحاكم عن عبد الله، في قوله تعالىٰ: "فسوف يلقون غيا": قال: وادفي جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم۔ وقال: صحيح الإسناد واقر عليه الذهبي، الحديث، كتاب التفسير، باب تفسير سورة مريم، : ۳۱۴۸، ص (۲/۴۰٦)۔

ف: حُقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی اسّی سال۔ "دُرِّ منثور" میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلال ہجری رحؒ سے دریافت فرمایا کہ حُقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حُقب اسی برس کا ہوتا ہے اور ہر برس بارہ مہینے کا اور ہر مہینہ تیس دن

---

① بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب قصه يأجوج ومأجوج، ۳۳۴٦

کا اور ہر دن ایک ہزار برس کا❶۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح روایت سے اسّی برس منقول ہیں❷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حُقب اسّی سال کا ہوتا ہے اور ایک سال تین سو ساٹھ دن کا اور ایک دن تمھارے دنوں کے اعتبار سے (یعنی دنیا کے موافق) ایک ہزار سال کے❸۔ یہی مضمون حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بھروسہ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے❹۔ اتنے سال یعنی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم وزیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی احادیث میں آئی ہے، اس لئے یہ مقدم ہے، دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم وبیش ہو۔

ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے "قُرَّۃُ الْعُیُوْن" میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے❺۔ اور حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ کہو کہ اے اللہ! ہم میں کسی کو شقِی محروم نہ کر، پھر فرمایا: جانتے ہو؟ شقی محروم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شقِی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں❻۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ ودانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب الیم (دکھ دینے والا عذاب) اس کو دیا جائے گا❼۔

ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ دس آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، منجملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے، کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے، جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لئے نہ تو میرے لئے، دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا، تو میرے لئے ہے میں تیرے

---

❶ الزھد لابن البارک، ۳۱۸

❷ مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، ۳۸۹۰

❸ الزھد لابن ھناد، ۲۱۹

❹ الغرائب الملتقطہ، ۲۷۴۴

❺ حلیۃ الاولیاء، ۷/ ۲۵۴

❻ الکبائر للذھبی، ۱/ ۱۷

❼ قرۃ العیون، ص ۲۳

لئے ①۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی (جنگل) ہے جس کا نام ہے لَم لَم، اس میں سانپ ہیں، جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی ایک مہینہ کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا ②۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام "جُبُّ الحُزن" ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کیلئے ہیں ③۔ ہاں مولائے کریم معاف کردے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی، روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا۔

(۹) عَنْ ابِی هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَّا صَلٰوةَ لَهٗ، وَلَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّا وُضُوْءَ لَهٗ۔

(ض)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے، نماز دین کے لئے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کیلئے سر ہوتا ہے۔

أخرجه البزار في مسنده ابی هريرة: ۸۵۳۹، ص (۱۵/۱۷۶)۔ **وأخرج الحاكم عن عائشه مرفوعاً وصححه ثلث احلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام الصوم والصلوة والصدقة** الحديث، المستدرك، كتاب الإيمان، : ۴۹، (۱/۶۷) وقال: الذهبي مأخرج له يعنى شيبة الهزرمى سوى النسائي هذا الحديث وفيه جهالة۔ **وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا لا دين لمن لا صلوٰة له انما موضع الصلوٰة من الدين كموضع الراس من الجسد،** الحديث، باب الالف من اسمه أحمد: ۲۲۹۲، (۲/۲۸۳)۔ **كذافي الدر المنثور** تحت الآية: ۲۵۳، البقرة۔

ف: جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا حمیّتِ اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ذرا غور کر لیں اور جن اسلاف کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں، ان کے حالات کی بھی تحقیق

---

① ایضاً ② الزواجر، ۱/۲۲۷ ③ الکبائر، ص ۵۰

کریں کہ وہ دین کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھ میں پانی اتر آیا، لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا: یہ نہیں ہو سکتا، میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہو گا کہ حق تعالیٰ شانہ اس پر ناراض ہوں گے ❶۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ پانچ دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑیگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا ❷۔

عمر بھر بینائی کو صبر کر لینا ان حضرات کے یہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑیں، حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانہ میں جب برچھا مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی حتیٰ کہ اسی غفلت میں وصال بھی ہو گیا، مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی، وہ اسی حالت میں نماز ادا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ہاں! ضرور، جو شخص نماز نہ پڑھے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ❸۔ ہمارے یہاں بیمار کی خیر خواہی، راحت رسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دی جائے، بعد میں فدیہ دے دیا جائیگا۔ ان حضرات کے یہاں خیر خواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے چلاتے کر سکے، دریغ نہ کیا جائے۔

ببیں تفاوتِ راہ از کجا است تا بہ کجا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور ﷺ سے ایک خادم مانگا کہ کاروبار میں مدد کرے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ تین غلام ہیں جو پسند ہو لے لو، انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی پسند فرما دیں، حضور ﷺ نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے لو، یہ نمازی ہے مگر اس کو مارنا نہیں، ہمیں نمازیوں کے مارنے کی ممانعت ہے ❹۔ اس قسم کا واقعہ ایک اور صحابی ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے بھی حضور ﷺ سے غلام مانگا

---

❶ کشف الاستار، باب فضل الصلوۃ، ۳۴۳
❷ الطبقات لابن السعد، ۶/۳۲۶
❸ المعجم الاوسط، باب المیم، ۸۱۸۱
❹ شعب الایمان، کتاب الطھارات، ۲۵۴۲

تھا① ۔ اس کے بالمقابل ہمارا ملازم نمازی بن جائے تو ہم اس کو طعن کرتے ہیں اور حماقت سے نماز میں اپنا حرج سمجھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ غلبۂ حال ہوا تو سات روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے، شیخ کو اطلاع کی گئی، دریافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں (یعنی نماز کے اوقات کا تو اہتمام رہتا ہے) لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات بیشک محفوظ ہیں فرمایا ”أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيْلًا“ تمام تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جس نے شیطان کو اس پر مسلط نہ ہونے دیا۔ (بہجۃ النفوس)

---

① مسند ابی یعلی، حدیث ام سلمہ، ٦٩٤٢

دوسرا باب

جماعت کے بیان میں

جیسا کہ شروع رسالہ میں لکھا جاچکا ہے کہ بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ نبی اکرم ﷺ سے جس طرح نماز کے بارے میں بہت سخت تاکید آئی ہے، اسی طرح جماعت کے بارے میں بھی بہت سی تاکیدیں وارد ہوئی ہیں، اس باب میں بھی دو فصلیں ہیں، پہلی فصل جماعت کے فضائل میں، دوسری فصل جماعت کے چھوڑنے پر عتاب ہیں۔

فصلِ اول

جماعت کے فضائل میں

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔

(متفق علیه)

رواه مالک، کتاب الصلوٰة، باب فضل صلوٰة الجماعة: ۴۲۵، (۱۷۶/۲)۔ **والبخاري**، کتاب الاذان، باب فضل صلوٰة الجماعة: ۶۱۹، (۲۳۱/۱)۔ **ومسلم**، کتاب المساجد، باب فضل صلوٰة الجماعة: ۱۴۷۵، (۱۵۳/۵)۔ **والترمذي**، ابواب الصلوٰة، باب ما جاء في فضل الجماعة: ۱۲۵، ص (۶۳)۔ **والنسائي** في سننه، کتاب الإمامة، باب فضل الجماعة: ۸۳۷، (۱۰۳/۲)۔ **كذا في الترغيب**، کتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۴۰۲، (۲۰۳)۔

ف: جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے، تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے، کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ دقّت اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو ایک روپے کے ستائیس یا اٹھائیس روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے؟ مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے، وجہ اس کے سوا کیا ہوسکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں ایک آنہ دو آنہ فی روپیہ نفع ملتا ہے اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں، آخرت کی تجارت جس میں

ستائیس گنا نفع ہے وہ ہمارے لئے مصیبت ہے، جماعت کی نماز کیلئے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری (فروخت) کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، دکان کے بند کرنے کی بھی دقّت کہی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اس کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، ان کے یہاں یہ لُچر عذر کچھ بھی وقعت نہیں رکھتے، ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے ﴿رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ﴾ (النور: ۳۷) الآية: تیسرے باب کے شروع میں پوری آیت مع ترجمہ موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو معمول اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا وہ حکایاتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پانچویں باب میں مختصر طور پر گزر چکا۔

سالم حداد رحمۃ اللہ علیہ یک بزرگ تھے تجارت کرتے تھے جب اذان کی آواز سنتے تو رنگ متغیر ہو جاتا اور زرد ہو جاتے دکان کھلی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور یہ اشعار پڑھتے۔

اِذَامَادَعَادَاعِيْكُمْ قُمْتُ مُسْرِعاً مُجِيْبًا لِّمَوْلٰى جَلَّ لَيْسَ لَهٗ مِثْلٗ

”جب تمہارا منادی (موذن) پکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے، تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے، اس کا کوئی مثال نہیں۔

اُجِيْبُ اِذَانَادٰى بِسَمْعٍ وَّطَاعَةٍ وَبِيْ نَشْوَةٌ لَبَّيْكَ يَامَنْ لَّهُ الْفَضْلٗ

جب وہ منادی (موذن) پکارتا ہے تو میں بحالتِ نشاط، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں کہ اے فضل و بزرگی والے! لبیک یعنی حاضر ہوں۔

وَيَصْفَرُّ لَوْنِيْ خِيْفَةً وَّمَهَابَةً وَيَرْجِعُ لِيْ عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهٖ شُغْلٗ

”اور میرا رنگ خوف اور ہیبت سے زرد پڑ جاتا ہے اور اس پاک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام سے بے خبر کر دیتی ہے“۔

وَحَقِّكُمْ مَالُذَّلِيْ غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُسِوَاكُمْ فِيْ فَمِيْ قَطُّ لَايَحْلُوْ

”تمھارے حق کی قسم! تمھارے ذکر کے سوا مجھے کوئی چیز بھی لذیذ نہیں معلوم ہوتی اور تمھارے سوا کسی کے ذکر میں بھی مجھے مزہ نہیں آتا“

مَتٰی یَجْمَعُ الْاَیَّامُ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ   وَیَفْرَحُ مُشْتَاقٌ اِذَا جَمَعَ الشَّمْلُ

"دیکھئے زمانہ مجھ کو اور تم کو کب جمع کرے گا اور مشتاق تو جب ہی خوش ہوتا ہے جب اجتماع نصیب ہوتا ہے"۔

فَمَنْ شَاهَدَتْ عَیْنَاهُ نُوْرَ جَمَالِکُمْ   یَمُوْتُ اِشْتِیَاقًا نَحْوَکُمْ قَطُّ لَا یَسْلُوْ

"جس کی آنکھوں نے تمھارے جمال کا نور دیکھا ہے تمھارے اشتیاق میں مر جائے گا، کبھی بھی تسلی نہیں پا سکتا"۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہوں، وہ مسجد کے کھونٹے ہیں۔ فرشتے ان کے ہمنشیں ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اور وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں ❶۔

(۲) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِی الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰی صَلٰوتِهٖ فِیْ بَیْتِهٖ وَ فِیْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّ عِشْرِیْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَی الْمَسْجِدِ لَا یُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَّ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰی لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّیْ عَلَیْهِ مَا دَامَ فِیْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَ لَا یَزَالُ فِیْ صَلٰوةٍ مَا اِنْتَظَرَ الصَّلٰوةَ۔

(متفق علیہ)

رواه البخاري، کتاب الاذان، باب فضل صلوٰة الجماعة: ٦٢٠،

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو۔ پچیس درجہ اَلمُضاعف ہوتی ہے اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کیلئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں

---

❶ مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۹۴۲۴

اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔

(۲۳۲/۱)۔ **واللفظ له ومسلم،** كتاب المساجد، باب فضل صلوٰة الجماعة: ۱۴۷۰، (۱۵۳/۵)۔ **وأبو داود،** كتاب الصلوٰة، باب ما جاء في فضل المشي الى الصلوٰة: ۵۶۰، (۲۱۷/۱)۔ **والترمذي،** ابواب الصلوٰة، باب ما جاء في فضل الجماعة: ۲۱۶ (۶۳)۔ **وابن ماجه،** كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلوٰة في جماعة: ۸۷۶، (۲۳۳/۱)۔ **كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۴۰۲، (۲۰۳)۔

ف: پہلی حدیث میں ستائیس درجہ کی زیادتی بتلائی گئی تھی اور اس حدیث میں پچیس درجہ کی، ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے علماء نے اس کے بہت سے جوابات تحریر فرمائے ہیں جو شروحِ حدیث میں مذکور ہیں، منجملہ ان کے یہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ بعضوں کو پچیس درجہ کی زیادتی ہوتی ہے اور بعضوں کو اخلاص کی وجہ سے ستائیس کی ہو جاتی ہے، بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ سِرّی (آہستہ آواز والی) نمازوں میں پچیس ہے اور جہری میں ستائیس ہے، بعض نے ستائیس عشاء اور صبح کیلئے بتایا ہے کہ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے اور پچیس باقی نمازوں میں، بعض شُرّاح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لئے اول پچیس درجہ تھا بعد میں ستائیس ہو گیا۔

بعض شُرّاح نے ایک عجیب بات سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے اس لئے کہ اس حدیث میں یہ ارشاد نہیں کہ وہ پچیس درجہ کی زیادتی ہے بلکہ یہ ارشاد ہے کہ پچیس درجہ اَلْمُضاعف ہوتی ہے جس کا ترجمہ دو چند اور دو گنا ہوتا ہے یعنی یہ کہ پچیس مرتبہ تک دو گنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے، اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب تین کروڑ پنتیس لاکھ چون ہزار چار سو بتیس درجہ ہوا ہے، حق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں اور جب نماز کے چھوڑنے کا گناہ ایک حقبہ ہے جو پہلے باب میں گذرا تو اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہونا قرین قیاس بھی ہے۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تو خود ہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جماعت کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب اور کس کس طرح حسنات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے محض نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تو اس کے ہر

ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ اور ایک خطا کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہیں رہو، تمھارے مسجد تک آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے ❶۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اس کے بعد حضور ﷺ ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلے پر رہے، فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں ❷۔ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہیں۔

محمد بن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم ہیں، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ایک سو تین برس کی عمر میں انتقال ہوا، اس وقت دو سو رکعات نفل روزانہ پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ مسلسل چالیس برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیرِ اولیٰ فوت نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیرِ اولیٰ فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب پچیس درجہ زیادہ ہے، اس نماز کو پچیس دفعہ پڑھا تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے، تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے: محمد! پچیس دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہو گا۔ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نبوی آیا ہے کہ جب امام سورۂ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ❸، تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ایک ہزار مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک آمین کی موافقت ہی

---

❶ مسلم، کتاب المساجد، باب فضل کثرۃ الخطا الی المسجد، ٦٦٥

❷ ابو داود، کتاب الصلوۃ، باب فی فضل القعود فی المسجد، ۴٦٩

❸ بخاری، کتاب الدعوات، باب التامین، ٦۴٠٢

صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ضروری امر یہ بھی قابل لحاظ ہے علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس دعا کا مستحق جب ہی ہو گا جب نماز نماز بھی ہو اور اگر ایسے ہی پڑھی کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔

(۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ قَالَ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ الصَّلٰوةِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ هُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَّخْطُوْهَا حَسَنَةً وَّيَرْفَعُهٗ بِهَا دَرَجَةً وَّيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَّعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهَا يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وفى رِوَايَةٍ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ

حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے (یعنی مسجد میں) اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمھارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیلئے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہیں میں یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک

عُلِمَ نِفَاقُهٗ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَمْشِيْ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِيَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى، وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى اَلصَّلٰوةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ۔

(صحیح)

وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمناسنن الهدىٰ ون من سنن الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤذن فيه (رواه مسلم، كتاب المساجد، باب صلوٰة الجماعة من سنن الهدىٰ: ۱۴۸۶، (۱۵۸/۵)۔ **وأبوداود،** كتاب الصلوٰة، باب التشديد في ترك الجماعة: ۵۵۱، (۲۱۲/۱)۔ **والنسائي،** كتاب الإمامة، باب المحافظ على الصلوات: ۸۳۷، (۱۰۳/۲)۔ **وابن ماجه،** كتاب المساجد والجماعات، باب المشي الى الصلوٰة: ۷۷۷، (۴۲۸/۱)۔ **كذافي الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۶۵۲، (۲۰۳)۔ **والدر المنثور** تحت الآية: ۲۵۳، البقرة۔ **والسنة نوعان سنة الهدى وتاركهايستوجب اساءة كالجماعة والاذان والزوائد وتاركهالا يستوجب اساءة كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقعوده كذافي نورالانوار والاضافة في سنة الهدى بيانية اى سنة هى هدى والحمل مبالغة كذافي قمرالاقمار)**

خطا معاف ہو گی اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور ﷺ کے زمانہ میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا، وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے دو آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جب کہ ان کے اور ہمارے آقا نبی اکرم ﷺ کو اسی طرح کا اہتمام تھا، چنانچہ حضور اقدس ﷺ کے مرض الوفات میں یہی صورت پیش آئی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی اور کئی کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے، آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لئے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعمیلِ ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی، حضور ﷺ جا کر نماز میں شریک ہوئے ❶۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا وہ بالکل سامنے ہے اور تُو اسے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو مُردوں کی فہرست میں شمار کیا کر (زندوں میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں کہ پھر نہ کسی بات کی

---

❶ بخاری، کتاب الاذان، باب من اسمع الناس تکبیر الإمام، ۷۱۲

خوشی، نہ کسی بات سے رنج) اور مظلوم کی بددعا سے اپنے کو بچا اور جو تُو اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کر ①۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے، تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے ②۔

(۴) عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَآءَتَانِ بَرَآءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَآءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ۔

(ض)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیرِ اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو دو پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

رواه الترمذى، ابواب الصلوٰة، باب ما جاء في فضل تكبيرة الأولىٰ: ۲۴۰، (۶۹)۔ **وقال: اعلم احدا رفعه الا ماروي مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو قال: المملى ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقاة كذافي الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوٰة: ۵۶۸، ص (۲۰۵)۔ **قلت وله شواهد من حديث عمر رضی اللہ عنہ رفعه من صلى في مسجد جماعة اربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولىٰ من صلوة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار رواه ابن ماجه،** كتاب المساجد والجماعات، باب الصلوٰة العشاء: ۷۹۶، (۴۳۷/۱)۔ **واللفظ له والترمذي وقال: نحو حديث انس يعنى المتقدم ولم يذكر لفظه وقال: مرسل يعنى ان عمارة الراوي عن انس لم يدرك انسا وعزاه في منتخب الكنز،** كتاب الصلوٰة، الباب السابع في صلوٰة الجماعة، (۲۳۸/۳)۔ **الى البيهقى في الشعب،** كتاب الصلوٰة، فصل في الصلوات الخمس: ۲۶۱۲، (۳۴۵/۴)۔ **وابن عساكر،** باب من اسمه نصر: ۱۵۶۰، (۱۱۹۴/۲)۔ وابن النجار

ف: یعنی جو اس طرح چالیس دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہو گا، نہ منافقوں میں داخل ہو گا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں۔ اور چالیس دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں چالیس دن کو خاص دخل ہے، چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی چالیس دن تک نطفہ رہنا پھر گوشت کا ٹکڑا چالیس دن تک، اسی طرح چالیس چالیس دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا

---

① شعب الایمان، باب الزہد وقصر الامل، ۱۰۰۶۰

② مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الجماعۃ، ۶۵۱

ہے ①، اسی وجہ سے صوفیاء کے یہاں چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، جن کی برسوں بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔

(۵) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيًا۔

(حسن)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کیلئے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہوچکی تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہو گا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہو گی، جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔

رواہ ابو داود، کتاب الصلوٰة، باب في من خرج يريد الصلوٰة: ۵۶۵، (۴۱۹/۱)۔ **والنسائی،** کتاب الإمامة، باب حد ادراک الجماعة: ۸۵۵، (۱۱۱/۲)۔ **والحاکم** في کتاب الإمامة: ۸۶۳، (۳۳۸/۱)۔ **وقال: صحيح على شرط مسلم** واقر عليه الذهبي۔ **کذا في الترغيب،** کتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۴۱۰، (۲۰۶)۔ **وفيه ايضا،** الترغيب، کتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۴۶۳، (۱۳۰/۱)۔ **عن سعيد بن المُسَيَّب قال: حضر رجلا من الانصار الموت فقال: انی محدثکم حديثا ما احدثکموه الا احتسابا انی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضاء احد کم فاحسن الوضوء الحديث وفيه فان اتی المسجد فصلی في جماعة غفر له فان اتی المسجد وقد صلوا بعضا وبقی بعض صلی ما ادرک واتم مابقی کان کذالک فان اتی المسجد وقد صلوا فاتم الصلوٰة کان کذالک (رواہ ابو داود،** کتاب الصلوٰة، باب ما جاء في الهدى في المشي الى الصلوٰة: ۵۶۴، (۴۱۸/۱)۔

ف: یہ اللہ کا کس قدر انعام واحسان ہے کہ محض کوشش اور سعی پر جماعت کا ثواب مل جائے گو جماعت نہ مل سکے، اللہ کی اس دَین پر بھی ہم لوگ خود ہی نہ لیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض اس کھٹکا سے کہ جماعت ہوچکی ہو گی مسجد میں جانا ملتوی نہ کرنا چاہیے، اگر جا کر معلوم ہو کہ ہوچکی ہے، تب بھی ثواب تو مل ہی جائے گا، البتہ اگر پہلے سے یقیناً معلوم ہو جائے کہ جماعت ہوچکی ہے تو مضائقہ نہیں۔

(۶) عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلٰوةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ اَرْبَعَةٍ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہو ایک مقتدی، اللہ کے نزدیک چار آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ

---

① بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکۃ، ۳۲۰۸

تَتْرٰی وَصَلٰوۃُ اَرْبَعَۃٍ اَزْکٰی عِنْدَ اللہِ مِنْ صَلٰوۃِ ثَمَانِیَۃٍ تَتْرٰی وَصَلٰوۃُ ثَمَانِیَۃٍ یَؤُمُّھُمْ اَحَدُھُمْ اَزْکٰی عِنْدَ اللہِ مِنْ صَلٰوۃِ مِائَۃٍ تَتْرٰی۔

پسندیدہ ہے، اسی طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی متفرق نماز سے زیادہ محبوب ہے اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سوآدمیوں کی متفرق نمازوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے۔

(حسن بالشاهد)

رواه البزار، كشف الاستار عن زوائد البزار، كتاب الصلوٰة، باب العذر في ترك الجماعة،: ۴۶۱، (۲۲۸/۱)۔ **والطبراني بإسناد لا باس به** في الكبير، حديث قباث بن اشيم: ۴۲۷۲، (۴۲۶۶/۱۲)۔ **كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۴۱۲، (۲۰۷)۔ **وفي مجمع الزوائد،** كتاب الصلوٰة، باب الصلوٰة في الجماعة: ۲۱۴۲، ص (۱۶۳/۲)۔ **رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موثقون وعزاه في الجامع الصغير،** باب حرف الصاد: ۴۲۸۳، ص (۴۲۹/۱)۔ **الى الطبراني والبيهقي** في السنن الكبرىٰ، كتاب الصلوٰة، باب ما جاء في فضل صلوٰة الجماعة: ۵۱۶۴، (۶۱/۳)۔ **ورقم له بالصحة وعن ابى بن كعب رفعه بمعنى حديث الباب وفيه قصة وفي أخره وكلما كثر فهو احب الى الله عزوجل رواه أحمد وابوداود،** كتاب الصلوٰة، باب في فضل صلوٰة الجماعة: ۵۵۵، (۴۱۴/۱)۔ **والنسائي** في سننه، كتاب الإمامة، باب الجماعة اذا كانوا اثنين: ۸۴۳، (۱۰۴/۲)۔ **وابن خزيمه،** كتاب الصلوٰة، باب ذكر البيان بانما كثر العدد: ۱۴۷۶، (۳۶۶/۲)۔ **وابن حبان** كتاب الصلوٰة، فصل في فضل الجماعة: ۲۰۵۶، (۴۰۵/۵) في صحيحهما والحاكم في كتاب معرفة الصحابة، ذكر قباث بن اشيم: ۶۶۲۶، (۴۲۵/۳) وسكت عنه الذهبي۔ **وقد جزم يحىٰ بن معين والذهلى بصحة هذا الحديث كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة الجماعة: ۵۹۷، (۱۶۱/۱)۔

ف: جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار آدمی مل کر گھر، دوکان وغیرہ پر جماعت کرلیں وہ کافی ہے، اول تو اس میں مسجد کا ثواب شروع ہی سے نہیں ہوتا، دوسرے کثرتِ جماعت کے ثواب سے بھی محرومی ہوتی ہے، مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ایک کام کرنا ہے تو پھر جس طریقہ میں اس کی خوشنودی زیادہ ہو، اسی طریقہ سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تین چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ایک جماعت کی صف کو، ایک اس شخص کو جو آدھی رات (تہجد) کی نماز پڑھ رہا ہو، تیسرے اس شخص کو جو کسی لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہو ❶۔

(۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں

---

❶ سنن ابن ماجہ، باب فی ما انکرت الجہمیہ، ۲۰۰

وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ الى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(حسن بالشاهد)

بکثرت جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنادے۔

رواه ابن ماجه، كتاب المساجد، باب المشي الى الصلوٰة: ۷۸۰، (۱/۴۳۰)۔ **وابن خزيمة** في صحيحه في كتاب الصلوٰة، باب فضل المشي الى الصلوٰة: ۱۴۹۹، ص (۱/۷۲۴)۔ **والحاكم، واللفظ له وقال: صحيح على شرط الشيخين** واقر عليه الذهبي، كتاب الإمامة: ۷۶۸، (۱/۳۳۲)۔ **كذافي الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في صلوٰة العشاء والصبح: ۴۲۵، (۲۱۱)۔ **وفي المشكوٰة** كتاب الصلوٰة، باب المساجد ومواضع الصلوٰة: ۷۲۱، ص (۱/۱۵۹)۔ **برواية الترمذى،** كتاب الصلوٰة، باب ما جاء في فضل العشاء والفجر: ۲۲۳، (۱/۶۵)۔ **وابى داود،** كتاب الصلوٰة، باب ما جاء في المشي الى الصلوٰة: ۵۶۲، (۱/۴۱۸)۔ **عن بريدة ثم قال: رواه ابن ماجه عن سهل ابن سعدو انس اه (قد مرالتخريج) قلت وله شاهدفي منتخب كنز العمال،** كتاب الصلوٰة، فصل في الصلوات الخمس، (۳/۲۳۸)۔ **برواية الطبراني** في الكبير، باب الصاد: ۷۶۳۳، (۸/۱۴۲)۔ **عن ابى امامة بلفظ بشر المدلجين الى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامه يفزع الناس ولا يفزعون ذكر السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله انما يعمر مساجد الله** تحت الآية: ۱۸، التوبة۔ عدة روايات في ہذا المعنى۔

ف: یعنی آج دنیا میں اندھیری رات مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہو گی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہو گا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہو گا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور قدر اس وقت ہو گی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہو گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور بے فکر، اور لوگ گھبراہٹ میں ہونگے ❶۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہو گا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب میں زیادہ ناپسند بازار ہیں ❸۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں ❹۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے: حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں: جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کے بعد ﴿اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ﴾ (التوبة: ۱۸) یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ❺۔

---

❶ المعجم الکبیر، ۷۶۳۳
❷ حلیۃ الاولیاء، ۱۰/ ۲۱۳
❸ مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، ۶۷۱
❹ الترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۰۹
❺ الترمذی، سورۃ التوبۃ، ۳۰۹۳

ایک حدیث میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے ❶۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہو گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہو گا ❷، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ہر قدم پر اجر و ثواب ہے اور جتنی دور مسجد ہو گی اتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے، اسی وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے: ایک اذان کہنا، دوسری جماعت کی نمازوں کیلئے دوپہر کے وقت جانا، تیسری پہلی صف میں نماز پڑھنا ❸۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہو گا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہو گا سات آدمی ایسے ہوں گے، جو اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہو گا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو ❹۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے ہیں ❺۔

شریعتِ مطہرہ کے ہر حکم میں خیر و برکت اجر و ثواب تو بے پایاں ہے ہی، اس کے ساتھ ہی بہت سی مصلحتیں بھی ان احکام میں جو ملحوظ ہوتی ہیں ان کی حقیقت تک پہنچنا تو مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ کے علوم اور ان کے مصالح تک کس کی رسائی ہے؟ مگر اپنی اپنی استعداد اور حوصلہ کے موافق جہاں تک اپنی سمجھ کام دیتی ہے ان کی مصالح سمجھ میں آتی ہے اور جتنی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی خوبیاں ان احکام کی معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ علماء نے جماعت کی مصالح بھی اپنی اپنی سمجھ کے موافق تحریر فرمائی ہیں، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نَوَّرَ اللہُ مَرْقَدَہٗ نے "حُجۃ اللہ البالغہ" میں ایک تقریر اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہے جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ:

رسم و رواج کے مہلکات سے بچنے کیلئے اس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں کہ عبادات

---

❶ مسند ابی یعلی، مسند علی، ۴۸۸
❷ ابو داود، کتاب الصلوٰۃ، ۵۵۶
❸ کنز العمال عن ابن النجار، ۴۳۲۳۵
❹ الترمذی، ابواب الزھد، ۲۳۹۱
❺ المعجم الاوسط، محمد، ۶۳۸۳

میں سے کسی عبادت کو ایسی عام رسم اور عام رواج بنالیا جائے، جو علی الاعلان ادا کی جائے اور ہر شخص کے سامنے خواہ سمجھدار ہو یا نا سمجھ، وہ ادا کی جاسکے، اس کے ادا کرنے میں شہری اور غیر شہری برابر ہوں، مسابقت اور تفاخر اسی پر کیا جائے اور ایسی عام ہو جائے کہ ضروریات زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس سے علیحدگی ناممکن اور دشوار بن جائے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کیلئے مؤید ہو جائے اور وہ رسم ورواج جو موجبِ مضرت ونقصان تھا، وہی حق کی طرف کھینچنے والا بن جائے اور چونکہ عبادات میں کوئی عبادت بھی نماز سے زیادہ مُہتَم بالشان اور دلیل وحجت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی نہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ آپس میں اس کے رواج کو خوب شائع کیا جائے اور اس کے لئے خاص طور سے اجتماع کیا جائے اور آپس میں اتفاق سے اس کو ادا کیا جائے، نیز ہر مذہب اور دین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقتدا ہوتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ دوسرے درجہ میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی معمولی سی ترغیب وتنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تیسرے درجہ میں بہت ناکارہ اور ضعیف الاعتقاد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر مجمع میں عبادت کا مکلف نہ کیا جائے تو وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے مصلحت کا مقتضا یہی ہے کہ یہ سب لوگ اجتماعی طور پر عبادت کو ادا کریں تاکہ جو لوگ عبادت کو چھوڑنے والے ہیں وہ عبادت کرنے والوں سے ممتاز ہو جائیں اور رغبت کرنے والوں اور بے رغبتی کرنے والوں میں کھلا تفاوت ہو جائے اور ناواقف لوگ علماء کے اتباع سے واقف بن جائیں اور جاہل لوگوں کو عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے اور اللہ کی عبادت ان لوگوں میں اس پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہو جائے جو کسی ماہر کے سامنے رکھی جائے جس سے جائز، ناجائز اور کھرے کھوٹے میں کھلا فرق ہو جائے، جائز کی تقویت کی جائے اور ناجائز کو روکا جائے۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایسے اجتماع میں جس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، رحمت کے طلب کرنے والے، اس سے ڈرنے والے موجود ہوں اور سب کے سب اللہ ہی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوں، برکتوں کے نازل ہونے اور رحمت کے متوجہ ہونے کی

عجیب خاصیت رکھی ہے۔

نیز امتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو اور دینِ اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ ہو اور یہ ممکن نہیں جب تک یہ طریقہ رائج نہ ہو کہ سب کے سب عوام، خواص، شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے ایک جگہ جمع ہو کر اس چیز کو جو اسلام کا سب سے بڑا شعار ہے اور سب سے بالاتر عبادت ہے ادا نہ کریں، ان وجوہ سے شریعت جمعہ اور جماعت کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوئی، ان کے اظہار واعلان کی ترغیبیں اور چھوڑنے پر وعیدیں نازل ہوئیں اور چونکہ اظہار واجتماع ایک صرف محلہ اور قبیلہ کا ہے اور ایک تمام شہر کا، اور محلہ کا اجتماع ہر وقت سہل ہے اور تمام شہر کا ہر وقت مشکل ہے کہ اس میں تنگی ہے، اس لئے محلہ کا اجتماع ہر نماز کے وقت قرار دیا اور جماعت کی نماز اس کیلئے مشروع ہوئی اور تمام شہر کا اجتماع آٹھویں دن قرار دیا اور جمعہ کی نماز اس کیلئے تجویز ہوئی۔

فصلِ دوم

جماعت کے چھوڑنے پر عتاب کے بیان میں

حق تعالیٰ شانہ نے اپنے احکام کی پابندی پر جیسے کہ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی تعمیل نہ کرنے پر ناراضگی اور عتاب بھی فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تعمیل میں بے گراں انعامات کا وعدہ ہے، ورنہ بندگی کا مقتضا صرف عتاب ہی ہونا چاہیے تھا کہ بندگی کا فرض ہے تعمیلِ ارشاد، پھر اس پر انعام کے کیا معنی، اور نافرمانی کی صورت میں جتنا بھی عتاب وعذاب ہو وہ برمحل کہ آقا کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے۔ پس کسی خاص عتاب یا تنبیہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول ﷺ نے ہم پر شفقت فرمائی کہ طرح طرح سے متنبہ فرمایا، اس کے نقصانات بتائے، مختلف طور سے سمجھایا، پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو اپنا ہی نقصان ہے۔

(۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ النِّدَآءَ فَلَمْ

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو

يَمْنَعُهُ مِنَ اتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ: خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ صَلّٰى۔

(صحیح)

نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو، یا کوئی خوف ہو۔

رواه ابو داود، كتاب الصلوٰة، باب في التشديد في ترك الجماعة: ۵۵۲، (۴۱۳/۱) **وابن حبأن** في صحيحه في كتاب الصلوٰة، باب فرض الجماعة: ۲۰۶۴، ص (۴۱۵/۵)۔ **وابن ماجه** بنحوه، كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة: ۷۹۳، (۴۳۵/۱)۔ **كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترهيب من ترك حضور الجماعة: ۵۹۰، (۲۱۱)۔ **وفي المشكوٰة،** كتاب الصلوٰة، باب الجماعة وفضلها: ۱۰۶۸، (۲۳۵/۱)۔ **رواه ابو داود،** (قد مر التخريج) **والدار قطنى** في سننه، كتاب الصلوٰة، باب الحث لجار المسجد على الصلوٰة: ۴۵۱، (۳۵۰)۔

ف: قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا، گو فرض ذمہ سے اتر جائیگا اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لئے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام واکرام نہ ہوا۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعینؒ کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بناء پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائیگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی ①۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا، نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ②۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو، اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیئے جاویں، یہ بہتر ہے ③۔

(۲) عَنْ مَعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ: اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل، جو اللہ کے منادی (یعنی مؤذن) کی

---

① الدر المنثور، التوبة:۱۷

② مصنف ابن ابی شیبہ، من قال اذا سمع المنادی، ۳۴۶۶

③ مصنف ابن ابی شیبہ، من قال اذا سمع المنادی، ۳۴۶۵

مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِيْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يُجِيْبُهٗ۔

آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔

(ض)

رواه أحمد في مسنده، مسند المكيين عن سهل عن ابى هريرة: ۱۵۶۲۷، (۳۹۰/۲۴) من طبعة، مؤسسة الرسالة: سنة ۱۴۲۱ھ سره في مسند المكيين۔ **والطبراني** في الكبير، باب الميم،: ۳۹۴، ص (۱۸۳/۲۰)۔ **من رواية زبان بن فائد كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترهيب من ترك حضور الجماعة،: ۵۹۳، (۲۱۲)۔ **وفي مجمع الزوائد،** كتاب الصلوٰة، باب التشديد في ترك الجماعة،: ۲۱۵۹، (۱۶۷/۲)۔ **رواه الطبراني في الكبير** (قد مر التخريج) **وزبان ضعفه ابن معين** (الجرح والتعديل لا بن ابى حاتم، (۲۱۶/۳)۔ **ووثقه ابو حاتم اه وعزاه في الجامع الصغير،** فصل في المحلى بال،: ۳۶۲۰، (۱۳۳۱/۱)۔ **الى الطبراني ورقم له بالضعف)**

ف: کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے، کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بد بختی اور بد نصیبی کے لئے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حثمہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے مگر حضور ﷺ سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا، ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں ❶۔

(3) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِيْ فَيَجْمَعُوْا اِلَيَّ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِيْ قَوْمًا يُّصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ۔

حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔

(متفق عليه)

---

❶ موطا امام مالک، کتاب صلاۃ الجماعۃ، باب ماجاء فی صلاۃ الجمعۃ، ۷

رواہ مسلم، کتاب المساجد، باب ماروي في التخلف عن الجماعة: ۱۴۸۱، (۱۵۶/۵)۔ **وأبو داود**، کتاب الصلوٰة، باب في التشديد في ترک الجماعة: ۵۴۹، (۴۱۲/۱)۔ **وابن ماجه**، کتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة: ۷۹۱، (۴۳۴/۱)۔ والترمذي، ابواب الصلوٰة، باب في من سمع النداء: ۲۱۷، (۶۳/۱)۔ **كذافي الترغيب**، کتاب الصلوٰة، باب الترهيب من ترک حضور الجماعة: ۵۹۴، (۲۱۲)۔ **قال: السيوطي في الدر** تحت الآية ۲۵۳، البقرة، **أخرج ابن ابی شيبة**، کتاب الصلوٰة، باب في التخلف عن الجماعة: ۳۳۷۰، (۳۳۲/۱)۔ والبخاري، کتاب الاذان، باب وجوب الصلوٰة الجماعة: ۶۵۷، (۱۳۲/۱)۔ **ومسلم**، کتاب المساجد، باب فضل صلوٰة الجماعة: ۱۵۱۵، (۱۲۳/۲)۔ وابن ماجه، کتاب المساجد، باب صلوٰة العشاء الا خيرة: ۷۸۷، (۴۳۷)۔ **عن ابی هريرة رفعه اثقل الصلوة على المنافقين صلوة العشاء وصلوة الفجر ولو يعلمون ما في هما لا توهما ولو حبوا ولقد هممت أمر بالصلوة فتقام الحديث بنحوه)**

ف: نبی اکرم ﷺ کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنیٰ سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔

(۴) عَنْ اَبِی الدَّرْدَآءِ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَامِنْ ثَلَاثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلٰوةَ اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو، تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لئے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔

(صحیح بالشواهد)

رواه أحمد في مسنده، تتمة مسند الانصار: ۲۱۷۱۵، (۴۲/۳۶)۔ **وأبو داود**، کتاب الصلوٰة، باب في التشديد في ترک الجماعة، ۵۴۷، (۴۱۱/۱)۔ **والنسائي**، کتاب الإمامة، باب في التشديد في ترک الجماعة، ۸۴۷، (۱۰۶/۲)۔ **وابن خزيمة** في صحيحه في کتاب الصلوٰة، باب التغليظ في ترک صلوٰة الجماعة، ۱۴۸۶، (۷۱۹/۱)۔ **وابن حبأن في صحيحه** في کتاب الصلوٰة، باب فرض الجماعة، ۲۱۰۱، (۴۵۷/۵)۔ **والحاكم** في کتاب الإمامة، ۷۶۵، (۳۳۰/۱)۔ **وزاد رزين في جامعه ـــــ ون ذئب الانسان الشيطان اذا خلا به اكله كذافي الترغيب**، کتاب الصلوٰة، باب الترهيب من ترک حضور الجماعة، ۵۹۲، (۲۱۱)۔ **ورقم له في الجامع الصغير بالصحة**، حرف الميم، (۱۰۷/۳)۔ **وصححه الحاكم** واقره عليه الذهبي۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں، اگر تین آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ دو کو بھی جماعت سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ کسان عام طور سے اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لئے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کافی عذر ہے اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں، تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل

کریں۔ چار پیسے کے واسطے سردی، گرمی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں، تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پچاس نماز کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں (یا جنگل میں) اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھو جی! میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا۔ یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا❶۔

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَّصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ فَقَالَ: هٰذَا فِي النَّارِ۔

(صحیح)

رواه الترمذي موقوفا، ابواب الصلوٰة، باب في من يسمع النداء، : ٢١٨، ص (٦٣)۔ **كذافي الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترهيب من ترك حضور الجماعة: ٦٠٠، (٢١۴)۔ **وفي تنبيه الغافلين،** كتاب الصلوٰة، باب الصلوات الخمس، : ٣٧٨، (١٢٣)۔ **روي عن مجاهد ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال: يا ابن عباس ماتقول في رجل فذكر بلفظه زادفي أخره فاختلف اليه شهر أيساله عن ذٰلك وهويقول هوفي النار۔**

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا (اس کے متعلق کیا حکم ہے) آپ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔

ف: گو ایک خاص زمانہ تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہر حال مسلمان ہے، مگر نہ معلوم کتنے عرصہ تک پڑا رہنا پڑیگا۔ جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تو زور ہوتا ہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں، حالانکہ کمالِ بزرگی اللہ کے محبوب کا اتباع ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تین شخصوں پر حق تعالیٰ شانہ لعنت بھیجتے ہیں: ایک اس شخص پر جس سے نمازی (کسی معقول وجہ سے) ناراض ہوں اور وہ امامت کرے، دوسرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرے اس شخص

---

❶ ابو داود، ابواب الصلوٰۃ، باب الأذان فی السفر، ۱۲۰۳

پر جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو①۔

(٦) اَخْرَجَ اِبْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قال: وَالَّذِیْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى وَالْاِنْجِیْلَ عَلٰى عِیْسٰى وَالزَّبُوْرَ عَلٰى دَاؤٗدَ وَالْفُرْقَانَ عَلٰى مُحَمَّدٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰیَاتُ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ حَیْثُ یُنَادِیْ بِهِنَّ یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ اِلٰى قولهٖ وَهُمْ سَالِمُوْنَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِذَا نُوْدِیَ بِهَا۔

وأخرج البيهقى في الشعب عن سعيدبن جبيرقال: الصلوت في الجماعات، كتاب الصلوٰة، باب فضل المشي الى المساجد، : ٢٦٥٥، (٣٦٦/۴)۔ **وأخرج البيهقيعن ابن عباس قال: الرجل يسمع الا ذان فلا يجيب الصلوة،** ايضا: ٢٦٥٦، **كذا في الدر المنثور** تحت الآية: ٣٣، القلم۔ **قلت وتمام الاية يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ الى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ الى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ**

حضرت کعب رضی اللہ عنہ احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰؑ پر اور انجیل حضرت عیسیٰؑ اور زبور حضرت داوٗدؑ پر (عَلٰى نَبِیِّنَا وَ عَلَیْهِمَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ) نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارہ میں جہاں اذان ہوتی ہو، نازل ہوئی ہیں۔ (ترجمۂ آیات) جس دن حق تعالیٰ شانہ ساق کی تجلّی فرمائیں گے (جو ایک خاص قسم کی تجلّی ہو گی) اور لوگ اس دن سجدہ کیلئے بلائے جاویں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہو گی، اس لئے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے (پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے)۔

ف: ساق کی تجلّی ایک خاص قسم کی تجلّی ہے جو میدانِ حشر میں ہو گی اس تجلّی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدہ میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو

---

① مسند البزار، مسند أبی حمزة أنس بن مالک، ٦٧٠٧

جائے گی اور سجدہ پر قدرت نہ ہو گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ جو کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے ❶۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں۔ **وَاللہُ أَعْلَمُ وَعِلْمُہٗ أَتَمُّ**

بہر حال! اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی، امام تفسیر سے تائید ہوتی ہے، کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدانِ حشر میں ذلت ونکبت (بد بختی) ہو، اور جہاں سارے مسلمان سجدہ میں مشغول ہوں اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑنے پر آئی ہیں۔ مسلمان کیلئے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وارشاد ہی سب کچھ ہے اور جس کو قدر نہیں، اس کیلئے ہزار طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہیں، جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہو گی، جو بیکار ہو گی۔

تیسرا باب

خشوع، خضوع کے بیان میں

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی بری طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بجائے اس کے ثواب واجر کا سبب ہو، ناقص ہونے کی وجہ سے منہ پر ماردی جاتی ہے، گو نہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے کہ کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جو عذاب ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ قابلِ قبول نہ ہوئی اور منہ پر پھینک کر ماردی گئی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوا، لیکن نہ پڑھنے میں جس درجہ کی نافرمانی اور نخوت ہوتی وہ تو اس

---

❶ بخاری، کتاب التفسیر، باب "یوم یکشف عن ساق"، ۴۹۱۹

صورت میں نہ ہو گی، البتہ یہ مناسب ہے کہ جب آدمی وقت خرچ کرے، کاروبار چھوڑے، مشقت اٹھائے تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وزنی اور قیمتی پڑھ لے اس میں کوتاہی نہ کرے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، گو وہ قربانی کے بارے میں ہے مگر احکام تو سارے ایک ہی ہیں، فرماتے ہیں ﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾ (الحج: ۳۷) نہ تو حق تعالیٰ شانہ کے پاس ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمھارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے، پس جس درجہ کا اخلاص ہو گا اسی درجہ کی مقبولیت ہو گی۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کو بھیجا تو میں نے آخری وصیت کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی بہت کچھ ہے ①۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اخلاص والوں کے لئے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں ②۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ضعیف لوگوں کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں، نیز ان کی دعا سے ان کی نماز سے، ان کے اخلاص سے ③۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ﴾ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ایسے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ بے خبر ہونے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو قضا کر دے، دوسرے یہ کہ متوجہ نہ ہو، ادھر ادھر مشغول ہو، تیسرے یہ کہ یہی خبر نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئیں، دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے ﴿وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (النساء: ۱۴۲)، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں (کہ ہم بھی نمازی ہیں) اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر

---

① مستدرک حاکم، کتاب الرقاق، ۷۸۴۴

② حلیۃ الاولیاء، ۱/۱۶

③ نسائی، کتاب الجہاد، باب الاستنصار بالضعیف، ۳۱۷۸

بہت تھوڑا سا۔ ایک جگہ چند انبیاء عَلٰی نَبِیِّنَا وعَلَیْھِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کا ذکر فرما کر ارشاد ہے: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّبَعُوا الشَّھَوٰتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا﴾ (مریم: ۵۹) پس ان نبیوں کے بعد بعضے ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشاتِ نفسانیہ کے پیچھے پڑ گئے، سو عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔

"غَیّ" کا ترجمہ لغت میں گمراہی ہے جس سے مراد آخرت کی خرابی اور ہلاکت ہے اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ "غَیّ" جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں لہو، پیپ وغیرہ جمع ہو گا اس میں یہ لوگ ڈال دیئے جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ﴿وَمَا مَنَعَھُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْھُمْ نَفَقٰتُھُمْ اِلَّآ اَنَّھُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰہِ وَبِرَسُوْلِہٖ وَلَا یَاْتُوْنَ الصَّلٰوۃَ اِلَّا وَھُمْ كُسَالٰی وَلَا یُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَھُمْ كٰرِھُوْنَ﴾ (التوبة: ۵۴) (ترجمہ) "اور ان کی خیر خیرات مقبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے مانع نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز نہیں پڑھتے مگر کاہلی سے، اور نیک کام میں خرچ نہیں کرتے مگر گرانی سے۔

اس کے بالمقابل اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ ھُمْ فِیْ صَلَاتِھِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ ھُمْ لِلزَّكٰوۃِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ ھُمْ لِفُرُوْجِھِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓی اَزْوَاجِھِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُھُمْ فَاِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ ھُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ ھُمْ لِاَمٰنٰتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ ھُمْ عَلٰی صَلَوٰتِھِمْ یُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ ھُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ ھُمْ فِیْھَا خٰلِدُوْنَ ۝﴾ (المؤمنون: ۱) (ترجمہ) "بے شک کامیابی اور فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں (یا اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں) اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیبیوں اور باندیوں کے کہ ان میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنا چاہیں وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں

اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، جو فردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے۔

حدیث میں آیا ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ اور افضل ترین حصہ ہے وہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی پر عرش الٰہی ہو گا، جب تم جنت کی دعا کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو❶، دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشاد الٰہی ہے۔ ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝﴾ (البقرة: ۴۵) (ترجمہ) بے شک نماز دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بلاشبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے ﴿فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ (النور: ۳۶)۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ جل شانہ نے حکم فرما دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، ان میں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی (یعنی قیامت کا دن) اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو عطا فرماویں اور بدلہ سے بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرما دیں اور اللہ جل شانہ تو جس کو چاہتے ہیں بے شمار عطا فرما دیتے ہیں۔

تو وہ داتا ہے کہ دینے کیلئے
در تری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

---

❶ ترمذی، ابواب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صفۃ درجات الجنۃ، ۲۵۳۱

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع سجدہ کو اچھی طرح ادا کرے، ہمہ تن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے ❶۔ قتادہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا ہے، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں ﴿اَقَامَ الصَّلٰوةَ﴾ اور ﴿یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ﴾ آیا ہے، یہی مراد ہے۔

یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا o وَالَّذِیْنَ یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِیَامًا o﴾ (الفرقان: ۶۳) اور رحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے (اکڑ کر نہیں چلتے) اور جب ان سے جاہل لوگ (جہالت کی) بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام (یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں جو رفعِ شر کی ہو، یا بس دور ہی سے سلام) اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے ﴿اُولٰٓئِكَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَیُلَقَّوْنَ فِیْهَا تَحِیَّةً وَّسَلٰمًا o خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا o﴾ (الفرقان: ۷۵) (الرعد ۲۳، ۲۴) یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالاخانے بدلہ میں دیئے جائیں گے، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا (یا دین پر ثابت قدم رہے) اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام سے استقبال کیا جاوے گا اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے (دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ o سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ o﴾ (الرعد ۲۳، ۲۴) ”(اور فرشتے ہر دروازہ سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام (اور سلامتی) ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا (یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے) پس کیا ہی اچھا انجامِ کار ٹھکانہ ہے“۔ انہیں لوگوں کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے:

﴿تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

---

❶ الدر المنثور، البقرة: ۲۳

يُنْفِقُوْنَ○ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○﴾ (الٓمٓ سجدۃ: ۴٦) وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلوان کی خواب گاہوں اور بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں (کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور) اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے ہیں اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، سو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کیلئے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردۂ غیب میں موجود ہے جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔" انہیں لوگوں کی شان میں ہے: ﴿اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ○ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ○ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ○ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ○﴾ (الذٰریات)، "بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے اور ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے (دنیا میں) اچھے کام کرنے والے تھے وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔

ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ○﴾ (الزمر: ۹) (کیا برابر ہو سکتا ہے بے دین) اور وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو رات کے اوقات میں، کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر کھڑا ہونے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو (اچھا آپ ان سے یہ پوچھیں) کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے ہی گا اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اَجہل ہے ہی) نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے ﴿اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا○ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا○ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا○ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ○﴾ (المعارج) اس میں شک نہیں کہ انسان غیر مستقل مزاج پیدا ہوا ہے کہ جب کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور جب کوئی بھلائی پہنچتی

ہے تو بخل کرنے لگتا ہے کہ دوسرے کو یہ بھلائی نہ پہنچے، مگر (ہاں) وہ نمازی جو اپنی نماز کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور سکون ووقار سے پڑھنے والے ہیں۔ آگے ان کی اور چند صفتیں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے کہ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ ﴾ (المعارج: ۳۴) ﴿ أُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝ ﴾ (المعارج:۷) ”اور وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائیگا۔“

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل، ان کے اعزاز واکرام ذکر فرمائے گئے ہیں اور حقیقت میں نماز ایسی ہی دولت ہے۔ اسی وجہ سے دو جہان کے سردار، فخر رسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴾ (ابراھیم: ۴۰) اے رب! مجھ کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنادے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما، جو اہتمام کرنے والے ہوں، اے ہمارے رب! میری یہ دعا قبول فرمالے۔ اللہ کا ایک پیارا نبی جس کو خلیل ہونے کا بھی فخر ہے وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ خود حق سبحانہ وتقدس اپنے محبوب سید المرسلین کو حکم فرماتے ہیں ﴿ وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۭ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝ ﴾ (طہ: ۱۳۲) ”اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے روزی (کموانا) نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیز گاری کا ہے۔“ حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنگی وغیرہ پیش آتی تو گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے اور یہی انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کا بھی معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب بھی ان حضرات کو کوئی دقّت پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے ①۔

مگر ہم لوگ اس اہم چیز سے ایسے غافل اور بے نیاز ہیں کہ اسلام اور مسلمانی کے لمبے لمبے دعووں کے باوجود بھی ادھر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی بلانے والا، کہنے والا کھڑا ہوتا ہے تو اس پر فقرے کستے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا

---

① مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلوۃ، باب الصلاۃ من اللیل، ۴۷۴۴

ہی کچھ کھوتے ہیں اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے بھی اکثر ایسی پڑھتے ہیں، جس کو نماز کے ساتھ مذاق سے اگر تعبیر کیا جائے تو بیجا نہیں کہ اکثر ارکان بھی پورے طور سے ادا نہیں کرتے، خشوع و خضوع کا تو کیا ذکر ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے ہے، وہ ہر کام خود کر کے دکھلا گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کارنامے بھی سامنے ہیں، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے چند قصے نمونہ کے طور پر اپنے رسالہ حکایاتِ صحابہؓ میں لکھ چکا ہوں، یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ اس رسالہ میں چند حکایات صوفیاء کی نقل کرنے کے بعد چند ارشادات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرتا ہوں۔

شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفیاء میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے، خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں، کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں، اس کے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے، یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھالی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔

شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں ساٹھ برس تک روتے رہے، ایک شب خواب میں دیکھا، گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلا رہے ہیں۔ وہاں چند نو عمر لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ تو انہوں نے دو شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں، اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔

ابو بکر ضریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا، ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے

آج رات سو گیا تھا، خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ایک ان میں نہایت بدصورت بھی ہے، میں نے ان سے پوچھا: تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ایک بزرگؒ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی، اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی، اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا، جس میں تین شعر لکھے ہوئے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالاخانوں سے غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے اور موت بھی وہاں نہ آئے گی، اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعار آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔

حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو دیوانی بتائی جاتی تھی، میں نے سات دینار میں خرید لی اور اپنے گھر لے آیا، جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کر دی اور نماز میں یہ حالت تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکلا جاتا تھا، نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی اور یہ کہنے لگی: اے میرے معبود! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! مجھ پر رحم فرما، میں نے اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی: قسم ہے اس ذات کی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں نہ کھڑا رکھتا، پھر اوندھے منہ گر گئی اور چند شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور دل جلا جا رہا ہے اور صبر جاتا رہا اور آنسو بہہ رہے ہیں، اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور اضطراب سے چین ہی نہیں، اے اللہ! اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطا فرما کہ مجھ پر احسان فرما، اس کے بعد بلند آواز سے یہ دعا کی کہ یا اللہ! میرا اور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو

چلی، اب مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔

اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت سِرّی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت کیلئے ایک باندی خریدی، ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت کا مجھ سے اخفاء کرتی، اُس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی وہاں جا کر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی مناجات میں مشغول ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس محبت کے وسیلہ سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دیں، میں نے آواز سے کہا کہ اے عورت! یوں کہہ کہ میری محبت کے وسیلہ سے جو مجھے آپ سے ہے۔ کہنے لگی: میری آقا! اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمھیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا، سری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے، اس کو کچھ سامان دیکر آزاد کر دیا۔

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کا حال فرماتے ہیں کہ جب وہ تہجد کی نماز کو کھڑی ہوتی تو کہتی: اے اللہ! ابلیس بھی تیرا ایک بندہ ہے پیشانی بھی تیرے قبضہ میں ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ سکتی، تو اسے دیکھتا ہے اور اس کے سارے کاموں پر قادر ہے اور وہ تیرے کسی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ! اگر وہ میری برائی چاہے تو تُو اس کو دفع کر اور وہ میرے ساتھ مکر کرے تو تُو اس کے مکر کا انتقام لے، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور تیری مدد سے اس کو دھکیلتی ہوں، اس کے بعد وہ روتی رہتی تھی حتیٰ کہ روتے روتے ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے کہا: خدا سے ڈر، کہیں دوسری آنکھ بھی نہ جاتی رہے، اس نے کہا کہ اگر یہ آنکھ جنت کی آنکھ ہے تو اللہ جل شانہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے اور اگر دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کا دور ہی ہونا اچھا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ جلاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی، والد صاحب بازار تشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا، مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نو عمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا: چچا

جان! اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے؟ کہا: ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستہ میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا: اللہ کے منادی نے بلایا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جاسکوں گا، آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا، میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریقِ اولیٰ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے، نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی، اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچادی، گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو وہ بھی مچھلی کھا کر جائے، اس سے کہا گیا اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آکر افطار کرے، لڑکے نے کہا: میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا، شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ کی جگہ بتادی۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آرہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تُو کس طرح اچھی ہوگئی؟ کہا: میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ! اس کی برکت سے مجھے اچھا کردے، میں فوراً اچھی ہوگئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے، تو دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں۔

ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، طبیبوں نے کہا: اگر ان کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے، ان کی والدہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت باندھ لیں تو کاٹ لینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔

ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا، اس سے کہا: ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں، کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے

واسطے سارے مہینے یکساں کر دیئے، وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تو بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے کہنے لگی: میرے آقا! تم دنیا میں بہت ہی مشغول ہو، پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے ایک ایک آیت مزے لے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی ﴿وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ﴾ الآیۃ۔ (ابراھیم، ۱۶) اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ مار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔

ایک سیّد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور پندرہ برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔

اہلِ مجاہدہ لوگوں میں اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ ان حضرات کی حرص تو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا ہی اس لئے فرمایا تھا، لیکن جو حضرات اکابر کہ دوسرے دینی اور دنیوی مشاغل میں مشغول تھے ان کی حرص بھی ہم جیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سب ہی واقف ہیں، خلفاءِ راشدین کے بعد انہیں کا شمار ہے، ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبد العزیزؒ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے حتیٰ کہ اس میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی۔ پھر جب کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی، ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بہت سے زیورات جواہر دیئے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس کی نظیر نہیں تھی، آپ نے بیوی سے فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو وہ زیور سارا اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کرا دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے، مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہیں، بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے، میں اس سے کئی چند زیادہ پر

بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا، آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا، اگر تم چاہو تو تمھارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے، فرمانے لگیں کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی۔

مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال کیا جاتا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ نہیں۔ پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا: سو دینار دیئے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا، آپ نے فرمایا: وہ دینار لے آ، اس نے حاضر کئے، آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا، اور اس غلام سے فرمایا: تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے، انتقال کے وقت مسلمہؒ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہو گا، آپ کے تیرہ بیٹے ہیں اور ان کیلئے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا، نہ پیسہ، آپ نے فرمایا: ذرا مجھے بٹھا دو، بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ ان کو دیا نہیں۔ پس اگر وہ صالح ہیں تو اللہ جل شانہ خود ان کا کفیل ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ﴾ (الاعراف: ۱۹۶) (وہی مُتولی ہے صلحاء کا) اور اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کی مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں تین سو رکعات نفل پڑھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن مُنکدر رحمۃ اللہ علیہ مشہور حفاظِ حدیث میں ہیں۔ ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی، کسی نے دریافت کیا تو فرمایا: تلاوت میں یہ آیت آگئی تھی ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ﴾ (الزمر: ۴۷)، اوپر کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت

عذاب سے چھوٹنے کیلئے فدیہ کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے ﴿ وَبَدَا لَهُم ﴾ الآیۃ: اور اللہ کی طرف سے ان کیلئے (عذاب کا) وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور اس وقت ان کو اپنی تمام بداعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی آیت سے ڈر رہا ہوں۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حفاظِ حدیث میں ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی، فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئیں نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ! اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم! میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اپنے ساتھی سے کہا: دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا عمل کیا تھا، اس نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ پچیس برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہیں اور ان کے علاوہ قاضی القضاۃ ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل علیحدہ تھے، لیکن پھر بھی دو سو رکعات نوافل روزانہ پڑھتے تھے، حضرت محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدِّث ہیں، اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے، ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھڑ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی، نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد اور وتر کی تیرہ رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، حضرت ہنّادؒ ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک

مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے، دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آکر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآنِ پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے، مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں، اس نے کہا کہ ستر برس سے ان کا یہی عمل ہے اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھوگے تو اور بھی تعجب کروگے۔

مسروق رحمۃ اللہ علیہ ایک مُحدِّث ہیں، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم رہتا تھا اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پر ترس کھا کر رویا کرتی تھی۔ سعید بن المسیّب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ پچاس برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی۔ اور ابو المعتمر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس برس تک ایسا ہی کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طالب مکیؒ سے نقل کیا کہ چالیس تابعیوں سے تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض کا چالیس برس تک یہی عمل رہا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی کہ تیس یا چالیس یا پچاس برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھی اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ کا معمول صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا تھا اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دوپہر کے سونے کا حدیث میں حکم ہے ①۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معمول تھا کہ رمضان میں ساٹھ قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعیؒ کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تین سو رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے اور جب بادشاہِ وقت نے آپ کے کوڑے لگوائے اور اس کی وجہ سے ضُعف بہت ہو گیا تو ڈیڑھ سو رہ گئی تھیں اور تقریباً اسّی برس کی عمر تھی۔ ابو عتاب سُلمی رحمۃ اللہ علیہ چالیس برس تک رات بھر روتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں واقعات تو

---

① المعجم الاوسط، من اسمہ احمد، ۲۸

فیق والوں کے کتبِ تواریخ میں مذکور ہیں جن کا احاطہ بھی دشوار ہے، نمونہ اور مثال کیلئے یہی واقعات کافی ہیں، حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی اور ناظرین کو بھی ان حضرات کے اتباع کا کچھ حصہ اپنے لطف وفضل سے نصیب فرمائیں، آمین۔

(۱) عَنۡ عَمَّارِبۡنِ یَاسِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعۡتُ رَسُوۡلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ یَقُوۡلُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَنۡصَرِفُ وَمَا کُتِبَ لَہٗ إِلَّا عُشۡرُ صَلٰوتِہٖ تُسۡعُھَا ثُمُنُھَا سُبُعُھَا سُدُسُھَا خُمُسُھَا رُبُعُھَا ثُلُثُھَا نِصۡفُھَا۔ (صحیح)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کیلئے ثواب کا دسواں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کیلئے نواں حصہ، بعض کیلئے آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔

رواہ ابو داود، کتاب الصلوٰۃ، باب ما جاء في نقصان الصلوٰۃ: ۷۹۶۔ (۱/۲۱۱)۔ **وقال: المنذري في الترغیب،** کتاب الصلوٰۃ: ۷۶۴، (۱/۲۰۱) **رواہ ابو داود و النسائي** في الکبریٰ، کتاب الصلوٰۃ، باب نقصان الصلوٰۃ: ۶۱۵، (۱/۳۱۶)۔ **وابن حبأن في صحیحہ بنحوہ،** کتاب الصلوٰۃ، باب ذکر البیان بأن المرء یکتب لہ بعض صلوٰتہ: ۱۴۹۳، (۲/۳۶۰)۔ **وعزاہ في الجامع الصغیر،** حرف الھمزہ (۱/۳۰۳)۔ الی أحمد **وابی داود، وابن حبأن ورقم لہ بالصحیح وفي المنتخب۔۔۔ عزاہ الی أحمد ایضا وفي الدر المنثور** تحت الآیۃ: ۳، النور۔ **أخرج أحمد** في مسند المکیین: ۱۵۵۲۲، (۲۴/۲۸۰)۔ **عن ابی الیسر مرفوعاً منکم من یصلی الصلوۃ کاملۃ ومنکم من یصلی النصف والثلث والربع حتیٰ بلغ العشر قال: المنذري في الترغیب،** کتاب الصلوٰۃ: ۷۶۵، (۱/۲۰۲)۔ **رواہ النسائي** (قد مر تخریج **بإسناد حسن واسم ابی الیسر کعب بن عمرو السلمی شھد بدراً اھ)**

ف: یعنی جس درجہ کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر وثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا دسواں حصہ ملتا ہے، اگر اس کے موافق خشوع وخضوع ہو اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے اور اسی طرح دسویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کیلئے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے ①۔ احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائیگا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا ②۔

(۲) رُوِیَ عَنۡ اَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ: مَنۡ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو

---

① الترغیب للاصبہانی، باب الترغیب فی الصلاۃ، ۱۹۱۹

② مسند الشامیین، لقمان بن عامر، ۱۵۷۹

صَلَّى الصَّلٰوتِ لِوَقْتِهَا وَاَسْبَغَ لَهَا وُضُوْءَهَا وَاَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُوْلُ حَفِظَكَ اللّٰهُ كَمَا حَفِظْتَنِيْ وَمَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوْءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوْعَهَا وَلَا رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُوْلُ ضَيَّعَكَ اللّٰهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيْ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَآءَ اللّٰهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلِقُ ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُه۔

کو بھی اچھی طرح کرے، خشوع وخضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے۔ غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا، اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔

(ض)

رواہ الطبراني في الأوسط، باب الباء من اسمه بكر: ۳۰۹۵، (۲۶۳/۳)۔ **كذا في الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوٰة في اول وقتها: ۵۲۹، (۲۰۳/۱)۔ **والدر المنثور** تحت الآية: نمبر ۲۵۳، البقرة۔ **وعزاه في المنتخب،** كتاب الصلوٰة، الباب الثانی في احكام الصلوٰة، (ص۱۳۷/۳)۔ **الی البيهقی في الشعب،** كتاب الصلوٰة، باب تحسين الصلوٰة: ۲۸۷۱، (۵۰۱/۴)۔ **وفيه ايضا** (في الحوالة السابقة) **برواية عبادة** رضی اللہ عنہ **بمنعاه وزاد في الأولی بعد قوله كماحفظتني ثم اصعد بهاالی السماء ولهاضوء ونورففتحت له ابواب السماء حتی ينتهی بهاالی الله فتشفع لصاحبهاوقال: في الثانية وغلقت دونهاابواب السماء وعزاه في الدر** تحت الآية ۲۵۳، البقرة، **الی البزار،** في مسند عبادة بن صامت،: ۲۶۹۱، (۴۱۵/۱) **والطبراني وفي الجامع الصغير،** باب الالف: ۳۶۴، (۲۷/۱)۔ **حديث عبادة الی الطيالسی،** احاديث عبادة بن صامت،: ۵۸۵، (۸۰/۱)۔ **وقال: صحيح۔**

ف: خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کیلئے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی ٹھونگ دوسری دفعہ ماردی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیثِ شریف میں ذکر فرما ہی دیا اور پھر جب وہ بربادی کی بددعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج

کل مسلمان گرتے جارہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کیلئے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے ❶۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آجائے تو اسقاط کر دے ❷۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی ❸۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لیکر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالیٰ شانہ نے عہد فرمالیا کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا اور جو ایسی نمازیں نہ لیکر حاضر ہو اس کیلئے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرمادیں چاہے عذاب دیں ❹۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تمھیں معلوم بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمادیا،؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، حضور ﷺ نے اہتمام کی وجہ سے تین مرتبہ یہی دریافت فرمایا اور صحابہ کرامؓ یہی جواب دیتے رہے، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھاکر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا، رحمت سے بخش دوں گا، ورنہ عذاب دوں گا ❺۔

(۳) عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رضی اللہ عنہ قال: سَمِعْتُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

---

❶ شعب الایمان، کتاب الصلاۃ، باب تحسین الصلاۃ، ۲۸۷۱

❷ شعب الایمان، ایضا، ۳۰۱۵

❸ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی الغیبۃ والرفث للصائم، ۱۶۹۰

❹ کنز العمال عن المعجم الاوسط، ۱۹۰۳۳

❺ المعجم الکبیر، عبد اللہ بن مسعود، ۱۰۵۵۵

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتُهٗ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْءٌ قَالَ: الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِّعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذَالِكَ۔

(صحيح بالمتابعة)

قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائیگا، اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد، خسارہ میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو! اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔

رواه الترمذی، ابواب الصلوٰة، باب ما جاء ان اول مايحاسب به العبد: ۴۱۳، ص (۱۱۲)، **وحسنه النسائی**، كتاب الصلوٰة، باب المحاسبة على الصلوٰة: ۴۶۵، (۲۳۲/۱)۔ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوٰة، باب ما جاء في اول مايحاسب به العبد، ۱۴۲۵، (۱۸۲/۲)۔ **والحاكم** في كتاب الصلوٰة: ۹۶۵، (۳۹۴/۱)۔ **وصححه** واقر عليه الذهبي۔ **كذا في الدر** تحت الآية: ۲۵۳، البقرة۔ **وفي المنتخب**، كتاب الصلوٰة، الفصل الأول في الوجوب، (۱۲۷/۳)۔ **بروایة الحاكم في الكنى عن ابن عمر اول ماافترض الله على امتى الصلوات الخمس واول مايرفع من اعمالهم الصلوات الخمس الحديث بطوله بمعنى حديث الباب وفيه ذكر الصيام والزكوة نحو الصلوة وفي الدر أخرج ابويعلى، عن انس رفعه اول ماافترض الله على الناس من دينهم الصلوة وأخر مايبقى الصلوة واول مايحاسب به الصلوة يقول الله انظروا في صلوة عبدى فان كانت تامة كتبت تامة وان كانت ناقصة قال: انظروا هل له من تطوع**۔ في مسنده، يزيد الرقاشی، ۴۱۲۲ (۱۵۲/۷)۔ **الحديث فيه ذكر الزكوة والصدقة وفيه ايضا**، اى في الدر۔ **أخرج ابن ماجه**، كتاب إقامة الصلوٰة، باب اول مايحاسب به العبد، ۱۴۲۶ (۱۸۳/۲) **والحاكم** في المستدرك، كتاب الصلوٰة، باب التأمين، ۹۶۶، (۳۹۴/۱) وسكت عنه الذهبي۔ **عن تميم الدارى مرفوعاً اول ما يحاسب به العبد يوم القيأمة صلوته الحديث وفي أخره ثم الزكوة مثل ذٰلک ثم توخذ الاعمال حسب ذٰلک وعزاه السيوطي في الجامع الصغير**، حرف الالف: ۲۸۴۴، (۲۴۵/۱)۔ **الى أحمد** في مسند الشاميين: ۱۶۹۵۴، (۱۵۲/۲۸)۔ **وابی داود**، كتاب الصلوٰة، باب قوله عليه السلام كل صلوٰة لا يتم: ۸۶۲، (۵۴۲/۱)۔ **والحاكم** (قد مر التخريج) **وابن ماجه**، كتاب إقامة الصلوٰة، باب اول ما جاء يحاسب به العبد،: ۱۴۲۶، (۱۸۳/۲) **ورقم له بالصحيح**)۔

ف: اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیئے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے، بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی! ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہے، نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے، اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہیں لیکن ان کا بالکل پورا پورا ہو جانا کون سا سہل کام ہے کہ ہر ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہی ہے تو اس کو پورا کرنے کیلئے نفلوں بغیر چارۂ کار

نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے، ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے اور سب سے پہلے قیامت میں نماز کا ہی حساب ہو گا، اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائیگا اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا اور فرض روزوں میں جو کمی ہو گی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی اور پھر زکوۃ کا حساب اسی طریقہ سے ہو گا، ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائیگا❶، خود نبی اکرم ﷺ کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی❷۔

(۴) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ فَاِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهٖ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهٖ۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائیگا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔

(حسن بالشواهد)

رواه الطبراني في الأوسط، باب الالف: ۱۸۵۹، (۲۴۰/۴)۔ **ولا باس بإسناده انشاء الله كذافي الترغيب،** كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في الصلوات الخمس: ۵۲۶، (۱۹۵/۱)۔ **وفي المنتخب برواية الطبراني في الأوسط ايضا عن انس بلفظه،** كتاب الصلوٰة، الفصل الأول في الوجوب، (۱۳۰/۳)۔ **وفي الترغيب۔ عن ابى هريرة رفعه الصلوة ثلثة اثلاث، الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه ساء رعمله ومن ردت عليه صلوته رد عليه سائر عمله اه، كتاب الصلوٰة،** باب الترهيب من عدم اتمام الركوع: ۷۳۵، (۲۴۴/۱) رواه البزار، مسند ابى حمزة: ۹۲۷۳، (۱۶۴/۱۶)۔ **وقال: لا نعلمه مرفوعاً الا من حديث المغيرة بن مسلم قال: الحافظ وإسناده حسن اه وأخرج مالک في الموطا،** كتاب وقوت الصلوٰة: ۶، (۶/۱)۔ **ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم اموركم عندى الصلوة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع كذافي الدر** تحت الآية: ۲۵۳، ، البقرة۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حُکّام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ مُہتم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے، جو شخص اسکی حفاظت اور اس کا اہتمام کریگا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے اور جو اس کو ضائع کر دیگا، وہ

---

❶ مسند ابی یعلی، یزید الرقاشی، ۴۱۲۴

❷ مسند البزار، مسند سعد بن طارق، ۲۷۶۵

دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دیگا❶۔

ف: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کا منشاء بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرأت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے مُہلِکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے❷۔ اور یہی مطلب ہے حق سبحانہ وتقدس کے ارشاد: ﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ کا جس کا بیان قریب ہی آرہا ہے۔

(۵) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ رضی اللہ عنہ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! نماز میں سے کس طرح چوری کریگا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔

(صحیح)

رواه الدارمی، كتاب الصلوٰة، باب الذي لا يتم الركوع: ۱۳۲۸، (۲۲۱/۱)۔ **وفي الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترهيب من عدم اتمام الركوع: ۵۳۳، ص (۲۴۳/۱)۔ **رواه أحمد**، مسند ابی سعيد الخدری: ۱۱۵۳۲، ص (۹۰/۱۸)۔ **والطبراني** في الأوسط، باب العين من اسمه عبد الرحمٰن: ۴۶۶۵، ص (۵۹/۵)۔ **وابن خزيمة في صحيحه** في كتاب الصلوٰة، باب اتمام السجود: ۶۶۳، ص (۳۳۱/۱)۔ **وقال: صحيح الاسناد وفي المقاصد الحسنة**، حرف الهمزة: ۲۱۹، ص (۱۱۱)۔ **حديث ان اسوء الناس سرقة رواه أحمد والدارمی في مسند يهما من حديث الوليد بن مسلم عن الاوزاعی عن يحیٰ بن ابی كثير عن عبد الله بن ابی قتادة عن ابی ه مرفوعاً وفي لفظ بحذف ان وصححه ابن خزيمة والحاكم** في كتاب الصلوٰة، كتاب الإمامة: ۸۳۶، (۳۵۳/۱)۔ **وقال: انه على شرطهما ولم يخرجاه لرواية كاتب الاوزاعی له عنه عن يحیٰ عن ابی سلمة عن ابی هريرة** واقر عليه الذهبي **ورواه أحمد ايضا** (قدمر تخريج) **والطياسی**، باب الافراد: ۲۲۱۹، (۲۹۴/۱)۔ **في مسند يهما من حديث علی بن زيد عن سعيد بن المُسَيَّب عن ابی سعيد الخدری به مرفوعا ورواية ابی هريرة عند ابی منيع وفي الباب عن عبد الله بن مغفل عن النعمان بن مرة عند مالک مرسلا،** الموطا، كتاب قصر الصلوٰة، باب العمل في جامع الصلوٰة: ۷۲، (۱۶۷/۱)۔ **في أخرين اه وقال: المنذري في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترهيب من عدم اتمام الركوع: ۷۱۸، (۲۴۱/۱)۔ **لحديث ابن مغفل رواه الطبراني في معاجمه الثلثة**، في الكبير، باب حرف الحاء: ۳۲۸۳، (۲۴۲/۳)، وفي الأوسط، باب حرف الجيم: ۳۳۹۲، (۳۵۵/۳)، وفي الصغير، باب حرف الجيم: ۳۳۵، (۲۰۹/۱)۔ **بإسناد جيد وقال: لحديث ابی هريرة رواه الطبراني في الأوسط وابن حبأن في صحيحه** في

---

❶ مؤطا امام مالک، باب وقوت الصلاۃ، ٦

❷ الغرائب الملتقط، ٢٩٦٢

كتاب الصلوٰة، باب صفة الصلوٰة: ۱۸۸، (۲۰۹/۵)۔ **والحاكم وقال: صحيح الا سنادقلت وحديث ابى قتادة وابى سعيدذكر هماالسيوطي في الجامع الصغير**، باب الالف: ۱۰۴۰، (۸۰/۱)۔ **ورقم بالصحيح**۔

ف: یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت (منکشف ہوا) ہے۔ حضرت زیاد صحابیؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں (اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا)۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ یہود و نصاریٰ بھی تو توراۃ انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا❶؟ ابو درداء رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے جاکر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو الدرداء سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی، سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا، تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہو گا۔ حضرت حذیفہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ جو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائیگا❷۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے❸۔ ایک حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے کہ آدمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے، مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا❹۔ حضرت مجدد الف ثانی نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ نے اپنے مکاتیب (خطوط) میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا، اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب العلم، ۳۳۸

❷ حلیۃ الاولیاء، ۲۸۱/۱

❸ مسند احمد، مسند المدنیین، ۱۶۲۸۳

❹ الترغیب للاصبھانی، باب فی الصلاۃ، ۱۹۲۲

اہتمام بھی ضروری ہے، شریعت نے انگلیوں کو ملانے کا، کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ نگاہ جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدہ میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دلجمعی نصیب ہوتی ہے، جب ایسے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی۔

(٦) عَنۡ اُمِّ رُوۡمَانَ رضی اللہ عنہا وَالِدَةِ عَائشَةَ رضی اللہ عنہا قالَتۡ رَآنِیۡ اَبُوۡبَکۡرِنِ الصِّدِّیۡقُ اَتَمَیَّلُ فی صَلٰوتِیۡ فَزَجَرَنِیۡ زَجۡرَةً کِدۡتُّ اَنۡصَرِفُ مِنۡ صَلٰوتِیۡ قال: سَمِعۡتُ رَسُوۡلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ یَقُوۡلُ: اِذَا قَامَ اَحَدُکُمۡ فِی الصَّلٰوةِ فَلۡیُسۡکِنۡ اَطۡرَافَهٗ لَا یَتَمَیَّلُ تَمَیُّلَ الۡیَهُوۡدِ فَإِنَّ سُکُوۡنَ الۡاَطۡرَافِ فِی الصَّلٰوةِ مِنۡ تَمَامِ الصَّلٰوةِ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں (ڈر کی وجہ سے) نماز توڑنے کے قریب ہو گئی، پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونیکا جزو ہے۔

(ض جدا)

أخرجه الحكيم الترمذی، باب الاصل السابع والاربعون والماءة في حقيقة الخشوع،: ۸۲۵، (۵۸۲/۱) **من طريق القاسم بن محمد عن اسماء بنت ابی بکر عن ام رومان كذا في الدر** تحت الآية: ۲، المؤمنون۔ **وعزاه فی الجامع الصغير،** باب حرف الالف: ۷۸۳، (۶۰/۱) **الى ابی نعيم في الحلية،** محمد بن مبارک، (۳۰۴/۹)۔ **وابن عدی في الكامل،** من اسمه حكم، (۲۰۲/۲)۔ **ورقم له بالضعف وذكر ايضا،** ای في الجامع الصغير، حرف الميم، ر: ۸۲۴۰، ص (۲۹۹/۲)۔ **برواية ابن عساكر** في تاريخه، محمد بن يحيی الطرابلسی،: ۷۱۰۴، (۲۳۶/۵۶)۔ **عن ابی بكر رضی اللہ عنہ من تمام الصلوة سكون الاطراف۔**

ف: نماز کے درمیان سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے

فرشتے کا انتظار رہتا تھا اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ o الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ o﴾ (المؤمنون: ۱) نازل ہوئی تو پھر نگاہ نیچے رہتی تھی❶۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے کہ اول اول ادھر ادھر توجہ فرمالیا کرتے تھے مگر اس آیتِ شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہمہ تن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں❷۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے (یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا) اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے❸۔ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں❹۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور! نفاق کا خشوع کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو❺۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی اس قسم کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو❻۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا❼۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے❽۔ ایک مرتبہ حضور

---

❶ مستدرک حاکم، تفسیر سورۃ المؤمنون، ۳۴۸۳

❷ الدر المنثور، المؤمنون: ۲

❸ مستدرک حاکم، ۳۴۸۲

❹ الدر المنثور، المؤمنون: ۲

❺ شعب الایمان، اخلاص، ۶۵۶۸

❻ شعب الایمان، ۶۵۶۷

❼ نوادر الاصول، ۳/ ۲۱۰

❽ السنن الکبری للنسائی، ۵۳۰

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی ①۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو گویا یہ آخری نماز ہے ایسی طرح پڑھا کرو جیسا کہ وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی ②۔

(۷) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَقَالَ: مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهُ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ۔

(اسنادہ حسن)

أخرجه ابن ابی حاتم في تفسيره، (عنكبوت: ۴۵) وابن مردويه، كذافي الدرالمنثور (ايضا)۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى﴾ الخ (بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے) کے متعلق دریافت کیا تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔

ف: بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے، اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے، حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى﴾ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بُری باتوں سے روکتا ہے اور اللہ کا ذکر قرآنِ پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔

---

① مسلم، باب النھی عن رفع البصر، ۴۲۸

② مسند الشھاب، وایاک ومایعتذر، ۹۵۲

حضرت ابنِ عباسؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بُری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے ❶۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بُری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے ❷، حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے ❸۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے ❹۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نماز اس کو اس فعل سے عنقریب ہی روک دیگی ❺۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے، بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جاویں گی۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

(۸) وَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ۔

أخرجه ابن ابی شيبه، كتاب الصلوٰة، باب الركوع والسجود: ۸۴۳۲، (۴۷۴/۲)۔ **ومسلم**، كتاب صلوٰة المسافرين، باب افضل الصلوٰة: ۱۷۶۵، ص (۲۷۸/۶)۔ **والترمذي**، ابواب الصلوٰة، باب ما جاء في طول القيام: ۳۸۷، ص (۱۰۵/۱)۔ **وابن ماجه**، كتاب إقامة الصلوٰة، باب ما جاء في طول القيام: ۱۴۲۱، (۱۸۱/۲)۔۔ **كذافي الدر المنثور** تحت الآية: ۵۳، البقرة۔۔

(حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد "قُوْمُوْا لِلّٰہِ قٰنِتِیْنَ" (اور نماز میں) کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب، اس آیت میں رکوع بھی داخل

---

❶ المعجم الکبیر، خطبہ ابن مسعود، ۸۵۴۳

❷ شعب الایمان، باب تحسین الصلاۃ، ۲۹۹۲

❸ الدر المنثور، العنکبوت: ۴۳

❹ تفسیر ابن جریر، العنکبوت

❺ مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۹۷۷۸

وفيه ايضا عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ قال: مِنَ الْقُنُوْتِ الرُّكُوْعُ وَالْخُشُوْعُ وَطُوْلُ الرُّكُوْعِ يَعْنِيْ طُوْلَ الْقِيَامِ وَغَضَّ الْبَصَرِ وَخَفْضَ الْجَنَاحِ وَالرَّهْبَةَ لِلّٰهِ وَكَانَ الْفُقَهَاءُ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُهُمْ فِي الصَّلٰوةِ يَهَابُ الرَّحْمٰنَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَنْ يَّلْتَفِتَ اَوْ يَقْلِبَ الْحَصٰى اَوْ يَشُدَّ بَصَرَهٗ اَوْ يَعْبَثَ بِشَيْءٍ اَوْ يُحَدِّثَ نَفْسَهٗ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا اِلَّا نَاسِيًا حَتّٰى يَنْصَرِفَ۔

ہے اور خشوع بھی اور لمبی رکعت ہونا بھی اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا (یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا) اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظِ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے، یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے (عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں) یا کسی اور لغو چیز میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے، ہاں بھول کے خیال آگیا تو دوسری بات ہے۔

أخرجه سعيدبن منصور في سننه، تحت قوله تعالىٰ وقوموا الله قانتين، ص (۹۲۱/۳)۔ **وعبدبن حميد۔۔۔۔ وابن جرير** في تفسيره تحت قوله تعالىٰ وقوموالله قانتين، (۲۳۴/۵)۔ **وابن المنذر۔۔۔ وابن حاتم** في تفسيره تحت قوله تعالىٰ وقوموالله قانتين (۴۴۹/۲)۔ **والاصبهانى في الترغيب**، باب الصاد، الترغيب فى الصلوٰة: ۱۸۹۴، (۲۱۴/۲)۔ **والبيهقى فى شعب الايمان**ه، كتاب الصلوٰة، باب تحسين الصلوٰة: ۲۸۸۳، (۵۰۶/۴)۔ **وهذا أخرما اردن ايراده في هٰذه العجالة رعاية لعدد الاربعين والله ولى التوفيق وقد وقع الفراغ منه ليلة التروية من سنة سبع وخمسين بعد الف وثلث مائة والحمدلله اولا واٰخراً۔**

ف: ﴿قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں، ابتداءِ زمانہ میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا①، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا حضور جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسبِ عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید

---

① بخاري، ابواب العمل فی الصلوٰۃ، باب ما ینھی عنہ من الکلام فی الصلاۃ، ۱۲۰۰

میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو، نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور ﷺ ناراض ہوگئے ہوں، شاید فلانی بات ہوگئی ہو۔ جب حضور ﷺ نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت کر دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، تسبیح، حمد وثناء کے سوا بات کرنا جائز نہیں①۔

معاویہ بن حَکَم سُلَمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینۂ طیبہ مسلمان ہونے کیلئے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں، منجملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** کہے تو اس کے جواب میں **یَرْحَمُکَ اللّٰہُ** کہنا چاہیے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی، اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے، ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی میں نے جواب میں **یَرْحَمُکَ اللّٰہُ** کہا، آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا، مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لئے میں نے کہا کہ ہائے افسوس! تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو، مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں، مگر میں چپ ہوگیا، جب نماز ختم ہوچکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرے ماں باپ آپ پر قربان) نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں، نماز تسبیح وتکبیر اور قراۃ قرآن ہی کا موقع ہے، خدا کی قسم! حضور ﷺ جیسا شفیق استاذ نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں②۔

دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ﴿قَانِتِیْنَ﴾ کے معنی خاشِعِین کے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اسی کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں کہ جو اوپر ذکر کیا گیا کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعات کا ہونا اور خشوع خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچی رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابتداء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لئے کھڑے

---

① تفسیر ابن جریر، العنکبوت

② مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، ۵۳۷

ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائیں اس پر ﴿ طٰہٰ o مَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰٓى o ﴾ (طه: ۱)۔ نازل ہوئی ❶ اور یہ تو مضمون کتنی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور ﷺ اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہیئے ❷، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے، چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو حضور ﷺ نے منع فرمادیا ❸۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہو گی اتنی ہی بہتر اور افضل ہو گی، آخر حضور ﷺ کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ کوئی بات تو رکھتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض بھی کرتے کہ سورۂ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمالیا ہے تو حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں ❹۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینۂ مبارک سے رونے کی آواز (سانس رکنے کی وجہ سے) ایسی مسلسل آتی تھی کہ جیسا چکی کی آواز ہوتی ہے ❺۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے ❻۔

حضرت علی ؓ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی ❼۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، منجملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لئے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے، حق تعالیٰ شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں، باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندہ کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و

---

❶ ابن عساکر، باب ذکر تقللہ وزھدہ، ۹۷۶(۱۴۳۔۴)

❷ بخاري، کتاب التھجد، ۱۱۵۱

❸ بخاري، ایضا، ۱۱۵۰

❹ بخاري، ایضا ۱۱۳۰

❺ ابو داود، باب البکاء في الصلوٰۃ، ۹۰۴

❻ سنن نسائي، باب البکاء فی الصلوٰۃ، ۱۲۱۴

❼ صحیح ابن خزیمہ، ۸۹۹

عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے، ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی ہے وہ میں نے عطا کی اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے امن بخشا ①۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ کسی بندہ کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو دو رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے ②۔

قرآن وحدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی اور ایک جماعت اسی طرح ہر وقت سجدہ میں مشغول رہتی ہے اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے ③۔ حق تعالیٰ شانہ نے مومن کیلئے یہ اکرام واعزاز فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو دو رکعت نماز میں عطا فرما دیا، تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے اور نماز میں قرآنِ شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے اور جب یہ فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو انہیں کی سی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ نماز کیلئے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھا کرو ④۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ زیادہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، اس سے کاہلی، سستی پیدا ہوتی ہے۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں بارہ ہزار چیزیں ہیں جن کو حق تعالیٰ شانہ نے بارہ چیزوں میں مُنْضَم (جمع) فرمایا ہے، ان بارہ کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو، یہ بارہ حسب ذیل ہیں: اول علم، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے ⑤۔ دوسرے وضو، تیسرے لباس، چوتھے وقت، پانچویں قبلہ کی طرف رخ کرنا، چھٹے نیت، ساتویں تکبیرِ تحریمہ، آٹھویں نماز میں کھڑا ہونا، نویں قرآن شریف پڑھنا، دسویں رکوع، گیارہویں سجدہ، بارہویں التحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔

پھر ان بارہ کے تین تین جزو ہیں: اول، علم کے تین جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں

---

① المعجم الکبیر، خطبہ ابن مسعود، ۸۵۳۲

② مصنف ابن ابی شیبہ، باب فی فضل الصلاۃ، ۷۶۳۲،

③ العظمۃ لابی شیخ، ۳۹۹۴

④ حلیۃ الاولیاء، مسعر بن کدام، ۷۲۵۵(۷۔۲۵۵)

⑤ جامع بیان العلم، باب فی فضل العلم، ص ۱۰۰

کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے، دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں، تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔

اس کے بعد وضو کے بھی تین جزو ہیں، اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے، دوسرے ظاہر اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے، تیسرے وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے، پھر لباس کے بھی تین جزو ہیں: اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرے یہ کہ پاک ہو، تیسرے سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے: اول یہ کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تا کہ اوقات صحیح معلوم ہو سکیں (اور ہمارے زمانہ میں اس کے قائم مقام گھڑی، گھنٹے ہو گئے ہیں) دوسرے اذان کی خبر رکھے، تیسرے دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پتہ نہ چلے۔

پھر قبلہ کی طرف منہ کرنے میں بھی تین چیزوں کی رعایت رکھے: اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسرے یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے، تیسرے مالک کے سامنے جس طرح ہمہ تن متوجہ ہونا چاہیے، اس طرح متوجہ ہو۔
پھر نیت بھی تین چیزوں کی محتاج ہے: اول یہ کہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیرِ تحریمہ کے وقت بھی تین چیزوں کی رعایت کرنا ہے: اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے (گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماسوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا) تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو۔
پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی تین چیزیں ہیں: اول یہ کہ نگاہ سجدہ کی جگہ رہے، دوسرے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے، تیسرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو، کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر اُدھر متوجہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی

شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر اُدھر دیکھنے لگے، ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کریگا۔

پھر قرأت میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے: اول صحیح ترتیل سے پڑھے، دوسرے اس کے معنی پر غور کرے، تیسرے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی تین چیزیں ہیں: اول یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچا کرے نہ اونچا (علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سُرین تینوں چیزیں برابر رہیں) دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے، تیسرے تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔

پھر سجدہ میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے: اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدہ میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرے ہاتھوں کی کہنیاں کھڑی رہیں، تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی تین چیزوں کی رعایت کرے: اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے، دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنٰی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں حضور ﷺ پر سلام ہے، مومنین کے لئے دعا ہے، پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کے بھی تین جزو ہیں، اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی، تیسرے اس پر ثواب کی امید رکھے۔

حقیقت میں نماز میں بڑی خیر اور برکت ہے، اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑائیوں کو لئے ہوئے ہے۔ ایک **سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ** ہی کو دیکھ لیجئے، جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے۔ **سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ**: یااللہ! تیری پاکی کا بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے، **وَبِحَمْدِکَ**: جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابلِ مدح امور ہیں وہ سب تیرے لئے ثابت ہیں اور تجھے زیبا۔ **وَتَبَارَکَ اسْمُکَ**: تیرا نام بابرکت ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ **وَتَعَالٰی جَدُّکَ**: تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے

بالاتر ہے۔ **وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ**: تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی، نہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ**: میرا اعظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے، اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے اور اس کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرماں برداری کا اقرار ہے، تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جھکاتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں، میرا یہ گنہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تو بیشک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگوں ہوں۔

اسی طرح سجدہ میں **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى** میں بھی اللہ کی بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے اور اس بلندی کے ساتھ ہر بُرائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے، اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے، جو سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے اور اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھ، کان، ناک، زبان ہیں، گویا اس کا اقرار ہے کہ میری یہ سب اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم کرے۔ اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہونے میں تھا، اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی اور اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے میں ہے، اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے اور حق یہ ہے کہ یہی اصلی ہیئت نماز کی ہے اور یہی ہے وہ نماز جو دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا زینہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

اور جیسا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ فقہائے صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی نماز تھی، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے ❶۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، کسی نے پوچھا: یہ کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، پھر وضو کر کے جب مسجد

---

❶ شعب الایمان، باب تحسین الصلاۃ، ۲۸۸۳

میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے: ”إِلٰهِي عَبۡدُکَ بِبَابِکَ یَا مُحۡسِنُ قَدۡ أَتَاکَ الۡمُسِئی وَ قَدۡ أَمَرۡتَ الۡمحسِنَ مِنَّا أَنۡ یَّتَجَاوَزَ عَنِ الۡمُسِئی فَأَنۡتَ الۡمُحۡسِنُ وَ أَنَا الۡمُسِئی فَتَجَاوَزۡ عَنۡ قَبِیۡحِ مَاعِنۡدِيۡ بِجَمِیۡلِ مَاعِنۡدِکَ یَا کَرِیۡمُ“ (ترجمہ) ”یااللہ! تیرا بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے! بداعمال تیرے پاس حاضر ہے، تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کریں، تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں، اے کریم! میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے درگزر فرما۔“ اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ①۔

حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک ہزار رکعت پڑھتے تھے، تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں ہوا، جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر لرزہ آجاتا۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا: کیا تمھیں خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز میں مشغول رہے لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک ناپاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا پھر تکبر کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لئے تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کیا کرتے، لوگوں کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ کس نے دیا، جب آپ کا انتقال ہوا تو سو گھر ایسے نکلے جن کا گزارہ آپ کی اعانت پر تھا ②۔

حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہٗ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپکپی آجاتی، کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، جس کو آسمان و زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں ③۔

---

① الزھد لامام احمد، ٣٦٧

② نزھۃ البساتین

③ احیاء العلوم، ١١٥١

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتیں، آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا آپ اس قدر گھبراتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت وآرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ اس کے بعد اذان کے ہر ہر جملہ کی تنبیہ کو مفصل ذکر فرمایا۔

ایک شخص نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظِ اللہ کے وقت ان پر جلالِ الٰہی کا ایسا غلبہ تھا گویا ان کے بدن میں روح نہیں رہی، بالکل مبہوت سے ہو گئے اور جب اکبر زبان سے کہا تو میرا دل ان کی اس تکبیر کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا❶۔

حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ قرنی مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں، بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیتے، کبھی سجدہ میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک ہی سجدہ میں گزار دیتے❷۔

عصام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم زاہد بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے، اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے، داہنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے پھر کوئی اور نماز شاید میسر نہ ہو اور میرے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ ”أللهُ أكْبر“ کہتا ہوں، پھر معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں، اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں اور اپنے اعمال سے مردود ہو جانے کا خوف کرتا ہوں۔ عصامؒ نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ حاتمؒ نے کہا تیس برس سے۔ عصامؒ رونے لگے کہ

---

❶ نزهة البساتين ❷ ایضاً

مجھے ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی۔

کہتے ہیں کہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہوگئی جس کا بے حد اثر تھا، ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا، ایک روایت میں آیا ہے کہ دس ہزار آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے، جماعت کے فوت ہونے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی، یہ صرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہلکی ہے۔

حضرت سعید بن المُسیَّب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیس برس کے عرصہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف تین چیزیں چاہئیں: ایک ایسا دوست ہو جو میری لغزشوں پر متنبہ کرتا رہے، ایک بقدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک جماعت کی نماز ایسی کہ اس میں جو کوتاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت پر مجھ پر ایک حملہ کیا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں (اس لئے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے) آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمونؒ بن مہران ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔

کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جس کی تکبیرِ اولیٰ فوت ہو جاتی، تین دن تک اس کا رنج کرتے تھے اور جس کی جماعت جاتی رہتی سات دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔

بکر بن عبد اللہؒ کہتے ہیں کہ اگر تُو اپنے مالک، اپنے مولا سے بلاواسطہ بات کرنا چاہے تو جب چاہے کر سکتا ہے، کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آجاتا تو ایسے ہو

جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہمہ تن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، سعید تنوخیؒ جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر جاری رہتی، خلف بن ایوبؒ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مکھیاں تم کو نماز میں دِق (تنگ) نہیں کرتیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جس سے نماز میں نقصان آئے، یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، محض اتنی سی بات کیلئے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے اور پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔

بَہجۃ النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابیؓ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا، لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑ گئی مگر نماز نہ توڑی، بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا؟ فرمایا: جس چیز میں مشغول تھا وہ اس سے بہت اونچی تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے، چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی نہ نکل سکا، آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز مین مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے، آپ نے جب نفلیں شروع کیں اور سجدہ میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا: کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا، آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔

مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمھاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال وجواب ہو گا۔ عامر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ تمھیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا: ہاں! مجھے خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہو گا اور دونوں گھروں جنت یا

دوزخ میں سے ایک میں جانا ہو گا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا، ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بھالیں گھس جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمھاری باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو (کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدہ پر ہوتا ہے)۔

ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کیلئے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی، لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھیں اس وقت کاٹنا چاہیے ان کو پتہ بھی نہ چلے گا، چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا تمھیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آجاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمھیں نماز میں کوئی چیز یاد آجاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔

”بہجۃ النفوس“ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لئے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے، یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں۔ عشاء تک اس میں مشغول رہے، یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے، اسی میں مصلے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی: ”أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَيْنٍ لَّا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ“ (اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔

ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ

جائے مگر جب نیند نہ آتی تو اُٹھ کر نماز میں مشغول ہو جائے اور عرض کرتے، یا اللہ! تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اُڑادی اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔

ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں، ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا، لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے یہ واقعات نقل کئے گئے ہیں، ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما اور تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ نہ ان کو تعب (تھکاوٹ) ہوتا ہے نہ نیند ستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ طاعات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہوتا ہی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس لذت تک پہنچادیں تو زہے نصیب۔

آخری گذارش

صوفیہ نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہم کلام ہونا ہے، جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، نماز کے علاوہ اور عبادتیں غفلت سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً زکوۃ ہے کہ اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا ہے، یہ خود ہی نفس کو اتنا شاق ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاق گزرے گا، اسی طرح روزہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا کہ یہ سب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں، غفلت سے بھی اگر متحقق ہوں تو نفس کی شدت اور تیزی پر اثر پڑیگا، لیکن نماز کا معظّم حصہ ذکر ہے، قرأتِ قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان (بے معنی گفتگو) ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں

ہوتی ہے وہ زبان پر ایسے اوقات میں جاری ہو جاتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کوئی نفع، اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے اس لئے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے، جیسا کہ سونے کی حالت میں اکثر باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ نہ سننے والا اس کو اپنے سے کلام سمجھتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ بھی ایسی نماز کی طرف التفات اور توجہ نہیں فرماتے جو بلا ارادہ کے ہو۔

اس لئے نہایت اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت وہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھی جائے، لیکن یہ امر نہایت ضروری ہے کہ اگر یہ حالات اور کیفیات جو پچھلوں کی معلوم ہوئی ہیں، حاصل نہ بھی ہوں تب بھی نماز جس حال سے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے۔ یہ بھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی اچھا ہے، یہ غلط ہے نہ پڑھنے سے بری طرح کا پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لئے کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے، حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت نے اس شخص کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جیسا کہ پہلے باب میں مفصل گزر چکا ہے، البتہ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز کا جو حق ہے اور اپنے اکابر اس کے مطابق پڑھ کر دکھا گئے ہیں، حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے توفیق عطا فرمائے اور عمر بھر میں کم از کم ایک ہی نماز ایسی ہو جائے جو پیش کرنے کے قابل ہو۔

اخیر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے اور معمولی ضعف قابلِ تسامح، باقی صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجہ سے کہیں کم ہے۔

وَمَاتَوْفِيقِيٓ اِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ

سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهِمْ وَحَمَلَةِ الدِّيْنِ الْمَتِيْنِ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

محمد زکریا عفی عنہ کاندھلوی

شب دوشنبہ ۷ محرم سنہ ۱۳۵۸ھ

فضائلِ ذکر

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمّد زکریا صاحب قَدَّسَ اللہ سِرُّہٗ

تمہید

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ، وَعَلٰی اٰلِہٖ وَأَصْحَابِہٖ وَأَتْبَاعِہٖ حَمَلَةِ الدِّیْنِ الْقَوِیْمِ۔

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ عَمَّ نَوَالُہٗ کے پاک نام میں جو برکت، لذّت، حَلاوت، سُرور، طمانِیّت ہے وہ کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانہ تک اس کو حرزِ جان بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کا سُرور اور طمانِیّت کا باعث ہے۔ خود حق تعالیٰ شانُہٗ کا اِرشاد ہے۔ ﴿اَلَا بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾ (الرعد: ۲۸) ترجمہ: ”خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذِکر (میں یہ خاصِیّت ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے“۔ آج کل عام طور سے عالَم میں پریشانی ہے۔ روزانہ ڈاک میں اکثر و بیشتر مختلِف نَوع سے پریشانیوں ہی کا تذکرہ اور تفکّرات ہی کی داستان ہوتی ہے۔ اس رسالہ کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں خواہ اِنفرادی طور پر یا اجتماعی طریقہ سے، اُن کو اپنے درد کی دوا معلوم ہو جائے اور اللہ کے ذِکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بہرہ مند ہو جائیں۔ کیا بعید ہے کہ اس رسالہ کے دیکھنے سے کسی کو اِخلاص سے اس پاک نام کے لینے کی توفیق ہو جائے اور یہ مجھ ناکارہ و بے عمل کے لئے بھی ایسے وقت میں کام آجائے جس وقت صرف عمل ہی کام آتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بلا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرمالیں یہ دوسری بات ہے۔

اس کے عِلاوہ اس وقت ایک خاص مُحرِّک یہ بھی پیش آیا کہ حق تعالیٰ شانُہٗ عَمَّ نَوالُہ نے اپنے لُطف و اِحسان سے میرے عَمِّ محترم حضرت مولانا اَلحافِظ اَلحاجّ محمّد الیاس صاحب کاندھلوی مُقیم نِظامُ الدّین دہلی کو تبلیغ میں ایک خاص مَلکہ اور جذبہ عطا فرمایا ہے، جس کی وہ سرگرمیاں جو ہند سے مُتجاوِز ہو کر حجاز تک بھی پہنچ گئی ہیں کسی تعارُف کی محتاج نہیں رہیں۔ اس کے ثَمرات سے ہند و بیرونِ ہند عموماً اور خِطّۂ میوات خصوصاً جس قدر مُتمتّع اور مُنتفِع ہُوا

اور ہو رہا ہے، وہ واقفین سے مخفی نہیں۔ ان کے اُصولِ تبلیغ سب ہی نہایت پختہ، مضبوط اور ٹھوس ہیں اور جن کے لئے عادۃً ثَمرات وبَرکات لازم ہیں۔ ان کے اہم ترین اصول میں سے یہ بھی ہے کہ مُبلّغیِن ذِکر کا اِہتمام رکھیں اور بالخُصوص تبلیغی اوقات میں ذِکر الٰہی کی کثرت کی جائے۔ اس ضابطہ کی برکات آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سُنیں۔ جس کی وجہ سے اس کی ضرورت خود بھی محسوس ہوئی اور آنمخدوم کا بھی اِرشاد ہوا کہ فضائِل ذِکر کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ جو لوگ محض تعمیلِ اِرشاد میں اب تک اس کا اِہتمام کرتے ہیں وہ اس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اِہتمام کریں کہ اللہ کا ذِکر بڑی دولت ہے۔ اس کے فضائل کا اِحاطہ نہ تو مجھ جیسے بے بِضاعت کے اِمکان میں ہے اور نہ واقع میں ممکن ہے۔ اس لئے مُختصر طور پر اس رسالہ میں چند رِوایات کا ذِکر کرتا ہوں اور اس کو تین بابوں پر مُنقسِم کرتا ہوں۔

۱۔ باب اول	مطلق ذِکر کے فضائل میں۔
۲۔ باب دوم	افضلُ الذکر کلمہ ٔطیّبہ کے بیان میں۔
۳۔ باب سوم	کلمہ سوئم یعنی تَسبِیحات فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیان میں۔

اوّل باب

فضائل ذِکر

اللہ تعالیٰ شانہٗ کے پاک ذِکر میں اگر کوئی آیت یا حدیثِ نَبوِی نہ بھی وارد ہوتی، تب بھی اس مُنعِمِ حقیقی کا ذِکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیئے تھا کہ اس ذات پاک کے اِنعام واِحسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی کوئی انتہاء ہے نہ مثال۔ ایسے مُنعِمِ کا ذِکر، اس کی یاد، اس کا شُکر، اس کی اِحسان مندی فطری چیز ہے۔

خداوندِ عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں

لیکن اس کے ساتھ جب قرآن وحدیث اور بُزرگوں کے اَقوال واَحوال اس پاک ذِکر کی ترغیب وتحریص سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا ہے اس پاک ذِکر کی بَرکات کا اور کیا ٹھکانہ ہے اس کے اَنوار کا۔ تاہم اول چند آیات پھر چند اَحادیث اس مبارک ذِکر کے مُتعلِّق پیش کرتا ہوں۔

فصل اوّل آیات ذِکر میں

(۱) ﴿فَاذْكُرُوْنِيٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ﴾ (البقرہ:۱۱۸)	پس تم میری یاد کرو (میرا ذِکر کرو) میں تمہیں یادرکھوں گا اور میری شُکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو
(۲) ﴿فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ﴾ (البقرہ:۱۹۸)	پھر جب تم (حج کے موقع) میں عَرَفات سے واپس آجاؤ تو مُزدلِفہ میں (ٹھہر کر) اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے در حقیقت تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔
(۳) ﴿فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُو اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ	پھر جب تم حج کے اَعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذِکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء

ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ o وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ o اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾ (البقرة: ۲۰۰)

(واَجداد) کا ذِکر کیا کرتے ہو، (کہ ان کی تعریفوں میں رَطبُ اللِّسان ہوتے ہو) بلکہ اللہ کا ذِکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیئے، پھر (جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں (جو اپنی دُعاؤں میں) یوں کہتے ہیں اے پروردگار! ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، (سو اُن کو تو جو ملنا ہو گا دنیا ہی میں مل جائے گا) اور اُن کے لئے آخرت میں کوئی حِصّہ نہیں اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، سو یہی ہیں جن کو اُن کے عمل کی وجہ سے (دونوں جہاں میں) حصّہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔

ف: حدیث میں آیا ہے کہ تین شخصوں کی دُعا ردّ نہیں کی جاتی۔ (بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے) ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذِکر کرتا ہو۔ دوسرے مظلوم۔ تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو ❶۔

(۴) ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ﴾ (البقرة: ۲۰۳)

اور (حج کے زمانہ میں منیٰ میں بھی ٹھہر کر) کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو (اس کا ذِکر کیا کرو)۔

(۵) ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ

اور کثرت سے اپنے ربّ کو یاد کیا کیجئے اور

---

❶ شعب الایمان، فصل فی اوصاف الائمۃ، ۶۹۷۳

بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ﴾ (آل عمران: ۴)

صبح شام تسبیح کیا کیجئے۔

(٦) ﴿الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۱)

(پہلے سے عقلمندوں کا ذِکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں (اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ) اے ہمارے رَبّ! آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذابِ جہنّم سے بچا لیجئے۔

(۷) ﴿فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ﴾ (النساء: ۱۰۳)

پھر جب تم نماز (خوف جس کا پہلے سے ذِکر ہے) پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذِکر سے غافل نہ ہو)۔

(۸) ﴿وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (النساء: ۱۴۲)

(منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذِکر بھی نہیں کرتے، مگر یوں ہی تھوڑا سا۔

(۹) ﴿اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ

شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تم میں آپس میں عداوت اور بُغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذِکر اور

الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴾ (المائدہ: ۹۱)	نماز سے روک دے بتاؤ! اب بھی (ان بری چیزوں) سے باز آجاؤ گے؟
(۱۰) ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ﴾ (الانعام: ۵۲)	اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔
(۱۱) ﴿وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ (الاعراف: ۲۹)	اور پکارا کرو اس کو (یعنی اللہ کو) خالِص کرتے ہوئے اس کے دین کو۔
(۱۲) ﴿اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (الاعراف: ۵۵)	تم لوگ پکارتے رہو اپنے ربّ کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے، (بھی) بیشک حق تعالیٰ شانہٗ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اِصلاح کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ جَلَّ شانہٗ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ (عذاب سے) اور طمع کے ساتھ رحمت میں بیشک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنیوالوں کے بہت قریب ہے۔
(۱۳) ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۸۰)	اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس اُن کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔
(۱۴) ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ﴾ (الاعراف: ۲۰۵)	اور اپنے رَبّ کی یاد کیا کر اپنے دِل میں اور ذرا دھیمی آواز سے بھی اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، (ہمیشہ) صبح کو بھی اور شام کو بھی اور غافلین

میں سے نہ ہو۔

(١٥) ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

(الانفال: ٢)

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذِکر کیا جاتا ہے تو (اس کی بڑائی کے تصور سے) ان کے دِل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکّل کرتے ہیں۔

(آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد اِرشاد ہے)

یہی لوگ سچّے ایمان والے ہیں ان کے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے ربّ کے پاس اور مَغفِرت ہے اور عزّت کی روزی ہے۔

(١٦) ﴿وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾ (الرعد: ٢٧)

اور جو شخص اللہ کی طرف مُتوجّہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذِکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر (میں ایسی خاصیت ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

(١٧) ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى﴾

(الأسراء: ١١٠)

آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو، ”یارحمن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو گے (وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے لئے بہت اچھے نام ہیں“۔

(١٨) ﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ﴾

(الکهف: ۲۴)

اور جب آپ بھول جاویں تو اپنے ربّ کا ذِکر کر لیا کیجئے۔

(وفی مسائل السلوک: فیہ مطلوبیۃ الذکر الظاہر)۔

(۱۹) ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا﴾ (الکہف: ۲۸)

آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ (بیٹھنے کا) پابند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رَبّ کو پکارتے رہتے ہیں محض اس کی رضا جوئی کیلئے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ پاوے (رونق سے یہ مُراد ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کا دِل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

(۲۰) ﴿وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ِۨالَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ﴾ (الکہف: ۱۰۰)

اور ہم دوزخ کو اس روز (یعنی قیامت کے دن) کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔

(۲۱) ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّاo اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا﴾ (مریم: ۲)

یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا (عَلَیہِ السَّلَام) پر جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔

(۲۲) ﴿وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا﴾ (مریم: ۴۸)

اور پکارتا ہوں میں اپنے رَبّ کو (قطعی) اُمید ہے کہ میں اپنے رَبّ کو پُکار کر محروم نہ رہوں گا۔

(۲۳) ﴿اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ٥ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰی﴾ (طٰهٰ: ۱۴)	بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کیلئے نماز پڑھا کرو بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مِل جائے۔
(۲۴) ﴿وَلَا تَنِیَا فِیْ ذِكْرِیْ﴾ (طٰهٰ: ۴۲)	(حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیہِمَا السَّلَام کو اِرشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔
(۲۵) ﴿وَنُوْحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ﴾ (الأنبياء: ۷۶)	اور نوح (عَلَیہِ السَّلَام کا تذکرہ ان سے کیجئے) جبکہ پُکارا اُنہوں نے اپنے رَبّ کو (حضرت ابراہیمؑ کے قصّے سے) پہلے۔
(۲۶) ﴿وَاَیُّوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗٓ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ﴾ (الأنبياء: ۸۳)	اور ایُّوب (عَلَیہِ السَّلام کا ذِکر کیجئے) جبکہ انہوں نے اپنے رَبّ کو پُکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔
(۲۷) ﴿وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ﴾ (الأنبياء: ۸۷)	اور مچھلی والے (پیغمبر یعنی حضرت یُونُس عَلَیہِ السَّلَام کا ذِکر کیجئے) جب وہ (اپنی قوم سے) خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ان پر داروگیر نہ کریں گے پس اُنہوں نے اندھیروں میں پُکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ بیشک میں قُصوروار ہوں۔

(۲۸) ﴿وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ﴾ (الأنبياء: ۸۹)

اور زکریا (عَلَیہِ السَّلام کا ذِکر کیجئے) جب انہوں نے اپنے رَبّ کو پُکارا کہ اے میرے رَبّ مجھے لاوارث نہ چھوڑو (اور یوں تو) سب وارثوں سے بہتر (اور حقیقی وارث) آپ ہی ہیں۔

(۲۹) ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِی الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ﴾ (الأنبياء: ۹۰)

بیشک یہ سب (انبیاءؑ جن کا پہلے سے ذِکر ہو رہا ہے) نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو (ثواب کی) رغبت اور (عذاب کا) خوف کرتے ہوئے اور تھے سب کے سب ہمارے لئے عاجزی کرنے والے۔

(۳۰) ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ﴾ (الحج: ۳۴)

اورآپ (جنَّت وغیرہ کی) خوشخبری سُنا دیجئے ایسے خُشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذِکر کیا جاتا ہے تو ان کے دِل ڈر جاتے ہیں۔

(۳۱) ﴿اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِیْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ o فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِیْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ o اِنِّیْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ o﴾

(المؤمنون: ۱۰)

(قیامت میں کُفّار سے گفتگو کے ذَیل میں کہا جائے گا کیا تم کو یاد نہیں) میرے بندوں کا ایک گروہ تھا (جو بیچارے ہم سے) یوں کہا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پس تم نے ان کا مذاق اُڑایا حتی کہ اس مشغلہ

نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔

(۳۲) ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ﴾
(النور:۱۷)

(کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذِکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت۔

(۳۳) ﴿وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾
(العنکبوت:۴۵)

اور اللہ کا ذِکر بہت بڑی چیز ہے۔

(۳۴) ﴿تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۔ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ (السجدہ ۴۶۲۲)

(فی الدر عن الضحاک: ھم قَوْمٌ لَّا یَزَالُوْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ، وروی نحوہ عن اِبْنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما)

ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی اُمّید سے وہ اپنے ربّ کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانۂ غیب میں محفوظ ہے جو بدلہ ہے ان کے اَعمال کا۔

ف: ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اخیر شب میں اللہ کے یہاں بہت مُقرّب ہوتا ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذِکر کیا کر ❶۔

(۳۵) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

بیشک تم لوگوں کے لئے رسول اللہ ﷺ کا نمونہ موجود تھا، یعنی ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور

---

❶ ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۷۹

(الاحزاب: ۲۱)

کثرت سے اللہ کا ذِکر کرتا ہو (کہ جب حُضور صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کیلئے کیا مانع ہو سکتا ہے)۔

(۳۶) ﴿وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا﴾ (الاحزاب: ۳۵)

(پہلے سے مُؤمنوں کی صِفات کا بیان ہے اس کے بعد اِرشاد ہے) اور بکثرت اللہ کا ذِکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذِکر کرنے والی عورتیں ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مَغْفِرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(۳۷) ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا﴾ (الاحزاب: ۴۱)

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذِکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(۳۸) ﴿وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ﴾ (الصّٰفّٰت: ۲۵۳)

اور پُکارا تھا ہم کو نوح (عَلَيْهِ السَّلَام) نے، پس ہم خوب فریاد سُننے والے ہیں۔

(۳۹) ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ (الزمر: ۲۲۳)

پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دِل اللہ کے ذِکر سے مُتاثِر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

(۴۰) ﴿اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ﴾ (الزمر: ۲۳)

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ نے بڑا عُمدہ کلام (یعنی قرآن) نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی، جس سے اُن لوگوں کے بدن کانپ اُٹھتے ہیں جو اپنے رَبّ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دِل نرم ہو کر اللہ کے ذِکر کی طرف مُتوجّہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے

جس کو چاہتا ہے اُس کے ذریعہ سے ہدایت فرما دیتا ہے۔

(۴۱) ﴿فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ﴾ (المؤمن:۱۴)

پس پکارو اللہ کو خالِص کرتے ہوئے اس کے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔

(۴۲) ﴿هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ (المؤمن:۶۵)

وہی زندہ ہے اس کے سِوا کوئی لائق عبادت کے نہیں، پس تم خالِص اِعتِقاد کر کے اس کو پُکارا کرو۔

(۴۳) ﴿وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ﴾ (الزخرف:۳۶)

جو شخص رحمان کے ذِکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مُسَلَّط کر دیتے ہیں، پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

(۴۴) ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۔ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا﴾ (الفتح:۲۹)

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان۔ اور اے مُخاطَب! تو اُن کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں (اور خُشوع و خُضوع کے) آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کھیتی کہ اس نے اوّل اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو قوی کیا، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنہ

پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی
معلوم ہونے لگی۔

(اسی طرح صَحابہ رضی اللہ عنہم میں اَوّل ضُعف تھا، پھر روزانہ قوّت بڑھتی گئی اور اللہ نے یہ نشوونما اس لئے دیا) تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں مَغفِرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

ف: آیتِ شریفہ میں گو ظاہر طور پر رکوع وسُجود اور نماز کی فضیلت زیادہ تر مقصود ہے اور وہ تو ظاہر ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے دوسرے جُزو مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اُوپر سے صلح حُدَیْبِیَہ میں کُفّار کے انکار پر اور اس بات کے اِصرار کرنے پر کہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ نہ لکھو، مُحمّد بن عبدُ اللہ لکھو، حق تعالیٰ شانہٗ فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہ ہیں اس بات پر کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور جب بھیجنے والا خود اقرار کرے کہ فلاں شخص میرا قاصد ہے تو لاکھ کوئی انکار کرے اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے، اسی گواہی کے لئے اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ اِرشاد فرمایا①۔ اس کے بعد آیتِ شریفہ میں اور بھی کئی اہم مضامین ہیں، مِنجُملہ ان کے یہ ہے کہ چہرہ کے آثار نمایاں ہونے کی فضیلت ہے۔ اس کی تفسیر میں مُختلف اَقوال ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ شب بیداروں کے چہروں پر جو اَنوار وبَرکات ظاہر ہوتے ہیں وہ مُراد ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ محقّق امر ہے کہ رات کو دو شخص جاگیں ایک لَہو ولَعِب میں مشغول رہے، دوسرا نماز، قرآن اور علم کے سیکھنے میں مشغول رہے، دوسرے دن دونوں کے چہرے کے نور میں کھلا ہوا فرق ہو گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور عُلماء کی ایک جماعت نے اس آیت سے ان لوگوں کے کُفر پر اِستِدلال کیا ہے، جو صَحابہ کِرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں، بُرا کہتے ہیں اُن سے بُغض رکھتے ہیں②۔

(۴۵) ﴿اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ﴾

کیا ایمان والوں کیلئے اس کا وقت نہیں آیا کہ اُن کے دِل خدا کی یاد کے واسطے جھک

---

① التفسیر الکبیر، الفتح:۲۸
② ابن کثیر، الفتح:۲۸

(الحدید۱۶)

جائیں۔

(۴۶) ﴿اِسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ الشَّيۡطٰنُ فَاَنۡسٰهُمۡ ذِكۡرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ الشَّيۡطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ الشَّيۡطٰنِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ﴾

(المجادلہ:۱۹)

(پہلے سے منافقوں کا ذِکر ہے) ان پر شیطان کا تسلُّط ہو گیا، پس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب سمجھ لو! یہ بات محقّق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

(۴۷)فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانۡتَشِرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَاذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

(الجمعہ:۱۰)

پھر جب (جمعہ کی) نماز پوری ہو چکی تو (تم کو اجازت ہے) تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو (یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، تا کہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔

(۴۸) ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ﴾

(المنافقون:۹۲)

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذِکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کر پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں (کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے)۔

(۴۹) ﴿وَاِنۡ يَّكَادُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَيُزۡلِقُوۡنَكَ بِاَبۡصَارِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكۡرَ وَيَقُوۡلُوۡنَ اِنَّهٗ لَمَجۡنُوۡنٌ﴾

(القلم:۵۱)

یہ کافر لوگ جب ذِکر (قرآن) سُنتے ہیں (تو شِدت عداوت سے) ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ (نَعوذُ بِاللہ) یہ تو مجنون ہیں۔

ف: نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا کِنایہ ہے دشمنی کی زیادتی سے، جیسا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں ایسا دیکھ رہا ہے کہ کھا جائے گا۔ حضرت حَسَن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو، اُس پر اس آیتِ شریفہ کو پڑھ کر دم کرنا مُفید ہے۔ (جمل)

(۵۰) ﴿وَمَنۡ يُّعۡرِضۡ عَنۡ ذِكۡرِ رَبِّهٖ يَسۡلُكۡهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ (الجن:۱۷)

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اِعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

(۵۱) ﴿وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبۡدُاللّٰهِ يَدۡعُوۡهُ كَادُوۡا يَكُوۡنُوۡنَ عَلَيۡهِ لِبَدًاؕ قُلۡ اِنَّمَاۤ اَدۡعُوۡا رَبِّيۡ وَلَاۤ اُشۡرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا﴾ (الجن: ۱۹)

جب خُدا کا خاص بندہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پُکارنے کیلئے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

(۵۲) ﴿وَاذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ اِلَيۡهِ تَبۡتِيۡلًا﴾ (المزمل: ۸۱)

اور آپ اپنے رَبّ کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف مُتوجِّہ رہیں (مُنْقَطِع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلُّق کے مقابلہ میں سب مغلوب ہوں)۔

(۵۳) ﴿وَاذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ بُكۡرَةً وَّ اَصِيۡلًاۚ وَمِنَ الَّيۡلِ فَاسۡجُدۡ لَهٗ وَسَبِّحۡهُ لَيۡلًا طَوِيۡلًاؕ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ يُحِبُّوۡنَ الۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُوۡنَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمًا ثَقِيۡلًا﴾ (الدھر: ۲۵)

اور اپنے ربّ کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصّہ میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصّہ میں اس کی تسبیح کیا کیجئے، (مراد اس سے تہجُّد کی نماز ہے) یہ لوگ جو آپ کے مُخالِف ہیں) دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور

اپنے آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(۵۴) ﴿قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَکّٰی o وَذَکَرَ اسۡمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰی﴾
(الاعلی: ۱۴)

بیشک بامراد ہو گیا وہ شخص جو (بُرے اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے ربّ کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

فصلِ ثانی احادیثِ ذِکر میں

جب کہ اس مضمون میں قرآنِ پاک کی آیات اس کثرت سے موجود ہیں تو اَحادیث کا کیا پوچھنا، کیونکہ قرآن شریف کے کل تیس پارے ہیں اور حدیث شریف کی لاتعداد کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک بُخاری شریف ہی کے بڑے بڑے تیس پارے ہیں اور اَبُوداوٗد شریف کے بتّیس پارے ہیں۔ اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ اس مُبارک ذِکر سے خالی ہو۔ اس لئے اَحادیث کا اِحاطہ تو کون کر سکتا ہے، نمونہ اور عمل کے واسطے ایک آیت اور ایک حدیث بھی کافی ہے اور جس کو عمل ہی نہیں کرنا اُس کے لئے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں۔ کَمَثَلِ الۡحِمَارِ یَحۡمِلُ اِسۡفَارًا۔

(۱) عَنۡ أَبِیۡ هُرَیۡرَةَ رضی اللّٰہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ: یَقُوۡلُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّا عِنۡدَ ظَنِّ عَبۡدِیۡ بِیۡ، وَأَنَا مَعَهٗ إِذَا ذَکَرَنِیۡ، فَإِنۡ ذَکَرَنِیۡ فِیۡ نَفۡسِهٖ، ذَکَرۡتُهٗ فِیۡ نَفۡسِیۡ۔ وَإِنۡ ذَکَرَنِیۡ فِیۡ مَلَاٍ، ذَکَرۡتُهٗ فِیۡ مَلَاٍ خَیۡرٍ مِّنۡهُمۡ وَإِنۡ تَقَرَّبَ إِلَیَّ شِبۡرًا، تَقَرَّبۡتُ إِلَیۡهِ ذِرَاعًا۔ وَإِنۡ تَقَرَّبَ إِلَیَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبۡتُ إِلَیۡهِ بَاعًا۔ وَإِنۡ أَتَانِیۡ یَمۡشِیۡ، أَتَیۡتُهٗ هَرۡوَلَةً۔

(متفق علیہ)

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دِل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دِل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میرا مجمع میں ذِکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) تذکرہ

کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت مُتَوَجِّہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اُس کی طرف مُتَوَجِّہ ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر مُتَوَجِّہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اُس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔

رواه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، : ۱۰۲۵۳، (۱۷۸/۱۶)۔ **والبخاري**، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ ويحذركم الله نفسه: ۷۴۰۵، (۱۲۱/۹)۔ **ومسلم**، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالىٰ: ٦۷۴٦، (۵/۱۷)۔ **والترمذي**، اَبواب الدعوات، باب ماجاء إن لله ملائكة: ۳٦۰۳، ص (۸۱۸)۔ والنسائي في السنن الكبرىٰ، كتاب النعوت، باب قوله تعالىٰ تعلم مافي نفسه ولاأعلم: ۷٦۸۳، (۱۵۳/۷)، **وابن ماجه**، كتاب الأدب، باب فضل العمل،: ۳۸۲۲، (۲۵۸/۴)، **والبيهقي في الشعب**، باب معاني المحبة: ۵۴٦، (۸۰/۲)۔ وأخرجه أحمد عن أنس: ۱۲۴۰۵، (۳۹۷/۱۹)۔ **والبيهقي في الأسماء والصفات**: ٦۲٦، (٦۱/۲)۔ **عن أنس بمعناه بلفظ ياابن ادم إذاذكرتني في نفسك الحديث۔ وفي الباب عن معاذ بن أنس عند الطبراني** في الكبير، باب الميم: ۳۹۱، (۔۔۔۔) **بإسناد حسن وعن اِبْنِ عَبَّاس عند البزار**، مسند اِبْنِ عَبَّاس،: ۵۱۳۸، (۳۲۵/۱۱)۔ **بإسناد صحيح۔ والبيهقي** في شُعَب الإيمان، باب محبة الله، فصل في إدامة ذكر الله،: ۵۴۷، (۸۱/۲)۔ **وغيرهما وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وابن حبان** في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الأذكار،: ۸۱۱، (۹۳/۳)۔ **وغيرهما بلفظ انا مع عبدى إذاذكرني وتحركت بى شفتاه۔ كمافي الدر المنثور**، تحت الآية: ۲۱۵ من سورة البقرة۔ **والترغيب للمنذري**، كتاب الذكر، باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله،: ۱۴۸۷، (۲۰۹/۲)۔ **والمشكوٰة**، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزوجل،: ۲۲۸۵، (۱۴/۲)۔ **مُختصراً وفيه برواية مسلم عن أبي ذر بمعناه**، كتاب الذكر، باب فضل الذكر: ۲٦۸۷، (۲۰٦۸/۴)۔ **وفي الاتحاف**، كتاب الأذكار، الباب الأول في فضيلة الذكر، (۵/۵)۔ علقه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ لاتحرك به لسانك: ۷۵۲۳، (۱۵۳/۹)۔ **عن أبي هريرة بصيغة الجزم ورواه ابن حبان**، كتاب الرقاق، باب الأذكار: ۸۱۵، (۹۷/۳)۔ **من حديث أبي الدرداء۔**

ف: اس حدیث شریف میں کئی مضمون وَارِد ہیں: اوّل یہ کہ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے مُوافِق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ سے اس کے لُطف وکرم کی اُمید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلہ کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ محض اپنے لُطف وکرم سے بالکل ہی مُعاف فرمادیں کہ ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ (النساء: ۱۱٦) کلام اللہ شریف میں وَارِد ہے (ترجمہ) حق تعالیٰ شانُہٗ شرک کے گناہ کو تو مُعاف نہیں فرمائیں گے، اس کے عِلاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ مُعاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ مُعاف ہی فرمادیں۔ اسی وجہ سے عُلماء فرماتے ہیں کہ ایمان اُمید اور خوف کے درمیان ہے۔

حُضورِ اَقدس ﷺ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزع کی حالت میں تھے۔ حُضورِ اَقدس ﷺ نے دریافت فرمایا: کس حال میں ہو؟ عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حُضور ﷺ

نے اِرشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی اُمید اور خوف جس بندہ کے دِل میں ایسی حالت میں ہوں تو اللہ جَلَّ شانُہٗ جو اُمید ہے وہ عطا فرمادیتے ہیں اور جس کا خوف ہے اُس سے اَمَن عطا فرمادیتے ہیں ❶۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ مُومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اُڑادی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی ❷۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مُنَاسِب ہونا چاہیئے اور رحمت کی اُمید اس کے مناسب۔

حضرت مُعاذ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ طاعون میں شہید ہوئے۔ اِنتِقال کے قریب زمانہ میں بار بار غَشی ہوتی تھی، جب افاقہ ہوتا، تو فرماتے یا اللہ! تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے۔ تیری عِزت کی قسم! تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آگیا تو فرمایا کہ اے موت! تیرا آنا مبارک ہے۔ کیا ہی مبارک مہمان آیا۔ مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا اُمیدوار ہوں۔ یا اللہ! مجھے زندگی کی محبت تھی، مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شِدَّتِ پیاس، برداشت کرنے اور (دین کی خاطر) مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذِکر کے حلقوں میں عُلماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی ❸۔

بعض عُلماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں اس گمان کے مُوافِق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مَغفِرت کے متعلِّق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں، مثلاً دُعا کے ہی متعلِّق سمجھو، مطلب یہ ہے: اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دُعا قبول ہوتی ہے۔ اور ضرور ہوگی تو اس کی دُعا قبول ہوتی ہے اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دُعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری اَحادیث میں آیا ہے کہ بندہ کی دُعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دُعا قبول نہیں ہوتی ❹۔ اسی طرح صحت تونگری وغیرہ سب اُمُور کا حال ہے۔

---

❶ شعب الایمان، باب الخوف من اللہ، ۹۷۱
❷ سنن الکبری للنسائی، کتاب المواعظ، ۱۱۸۴۶
❸ حلیۃ الاولیاء، ۵/ ۱۰۳
❹ بخاری، کتاب الدعوات، ۶۳۴۰

حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی ❶۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہٗ کے ساتھ حسنِ ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مُختلِف عُنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی۔ اِرشاد ہے: ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ﴾ (الفاطر: ۵) (اور نہ دھوکہ میں ڈالے تم کو دھوکہ باز) یعنی شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کئے جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے۔ دوسری جگہ اِرشاد ہے ﴿اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا﴾ (طٰہٰ: ۷۸) (کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں)۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجُّہ اس پر رہتی ہے اور خُصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذِکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر ان کا ذِکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے مُوافِق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر ۸ میں ذیل میں آرہا ہے۔ اس حالت میں اطاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتداءِ خلقت کے وقت عرض کیا تھا۔ ”آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خونریزی اور فساد کرے گی“۔ اور اس کی وجہ بھی وہی مادۂ فساد کا ان میں ہونا ہے، بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں۔ اسی لئے انہوں نے عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہی ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت، اس کی عبادت، فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے اور فرشتوں کی عالمِ آخرت کے مُشاہَدہ کے ساتھ۔ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنّت و دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ ان وجوہ سے حق تعالیٰ شانہٗ

---

❶ ابوداود، کتاب الزکوۃ، ۱۶۴۵

اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔

چوتھا مضمون حدیث میں یہ ہے کہ بندہ جس درجہ میں اللہ حق تعالیٰ شانُہٗ کی طرف مُتَوَجِّہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجُّہ اور لُطف اللہ جَلَّ شانُہٗ کی طرف سے اس بندہ پر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لُطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت ولُطف الٰہی کو اپنی طرف مُتَوَجِّہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجُّہ اللہ کی طرف بڑھائے۔ پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذِکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ترجمہ میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حَیثِیَّت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بااعتبار اکثر اَفراد کے لئے ہے کہ اکثر اَفراد فِرشتوں کے اکثر آدمیوں، بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں، گو خاص مُؤمن جیسے اَنْبِیاء عَلَیْہِمُ السَّلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں، اس کے عِلاوہ اور بھی وجوہ ہیں، جن میں بحث طویل ہے۔

(۲) عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ، فَأَخْبِرْنِیْ بِشَیْءٍ أَسْتَنُّ بِہٖ۔ قَالَ: لَا یَزَالُ لِسَانُکَ رَطْبًا مِّنْ ذِکْرِ اللّٰہِ۔

(صحیح)

ایک صحابی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ نے عرض کیا: یارسولَ اللہ! اَحکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے ایک چیز کوئی ایسا بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنالوں۔ حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے اِرشاد فرمایا کہ اللہ کے ذِکر سے تو ہر وقت رطب اللّسان رہے۔

أخرجه **ابن أبي شيبة** في المصنف، كتاب الدعاء، باب في ثواب ذكر الله: ٣٠٠٦٦، (٣٠١/١٠)۔ **وأحمد** في مسنده، مسند الشاميين، حديث عبدالله بن بسر: ١٧٦٨٠، (٢٢٦/٢٩)۔ **والترمذي**، أبواب الدعوات، باب فضل الذكر: ٣٣٧٥ص (٤٧٦)۔ **وحسنه، وابن ماجه**، كتاب الأدب، باب فضل الذكر: ٣٧٩٣، (٢٤٤/٤)۔ **وابن حبان في صحيحه**، كتاب الرقاق، باب الأذكار: ٨١٤، (٩٦/٣)۔ **والحاكم**، كتاب الدعا والتكبير: ١٨٢٢، (٦٧٢/١)۔ **وصححه والبيهقي** في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ٤٧٢، (١٧٢/٢)۔ **كذا في الدر**، تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة۔ **وفي المشكوٰة**، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عز وجل: ٢٣٠٢، (٨٢٧/٧)۔ **برواية الترمذي وابن ماجه۔ وحكى عن الترمذي: حسن غريب۔ قلت: وصححه الحاكم وأقره عَلَيْهِ الذهبي وفي الجامع الصغير**، باب حرف الحاء: ٤٠٤٢، (٣٨٢/١)۔ **برواية أبي نعيم في الحلية**، محمد بن قيس الكندى، (١١١/٦)۔ **مختصرا بلفظ: "أن تفارق الدُنيا ولسانک رطب من ذكر الله" ورقم له بالضعف، ومعناه عن مالک بن يخامر، أن معاذ بن جبل قال لهم: إن آخر كلام فارقت عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أن قلت: اى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "أن تموت ولسانک رطب من ذكر الله"** أخرجه ابن أبى الدنيافي

كتاب إصلاح المال، باب الاحتراف: ۲۰۸، (۱/۷۲)۔ **والبزار**، كشف الأستّار، كتاب الأذكار: ۳۰۵۹، (۳/۴)۔۔ **وابن حبان**، كتاب الرقائق، باب الأذكار: ۸۱۸، (۳/۹۹)۔ **والطبراني** في المعجم الكبير، باب الميم: ۱۸۱، (۲۰/۹۳)۔ **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ۵۱۳، (۲/۵۷)۔ **كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة۔ **والحصن الحصين**۔۔۔ **والترغيب للمنذري**، كتاب الذكر والدعاء: ۲۲۹۰، (۲/۲۵۳)۔ **وذكره في الجامع الصغير**، باب حرف الألف: ۱۹۸، (۱/۱۵)۔ **مُختصرا، وعزاه إلى ابن حبان في صحيحه، وابن السني في عمل اليوم والليلة**، باب حفظ اللسان: ۲، (۱/۴)۔ **والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ۱۶۷۴۷، (۱۰/۷۰)۔ **رواه الطبراني بأسانيد**۔

ایک اور حدیث میں ہے: حضرت معاذ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں نے دریافت کیا کہ سب اَعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذِکر میں رطب اللسان ہو ①۔

ف: جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے حضرت معاذ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کو اہلِ یمن کی تبلیغ و تعلیم کیلئے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس رخصت کے وقت حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کئے تھے۔ شریعت کے اَحکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مُستقِل مشغلہ بنانا دُشوار ہے، اس لئے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے ایسی بتا دیجئے کہ اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت، ہر جگہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔

ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے: ایک وہ زبان جو ذِکر میں مشغول رہنے والی ہو، دوسرے وہ دِل جو شُکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرے وہ بدن جو مَشَقَّت برداشت کرنے والا ہو، چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے ②۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مُبتلا ہو جائے۔ رطب اللسان کا مطلب اکثر عُلماء نے کثرت کا لکھا ہے اور یہ عام محاورہ ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکِرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فُلاں کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ مگر بندۂ ناچیز کے خیال میں ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کے نام لینے سے منہ میں ایک لذّت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے۔ جن کو باب عشق سے کچھ سابقہ پڑ چکا ہے

---

① المعجم الکبیر، مالک بن یخامر، ۲۰۸

② المعجم الکبیر، طلق بن حبیب، ۱۱۲۷۵

وہ اس سے واقف ہیں۔ اس بناء پر مطلب یہ ہے کہ اس لذّت سے اللہ پاک کا نام لیا جائے کہ مزہ آجائے۔

میں نے اپنے بعض بُزرگوں کو بکثرت دیکھا ہے کہ ذِکر بالجہر کرتے ہوئے ایسی تراوت آجاتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور ایسا منہ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے۔ مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دِل میں چسک ہو اور زبان کثرت ذِکر کے ساتھ مَانُوس ہو چکی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذِکر سے محبت ہے اور اللہ سے بُغض کی علامت اس کے ذِکر سے بُغض ہے ❶۔ حضرت اَبُودرداء رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذِکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنَّت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے ❷۔

(۳) عَنْ أَبِي الدرداء رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا: بَلٰى! قَالَ: ذِكْرُ اللهِ۔

حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ایک مرتبہ صحابہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم سے اِرشاد فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اَعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور (جہاد میں) تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی؟ صَحابہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم نے عرض کیا: ضرور بتا دیں۔ آپ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے اِرشاد فرمایا: اللہ کا ذِکر ہے۔

(صحیح)

أخرجه أحمد في مسنده، مسندأبى الدرداء، في مُسْنَد تتمة الأنصار: ۲۱۷۰۲، (۳۶/۳۴)۔ **والترمذي**، اَبُواب الدعوات: ۳۳۷۷، (۷۶۶)۔ **وابن ماجه**، كتاب الأدب، باب فضل الذكر: ۳۷۹۰، (۴/۲۴۲)۔ **وابن أبى الدنيا والحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير: ۱۸۶۱، (۱/۶۷۳)۔ **وصححه والبيهقي** فى شعَب الإيمان، باب محبة الله عز وجل، فصل فى إدامة ذكر الله: ۵۱۶، (۲/۵۹)۔ **كذافي الدر**، تحت الآية: ۴۲، من سورة الأحزاب، والحصن الحصين، تحفة الذاكرين بعدة **الحصن الحصين**، الباب الأول في فضل الذكر، (۱/۱۲)۔ **قلت: قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه۔ وأقره عَلَيْهِ الذهبي۔ ورقم له في الجامع الصغير، بالصحة** باب الألف: ۲۸۸۶، (۱/۲۵۱)۔ وأخرجه أحمد **عن معاذبن جبل كذافي الدر، وفيه أيضابرواية** أحمد **والترمذي**، اَبُواب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر: ۳۳۷۶، (۷۶۶)۔ والبيهقي شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ۵۸۳، (۲/۱۰۵)۔ **عن أبى سعيد سئل**

---

❶ الکامل لابن عدی، زیاد بن میمون، ۱۲۷۷

❷ مصنف ابن ابی شیبہ، باب فی ثواب ذکر اللہ، ۲۹۴۵۹

رسول اللہ صلی اللہ عَلَیْہِ وسلم: أی العباد أفضل درجة عند اللہ یوم القیامة؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا۔ قلت: یارسول اللہ، ومن الغازي في سبیل اللہ؟ قال: لو ضرب بسیفه في الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما لکان الذاکرون اللہ أفضل منه درجة۔

ف: یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے اِرشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ اُمُور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اَحادیث میں ان چیزوں کو افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذِکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل۔ ایک حدیث میں حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ہر چیز کے لئے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، (مثلاً کپڑے اور بدن کے لئے صابُون، لوہے کے لئے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ) دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذِکر ہے اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذِکر سے بڑھ کر نہیں ہے ①۔

اس حدیث میں چونکہ ذِکر کو دِل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے اس سے بھی اللہ کے ذِکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اِخلاص سے ہو اور اس کا مَدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیا نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذِکر سے مُراد ذِکرِ قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر، اور ذِکر قلبی یہ ہے کہ دِل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لئے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اَعضاء ظاہرہ وباطنہ دِل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دِل وابستہ ہو جاتا ہے سارے اَعضاء اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ عُشّاق کے حالات سے کون بے خبر ہے۔ اور بھی بہت سی اَحادیث میں ذِکر کا سب سے افضل ہونا وَارِد ہوا ہے۔ حضرت سَلمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ قرآنِ پاک میں ہے ﴿وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾ (العنکبوت: ۴۵) کوئی چیز اللہ کے ذِکر سے افضل نہیں ②۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جس آیتِ شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ اکیسویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ صاحبِ مَجَالس الاَبرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذِکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادات سے اس لئے افضل فرمایا کہ اصل

---

① شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ، ۵۱۹

② تفسیر طبری، العنکبوت: ۴۴

مقصود اللہ کا ذِکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے: ایک زبانی اور ایک قلبی، جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مُراقبہ اور دِل کی سوچ ہے اور یہی مُراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا ستر برس کی عبادت سے افضل ہے①۔

مُسنَد احمد میں ہے حضرت سَہل رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذِکر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے سات لاکھ حصّہ زیادہ ہو جاتا ہے②۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان اَحادیث میں کوئی اِشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وَارِد ہوئی ہے، چنانچہ اِرشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستہ میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر ستر سال کی نماز سے افضل ہے③، حالانکہ نماز بِالاِتِفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کُفّار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔

(۴) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهَ أَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ، يُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى۔

حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذِکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانُہٗ جنّت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔

(ض)

أخرجه **ابن حبان**، كتاب البر والاحسان، ذكر الخبر الدال على ان المرء قد ينال بحسن السريرة: ۳۹۸، (۲/۱۲۴)۔ **كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة، **قلت ويأيده الحديث المتقدم قريبا بلفظ ارفعها في درجاتكم وأيضا قوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يارسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات۔ رواه مسلم**، كتاب الذكر، باب الحث على ذكر الله: ٦٧۴٩، (۷/۱۷)۔ **كذا في الحسن وفي رواية قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامة خفافا رواه الترمذي**، أبواب الدعوات: ۳۵۹٦، (۵/۵۷۷)۔ **والحاكم مختصرا**، كتاب الدعاء والتكبير: ۱۸۲۳، (۱/٦۷۳) واقر عَلَيْهِ الذهبي۔ **وقال صحيح على شرط الشيخين وفي الجامع**، حرف السين،: ۴٦۵۱، (۱/۴٦۴)۔ **رواه الطبراني** في الأوسط: ۲۷۷۳، ص۳/۱۵۵)۔ **عن أبي الدرداء أيضا۔**

ف: یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا، آخرت کے رفعِ دَرَجات کا

---

① العظمۃ لابی الشیخ، الفضل فی المتفکر، ۴۳

② مسند احمد، معاذ بن انس جھنی، ۱۵۶۱۳

③ ترمذی، ابواب فضائل الجہاد، ۱۶۵۰

سبب ہے اور جتنی بھی دینی اُمور میں یہاں مَشَقَّت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہو گا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذِکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفعِ دَرَجات کا سبب ہوتا ہے۔ نَبیِّ کریم ﷺ کا اِرشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذِکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں❶۔ ایک حدیث میں حُضور ﷺ کا اِرشاد وَارِد ہوا ہے کہ مُفَرِّد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مُفَرِّد کون ہیں؟ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا: جو اللہ کے ذِکر میں والہانہ طریقہ پر مشغول ہیں❷۔ اس حدیث کی بناء پر صُوفیہ نے لکھا ہے کہ سلاطین اور امراء کو اللہ کے ذِکر سے نہ روکنا چاہیئے کہ وہ اس کی وجہ سے دَرَجاتِ اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرت اَبُو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تُو اللہ کے ذِکر کو اپنی مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھ کو مَشَقَّتوں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا❸۔ حضرت سَلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے، خوشی کے، ثروت کے اوقات میں اللہ کا ذِکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مَشَقَّت اور تکلیف پہنچے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مَانُوس آواز ہے جو ضعیف بندہ کی ہے۔ پھر اللہ کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں اور جو شخص راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے، پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں: کیسی غیر مَانُوس آواز ہے❹۔

حضرت اِبنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جَنَّت کے آٹھ دروازے ہیں، ایک ان میں سے صرف ذاکِرِین کیلئے ہے❺۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذِکر کثرت سے کرے وہ نِفاق سے بری ہے❻۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ اس سے محبت فرماتے ہیں❼۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حُضور ﷺ نے فرمایا: آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بعض تیز رو آگے چلے گئے۔ حُضور

---

❶ مسلم، کتاب التوبۃ، باب فضل دوام الذکر، ۲۷۵۰
❷ ترمذی، ابواب فضائل الجہاد، ۳۵۹۶
❸ الدر المنثور، البقرۃ: ۱۵۲
❹ مصنف ابن ابی شیبہ، فی ثواب ذکر اللہ، ۲۹۴۸۰
❺ تفسیر ابن ابی حاتم، الزمر: ۳۹
❻ المعجم الصغیر، من اسمہ احمد، ۹۷۴
❼ الترغیب لابن شاہین، ۱۵۹

ﷺ نے فرمایا: وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذِکر میں والہانہ مشغول ہیں؟ جو شخص یہ چاہے کہ جنَّت سے خوب سیراب ہو، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے①۔

(۵) عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهٗ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔

(متفق علیه)

حضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذِکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذِکر کرنے والا زندہ ہے اور ذِکر نہ کرنے والا مُردہ ہے۔

أخرجه **البخاري**، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله: ٦٠٤٤، (٢٢٥٣/٥)۔ **ومسلم**، كتاب صلوٰة المسافرين، باب استحباب الصلوٰة النافلة: ١٨٢٠، (٣٠٩/٦)۔ **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب إدامة ذكر الله: ٥٣٢، (٧٢/٢)۔ **كذافي الدر** تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة۔ **والمشكوٰة** كتاب الدعوات، باب ذكر الله عز وجلز: ٢٢٦٣، (١٠/٢)۔

ف: زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ حُضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو اللہ کا ذِکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔

زندگانی نتواں گفت حیاتیکہ مراست
زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد

ترجمہ: کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں ہے جو میری ہے۔ زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔

بعض عُلماء نے فرمایا ہے یہ دِل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذِکر کرتا ہے اس کا دِل زندہ رہتا ہے اور جو ذِکر نہیں کرتا اس کا دِل مر جاتا ہے۔ اور بعض عُلماء نے فرمایا ہے کہ تشبیہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کا ذِکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کئے کو بھگتے گا۔ اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا مُردہ کو ستانے والا کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صُوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی مُراد ہے کہ اللہ کا ذِکر کثرت سے اِخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں ہی کے حکم میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآنِ پاک میں شہید کے متعلّق وارِد ہوا ہے ﴿بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ

---

① المعجم الکبیر، ابو عبد اللہ القراط، ٣٢٦

رَبِّهِمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۰)۔ اسی طرح ان کے لئے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔

حکیم تِرْمذِی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذِکر دِل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے اور جب دِل اللہ کے ذِکر سے خالی ہوتا ہے، تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہوکر سخت ہوجاتا ہے اور سارے اَعضاء سخت ہوجاتے ہیں، اطاعت سے رُک جاتے ہیں۔ اگر ان اَعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ خشک لکڑی کہ جھکانے سے نہیں جھکتی صرف کاٹ کر جلادینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔

(۶) عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِيْ حِجْرِهٖ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا، وَاٰخِرُ يَذْكُرُ اللهَ لَكَانَ الذَّاكِرُ لِلّٰهِ أَفْضَلَ۔

(ض)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کررہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذِکر میں مشغول ہو، تو ذِکر کرنے والا افضل ہے۔

أخرجه **الطبراني** في الأوسط، باب الميم، : ۵۹۶۹، (۶/۱۱۶)۔ **كذا في الدر** تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة، **وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ۱۶۷۵۱، (۱۰/۷۲)۔ **رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله وثقوا۔**

ف: یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد اسے مقابلہ میں بھی افضل ہے، پھر کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مالدار اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والے جن کو اللہ کے ذِکر کی بھی توفیق نصیب ہوجائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہٗ کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی حَیثِیَّت کے مُوافِق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذِکر کی توفیق نصیب ہوجائے ①۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گھرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لئے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو کیسی مفت کی کمائی ہے۔ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے دو چار گھنٹے اس کام کیلئے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے، آخر فضولیات لَغوِیات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے، اس کارآمد چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا دُشوار ہے۔

ایک حدیث میں حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ

---

① الزھد لابن ابی الدنیا، ۴۰۵

کے ذِکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سایہ کی تحقیق رکھتے ہیں، یعنی اوقات کی تحقیق کا اہتمام کرتے ہیں ①۔ اگرچہ اس زمانہ میں گھڑی گھنٹوں کی کثرت نے اس سے بے نیاز کر دیا، پھر بھی فی الجملہ واقفیت ان چیزوں کی مُناسِب ہے کہ گھڑی کے خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصّہ پر اللہ کا ذِکر کیا جائے، وہ حصّہ نیچے ساتوں زمینوں تک دوسرے حِصّوں پر فخر کرتا ہے ②۔

(۷) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ **قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ، لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهَا۔**

(صحیح بالشواهد)

حُضورِ اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ جنّت میں جانے کے بعد اہلِ جنّت کو دنیا کی کسی چیز کا قلق و افسوس نہیں ہو گا، بجُز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے بغیر گزر گئی ہو۔

أخرجه **الطبراني** في الكبير، باب الميم، : ۱۸۲، (۶۴۳۵/۱۳)۔ **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، الباب العاشر في معاني المحبة، فصل في إدامة ذكر الله، : ۵۱۰، (۵۵/۲) **كذا في الدر** تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة۔ وفي **الجامع الصغير**، حرف اللام، : ۷۷۰۱، (۲۵۷/۲)۔ **رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، رقم له بالحسن۔ وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ۱۶۷۴۶، (۷۰/۱۰)۔ **رواه الطبراني ورجاله ثقات۔ وفي شيخ الطبراني خلاف، وأخرج ابن أبي الدُنيا والبيهقي** في شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ۵۰۸، (۵۴/۲)۔ **عن عائشة بمعناه مرفوعا۔ كذا في الدر** في الحوالة السابقة۔ **وفي الترغيب**، كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله: ۲۳۳۱، (۲۶۳/۲) **بمعناه عن أبي هريرة مرفوعا۔ وقال: رواه** أحمد، مسند أبي هريرة، : ۹۸۴۳، (۵۴۲/۱۵)۔ **بإسناد صحيح، وابن حبان**، كتاب الرقائق، باب الأذكار: ۸۵۳، (۳۳۱/۳)۔ **والحاكم**، كتاب الدعاء: ۲۰۱۷، (۷۳۵/۱)۔ **وقال: صحيح على شرط البخاري**، وقال الذهبي: على شرط مسلم۔

ف: جنّت میں جانے کے بعد جب یہ مَنظَر سامنے ہو گا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے، تو اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہو گا ظاہر ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذِکرُ اللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "مُنَبِّہات" میں لکھا ہے کہ یحیٰی بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے۔ **"إِلٰهِيْ لَا يَطِيْبُ اللَّيْلُ إِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ، وَلَا يَطِيْبُ النَّهَارُ إِلَّا بِطَاعَتِكَ، وَلَا تَطِيْبُ الدُّنْيَا إِلَّا بِذِكْرِكَ، وَلَا تَطِيْبُ الْاٰخِرَةُ إِلَّا بِعَفْوِكَ، وَلَا تَطِيْبُ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَتِكَ۔"** (ترجمہ) یااللہ! رات اچھی نہیں لگتی، مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ اور دن اچھا معلوم نہیں ہوتا، مگر تیری عبادت کے ساتھ اور دنیا اچھی معلوم نہیں ہوتی، مگر تیرے ذِکر کے ساتھ

---

① مستدرک حاکم، کتاب الایمان، ۱۶۳

② مسند ابی یعلی، یزید الرقاشی، ۴۱۱۰

اور آخرت بھلی نہیں، مگر تیری معافی کے ساتھ اور جنّت میں لُطف نہیں، مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔

حضرت سِرّی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستّو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ خشک ہی پھانک رہے ہو۔؟ کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی ستر مرتبہ سُبحَان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لئے میں نے چالیس برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستّو پھانک کر گزر کرلیتا ہوں①۔ منصور بن مُعتَمر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلّق لکھا ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ ربیع بن ہَیثم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلّق لکھا ہے کہ بیس برس تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچہ پر لکھ لیتے اور رات کو اپنے دِل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری۔

(۸) عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ وَأَبِیْ سَعِیْدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهٗ قَالَ لَایَقْعُدُ قَوْمٌ یَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّاحَفَّتْهُمُ الْمَلَآئِكَةُ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّكِیْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِیْمَنْ عِنْدَهٗ۔

(صحیح)

أخرجه **ابن أبی شیبة** في المصنف، کتاب الدعاء، باب في ثواب ذکر الله: ۳۰۰۹۸، (۲۴۷/۱۵)۔ وأحمد، مسند أبی سعیدالخدری رضی اللہ عنه: ۱۱۲۸۷، (۳۸۸/۱۷)۔ **ومسلم،** کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن: ۶۷۹۵، (۲۴/۱۷)۔ **والترمذي،** اَبواب الدعوات، باب ماجاء في قوم یجلسون: ۳۳۸۷، (۶۷۷)۔ **وابن ماجه،** کتاب الأدب، باب فضل الذکر: ۳۷۹۱، (۲۴۳/۴)۔ **والبیهقي** شُعَب الإیمان، کتاب الإیمان، باب محبة الله: ۵۲۷، (۶۷/۲)۔ **کذافي الدر** تحت الآیة: ۱۵۲، من سورة البقرة، **والحصن،** فصل في فضل الذکر، ص (۲۰)۔ **والمشکوٰة،** کتاب الدعوات، باب ذکر الله عز وجل: ۲۲۶۱، (۹/۲)۔ وفي **حدیث طویل لأبی ذر "أوصیک بتقوی الله، فإنه راس الأمر کله۔ وعلیک بتلاوة القرآن**

حضرت اَبُوذر رضی اللہ عنہ نبیِّ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقویٰ کی وصیّت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ اور قرآن شریف کی تِلاوت اور اللہ کے ذِکر کا اِہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذِکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چُپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو۔ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے، زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دِل مر جاتا ہے اور چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری اُمّت کی فقیری یہی ہے۔ مسکینوں سے

---

① اتحاف السادة المتقین

وذکر الله۔ فإنه ذِکرلک في السماء، ونورلک في الأرض۔“

(۲) وَقَالَ لِأَبِيْ ذَرٍّ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهٗ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهٖ وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِي السَّمَآءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ۔

(ض)

الحديث ذکره في الجامع الصغير باب حرف الألف: ۲۷۹۳، (۱/۲۴۰)۔ **برواية الطبراني** في الكبير، باب الجيم: ۱۶۵۱، (۲/۱۵۷)۔ وعبد بن حميد في تفسيره، ورقم له بالحسن۔

محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حَیثِیَّت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں۔ حق بات کہنے میں تردُّد نہ کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ تجھے اپنی عَیب بِینی دوسروں کے عُیوب پر نظر نہ کرنے دے۔ اور جس عَیب میں خود مُبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصّہ نہ کرنا۔ اے اَبُوذر! حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز اُمُور سے بچنا بہترین پرہیز گاری ہے۔ اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔

ف: سَکِینہ کے معنی سکون و وقار کے ہیں یا کسی مخصوص رحمت کے، جس کی تفسیر میں مُختلِف اقوال ہیں جن کو مُختصر طور پر اپنے رسالہ ”چہل حدیث“ جدید در فضائلِ قرآن میں لکھ چکا ہوں۔ امام نَوَوِی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طُمانِیّت، رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔

حق تعالیٰ شانُہٗ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم عَلَیہِ السَّلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ

لوگ دنیا میں فساد کریں گے، جیسا کہ پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپا عبادت، سراپا بندگی و اطاعت ہے، لیکن ان میں معصیت کا مادہ بھی نہیں ہے اور انسان میں چونکہ دونوں مادے موجود ہیں اور غفلت اور نافرمانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہوتیں، لذتیں اس کا جزو ہیں، اس لئے اس سے ان سب کے مقابلہ میں جو عبادت، جو اطاعت ہو اور جو معصیت کا مقابلہ ہو وہ زیادہ قابلِ مدح اور قابل قدر ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہٗ نے جَنَّت کو بنایا تو حضرت جبرئیل عَلَیہِ السَّلام کو اِرشاد ہوا کہ اس کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے آکر عرض کیا۔ یا اللہ! آپ کی عِزت کی قسم! جو شخص بھی اس کی خبر سن لے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ یعنی لذتیں اور راحتیں، فرحتیں، نعمتیں جس قدر اس میں رکھی گئی ہیں ان کے سننے اور یقین آجانے کے بعد کون ہو گا جو اس میں جانے کی انتہائی کوشش نہ کرے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانہٗ نے اس کو مَشَقتوں سے ڈھانک دیا کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، اس پر سوار کر دیئے گئے کہ ان کو بجالاؤ تو جَنَّت میں جاؤ اور پھر حضرت جبرئیل عَلَیہِ السَّلام کو اِرشاد ہوا کہ اب دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب تو یا اللہ! مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جا ہی نہ سکے گا۔ اسی طرح جب جہنّم کو بنایا تو حضرت جبرئیل عَلَیہِ السَّلام کو اس کے دیکھنے کا حکم ہوا۔ وہاں کے عذاب، وہاں کے مصائب، گندگیاں اور تکلیفیں دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ! آپ کی عِزت کی قسم! جو شخص اس کے حالات سن لے گا کبھی بھی اس کے پاس نہ جائے گا۔ حق سُبحانہ تَقَدُّس نے دنیا کی لذتوں سے اس کو ڈھانک دیا کہ زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، اَحکام پر عمل نہ کرنا وغیر وغیرہ کا پردہ اس پر ڈال دیا گیا۔ پھر اِرشاد ہوا کہ اب دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ! اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہی کوئی اس سے بچے ❶۔

اسی وجہ سے جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو اس ماحول کے اعتبار سے جس میں وہ ہے، قابلِ قدر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہٗ اِظہارِ مَسَرَّت

---

❶ ترمذی، ابواب صفۃ الجنۃ، ۲۵۶۰

فرماتے ہیں۔ جن فرشتوں کا اس حدیث پاک میں اور اس قسم کی بہت سی حدیثوں میں ذِکر آیا ہے، وہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو اسی کام پر متعیّن ہے کہ جہاں اللہ کے ذِکر کی مَجَالِس ہوں، اللہ کا ذِکر کیا جا رہا ہو، وہاں جمع ہوں اور اس کو سنیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر پھرتی رہتی ہے اور جس جس جگہ اللہ کا ذِکر سنتی ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتی ہے کہ آجاؤ، اس جگہ تمہارا مقصود اور غرض موجود ہے اور پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک ان کا حلقہ پہنچ جاتا ہے ❶، جیسا کہ تیسرے باب کی دوسری فصل کے نمبر ۱۴ پر آرہا ہے۔

(۹) عَنْ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهٖ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا: أَجْلَسَنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا: آللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذٰلِكَ قَالَ: أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ، وَلٰكِنْ أَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ، فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَآئِكَةَ۔

(صحيح)

أخرجه **ابن أبي شيبة**، كتاب الدعاء، باب ثواب ذكر الله: ٣٠٠٨٣، (١٠/٣٠٥) **وأحمد** في مسنده، مسند الشاميين: ٦٨٣٥، (٢٨/۴٩)۔ **ومسلم**، كتاب الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: ٦۷٩۷، (١۷/٢٥)۔ **والترمذي**، اَبُواب الدعوات، باب ماجاء في قوم يجلسون: ٣٣۷٩، ص (۷٦۷)۔ **والنسائي**، كتاب آداب القضاة، باب كيف يستحلف الحاكم: ٥۴٢٦، (٨/٢۴٩)۔ **كذافي الدر** تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة، **والمشكوٰة**، كتاب الدعوات، باب ذكر الله: ٢٢۷٨، (٢/١٣)۔

حُضور اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ایک مرتبہ صَحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ذِکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد وثناء کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی اِحسان ہم پر ہے۔ حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا: کیا خدا کی قسم! صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: خدا کی قسم! صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سُنا گئے کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے

---

❶ بخاری، کتاب الدعوات، ٦۴٠٨

ہیں۔

ف: یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا اس سے مقصود اِہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے عِلاوہ ہو اور وہ بات اللہ جَلَّ شانُہٗ کے فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکِرہ ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھیں اور ان کی حمد وثناء پر حق تعالیٰ شانُہٗ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی ﷺ کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی اور کیوں نہ ہو تا کہ ان حضرات کے کارنامے اسی کے مستحق تھے۔ ان کے کارناموں کا مُختصر تذکِرہ میں اپنے رسالہ ”حکایاتِ صحابہ رضی اللہ عنہم“ میں نمونہ کے طور پر لکھ چکا ہوں۔

مُلَّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو! یہ لوگ باوجودیکہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مُسلَّط ہے، شہوتیں ان میں موجود ہیں، دنیا کی ضرورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان سب کے باوجود، ان سب کے مقابلہ میں اللہ کے ذِکر میں مشغول ہیں اور اتنی کثرت سے ہٹانے والی چیزوں کے باوجود میرے ذِکر سے نہیں ہٹتے۔ تمہارا ذِکر و تسبیح اس لحاظ سے کہ تمہارے لئے کوئی مانع بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے ❶۔

(۱۰) عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ، لَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَهٗ إِلَّا نَادٰهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ۔

حضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذِکر کے لئے مُجتمع ہوں، اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔

(صحیح بالشواهد)

أخرجه أحمد في مسنده، مُسْنَد أنس بن مالک: ۱۲۴۵۳، (۱۹/۴۳۷)۔ **والبزار**، مسند أبی حمزة: ۶۴۶۷، (۱۳/۱۰۲)۔ **وأبويعلى** في مسنده، مسند يزيد الرقاشي: ۴۱۴۱، (۷/۱۶۷)۔ **والطبراني** في الأوسط، باب الألف: ۳۷۴۴، (۴/۱۱۲)۔ وأخرجه **الطبراني عن سَهل بن الحنظليه ايضاً** في الكبير: ۶۰۳۹، (۶/۲۱۲)۔ وأخرجه **البيهقي**، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ۵۳۰، (۲/۷۱)۔

---

❶ مرقاۃ، کتاب الدعوات، ۴/۱۵۵۸

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَزَادَ۔ ’’وَمَا مِنْ قَوْمٍ إجْتَمَعُوْا فِيْ مَجْلِسٍ، فَتَفَرَّقُوْا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ، إلَّا كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ‘‘۔

دوسری حدیث میں ہے اس کے بِالْمُقابِل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذِکر ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت وافسوس کا سبب ہو گا۔

كذا في الدر تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة۔ قال المنذري، كتاب الذكر والدعاء،: ۲۳۲۰، (۲/۲۶۰)۔ **رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح۔ وفي الباب عن أبى هريرة عند** أحمد۔۔۔۔ **وابن حبان،** كتاب البر والإحسان، باب الصحبة والمجالسة: ۵۹۰، (۲/۳۵۱)۔ **وغيرهما وصححه الحاكم على شرط مسلم، في موضع،** كتاب الدعاء والتكبير: ۱۸۰۹، (۱/۶۶۸) وسكت عنه الذهبي في التلخيص۔ **وعلى شرط البخاري في موضع اخر،** كتاب الدعاء والتكبير: ۲۰۱۷، (۱/۷۳۵)۔ وقال الذهبي: على شرط مسلم۔ **وعزا السُيُوطي في الجامع،** حرف الميم: ۱۹۶۶۳، (۱۸/۳۷۹)۔ **حديث سَهل إلى الطبراني والبيهقي في الشعب والضياء،** الأحاديث المختارة: ۲۶۷۸، (۳/۱۵۴)۔ **ورقم له بالحسن۔ وفي الباب رِوايات ذكرها في مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ماجاء في مَجَالِس الذكر: ۱۶۷۶۴، (۱۰/۷۵)۔

ف: یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور اضاعت پر حسرت ہو گی اور کیا بعید ہے کہ وَبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذِکر نہ ہو، حُضور ﷺ پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اُٹھے ہوں ①۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفّارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دُعا پڑھ لے۔ **’’سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ أَشْھَدُ أَنْ لَّا إلٰهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوْبُ إلَیْکَ‘‘** ②۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حُضور ﷺ پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہو گی۔ پھر حق تعالیٰ شانُہٗ اپنے لُطف سے چاہے مغفِرت فرماویں، چاہے مطالبہ اور عذاب فرماویں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذِکر ان میں کثرت سے کرو۔ راہگیروں کو (بوقتِ ضرورت) راستہ بتاؤ اور (ناجائز چیز سامنے آجائے تو) آنکھیں بند کر لو (یا نیچی کر لو کہ اس پر نگاہ نہ پڑے) ③۔ حضرت علی کَرَّمَ اللہ وَجْہَہٗ اِرشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، (یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آجائے گی) اس کو چاہیئے کہ مجلس کے ختم پر یہ دُعا پڑھا پڑھے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ ④

---

① سنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، ۱۰۱۶۹

② المعجم الکبیر، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۱۰۳۳۳

③ المعجم الکبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن الانصاری، ۵۵۹۲

④ تفسیر ابن ابی حاتم، الصافات

حدیثِ بالا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قرآنِ پاک میں سورۂ فرقان کے ختم پر مؤمنین کی چند صفات ذِکر فرمانے کے بعد اِرشاد ہے: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (الفرقان: ۷۰) (پس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں)۔

اس آیتِ شریفہ کے متعلّق عُلمائے تفسیر کے چند اقوال ہیں:

ایک یہ کہ سَیِّئات مُعاف فرمادی جائیں گی اور حَسَنات باقی رہ جائیں گی، گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سَیِّئہ کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اَعمال کرنے کے نیک اَعمال کی توفیق حق تعالیٰ شانُہٗ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کی بجائے سردی ہوگئی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلّق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں۔ اسی وجہ سے ضرب المثل ہے "جبل گردد جبلّت نہ گردد"۔ اور یہ مثل بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں اِرشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کرلو، لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو①۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادت کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

اس کے بعد پھر اِشکال ہوتا ہے کہ صُوفیہ اور مشائخ جو عادات کی اِصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتیں، بلکہ ان کا تعلّق بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے مزاج میں غصّہ ہے وہ مشائخ کی اِصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصّہ بالکل باقی نہ رہے، یہ تو دُشوار ہے۔ ہاں! اس غصّہ کا تعلّق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلاً بے جا ظلم، تکبُّر وغیرہ، اب بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر، اس کے اَحکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک زمانہ میں مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حُضور صلی اللہ علیہ وسلم

---

① مسند احمد، ابی الدرداء عویمر ۲۷۴۹۹

کے فیضِ صحبت سے کُفّار وفُسّاق پر اسی طرح ٹوٹتے تھے۔ اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس توضیح کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ، ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلّق بجائے مَعاصی کے حَسَنات سے فرمادیتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ شانُہٗ ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرانے پرانے گناہ یاد آکر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے، ثبت ہوجاتی ہے۔

پانچویں یہ ہے کہ اگر مولائے کریم کو کسی کی کوئی ادا پسند ہو اور اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے، تو کسی کے باپ کا کیا اِجارہ ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قدرت والا ہے، اس کی رحمت کی وُسعت کا کیا کہنا۔ اس کی مَغفِرت کا دروازہ کون بند کرسکتا ہے، اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے، جو دے رہا ہے وہ اپنی ہی مِلک سے دیتا ہے، اس کو اپنی قدرت کے مَظاہِر بھی دکھانا ہے، اپنی مَغفِرت کے کرشمے بھی اسی دن ظاہر کرنا ہیں۔

احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے، جس کو ”بہجۃ النفوس“ نے مُختصر طور پر ذِکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حساب چند اَنواع پر مُنقسِم ہوگا۔ ایک نَوع یہ ہوگی کہ بعض بندوں سے نہایت مخفی رحمت کے پردہ میں مُحاسَبہ ہوگا اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تونے فُلاں وقت یہ گناہ کیا، فُلاں وقت ایسا کیا اور اس کو اقرار بغیر چارۂ کار نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہوگیا، تو اِرشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تجھ پر ستّاری کی، آج بھی ستّاری کرتے ہیں اور مُعاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا جو ہوگا، وہ حساب کے مقام سے واپس جائے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لئے کہ ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک نَوع ایسی ہوگی کہ ان کے لئے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے۔ اس کے بعد اِرشاد ہوگا کہ اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ ابھی اور بھی گناہ ایسے ہیں جو یہاں ذِکر نہیں کئے گئے۔ اسی طرح اور اَنواع کا ذِکر کیا ہے کہ کس کس طرح سے پیشی اور

حساب ہو گا۔

حدیث میں ایک قصّہ آتا ہے نبیٔ اکرم ﷺ اِرشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، جو سب سے اخیر میں جہنّم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جنَّت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک شخص کو بُلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذِکر نہ کئے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کئے جائیں، ان پر باز پُرس کی جائے، چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالہ کے ساتھ اس کو جتایا جائے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ اتنے میں اِرشادِ ربّی ہو گا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذِکر ہی نہیں آیا۔ اس قصّہ کو نقل فرماتے ہوئے حُضور ﷺ کو بھی ہنسی آ گئی ❶۔

اس قصے میں اوّل تو جہنّم میں سے سب سے اخیر میں نکلنا ہے، یہی کیا کم سزا ہے؟ دوسرے کیا معلوم کون خوش قسمت ایسا ہو سکتا ہے جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو۔ اس لئے اللہ کی پاک ذات سے اُمید کرتے ہوئے فضل کا مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونا جرأت ہے، البتّہ سَیِّئات کو حَسَنات سے بدلنے کا سبب اِخلاص سے مَجالِس ذِکر میں حاضری حدیثِ بالا سے معلوم ہوتی ہی ہے، لیکن اِخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے ہو سکتا ہے۔

ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہنّم سے اخیر میں نکلنے والے کے بارہ میں مُختلِف رِوایات وَارِد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اِشکال نہیں۔ ایک مُعتَدبہ جماعت اگر نکلے تو بھی ہر شخص اخیر میں نکلنے والا ہے اور جو قریب اخیر کے نکلے وہ بھی اخیر ہی کہلاتا ہے، نیز خاص خاص جماعت کا اخیر بھی مُراد ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اہم مسئلہ اِخلاص کا ہے اور اِخلاص کی قید اور بھی بہت سی اَحادیث میں اس رسالہ میں نظر سے گزرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اِخلاص ہی کی قدر ہے۔ جس درجہ کا اِخلاص ہو گا، اسی درجہ کے عمل کی قیمت ہو گی۔

---

❶ ترمذی، ابواب صفۃ جھنم، ۲۵۹۶

صُوفیہ کے نزدیک اِخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قَال (گفتار) اور حَال (کردار) برابر ہوں۔ ایک حدیث میں آئندہ آرہاہے کہ اِخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے ①۔

”بَہجَۃ النُّفُوس“ میں لکھاہے: ایک بادشاہ کے لئے جو نہایت ہی جابر اور مُتَشَدِّد تھا ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جارہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور جس قدر ٹِھلیاں شراب سے بھری ہوئی تھیں، سب ہی توڑ دیں، ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمّت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تَشَدُّد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، پھر اس نے کس طرح جرأت کی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، اس کو بھی تعجّب ہوا۔ اوّلاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرأت کی اور پھر اس پر کہ ایک مٹکی کیوں چھوڑ دی۔ ان صاحب کو بُلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دِل میں اس کا تقاضا ہوا اس لئے ایسا کیا۔ تمہارا جو دِل چاہے سزا دے دو۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایک کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اوّلاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا اس لئے میں نے توڑیں، مگر جب ایک رہی تو میرے دِل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا، تو مجھے اس کے توڑنے میں یہ شبہ ہوا کہ حظِ نفس، دِل کی خوشی کی وجہ سے ہے اس لئے ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ مجبور تھا۔

”اِحیاء العُلُوم“ میں لکھاہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا، ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے، جو ایک درخت کو پوجتی ہے، یہ سن کر اس کو غصّہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کیلئے چل دیا۔ راستہ میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا: کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا: فُلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا: تمھیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، تم نے اپنی عبادت کو ایک مہمل کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا: یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا: میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا:

---

① المعجم الاوسط، من اسمہ احمد، ۱۲۳۵

اچھّا ایک بات سن لے، عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو کیا نہیں۔ تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی پرستِش نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نَبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نَبی کے ذریعے سے اس کو کٹوا دیتا۔ عابد نے کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا وہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اچھّا سن ایک فیصلہ والی بات تیرے نفع کی کہوں۔ اس نے کہا کہہ۔ شیطان نے کہا تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ تین دینار (اَشرفی) دیا کروں گا، جو روزانہ تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کریں گے۔ تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اپنے اَعِزَّہ پر بھی اِحسان کر سکے گا۔ فقیروں کی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا۔ اس میں ایک ہی ثواب ہو گا وہ بھی بیکار کہ وہ لوگ پھر دوسرا لگا لیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آگیا، قبول کر لیا۔ دو دن تو ملے تیسرے دن سے ندارد۔ عابد کو غصّہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا۔ راستہ میں وہ بوڑھا ملا، پوچھا: کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے بتایا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا: تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا وہ بوڑھا غالب آگیا اور عابد کے سینہ پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجّب ہوا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تُو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصّہ خالِص اللہ کے واسطے تھا، اس لئے اللہ جَلَّ شانُہٗ نے مجھے مغلوب کر دیا تھا۔ اس مرتبہ اس میں دیناروں کا دخل تھا، اس لئے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالِص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوّت ہوتی ہے۔

(۱۱) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَمِلَ اٰدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

نَبیِٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ اللہ کے ذِکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذابِ قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔

(حسن بالمتابعة والشواهد)

أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنه: ۲۲۰۷۹، (۳۹۶/۳۶)۔ **كذا في الدر** تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة۔ **وإلى أحمد عزاه في الجامع الصغير،** حرف الألف: ۲۴۱۹، (۲۰۶/۱)۔ **بلفظ: "أنجى له من عذاب الله" ورقم له بالصحة۔ وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ۱۶۷۴۴، (۶۹/۱۰)۔ **رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، الا ان زيادا لم يدرك معاذا۔**

ثم ذکرہ بطریق أخر، وقال: رواہ الطبراني في الکبیر، باب المیم: ۳۵۲، (۲۰/۱۶۶)۔ **ورجالہ رجال الصحیح۔ قلت: وفي المشکوٰۃ،** کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ، : ۲۳۰۶، (۷/۱۸/۴)۔ **عنہ موقوفاً بلفظ: "ماعمل العبد عملا انجیٰ لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ"۔ وقال: رواہ مالک** في المؤطا، باب ماجاء في ذکر اللہ، : ۷۱۷، (۲/۲۹۶)۔ **والترمذي،** اَبواب الدعوات، باب ماجاء في فضل ذکر اللہ: ۳۳۷۷، (۶۷/۷)۔ **وابن ماجہ،** کتاب الأدب، باب فضل الذکر: ۳۷۹۰، (۴/۲۴۳)۔ ا ھ قلت: **وھٰکذا رواہ الحاکم،** کتاب الدعاء والتکبیر: ۱۸۲۵، (۱/۶۷۳)۔ **وقال: صحیح الإسناد وأقرہ عَلَیْہِ الذھبي۔ وفي المشکوٰۃ،** کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ: ۲۲۸۶، (۲/۱۵)۔ **بروایۃ البیھقي** في الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء: ۲۰، (۱/۱۶)۔ **عن اِبنِ عُمر مرفوعا بمعناہ۔ قال القاری: رواہ ابن أبی شیبۃ** في المصنف، کتاب الدعاء، باب ثواب ذکر اللّٰہ: ۳۰۰۶۵، (۱۰/۳۰۰)۔ **وابن أبی الدُنیا وذکرہ في الجامع الصغیر،** حرف المیم: ۷۹۴۴، (۲/۲۷۵)۔ **بروایۃ البیھقي في الشعب، ورقم لہ بالضعف، وزاد في أولہ "لکل شیئ صقالۃ، وصقالۃ القلوب ذکر اللہ" وفي مجمع الزوائد،** کتاب الأذکار، باب فضل ذکر اللہ: ۱۶۷۴۴، (۱۰/۶۹)۔ **بروایۃ جابر مرفوعا نحوہ۔ وقال: رواہ الطبراني في الصغیر والأوسط،** باب الألف، من اسمہ إبراھیم: ۲۲۹۶، (۳/۵)۔ **ورجالھما رجال الصحیح۔** ا ھ۔

ف: عذابِ قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ اَحادیث ہیں جو عذابِ قبر کے بارے میں وَارِد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنّت کے، دوزخ کے ذِکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ نے اِرشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی مَنزِل ہے، جو شخص اس سے نجات پالے، بعد کی سب مَنزلیں اس پر سَہل ہو جاتی ہیں اور جو اس سے نجات نہ پائے، بعد کی مَنزلیں دُشوار ہی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد سنایا کہ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اِرشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی مَنظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا ①۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اِرشاد فرماتی ہیں کہ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذابِ قبر سے پناہ مانگتے تھے ②۔ حضرت زَید رضی اللہ عنہ اِرشاد فرماتے ہیں کہ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مُردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دُعا کرتا کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ تمھیں بھی عذابِ قبر سُنا دے۔ آدمیوں اور جِنّات کے سوا اور جاندار عذابِ قبر کو سُنتے ہیں ③۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبیِٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا: حُضور کی اُونٹنی کو کیا ہوا؟ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی ④۔ ایک مرتبہ نبیِٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کِھل کِھلا کر

---

① سنن ابن ماجہ، کتاب الزھد، ۴۲۶۷
② مسلم، کتاب المساجد، ۵۸۶
③ مسلم، کتاب الجنۃ، ۲۸۶۷
④ المعجم الاوسط، من اسمہ جعفر، ۳۳۶۶

ہنس رہے ہیں۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اِعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مُؤمن (کامل ایمان والا) دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچّھا کیا کہ آ گیا، جتنے لوگ میری پشت پر (یعنی زمین پر) چلتے تھے، تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سُپرد ہوا تو میرا حُسنِ سُلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ مُنتہائے نظر تک کھل جاتی ہے اور جنّت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے، جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مَنحُوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی، جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے، سب میں زیادہ بُغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالہ ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد نوے یا ننانوے اژدھے اس پر مُسلَّط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حُضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدھا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے، تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ قبر یا جنّت کا ایک باغ ہے، یا جہنّم کا ایک گڑھا ❶۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبیِ اکرم ﷺ کا دو قبروں پر گزر ہوا۔ اِرشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو چُغل خوری کے جُرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں ❷ (کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا) ہمارے کتنے مُہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عَیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عُلماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ اِبنِ حَجَر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے ❸۔

---

❶ ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، ۲۴۶۰

❷ بخاری، کتاب الوضوء، ۲۱۸

❸ مسند احمد، مسند ابی ھریرۃ، ۸۳۳۱

ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے ❶۔ بِالجُملہ عذابِ قبر نہایت سخت چیز ہے اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خُصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ مُتَعدِّد اَحادیث میں وَارِد ہے کہ سورہ تَبَارَکَ الَّذِی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذابِ قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذابِ جہنّم سے بھی حفاظت کا سبب ہے ❷ اور اللہ کے ذِکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے ہی۔

(۱۲) عَنْ أَبِي الدرداء رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُوءِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِأَنْبِيَآءَ وَلَا شُهَدَآءَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: حُلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ۔ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى، وَبِلَادٍ شَتّٰى، يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُوْنَهٗ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جَلَّ شَانُہٗ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، وہ اَنبِیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ! ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مُختلِف جگہوں سے مُختلِف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذِکر میں مشغول ہوں۔

(لم اعثر على سند هذا الحديث وان كان له مويدات)

أخرجه **الطبراني** في الكبير، باب الحاء: ۳۴۳۳، (۲۹۰/۳) **بإسناد حسن۔ كذافي الدر** تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة۔ **ومجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ماجاء في مَجَالِس الذكر: ۱۶۷۷۰، (۷۷/۱۰)۔ **والترغيب للمنذري**، كتاب الذكر والدعاء: ۲۱۹۴، (۲۲۰/۲)۔ **وذكره في الترغيب**، كتاب الذكر والدعاء: ۲۳۲۶، (۲۶۱/۲)۔ **أيضاله متابعة برواية عمرو بن عبسة عند الطبراني مرفوعا قال المنذري وإسناده مقارب لاباس به ورقم لحديث عمرو بن عبسة في الجامع الصغير**، باب حرف العين: ۵۶۲۵، (۱۰۶/۲)۔ **بالحسن وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ماجاء في مَجَالِس الذكر: ۱۶۷۷۱، (۷۸/۱۰)۔ **رجاله موثوقون وفي مجمع الزوائد بمعني هٰذا الحديث مطولا**، كتاب الزهد، باب المتحابين في الله: ۱۷۹۹۶، (۴۸۹/۱۰)۔ **وفيه حلهم لنا يعني صفهم لنا شكلهم لنا فسر وجه رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم بسوال الاعرابي الحديث۔ قال رواه** أحمد، حديث أبي مالك الاشعرى: ۲۲۹۰۶، (۵۴۰/۳۷)۔ **والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا قلت وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الشعب**، باب مقاربة اهل الدين: ۸۵۸۹، (۳۱۸/۱۱)۔ **ان في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضئ كما يضئ الكوكب الدرى يسكنها المتحابون في الله تعالىٰ والمتجالسون في الله تعالىٰ والمتلاقون في الله كذا في الجامع الصغير**، باب حرف الألف: ۲۳۱۳، (۱۹۵/۱)۔ **ورقم له بالضعف وذكر في مجمع الزوائد له شواهد وكذا المشكوٰة**، كتاب الآداب، باب السَّلام: ۵۰۲۶، (۸۹/۳)۔

---

❶ المعجم الكبير، مكحول الشامی، ۷۶۰۵

❷ سنن الكبرى للنسائی، الفضل فی قرآۃ تبارک الذی، ۱۰۴۷۹

دوسری حدیث میں ہے کہ جنَّت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، جن پر زَبَرجَد (زُمُرُّد) کے بالاخانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کُھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے، جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور وہ لوگ، جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور وہ لوگ، جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں ❶۔

ف: اس میں اَطِبَّاء کا اختلاف ہے زَبَرجَد اور زُمُرّد ایک ہی پتھر کے دو نام ہیں، یا ایک پتّھر کی دو قسمیں ہیں، یا ایک ہی نَوع کے دو پتّھر ہیں۔ بہر حال یہ ایک پتّھر ہوتا ہے جو نہایت ہی روشن چمکدار ہوتا ہے۔

آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دِل چاہے برا بھلا کہہ لیں، کل جب آنکھ کُھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے، جب وہ ان منبروں اور بالاخانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے۔

فَسَوْفَ تَرٰی اِذَاانْکَشَفَ الْغُبَارُ اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِکَ اَمْ حِمَارٌ

(عنقریب جب غُبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہو گا گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر)

ان خانقاہوں کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہے، جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، یہ ان اَحادیث سے معلوم ہوتا ہے جن میں ان کی فضیلتیں ذِکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذِکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کیلئے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں ❷۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذِکر کی مَجَالِس پر جو سَکِیْنہ (ایک خاص نعمت) نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمتِ الٰہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں ❸۔ اَبُو رَزِیْن رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ایک صَحابی ہیں، وہ کہتے ہیں: حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں، جس سے تو دونوں جہان کی بھلائی کو پہنچے، وہ اللہ کا ذِکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ اور جب تو

---

❶ الاخوان لابن ابی الدنیا، ۱۱

❷ معرفۃ الصحابہ لابی نعیم، من اسمہ سفیان، ۳۲۳۰

❸ مسلم، باب فضل الاجتماع، ۲۷۰۰

تنہا ہو اکرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذِکر کرتا رہ ❶۔

حضرت اَبُوہُرَیرہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذِکر ہوتا ہے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمک دار دیکھتے ہیں ❷۔ یہ گھر جن میں اللہ کا ذِکر ہوتا ہے ایسے مُنَوَّر اور روشن ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور جن کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بُزرگوں کا نور، ان کے گھروں کا نور اپنی آنکھوں سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فُضَیل بن عِیَاض رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ جو مشہور بُزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذِکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ شیخ عبدالعزیز دبّاغ رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ ابھی قریب ہی زمانہ کے ایک بُزرگ گزرے ہیں، جو بالکل اُمّی تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیثِ قُدسی، حدیثِ نَبَوی اور مَوضُوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتادیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلِّم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں، تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے کلام کا نور دوسرا ہے اور دوسرے کلاموں میں یہ دونوں نور نہیں ہوتے۔

تَذکِرَۃُ الخلیل یعنی سوانح حضرت اَقدس مولانا خلیل احمد صاحب نَوَّرَ اللہُ مَرقَدَہٗ میں بَروایت مولانا ظفر احمد صاحب رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ لکھا ہے کہ حضرت رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ کے پانچویں حج میں جس وقت حضرت مسجد حرام میں طوافِ قدوم کے لئے تشریف لائے، تو احقر مولانا مُحِبُّ الدین صاحب رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ (جو اعلیٰ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نَوَّرَ اللہُ مَرقَدَہٗ کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحبِ کشف مشہور تھے) کے پاس بیٹھا تھا۔ مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا وِرد پڑھ رہے تھے کہ دفعۃً میری طرف مُخاطَب ہو کر فرمانے لگے: اس وقت حرم میں کون آگیا کہ دفعۃً سارا حرم انوار سے بھر گیا، میں خاموش رہا کہ اتنے میں حضرت رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ طواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس کو گزرے۔ مولانا کھڑے ہو گئے اور ہنس کر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آگیا۔

---

❶ شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ، ۵۲۷

❷ مصنف ابن ابی شیبہ، باب ماجاء فی فضل ذکر اللہ، ۳۵۰۵۵

مَجالسِ ذِکر کی فضیلت مُختلِف عُنوانات سے بہت سی اَحادیث میں وَارِد ہوئی ہے، ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ افضل ترین رباط نماز ہے اور ذِکر کی مجالسِ ①۔ رباط کہتے ہیں دارُ الاِسلام کی سرحد کی حفاظت کرنے کو، تاکہ کُفّار اس طرف سے حملہ نہ کریں۔

(۱۳) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا۔ قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ۔

حُضور اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ جب جَنَّت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ! جَنَّت کے باغ کیا ہیں؟ اِرشاد فرمایا کہ ذِکر کے حلقے۔

(حسن بالشواهد)

أخرجه أحمد، مسند أنس بن مالك: ۱۲۸۵۹، (۵۳۲/۵۱)۔ **والترمذي**، أبواب الدعوات: ۳۵۱۰، (۷/۴۹۷)۔ **وحسنه۔ وذكره في المشكوٰة**، كتاب الدعوات، ألفصل الثاني: ۲۲۹۴، (۷/۸۱۰)۔ **برواية الترمذي۔ وزاد في الجامع الصغير**، باب حرف الألف: ۸۵۹، (۱/۶۶) **والبيهقي في الشعب**، كتاب الإيمان، باب معاني المحبة: ۵۲۶، (۲/۶۶)۔ **ورقم له بالصحة۔** وفي الباب عن جابر عند ابن ابی الدُنيا والبزار، مسند أبی حمزة: ۶۹۰۸، (۱۳/۳۱۰)۔ **وأبی یعلی** في مسنده، ثابت البناني: ۳۴۳۲، (۶/۱۵۵)۔ **والحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير: ۱۸۲۰، (۱/۱۷۱) **وصححه**، قال الذهبي في التلخيص: عمر ضعيف۔ **والبيهقي في الدعوات**، باب ماجاء في فضل الدعاء: ۶، (۱/۷)۔ **كذا في الدر** تحت الآية: ۱۵۲ من سورة البقرة۔ **وفي الجامع الصغير**، باب حرف الألف: ۸۵۹، (۱/۶۶)۔ **برواية الطبراني** في الكبير، باب العين: **عن اِبْنِ عَبَّاس، بلفظ: "مَجَالِسِ العلم"** وبرواية الترمذي، أبواب الدعوات: ۳۵۰۹، (۷/۴۹۷)۔ **عن أبي هريرة بلفظ: "المساجد محل حلق الذكر" وزاد الرتع۔ سُبْحَانَ اللّٰہ الحمد للّٰہ لا الٰه الا اللّٰہ اللّٰہ اکبر۔**

ف: مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ان مجالس، ان حلقوں تک رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیئے کہ یہ دنیا ہی میں جَنَّت کے باغ ہیں اور "خوب چرو" سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے، لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی طرح ذِکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور مَوانِع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہ موڑنا چاہیئے۔ اور جَنَّت کے باغ اس لئے فرمائے کہ جیسا کہ جَنَّت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مَجالِس بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذِکر دلوں کی شِفاء ہے ②، یعنی دِل میں جس قسم کے اَمراض پیدا ہوتے ہیں تکبُّر، حسد، کینہ، وغیرہ سب ہی اَمراض کا علاج ہے۔ صاحبِ الفَوائد فی الصلوٰۃ والعَوائِد نے لکھا ہے کہ آدمی ذِکر پر مُداوَمت سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے اور صحیح حدیث میں آیا ہے: حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اِرشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذِکرُ اللہ کی کثرت

---

① مسند الطیالسی، المہدی عن ابی ھریرۃ، ۲۵۱۰

② الجامع الصغیر بحوالہ مسند الفردوس ۴۳۳۰،

کا حکم کرتا ہوں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعہ میں محفوظ ہو جائے اور ذِکر کرنے والا اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ہمنشین ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو گا کہ وہ مَالِکُ المُلک کا ہمنشین ہو جائے ❶۔ اس کے عِلاوہ اس سے شرحِ صدر ہو جاتا ہے، دِل مُنَوَّر ہو جاتا ہے اس کے دِل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے عِلاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی مُنافِع ہوتے ہیں جن کو بعض عُلماء نے سو تک شمار کیا ہے۔

حضرت اَبُو اُمامہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں، یا باہر آتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں، تو فرشتے آپ کے لئے دُعا کرتے ہیں۔ اَبُو امامہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے فرمایا اگر تمہارا دِل چاہے تو تمہارے لئے بھی وہ دُعا کرسکتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِیْرًا﴾ سے ”رَحِیْمًا“ تک۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ کی رحمت اور ملائکہ کی دُعا تمہارے ذِکر پر مُتَفَرّع ہے، جتنا تم ذِکر کروگے اتنا ہی ادھر سے ذِکر ہو گا ❷۔

(۱۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُّكَابِدَهٗ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُّنْفِقَهٗ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُّجَاهِدَهٗ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ۔

(ض)

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا اِرشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو، راتوں کو محنت کرنے سے اور بُخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، (یعنی نفلی صدقات) اور بُزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیئے کہ اللہ کا ذِکر کثرت سے کرے۔

رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، : ۱۱۱۲۱، (۸/۲۷۸۸)۔ **والبيهقي** شُعَب الإيمان، كتاب الإيمان، فصل في إدامة ذكر الله: ۵۰۵، (۲/۵۲)۔ **والبزار واللفظ له**، في مُسْنَد ابن عباس، : ۴۹۰۴، (۱۱/۱۶۸)۔ **وفي سنده أبو يحيى القتات، وبقيته محتج بهم في الصحيح**، كذا في الترغيب، كتاب الذكر والدعاء: ۲۲۹۷، (۲/۲۵۴)۔ **قلت** (أي: المؤلف) **هو من رواة البخاري في الأدب المفرد**، انظر: الأدب المفرد، باب حسن الخلق: ۳۲۸، (۱/۱۲۰)۔ **والترمذي**، أبواب الطهارة، باب ماجاء ان مفتاح الطهور: ۴، (ص ۱/۱۰)۔ **وأبي داود**، كتاب الجهاد: ۲۵۶۲، (۳/۲۶)۔ **وابن ماجه**، كتاب الجنائز: ۱۵۸۳، (۱/۵۰۴)۔ **وثقه ابن معين**، الكامل في الضعفاء، (۲/۲۳۸)۔ **وضعفه أخرون**، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى، من اسمه عبدالرحمٰن: ۱۸۶۷، (۲/۹۳)۔ **وفي التقريب**، حرف الياء: ۸۴۴۴، (۱/۱۲۲۴)۔ **لين الحديث، وفي مجمع الزوائد**۔ كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله: ۱۶۷۵۰، (۱۰/۷۱)۔ **رواه البزار والطبراني، وفيه القتات، قدوثق، وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح۔**

ف: یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عباداتِ نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذِکر کی کثرت اس کی

---

❶ مسند احمد، حدیث الحارث الاشعری، ۱۷۱۷۰

❷ مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، سورہ احزاب، ۳۵۶۵

تلافی کر سکتی ہے۔ حضرت اَنس ؓ نے حُضور ﷺ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کا ذِکر ایمان کی علامت ہے اور نِفاق سے بَرَأت ہے اور شیطان سے حفاظت ہے اور جہنّم کی آگ سے بچاؤ ہے، اور انہی مُنافع کی وجہ سے اللہ کا ذِکر بہت سی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، بِالخُصُوص شیطان کے تَسلُّط سے بچنے میں اس کو خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دِل پر مُسَلَّط رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذِکر کرتا ہے تو یہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے ①۔ اسی لئے صوفیاءِ کرام ذِکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وَسَاوِس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے کہ صَحابہ کرام ؓ کو حُضورِ اَقدس ﷺ کے فیضِ صحبت سے یہ قوّتِ قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی، تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حُضورِ اَقدس ﷺ کے زمانہ سے جتنا بُعد (دوری) ہوتا گیا، اتنی ہی قلب کے لئے اس مقویٔ قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قُلوب اس درجہ ماؤف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوّت کا تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی ہو جاتا ہے وہی بسا غنیمت ہے کہ وبائی مرض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔ ایک بُزرگ کا قصّہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ جَلَّ شانُہٗ سے دُعا کی کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے کہ کس طرح ڈالتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ دِل کے بائیں طرف مونڈھے کے پیچھے مچھر کی شکل سے بیٹھا ہے۔ ایک لمبی سی سونڈ منہ پر ہے، جس کو سوئی کی طرح سے دِل کی طرف لے جاتا ہے، اس کو ذاکر پاتا ہے تو جلدی سے اس سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، غافل پاتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعے سے وَساوِس اور گناہوں کا زہر انجکشن کے طریقہ سے دِل میں بھرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصّہ آدمی کے دِل پر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذِکر کرتا ہے تو ذلت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دِل کو لقمہ بنا لیتا ہے ②۔

---

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن عباس، ۳۴۷۷۴

② شعب الایمان، فصل فی ادامة ذکر اللہ، ۵۳۶،

(۱۵) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ ﹰالْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ، حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

حضورِ اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ اللہ کا ذِکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔

(ض)

دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذِکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں ❶۔

رواه أحمد في مسنده، مُسْنَد أبی سعید الخدری رضی اللہ عنه: ۱۱۶۵۳، (۱۹۵/۱۸)۔ **وأبويعلى**، مسن أبی سعید الخدری: ۱۳۶۷، (۵۲۱/۲)۔ **وابن حبان**، کتاب الرقاق، باب استحباب المرئ، : ۴۴۸، (۳۴۸/۱)۔ **والحاكم في صحيحه**، کتاب الدعاء والتکبیر: ۱۸۷۵، (۵۸/۱)۔ **وقال: صحيح الإسناد**۔ واقر عَلَيْهِ الذهبي۔ **وروى عن اِبْنِ عَبَّاس مرفوعا بلفظ "اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون انكم مراؤن" رواه الطبراني** في المعجم الكبير، باب العين: ۱۲۷۸۶، (۱۶۹/۱۲)۔ **ورواه البيهقي** شُعَب الإيمان، کتاب الإيمان، باب معاني محبة الله: ۵۲۴، (۶۴/۲)۔ **عن أبی الجوزاء مرسلا، كذافي الترغيب**، کتاب الذکر والدعاء: ۲۳۰۴، (۲۵۶/۲)۔ **والمقاصد الحسنة للسخاوی**، باب الهمزة: ۱۴۶، (۷۴)۔ **وهكذا في الدر المنثور** للسُيُوطي تحت الآية: ۴۲، من سورة الأحزاب۔ **الا انه عزا حديث أبی الجوزاء إلى عبدالله** بن أحمد **في زوائد الزهد وعزاه في الجامع الصغير**، باب الألف: ۱۳۹۸، (۱۰۷/۱)۔ **إلى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في الشعب، ورقم له بالضعف۔ وذكر في الجامع الصغير ايضا**، باب حرف الألف: ۹۰۳، (۷۰/۱)۔ **برواية الطبراني عن اِبْنِ عَبَّاس مسند۔ او رقم له بالضعف۔ وعزا حديث أبی سعيد إلى** أحمد **وأبی يعلى في مسنده، وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب، ورقم له بالحسن۔**

ف: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیئے، بلکہ اس کثرت اور اِہتمام سے کرنا چاہیئے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذِکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابنِ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانہٗ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی، جس کی کوئی حد مُقرّر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمالیا ہو، بجُز اللہ کے ذِکر کے کہ نہ اس کی کوئی حد مُقرّر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا❷۔ چنانچہ اِرشاد ہے۔ ﴿اُذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴾ (الاحزاب: ۴۱) (اللہ جَلَّ شانہٗ کا خوب کثرت سے ذِکر کیا کرو) رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔

حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مُنَبّہات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرآنِ پاک کے ارشاد ﴿وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا﴾ (الکھف: ۸۲)۔ میں منقول ہے کہ وہ سونے کی

---

❶ شعب الایمان، فصل فی دامۃ الذکر اللہ، ۵۲۷، ۳۹۷/۱

❷ تفسیر طبری، النساء: ۱۰۳

ایک تختی تھی، جس میں سات سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: (۱) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو، پھر بھی ہنسے۔ (۲) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے، پھر بھی اس میں رغبت کرے۔ (۳) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مُقدّر سے ہے، پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے۔ (۴) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو، پھر بھی مال جمع کرے۔ (۵) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جس کو جہنّم کی آگ کا علم ہو، پھر بھی گناہ کرے۔ (۶) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو، پھر کسی اور چیز کا ذِکر کرے۔ (۷) مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جس کو جنّت کی خبر ہو، پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجّب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے، پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔

حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اِرشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبرئیل عَلَیہِ السَّلام مجھے اللہ کے ذِکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذِکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب رِوایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذِکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دَریغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اوّل وہ ذِکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان کو روکنے کیلئے یہ ایک مُستقِل ذریعہ اور حیلہ مل جاتا ہے، اس لئے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیّت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیئے۔

حضرت عبد اللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک صَحابی ہیں، جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چُھپ کر مسلمان ہو گئے تھے، چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصّہ میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی جس کو انہوں نے دو ٹکڑے کر کے ایک

سے ستر ڈھکا، دوسرا اُوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیّبہ حاضر ہو گئے۔ حُضور ﷺ کے دروازے پر پڑے رہا کرتے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذِکر کرتے تھے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذِکر کرتا ہے؟ حُضور ﷺ نے فرمایا: نہیں! بلکہ یہ اوّابین میں ہے۔ غزوئہ تبوک میں اِنتِقال ہوا۔ صَحابہ ؓ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جَل رہا ہے۔ قریب جاکر دیکھا کہ حُضور ﷺ قبر میں اُترے ہوئے ہیں، حضرت اَبُو بکر ؓ، حضرت عمر ؓ کو اِرشاد فرمارہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑادو۔ دونوں حضرات نے نعش کو پکڑادیا۔ دفن کے بعد حُضور ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت اِبنِ مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ یہ سارا مَنظَر دیکھ کر مجھے تمنّا ہوئی کہ یہ نعش تو میری ہوتی ❶۔ حضرت فُضَیل ؒ جو اکابر صُوفیہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شِرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذِکر کی کُنجیاں ہیں کہ جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذِکر کیا جائے ❷، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذِکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وَارِد ہے کہ اللہ کے وَلی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہوں ❸۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو ❹۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے اَعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ❺۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے، جب کوئی شخص کثرت سے ذِکر کا عادی ہو۔ اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو، اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آسکتی ہے۔ بعض لوگ پُکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں، یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے ایک رسالہ ''سَبَاحَۃُ الفِکر'' اسی مسئلہ میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً پچاس حدیثیں ایسی ذِکر فرمائی ہیں، جن سے جہر (پکار کر)

---

❶ المغازی للواقدی، غزوہ تبوک، ۱۰۱۴/۳

❷ المعجم الکبیر، عن عبد اللہ، ۱۰۴۷۶

❸ مسند بزار، مسند ابن عباس، ۵۰۳۴

❹ ابن ماجہ، کتاب الزھد، ۴۱۱۹

❺ نوادر الاصول، ۳۹/۲

ثابت ہوتا ہے۔ البتّہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حُدود کے اندر رہے، کسی کی اَذِیَّت کا سبب نہ ہو۔

(۱۶) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهٖ، يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّاظِلُّهٗ: أَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالشَّابُّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، إجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرُجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا، حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔

(متفق عليه)

رواه البخاري، كتاب الزكوٰة، باب الصدقة باليمين: ۱۳۵۷، (۵۱۷/۲)۔ **ومسلم**، كتاب الزكوٰة، باب فضل اِخفاء الصدقة: ۲۳۷۷، (۱۲۳/۷)۔ وغيرهما، **كذا في الترغيب**، كتاب الصلوٰة، باب الترغيب في لزوم المساجد: ۴۹۳، (۱۳۶/۱)۔ **والمشكوٰة**، كتاب الصلوٰة، باب المساجد: ۷۰۱، (۱۵۵/۱)۔ وفي **الجامع الصغير**، باب حرف السين: ۴۶۴۵، **برواية مسلم**: ۲۳۷۸، (۱۲۴/۷)۔ عن أبي هريرة وأبي سعيد معا۔ وذكر عدة طرقه اخرىٰ۔

حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنے (رحمت کے) سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی نہ ہو گا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ تیسرے وہ شخص جس کا دِل مسجد میں اٹک رہا ہو۔ چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی۔ پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف مُتَوَجِّہ کرے اور وہ کہدے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانع ہے۔ چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذِکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگیں۔

ف: آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیدہ ودانستہ اپنے مَعاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبۂ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں۔ بِرِوایت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بُزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دُعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دُعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں

اور دِل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ دُعا قبول ہوتی ہے۔ ان سات آدمیوں میں جن کا ذِکر حدیث پاک میں وَارِد ہوا ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذِکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں دو خوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ ایک اِخلاص کہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا۔ دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کہ دونوں میں رونا آتا ہے اور دونوں کمال ہیں۔

ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ہماری نیند ہے محوِ خیالِ یار ہو جانا

حدیث کے الفاظ ہیں ”رَجُلٌ ذَکَرَ اللہَ خَالِیًا“ (ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذِکر کرے اس حال میں کہ خالی ہو) صُوفیہ نے لکھا ہے کہ خالی ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ آدمیوں سے خالی ہو، جس کے معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے۔ دوسرے یہ کہ دِل اغیار سے خالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل خَلْوَت یہی ہے۔ اس لئے اکمل درجہ تو یہ ہے کہ دونوں خلوتیں حاصل ہوں، لیکن اگر کوئی شخص مجمع میں ہو اور دِل غیروں سے بالکل خالی ہو اور ایسے وقت اللہ کے ذِکر سے کوئی شخص رونے لگے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ مجمع کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں برابر ہے۔ جب اس کا دِل مجمع تو در کنار غیر اللہ کے اِلتفات سے بھی خالی ہے، تو اس کو مجمع کیا مُضِر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے رونا بڑی ہی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شانہٗ مُیَسَّر فرمادیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنّم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے ❶ (اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے پس ایسے ہی اس کا جہنّم میں جانا بھی ناممکن ہے)۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں میں سے کچھ زمین پر ٹپک جائیں، تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آنکھوں پر جہنّم کی آگ حرام ہے: ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کُفّار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو ❸۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس

---

❶ ترمذی، ابواب فضائل الجہاد، ۱۶۳۳

❷ مستدرک حاکم، کتاب التوبۃ والانابۃ، ۷۶۶۸

❸ ترمذی، ابواب فضائل الجہاد، ۱۶۳۹

پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو، اس پر بھی حرام ہے اور جو آنکھ ناجائز چیز (مثلاً نامَحرم وغیرہ) پر پڑنے سے رُک گئی ہو، اس پر بھی حرام ہے اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو، اس پر بھی جہنّم کی آگ حرام ہے ❶۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذِکر کرنے والا ہو، وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کُفّار کے مقابلہ میں چل دیا ہو ❷۔

(۱۷) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُنَادِيْ مُنَادٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ أُولُو الْأَلْبَابِ؟ قَالَ: أَيَّ أُولِى الْأَلْبَابِ تُرِيْدُ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ، وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا، سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عُقِدَ لَهُمْ لِوَاءٌ فَأَتْبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءَهُمْ. وَقَالَ لَهُمْ: أُدْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

حُضور اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقلمندوں سے کون مُراد ہیں؟ جواب ملے گا: وہ لوگ جو اللہ کا ذِکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذِکر کرتے رہتے تھے) اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ! آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنّم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کیلئے جنّت میں داخل ہو جاؤ۔

(لم یوقف علی بعض رجاله)

أخرجه **الاصبهاني في الترغيب**، باب الترغيب في التفكر في آلاء الله: ۲۶۷، (۱/۳۸۷)۔ **كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۳۷، من سورة آل عمران۔

ف: آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مَظاہِر اور اس کی حکمتوں کے عَجائِب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کی معرفت میں قوّت

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب الجهاد، ۲۴۳۲

❷ الفردوس للدیلمی، ۳۱۴۲

پیدا ہوتی ہے۔

الٰہی یہ عالم ہے گلزار تیرا

اِبْنُ اَبِی الدُّنیا نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نَبِیِّ اکرم ﷺ ایک مرتبہ صَحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے، جو چُپ چاپ بیٹھے تھے۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا: کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا مخلوقاتِ الٰہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ ہاں! اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو (کہ وہ وَرَاءُ الْوَرَاء ہے) اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو①۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حُضور ﷺ کی کوئی عجیب بات سُنا دیجئے۔ فرمایا: حُضور ﷺ کی کونسی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی۔ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر اِرشاد فرمایا۔ چھوڑ میں تو اپنے رَبّ کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے وضو فرمایا اور نماز کی نیّت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینۂ مبارک پر بہتے رہے، پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بُلانے کے لئے آ گئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ اِرشاد فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا: میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئیں (یعنی آیاتِ بالا ﴿اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰) سے ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ تک) پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے②۔

عامر بن عبدِ قَیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صَحابہ کِرام رضی اللہ عنہم سے سُنا ہے ایک سے، دو سے، تین سے نہیں، (بلکہ ان سے زیادہ سے سُنا ہے) کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نُور غور و فکر ہے③۔ حضرت اَبُوہُرَیرَہ رضی اللہ عنہ حُضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ

---

① الترغیب للاصبھانی، الترھیب من التفکر فی اللہ، ۶۷۳

② شرح مشکل الآثار، ۴۶۱۸

③ التفکر لابن ابی الدنیا، ص، ۵

تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے۔ اے اللہ! تو میری مَغْفِرت فرمادے۔ نظرِ رحمت اس کی طرف مُتَوَجِّہ ہوئی اور اس کی مَغْفِرت ہو گئی ❶۔ حضرت اِبْنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے ❷۔ حضرت اَبُو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں اسی (۸۰) سال کی عبادت سے افضل ہے ❸۔ اُمِّ درداء رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اَبُو درداء رضی اللہ عنہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور و فکر ❹۔ بِرِوایت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ حُضور اَقدس ﷺ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر ساٹھ (۶۰) برس کی عبادت سے افضل ہے ❺۔ لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ درجہ رکھتی ہے فرض ہو یا واجب، سنّت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑے پر اسی درجہ کی وعید عذاب یا ملامت ہو گی، جس درجہ کی عبادت ہو گی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادات اس لئے کہا گیا کہ اس میں معنی ذِکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں دو چیزوں کا اِضافہ اور ہوتا ہے، ایک اللہ کی مَعْرِفت اس لئے کہ غور و فکر مَعرِفت کی کُنجی ہے۔ دوسری اللہ کی محبّت کہ فکر پر یہ مُرتّب ہوتی ہے۔ یہی غور و فکر ہے جس کو صُوفیہ مُراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی رِوایات سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مُسْنَدِ اَبُویَعلیٰ میں بِرِوایتِ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذِکرِ خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ستر درجہ دوچند ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہٗ تمام مخلوق کو حساب کیلئے جمع فرمائیں گے اور کراماً کاتبین اَعمال نامے لے کر آئیں گے، تو اِرشاد ہو گا کہ فُلاں بندہ کے اَعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی، جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو، تو اِرشاد ہو گا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذِکرِ خفی ہے ❻۔ بَیہِقی رحمۃ اللہ علیہ نے ''شُعَب'' میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ حدیث

---

❶ الغرائب الملتقطہ، ۱/۱۱۰۳، ۱۱۵۱
❷ العظمۃ لابی الشیخ، ۴۲
❸ الفردوس بماثور الخطاب، ۲۳۹۷
❹ العظمۃ، ۴۵
❺ ایضاً، ۴۳
❻ مسند ابی یعلی، تابع مسند عائشہ، ۴۷۳۸

نقل کی ہے کہ جس ذِکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ اس ذِکر پر جس کو وہ سنیں ستّر درجے بڑھا ہوا ہے ❶۔ یہی مُراد ہے اس شعر سے جس میں کہا گیا ہے

میانِ عاشق و معشوق رَمزے است کِراماً کاتبین را ہم خبر نیست

کہ عاشق و معشوق میں ایسی رَمز ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی کہ ان کی ظاہری عبادات تو اپنے اپنے اجر و ثواب حاصل کریں ہی گی، یہ ہر وقت کا ذِکر و فکر پوری زندگی کے اوقات میں ستر گنا مزید بر آں۔ یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دِق کر رکھا ہے۔ حضرت جُنَید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہیں، آدمی وہ ہیں جو ”شونیزیہ“ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیئے۔ حضرت جُنَید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ”شونیزیہ“ کی مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مُراقبہ میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکہ میں نہ پڑ جانا۔ مسوحی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے قریب ہی نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی۔ کہنے لگا: خدا کی قسم! یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا اور صوفیاء کی جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ اَبو سَعِید خَزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں لکڑی سے مارنے لگا۔ اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اس سے نہیں ڈرتا۔ یہ دِل کے نور سے ڈرتا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین ذِکر، ذِکرِ خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو ❷۔ حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی

---

❶ شعب الایمان، فصل فی دامۃ ذکر اللہ، ۵۵۵

❷ مسند احمد، مسند ابی اسحاق، ۱۴۷۷

حُضور اَقدس ﷺ سے یہی نقل کیا ہے کہ بہترین ذِکر ذکرِ خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو۔ (یعنی نہ کم ہو کہ گزر نہ ہو سکے اور نہ زیادہ ہو کہ تکبُّر اور فواحش میں مُبتلا کرے) ابن حِبَّان اور اَبُویَعْلیٰ رحمۃ اللہ علیہما نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ ایک حدیث میں حُضور ﷺ کا اِرشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کو ذکرِ خامِل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ ذکرِ خامِل کیا ہے؟ اِرشاد فرمایا کہ مخفی ذکر①۔ ان سب رِوایات سے ذکرِ خفی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے اور ابھی قریب ہی وہ روایت گزر چکی جس میں مجنون کہنے کا ذِکر گزرا ہے، دونوں مُستقِل چیزیں ہیں، جو حالات کے اعتبار سے مُختلِف ہیں۔ اس کو شیخ تجویز کرتا ہے کہ کس شخص کیلئے کس وقت کیا مُناسِب ہے۔

(۱۸) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ بَعْضِ أَبْيَاتِهٖ: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ، فَوَجَدَ قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللهَ، فِيْهِمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَجَافُ الْجِلْدِ وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَاٰهُمْ، جَلَسَ مَعَهُمْ، وَقَالَ: أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ۔

(اسنادہ معلول)

أخرجه **ابن جرير** تحت الآية: ۲۸، من سورة الكهف۔ **والطبراني في الصغير**، حرف الميم من اسمه موسى: ۱۰۷۴، (۲/۲۲۷)۔ **وابن مردويه، كذا في الدر**، تحت الآية: ۲۸، من سورة الكهف۔

حُضور اَقدس ﷺ دولت کدہ میں تھے کہ آیت ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے: ”اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس (بیٹھنے کا) پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رَبّ کو پکارتے ہیں“۔ حُضور اَقدس ﷺ اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذِکر میں مشغول ہے، بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں، (کہ ننگے بدن ایک لنگی صرف ان کے پاس ہے) جب حُضور ﷺ نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور اِرشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے میری

---

① الزهد لابن المبارك، ۱۵٦

اُمّت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود
مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔

ف: ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حُضور ﷺ نے ان کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصّہ میں بیٹھے ہوئے پایا کہ ذِکرُ اللہ میں مشغول تھے۔ حُضور ﷺ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے۔ یعنی مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی لوگ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سَلمان فارسی وغیرہ حضرات صَحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ذِکر اللہ میں مشغول تھی، حُضور ﷺ تشریف لائے تو یہ لوگ چُپ ہو گئے۔ حُضور ﷺ نے فرمایا: تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا: ذِکر الٰہی میں مشغول تھے۔ حُضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رحمتِ الٰہی تم لوگوں پر اُتر رہی ہے، تو میرا بھی دِل چاہا کہ آکر تمہارے ساتھ شرکت کروں۔ پھر اِرشاد فرمایا کہ اَلحَمدُ لِلّٰہِ، اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے میری اُمّت میں ایسے لوگ پیدا کئے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ①۔ ابراہیم نَخعِی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ﴿اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ﴾ سے مُراد ذاکِرین کی جماعت ہے۔

ان ہی جیسے اَحکام سے صُوفیہ نے اِستِنباط کیا ہے کہ مشائخ کو بھی مُرِیدین کے پاس بیٹھنا ضروری ہے کہ اس میں عِلاوہ فائدہ پہنچانے کے اِختِلاط سے شیخ کے نفس کے لئے بھی مُجاہدۂ تامّہ ہے کہ غیر مُہذب لوگوں کی بدعنوانیوں کے تحمُّل اور برداشت سے نفس میں اِنقِیاد پیدا ہو گا، اس کی قوّت میں انکسار پیدا ہو گا۔ اس کے عِلاوہ قلوب کے اجتماع کو اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کی رحمت اور رافت کے مُتوَجِّہ کرنے میں خاص دخل ہے۔ اسی وجہ سے جماعت کی نماز مشروع ہوئی اور یہی بڑی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب حُجّاج بیک حال ایک میدان میں اللہ کی طرف مُتوَجِّہ کئے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "حجۃ اللہ البالغہ" میں مُتعدِّد جگہ اس مضمون کو اِہتمام سے اِرشاد فرمایا ہے۔ یہ سب اس جماعت کے بارے میں ہے جو اللہ کا ذِکر کرنے والی ہو، کہ اَحادیث میں کثرت سے اس کی

---

① مستدرک حاکم، کتاب العلم، فصل فی توقیر العالم، ۴۱۹

ترغیب آئی ہے۔ اس کے بِالمُقَابِل اگر کوئی شخص غافلین کی جماعت میں پھنس جائے اور اس وقت اللہ کے ذِکر میں مشغول ہو، تو اس کے بارے میں بھی اَحادیث میں کثرت سے فضائل آئے ہیں۔ ایسے موقع پر آدمی کو اور بھی زیادہ اِہتمام اور توجُّہ سے اللہ کی طرف مشغول رہنا چاہیئے، تاکہ ان کی نحوست سے محفوظ رہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ غافلین کی جماعت میں اللہ کا ذِکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں بھاگنے والوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جم کر مقابلہ کرے ❶۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غافلین میں اللہ کا ذِکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں کی طرف سے کُفّار کا مقابلہ کرے ❷۔ نیز وہ ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ نیز وہ ایسا ہے جیسے پت جھڑ والے درختوں میں کوئی شاداب سرسبز درخت۔ ایسے شخص کو حق تعالیٰ شانُہٗ اس کا جنت کا گھر پہلے ہی دکھا دیں گے اور ہر آدمی اور حیوان کے برابر اس کی مَغْفِرت کی جاوے گی ❸۔ یہ جب ہے کہ ان مَجالِس میں اللہ کے ذِکر میں مشغول ہو، ورنہ ایسی مَجالِس کی شرکت کی ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ عشیرہ یعنی یارانہ کی مَجالِس سے اپنے آپ کو بچاؤ ❹۔ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی ایسی مَجالِس سے جن میں غیر اللہ کا ذِکر کثرت سے ہوتا ہو، لَغْوِیات اور لَہْو ولَعِب میں مشغولی ہوتی ہو۔

ایک بُزرگ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بازار جارہا تھا، ایک حبشن باندی میرے ساتھ تھی۔ میں نے بازار میں ایک جگہ اس کو بٹھا دیا کہ میں واپسی میں اس کو لے لوں گا۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ جب میں نے واپسی پر اس کو وہاں نہ دیکھا تو مجھے غصّہ آیا۔ میں گھر واپس آیا تو وہ باندی آئی اور کہنے لگی: میرے آقا خفگی میں جلدی نہ کریں۔ آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس چھوڑ گئے جو اللہ کے ذِکر سے غافل تھے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو، وہ زمین میں دھنس نہ جائیں اور میں بھی ان کے ساتھ عذاب میں دھنس نہ جاؤں۔

(۱۹) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا

حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جَلَّ جلالُہٗ کا پاک اِرشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے

---

❶ مسند البزار، ۱۷۵۹، (۵-۱۶۶)

❷ شعب الایمان، فصل فی معانی المحبۃ، ۵۶۲

❸ ایضاً

❹ سنن سعید بن منصور

يَذْكُرُ عَنْ رَّبِّهٖ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أُذْكُرْنِيْ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا۔

(ض)

أخرجه أحمد في زوائد الزهد، كذا في الدر، تحت الآية: ۴۲، من سورة الأحزاب۔

بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصّہ میں تیری کفایت کروں گا۔ (ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذِکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں مُعِین ہو گا)۔

ف: آخرت کے واسطے نہ سہی، دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں! کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذِکر بھی کر لیا کریں کہ اَحادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذِکر کے فضائل وَارِد ہوئے ہیں اور جب اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حُضور اَقدس ﷺ اِرشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذِکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ چار عرب غلام آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذِکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے چار غلام آزاد کرنے سے ❶۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذِکر میں مشغول رہے اور پھر دو رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو ❷۔ حُضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذِکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذِکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے ❸۔

ان ہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اَوراد کا معمول ہے، اور حضرات صُوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اِہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً

---

❶ ابو داود، کتاب العلم، ۳۶۶۷

❷ ترمذی، ابواب السفر، ۵۸۶

❸ شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ، ۵۵۵

اشغال میں اِہتمام فرماتے ہیں اور عصر کے بعد اوراد کا اِہتمام کرتے ہیں، بِالخُصوص فجر کے بعد فقہاء بھی اِہتمام فرماتے ہیں۔ ’’مُدَوَّنہ‘‘ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوعِ آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہیں، اور حَنفیہ میں سے صاحب دُرِّ مختار نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کو جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی ہیئت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دُعا دس مرتبہ پڑھے، ’’لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ‘‘ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صِفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت اسی کا ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی پاک ذات کیلئے ہیں وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں، دس برائیاں مُعاف فرمائی جائیں اور جَنَّت میں دس درجے بلند کئے جائیں اور تمام دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے ❶۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد ’’أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ‘‘ (میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مَغفِرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رُجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں) تین مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ مُعاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں ❷۔

(۲۰) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ، وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا، وَمُتَعَلِّمًا۔

حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون (اللہ کی رحمت سے دور ہے)، مگر اللہ کا ذِکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔

(حسن بالمتابعة)

رواه الترمذي، اَبْواب الزهد، باب ماجاء في هوان الدنيا: ۲۳۲۲، (۵۲۵)۔ **وابن ماجه،** كتاب الزهد، باب مثل الدنيا: ۴۱۱۲، (۴۲۸/۴)۔ **والبيهقي،** شُعَب الإيمان، فصل في فضل العلم: ۱۵۸۰، (۲۲۸/۳)۔ **وقال الترمذي: حديث حسن۔ كذا في الترغيب،**

---

❶ ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۴۷۴

❷ الفوائد لتمام الرازی، ۱۰۸۴

كتاب الاخلاص، باب الترغيب في الاخلاص: ۱۵، (۱/۶۵)۔ **وذكره في الجامع الصغير،** حرف الألف: ۱۹۶۷، (۱/۱۶۵)۔ **برواية ابن ماجه، ورقم له بالحسن۔ وذكره في مجمع الزوائد،** كتاب العلم، باب في فضل العالم: ۴۹۲، (۱/۳۲۸)۔ **برواية الطبراني في الأوسط،** باب العين من اسمه علي: ۴۰۷۲، (۴/۲۳۶)۔ **عن اِبنِ مسعود رضی اللہ عنه۔ وكذا السُيوطي في الجامع الصغير:** ۴۲۸۱، (۱/۴۷)۔ **وذكره برواية البزار،** باب ماروىٰ عبده بن أبي لبابه: ۱۵۴۴، (۵/۱۳۷) **عن اِبنِ مسعود رضی اللہ عنه: "الأمر ابمعروف اونهيا عن منكر اوذكر الله رقم له**

ف: اس کے قریب ہونے سے مُراد ذِکر کے قریب ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ چیزیں مُراد ہوں گی جو اللہ کے ذِکر میں مُعین و مددگار ہوں۔ جن میں کھانا پینا بھی بقدرِ ضرورت داخل ہے اور زندگی کے اسبابِ ضرور یہ بھی اس میں داخل ہیں اور اس صورت میں اللہ کا ذِکر ہر چیز کو جو عبادت کی قبیل سے ہو، شامل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قریب ہونے سے اللہ کا قُرب مُراد ہو، تو اس صورت میں ساری عبادتیں اس میں داخل ہوں گی اور اللہ کے ذِکر سے مخصوص ذِکر مُراد ہو گا۔ اور دونوں صورتوں میں علم ان میں خود داخل ہو گیا تھا۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ کے ذِکر کے قریب لے جاتا ہے کہ "بے علم نتواں خدا را شناخت" (بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتا) اور دوسری صورت میں اس وجہ سے کہ علم سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو گی، لیکن اس کے باوجود پھر عالم اور طالبِ علم کو علیحدہ اِہتمام کی وجہ سے فرمایا کہ علم بہت ہی بڑی دولت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لئے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے اور اس کی طلب (یعنی تلاش کیلئے کہیں جانا) عبادت ہے اور اس کا یاد کرنا تسبیح ہے اور اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے اور اس کا پڑھنا صدقہ ہے اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے۔ اس لئے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کیلئے علامت ہے اور جنَّت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے (کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے اسی طرح) تنہائی میں ایک مُحدّث ہے، خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے دوستوں کیلئے، حق تعالیٰ شانُہٗ اس کی وجہ سے ایک جماعت (عُلماء) کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بُلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانِ قدم پر چلا جائے اور ان کے اَفعال کا اِتّباع کیا جائے، ان کی رائے کی طرف رُجوع کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں۔ اپنے پروں کو (برکت حاصل کرنے کیلئے یا مَحبَّت کے طور پر) ان پر ملتے ہیں اور ہر تر اور خشک چیز دنیا کی ان کیلئے

اللہ سے مَغفِرت کی دُعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور (سانپ وغیرہ) تک بھی دعائے مَغفِرت کرتے رہتے ہیں اور یہ سب اس لئے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ اُمّت کے بہترین اَفراد تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کرلیتا ہے، اس کا مُطالَعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجُّد کے برابر ہے۔ اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، وہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ سعید (نیک بخت) لوگوں کو اس کا اِلہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں ❶۔

اس حدیث پر مجموعی طور سے بعض نے کلام کیا ہے، لیکن جس قسم کے فضائل اس میں ذِکر کئے گئے ہیں، ان کی تائید دوسری رِوایات سے بھی ہوتی ہے، نیز ان کے عِلاوہ اور بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں میں بکثرت آئے ہیں، اس وجہ سے عالم اور طالب علم کو خاص طور سے حدیث بالا میں ذِکر فرمایا ہے۔ حافظ ابنِ قیِّم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور مُحدِّث ہیں، انہوں نے ایک مَبسُوط رسالہ عربی میں ”اَلْوَابل الصَّیِّب“ کے نام سے ذِکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذِکر میں سو سے بھی زیادہ فائدے ہیں، ان میں سے نمبروار اناسی (۷۹) فائدے انہوں نے ذِکر فرمائے ہیں، جن کو مُختصراً اس جگہ ترتیب وار نقل کیا جاتا ہے اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی کئی فائدوں کو شامل ہیں اس لحاظ سے یہ سو (۱۰۰) سے زیادہ پر مشتمل ہیں۔

(۱) ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوّت کو توڑتا ہے۔

(۲) اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کی خوشنودی کا سبب ہے۔

(۳) دِل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔

(۴) دل میں فرحت، سرور اور اِنبساط پیدا کرتا ہے۔

(۵) بدن کو اور دِل کو قوّت بخشتا ہے۔

(۶) چہرہ اور دِل کو مُنوَّر کرتا ہے۔

(۷) رزق کو کھینچتا ہے۔

---

❶ جامع بیان العلم، ۱۱۶

(۸) ذکر کرنے والے کو ہَیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ شانہٗ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیئے کہ اس کے ذِکر کی کثرت کرے۔ جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذِکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔

(۱۰) ذکر سے مُراقبہ نصیب ہوتا ہے، جو مرتبہ اِحسان تک پہنچا دیتا ہے، یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جَلَّ شانُہٗ کو دیکھ رہا ہے (یہی مرتبہ صُوفیہ کا مُنتہائے مقصد ہوتا ہے)۔

(۱۱) اللہ کی طرف رُجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آجاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شانہٗ اس کی جائے پناہ اور مَاویٰ و ملجا (ٹھکانہ) بن جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجُّہ ہو جاتی ہے۔

(۱۲) اللہ کا قُرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذِکر میں اِضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی قُرب میں اِضافہ ہوتا ہے اور جتنی ذِکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔

(۱۳) اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔

(۱۴) اللہ جَلَّ شانُہٗ کی ہَیبت اور اس کی بڑائی دِل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حُضوری پیدا کرتا ہے۔

(۱۵) اللہ جَلَّ شانُہٗ کی بارگاہ میں ذِکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں اِرشاد ہے: ﴿فَاذۡكُرُوۡنِىۡۤ اَذۡكُرۡكُمۡ﴾ (البقرة: ۱۵۲)۔ اور حدیث میں وَارِد ہے: ”مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ“① الحدیث چنانچہ آیات اور اَحادیث کے بیان میں پہلے مُفصَّل گزر چکا ہے، اگر ذِکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی، چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔

(۱۶) دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذِکر دِل کے لئے ایسا ہے

---

① مسند احمد، مسند أبی ھریرہ، ۸۶۵۰

جیسا مچھلی کیلئے پانی۔ خود غور کرلو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔

(۱۷) دل اور روح کی روزی ہے اور اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی (یعنی کھانا) نہ ملے۔

(۱۸) دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی وَارِد ہوا ہے ❶، ہر چیز پر اس کے مُنَاسِب زنگ اور مَیل کچیل ہوتا ہے، دِل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہیں، یہ اس کے لئے صفائی کا کام دیتا ہے۔

(۱۹) لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔

(۲۰) بندہ کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دِل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذِکر ہی سے دور ہوتی ہے۔

(۲۱) جو اَذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذِکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وَارِد ہے (باب نمبر ۳ حدیث نمبر ۱۷)۔

(۲۲) جو شخص راحت میں اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ذِکر کرتا ہے، اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے۔

(۲۳) اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔

(۲۴) سَکِیْنَہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور فرشتے ذِکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں (سَکِیْنَہ کے معنی باب ہٰذا کی فصل نمبر ۲ حدیث نمبر ۸ میں گزر چکے ہیں)۔

(۲۵) اس کی برکت سے زبان غیبت، چُغل خوری، جھوٹ، بد گوئی، لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے، چنانچہ تجَرِبہ اور مُشاہَدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذِکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عُموماً محفوظ رہتا ہے اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نَوع کی لَغْوِیات میں مُبتلا رہتا ہے۔

(۲۶) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لَغْوِیات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں، اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کرلے اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مُناسبت رکھتا ہے۔

---

❶ شعب الایمان،، فصل فی معانی محبۃ اللہ، ۵۱۹

(۲۷) ذکر کی وجہ سے ذِکر کرنے والا بھی سعید (نیک بخت) ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ اور غفلت یا لَغوِیات میں مُبتلا ہونے والا خود بھی بد بخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔

(۲۸) قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذِکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے ❶۔

(۲۹) ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں، جب کہ ہر شخص میدانِ حشر میں بِلبِلا رہا ہو گا، یہ عرش کے سایہ میں ہو گا۔

(۳۰) ذِکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں، حدیث میں اللہ جَلَّ شانُہٗ کا اِرشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذِکر نے دُعا سے روک دیا، اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا ❷۔

(۳۱) باوجود سَہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لئے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اَعضاء کو حرکت دینے سے سَہل ہے۔

(۳۲) اللہ کا ذِکر جَنَّت کے پودے ہیں (چنانچہ باب نمبر ۳ فصل نمبر ۲ حدیث نمبر ۴ میں مُفَصَّل آرہا ہے)۔

(۳۳) جس قدر بخشش اور اِنعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے، چنانچہ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ جو شخص ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“ سو مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور سو نیکیاں اس کے لئے لکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے مُعاف کر دی جاتی ہیں اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص کہ جو اس سے زیادہ عمل کرے ❸۔ اسی طرح اور بہت سی اَحادیث ہیں جن سے ذِکر کا افضل اَعمال ہونا معلوم ہوتا ہے (اور بہت سی ان میں سے اس رسالہ میں مذکور ہیں)۔

---

❶ سنن الکبری للنسائی، ۱۰۱۷۰

❷ شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللّٰہ، ۵۶۷

❸ بخاری، کتاب بدء الخلق، ۳۲۹۳

(۳۴) دوامِ ذِکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے جو سبب ہے دارین کی شَقاوت (بدبختی) کا۔ اس لئے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بُھلا دینے کا اور اپنے تمام مَصالِح کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ اِرشاد خداوندی ہے ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ (الحشر: ۱۹) (تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا) اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مَصالِح سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے، جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے، اس کی خبر گیری نہ کرے تو لامحالہ وہ ضائع ہو گا اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذِکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے اور ذِکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شِدَّت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذِکر اس سے زیادہ کا مُستحِق ہے۔ اس لئے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے، جو روح کی اور دِل کی ہلاکت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔

(۳۵) ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذّتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو۔ حتیٰ کہ جس کا دِل نورِ ذِکر سے مُنوَّر ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔

(۳۶) ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پل صِراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہٗ کا اِرشاد ہے: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُورًا يَّمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ (الإنعام: ۱۲۲)۔ (ایسا شخص جو پہلے مُردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو

گمراہیوں کی تاریکیوں میں گھرا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا)۔ پس اوّل شخص مُؤمن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذِکر سے مُتَوَّر ہے اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت مُہتَم بِالشَّان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی لئے نبیِٔ اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اس کی طلب اور دُعا میں مُبالَغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر ہر جُز میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ اَحادیث میں مُتَعدِّد دعائیں ایسی ہیں جن میں حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اس کی دُعا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ آپ کے گوشت میں، ہڈیوں اور پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں، اُوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے نور ہی نور کر دے، حتیٰ کہ یہ بھی دُعا کی کہ خود مجھی کو سرتاپا نور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن جائے ❶۔ اسی نور کی بقدر اَعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہو گا۔

(۳۷) ذکر تصوُّف کا اصل اصول ہے اور تمام صُوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لئے ذِکر کا دروازہ کُھل گیا ہے اس کے لئے اللہ جَلَّ شانُہٗ تک پہنچنے کا دروازہ کُھل گیا اور جو اللہ جَلَّ شانُہٗ تک پہنچ گیا، وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔

(۳۸) آدمی کے دِل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذِکر کے عِلاوہ کسی چیز سے بھی پُر نہیں ہوتا اور جب ذِکر دِل پر مُسلَّط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پُر کرتا ہے، بلکہ ذِکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے اور بغیر کُنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دِلوں میں عِزت والا بنا دیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جو شخص ذِکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت، کُنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔

(۳۹) ذکر پراگندہ کو مُجتَمِع کرتا ہے اور مُجتَمِع کو پراگندہ کرتا ہے، دُور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ پراگندہ کو مُجتَمِع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دِل پر جو متفرق

---

❶ بخاری، باب الدعاء، ٦٣١٦

ہموم، غموم، تفکّرات، پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتا ہے اور مُجتَمِع کو پراگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفکّرات مُجتَمِع ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ جمع ہو گئے ہیں ان کو پراگندہ کر دیتا ہے اور جو شیطان کے لشکر آدمی پر مُسلَّط ہیں ان کو پراگندہ کر دیتا ہے اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے اور دنیا کو جو قریب ہے دور کر دیتا ہے۔

(۴۰) ذکر آدمی کے دِل کو نیند سے جگاتا ہے غفلت سے چوکنّا کرتا ہے اور دِل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی مَنافع کھوتا رہتا ہے۔

(۴۱) ذکر ایک درخت ہے جس پر مَعارِف کے پھل لگتے ہیں۔ صُوفیہ کی اِصطلاح میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں اور جتنی بھی ذِکر کی کثرت ہو گی، اتنی ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہو گی اور جتنی جڑ مضبوط ہو گی اتنے ہی زیادہ پھل اس پر آئیں گے۔

(۴۲) ذکر اس پاک ذات کے قریب کر دیتا ہے جس کا ذِکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ معیَّت نصیب ہو جاتی ہے، چنانچہ قرآنِ پاک میں ہے: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ﴾ (النحل: ۱۲۸) (اللہ جَلَّ شانُہٗ متقیوں کے ساتھ ہے) اور حدیث میں وَارِد ہے "**أَنَا مَعَ عَبْدِيْ مَا ذَكَرَنِي**"❶ (میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذِکر کرتا رہے) ایک حدیث میں ہے کہ میرا ذِکر کرنے والے میرے آدمی ہیں، میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تو میں ان کا حبیب ہوں۔ اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو پریشانیوں میں مُبتلا کرتا ہوں، تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کروں❷۔ نیز ذِکر کی وجہ سے جو اللہ جَلَّ شانُہٗ کی معیَّت نصیب ہوتی ہے، وہ ایسی معیَّت ہے جس کے برابر کوئی دوسری معیَّت نہیں ہے، نہ وہ زبان سے تعبیر ہو سکتی ہے، نہ تحریر میں آسکتی ہے، اس کی لذّت وہی جان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ (**أَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مِنْهُ شَيْئًا**)۔

(۴۳) ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے (بہت سی روایات میں اس قسم کے مضامین گذر بھی چکے

---

❶ شعب الإيمان، معاني المحبة: ۵۰۶، ۲/ ۵۲

❷ الوابل الصيب، ۹۳

ہیں اور آئندہ بھی آنے والے ہیں)۔

(۴۴) ذکر شُکر کی جڑ ہے، جو اللہ کا ذِکر نہیں کرتا وہ شُکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام نے اللہ جَلَّ جَلالُہٗ سے عرض کیا: آپ نے مجھ پر بہت اِحسانات کئے ہیں، مجھے طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کا بہت شُکر ادا کروں۔ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ نے اِرشاد فرمایا کہ جتنا بھی تم میرا ذِکر کروگے اتنا ہی شُکر ادا ہوگا❶۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ عَلَیۡہِ السَّلام کی یہ درخواست ذِکر کی گئی ہے کہ یا اللہ! تیری شان کے مُناسِب شُکر کس طرح ادا ہو؟ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت ذِکر کے ساتھ تروتازہ رہے❷۔

(۴۵) اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں زیادہ مُعزَز وہ لوگ ہیں جو ذِکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں، اس لئے کہ تقویٰ کا مُنۡتہا جنت ہے اور ذِکر کا مُنۡتہا اللہ کی معِیَّت ہے۔

(۴۶) دل میں ایک قسم کی قسوت (سختی) ہے، جو ذِکر کے عِلاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی۔

(۴۷) ذِکر دِل کی بیماریوں کا علاج ہے۔

(۴۸) ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے اور ذِکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے۔

(۴۹) اللہ کے ذِکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کی کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔

(۵۰) ذِکر کرنے والے پر اللہ کی صلوٰۃ (رحمت) اور فرشتوں کی صلوٰۃ (دعا) ہوتی ہے۔

(۵۱) جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنَّت کے باغوں میں رہے وہ ذِکر کی مَجَالِس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مَجَالِس جنَّت کے باغ ہیں۔

(۵۲) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں (احادیثِ مذکورہ میں یہ مضمون مُفَصَّل گزر چکا ہے)۔

(۵۳) اللہ جَلَّ شانُہٗ ذِکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔

---

❶ شعب الایمان، فصل فی تعدید نعم اللہ، ۴۱۰۱ ❷ شعب الایمان، فصل فی تعدید نعم اللہ، ۴۱۱۴

(۵۴) ذکر پر مُدَاوَمت کرنے والا جنّت میں ہنستا ہوا داخل ہو گا۔

(۵۵) تمام اَعمال اللہ کے ذِکر ہی کے واسطے مُقرَّر کئے گئے ہیں۔

(۵۶) تمام اَعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذِکر کثرت سے کیا جائے، روزوں میں وہ روزہ افضل ہے جس میں ذِکر کی کثرت ہو، حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذِکر کی کثرت ہو۔ اسی طرح اور اَعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔

(۵۷) یہ نوافل اور دوسری نفل عبادات کے قائم مقام ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فُقراء نے حُضور ﷺ سے شکایت کی کہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزے نماز میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج، عمرہ، جہاد میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے، مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے، اس کے بعد حُضور ﷺ نے ہر نماز کے بعد "سُبحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ" پڑھنے کو فرمایا ①۔ (جیسا کہ باب نمبر ۳ فصل نمبر ۲ حدیث نمبر ۷ میں آ رہا ہے) کہ حُضور ﷺ نے حج، عمرہ، جہاد وغیرہ ہر عبادت کا بدل ذِکر کو قرار دیا ہے۔

(۵۸) ذِکر دوسری عبادات کیلئے بڑا مُعین و مددگار ہے کہ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادات میں لذّت آنے لگتی ہے اور کسی عبادت میں بھی مَشقَّت اور بار نہیں رہتا۔

(۵۹) ذکر کی وجہ سے ہر مَشقَّت آسان بن جاتی ہے اور ہر دُشوار چیز سَہل ہو جاتی ہے اور ہر قسم کے بوجھ میں خِفَّت ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔

(۶۰) ذکر کی وجہ سے دِل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے، ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کے ذِکر کو خُصوصی دخل ہے اور اس کی یہ خاص تاثیر ہے، جتنی ہی ذِکر کی کثرت ہو گی اتنا ہی اطمینان نصیب ہو گا اور خوف زائل ہو گا۔

(۶۱) ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوّت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دُشوار نظر آتے ہیں۔ حُضور اَقدس ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت

---

① بخاری، باب الدعاء بعد الصلاۃ، ۶۳۲۹

فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، جب انہوں نے چکّی کی مَشقَّت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا، تو سوتے وقت **سُبحَانَ اللّٰہ**، **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ**، ۳۳، ۳۳ مرتبہ اور **اَللّٰہُ اَکْبَر** ۳۴ مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ اِرشاد فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے ①۔

(۶۲) آخرت کے لئے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں اور اس دوڑ میں ذاکِرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عُمر مَولیٰ غُفرۃ رحمۃ اللہ علیہ سے نَقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اَعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذِکر کا اِہتمام کیوں نہ کیا کہ سب سے زیادہ سَہل عمل تھا ②۔ ایک حدیث میں حُضور ﷺ کا اِرشاد نَقل کیا ہے کہ مُفَرِّد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مُفَرِّد لوگ کون ہیں؟ حضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ ذِکر پر مر مٹنے والے کہ ذِکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے ③۔

(۶۳) ذِکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ شانُہٗ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچّا بتاتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچّا بتائیں اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ "**لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اَکْبَرُ**" کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانُہٗ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں ④۔

(۶۴) ذکر سے جنَّت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں، جب بندہ ذِکر سے رُک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رُک جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فُلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص "**سُبحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ**" سات مرتبہ پڑھے، ایک گنبد اس کے لئے جنَّت میں تعمیر ہو جاتا ہے ⑤۔

(۶۵) ذکر جہنّم کیلئے آڑ ہے، اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنّم کا مُستحِق ہو جائے تو ذِکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اور جتنی ذِکر کی کثرت ہو گی، اتنی ہی پُختہ آڑ ہو گی۔

(۶۶) ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے اِستِغفار کرتے ہیں۔ حضرت عَمرو بْنُ العاص رضی اللہ عنہ سے

---

① ابوداود، کتاب الخراج، ۴۹۸۸

② الوابل الصیب ایضا

③ ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۹۶

④ جامع العلوم لابن الرجب، ۱/۴۶۶

⑤ الوابل الصیّب

ذِکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ ''سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ'' کہتا ہے یا ''اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ'' کہتا ہے، تو فرشتے دُعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مَغفِرت فرما۔

(۶۷) جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذِکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی ذِکر کرنے والا تجھ پر آج گزرا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے ❶۔

(۶۸) ذکر کی کثرت نِفاق سے بری ہونے کا اطمینان (اور سند) ہے، کیونکہ اللہ جَلَّ شانُہٗ نے منافقوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ: ﴿لَا یَذْکُرُوْنَ اللهَ اِلَّا قَلِیْلًا﴾ (النساء: ۱۴۲) (نہیں ذِکر کرتے اللہ کا، مگر تھوڑا سا) کَعب اَحبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذِکر کرے، وہ نفاق سے بَری ہے ❷۔

(۶۹) تمام نیک اَعمال کے مقابلہ میں ذِکر کے لئے ایک خاص لذّت ہے، جو کسی عمل میں بھی نہیں پائی جاتی، اگر ذِکر میں اس لذّت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی، تو یہی چیز اس کی فضیلت کیلئے کافی تھی۔ مالک بنُ دِینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذّت پانے والے کسی چیز میں بھی ذِکر کے برابر لذّت نہیں پاتے۔

(۷۰) ذِکر کرنے والوں کے چہرہ پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہو گا۔

(۷۱) جو شخص راستوں میں اور گھروں میں، سفر میں اور حضر میں کثرت سے ذِکر کرے قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانُہٗ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا﴾ (الزلزال) (اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی)۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا: جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے لاعلمی ظاہر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ فُلاں دن فُلاں وقت مجھ پہ یہ کام کیا ہے (نیک یا برا)۔ اس لئے مُختلف جگہوں میں کثرت سے ذِکر کرنے والوں کے گواہ بھی بکثرت ہوں گے ❸۔

(۷۲) زبان جتنی دیر ذِکر میں مشغول رہے گی لغویات، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ

---

❶ شعب الایمان، فَصل فی ادامۃ ذلر اللہ ۵۳۴
❷ المعجم الصغیر، من اسمہ محمد، ۹۷۴
❸ ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، ۲۴۲۹

رہے گی، اس لئے کہ زبان چُپ تو رہتی ہی نہیں، یا ذکر اللہ میں مشغول ہو گی، ورنہ لَغوِیات میں۔ اسی طرح دِل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہو گا تو مخلوق کی محبت میں مُبتلا ہو گا۔

(۷۳) شیاطین آدمی کے کُھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں، جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کا محاصرہ کئے رہتے ہوں، اس کا جو حال ہو گا ظاہر ہے اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز ذِکر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی اَحادیث میں بہت سی دُعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔

حافظ ابنِ قیّم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی دعائیں مُتعدِّد ذِکر کی ہیں، ان کے عِلاوہ مُصنّف نے چھ نمبروں میں اَنواعِ ذِکر کا تفاضُل اور ذِکر کی بعض کُلّی فضیلتیں ذِکر کی ہیں اور اس کے بعد پچھتر فصلیں خُصوصی دعاؤں میں جو خاص خاص اوقات میں وَارِد ہوئی ہیں، ذِکر کی ہیں، جن کو اِختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، کہ توفیق والے کے لئے جو ذِکر کیا گیا ہے یہ بھی کافی سے زیادہ ہے اور جس کو توفیق نہیں اس کیلئے ہزارہا فضائل بھی بیکار ہیں۔ ”وَمَا تَوْفِيْقِیْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ“

دوسرا باب

کلمہ ٔطیّبہ

کلمہ ٔطیّبہ جس کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جس کثرت سے قرآنِ پاک اور حدیث شریف میں ذِکر کیا گیا ہے شاید ہی اس کثرت سے کوئی دوسری چیز ذِکر کی گئی ہو اور جب کہ اصل مقصود تمام شرائع اور تمام اَنبیاء کی بِعثت سے توحید ہی ہے، تو پھر جتنی کثرت سے اس کا بیان ہو، وہ قَرینِ قیاس ہے۔ قرآنِ پاک میں مُختلِف عُنوانات اور مُختلِف ناموں سے اس پاک کلمہ کو ذِکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ، قول ثابت، کلمہ ٔ تقویٰ، مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں) وغیرہ الفاظ سے ذِکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آئندہ آیات میں آرہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اِحیاء اِلعُلُوم میں نقل کیا ہے کہ یہ کلمہ ٔتوحید ہے، کلمہ اِخلاص ہے، کلمہ تقویٰ ہے، کلمہ ٔطیّبہ ہے، عُرْوَۃُ الْوُثْقٰی ہے، دَعْوَۃُ الْحَقّ ہے، ثَمَنُ الْجَنَّۃ ہے۔ اور چونکہ قرآنِ پاک میں مُختلِف عُنوانات سے اس کو ذِکر فرمایا گیا اس لئے اس باب کو تین فصلوں پر مُنقسِم کیا گیا۔

پہلی فصل میں ان آیات کا ذِکر ہے جن میں کلمہ ٔطیّبہ مُراد ہے اور کلمہ طیّبہ کا لفظ نہیں ہے، اس لئے ان آیات کی مُختصر تفسیر حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود سَیِّدُ الْبَشَر عَلَیْہِ افضلُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلام سے نقل کی گئی۔ **دوسری فصل** میں ان آیات کا حوالہ ہے جن میں کلمہ طیّبہ پورا یعنی لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تمام کا تمام ذِکر کیا گیا ہے، یا کسی معمولی تَغَیُّر کے ساتھ جیسے لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ۔ اور چونکہ ان میں یہ کلمہ خود ہی موجود ہے، یا اس کا ترجمہ دوسرے الفاظ سے ذِکر کیا گیا ہے، اس لئے ان آیات کے ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجھی، صرف حوالہ سورت اور رکوع پر اِکتفا کیا گیا اور **تیسری فصل** میں ان اَحادیث کا ترجمہ اور مطلب ذِکر کیا گیا جن میں اس پاک کلمہ کی ترغیب اور حکم فرمایا گیا۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ۔

فصل اوّل

ان آیات میں جن میں لفظ کلمۂ طیّبہ کا نہیں ہے اور مُراد کلمۂ طیّبہ ہے۔

(۱) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

(ابراهیم: ۲۴، ع: ۴)

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیّبہ کی، وہ مُشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے، جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اُوپر آسمان کی طرف جارہی ہوں اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو) اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ اور خَبِیث کلمہ (یعنی کلمۂ کفر) کی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اُوپر ہی اُوپر سے اُکھاڑ لیا جاوے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو۔

ف: حضرت اِبنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کلمۂ طیّبہ سے کلمۂ شہادت "أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" مراد ہے جس کی جڑ مُؤمن کے قول میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں ①، کہ اس کی وجہ سے مُؤمن کے اَعمال آسمان تک جاتے ہیں اور کلمۂ خَبِیثہ شرک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں اِبنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر وقت پھل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دن رات ہر وقت یاد کرتا ہو②۔ حضرت قتادہ تابِعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حُضور اَقدس ﷺ سے کسی نے عرض کیا: یارسولَ اللہ! یہ مالدار (صدقات کی بدولت) سارا ثواب اُڑا لے گئے۔ حُضور ﷺ نے فرمایا: بھلا بتا تو سہی کہ اگر کوئی شخص سامان کو اُوپر نیچے رکھتا چلا جائے، تو کیا آسمان پر چڑھ جائے گا؟ میں

---

① تفسیر طبری، ابراھیم

② ایضاً

تجھے ایسی چیز بتاؤں جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان پر، ہر نماز کے بعد ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ'' دس دس مرتبہ پڑھا کر، اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان پر ❶۔

(۲) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ (الفاطر: ۱۰، ع: ۲)

جو شخص عِزت حاصل کرنا چاہے (وہ اللہ ہی سے عِزت حاصل کرے کیونکہ) ساری عِزت اللہ ہی کے واسطے ہے، اسی تک اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔

ف: اچھے کلموں سے مُراد بہت سے مُفَسِّرین کے نزدیک ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' ہے، جیسا کہ عام مُفَسِّرین نے نقل کیا ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مُراد کلمات تسبیح ہیں جیسا کہ دوسرے باب میں آئے گا۔

(۳) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا (ابراهیم: ۱۱۵، ع: ۴)

اور تیرے رَبّ کا کلمہ سچائی اور اِنصاف (واعتدال) کے اعتبار سے پورا ہے۔

ف: حضرت اَنَس رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ حضور اَقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ رَبّ کے کلمہ سے مُراد ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' ہے اور اکثر مُفَسِّرین کے نزدیک اس سے کلام اللہ شریف مُراد ہے ❷۔

(۴) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝ (ابراهیم: ۲۷، ع: ۴)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکّی بات (یعنی کلمہ طیبہ) سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے اور کافروں کو دونوں جہان میں بچلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ف: حضرت بَرَاء رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حُضور اَقدس ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ جب قبر میں سُوال ہوتا ہے تو مسلمان ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ'' کی گواہی دیتا ہے۔ آیتِ

---

❶ مصنف عبد الرزاق، باب التسبیح، ۳۱۸۸

❷ الدر المنثور، الانعام: ۲۵

شریفہ میں پکی بات سے یہی مُراد ہے ❶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مُراد قبر کا سُوال جواب ہے ❷۔ حضرت اِبْنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں جنّت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور جب دفن ہو جاتا ہے، تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سُوال جواب ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، "أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" یہی مراد ہے آیتِ شریفہ میں ❸۔ حضرت اَبُو قَتَادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پکی بات سے مُراد "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" ہے اور آخرت میں قبر کا سُوال جواب مُراد ہے ❹۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔

(۵) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝ (ہود: ۱۴ ع ۱۰)

سچّا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے، جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے، (اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے) تاکہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ (پانی اڑ کر) اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔

ف: حضرت علی کَرَّمَ اللہ وَجہَہٗ فرماتے ہیں کہ دَعْوَةُ الْحَقِّ سے مُراد توحید یعنی "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" ہے ❺۔ حضرت اِبْنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے کہ دعوۃ الحق سے شہادت "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کی مُراد ہے ❻ اسی طرح ان کے عِلاوہ دوسرے حضرات سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے۔

---

❶ بخاری، کتاب تفسیر القرآن، ۴۶۹۹
❷ الدر المنثور، ابراھیم
❸ تفسیر طبری، ابراھیم: ۲۷
❹ ایضاً
❺ تفسیر الطبری
❻ ایضاً

(۶) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○ (ال عمران: ۶۴ ع: ۷)

(اے محمد!) آپ فرما دیجئے کہ اے اہلِ کتاب! آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان (مُسَلَّم ہونے میں) برابر ہے، وہ یہ کہ بجُز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رَبّ قرار نہ دے خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔

ف: آیتِ شریفہ کا مضمون خود ہی صاف ہے کہ کلمہ سے مُراد توحید اور کلمہ طیّبہ ہے۔ حضرت اَبُو الْعَالِیَہ رحمۃ اللہ علیہ اور مُجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ کلمہ سے مُراد ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' ہے۔

(۷) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۭ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (ال عمران: ۱۱۰، ع: ۱۲)

(اے اُمّتِ محمد ﷺ!) تم لوگ (سب اہلِ مذاہب سے) بہترین جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کو نفع پہنچانے کیلئے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر تھا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں (جو ایمان لے آئے) لیکن اکثر حصّہ ان میں سے کافر ہے۔

ف: حضرت اِبْنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ﴿تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ (اچھی بات کا حکم کرتے ہو) کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم کرتے ہو کہ وہ ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' کی گواہی دیں اور اللہ کے اَحکام کا اقرار کریں اور ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' ساری چیزوں میں سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑھی ہوئی ❶۔

(۸) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ (ھود: ۱۱۴، ع: ۱۰)

(اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حِصّوں میں، بیشک نیک کام مٹا دیتے ہیں (نامہ اَعمال سے) برے کاموں کو، یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کیلئے۔

ف: اس آیتِ شریفہ کی تفسیر میں بہت سی اَحادیث وَارِد ہوئی ہیں، جن میں حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتِ شریفہ کی توضیح فرماتے ہوئے اِرشاد فرمایا ہے کہ نیکیاں (اعمال نامہ سے) برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت اَبُو ذر رضی اللہ عنہ اِرشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا! اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب کوئی برائی صادر ہو جائے تو فوراً کوئی بھلائی اس کے بعد کرو تاکہ اس کی مُکافات ہو جائے اور وہ زائل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' بھی نیکیوں میں شمار ہے یعنی اس کا ورد اس کا پڑھنا بھی اس میں داخل ہے؟ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ یہ تو نیکیوں میں افضل ترین چیز ہے ❷۔ حضرت اَنَس رضی اللہ عنہ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ رات میں یا دن میں کسی وقت بھی ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' پڑھتا ہے اس کے اعمالنامہ سے برائیاں دھل جاتی ہیں ❸۔

(۹) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ

بیشک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل کا اور اِحسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا۔ اور

---

❶ تفسیر الطبری، آل عمران: ۱۱۰

❷ الاسماء والصفات، ۲۰۲

❸ مسند ابی یعلی، زہری عن انس، ۳۶۱۱

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝ (نحل: ۹۰، ع: ۱۳)

منع فرماتے ہیں فحش باتوں سے اور بری باتوں اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ حق تعالیٰ شانُہٗ تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔

ف: عدل کے معنی تفاسیر میں مُختلف آئے ہیں۔ ایک تفسیر حضرت عبد اللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ عدل سے مُراد ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کا اقرار کرنا ہے اور اِحسان سے مُراد فرائض کا ادا کرنا ہے❶۔

(۱۰) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا۝ (الأحزاب: ۷۰، ع: ۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی کی (پکی) بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اَعمال اچھے کر دے گا اور گناہ مُعاف فرما دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔

ف: حضرت عبد اللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما اور حضرت عِکرِمہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ﴿قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا﴾ کے معنی یہ ہیں کہ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کہا کرو❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ پکے اَعمال تین چیزیں ہیں: ہر حال میں اللہ کا ذِکر کرنا، (غمی ہو یا خوشی، تنگی ہو یا فراخی) دوسرے اپنے بارے میں اِنصاف کا معاملہ کرنا❸ (یہ نہ ہو کہ دوسروں پر تو زور دکھلائے اور جب کوئی اپنا معاملہ ہو تو اِدھر اُدھر کی کہنے لگے)، تیسرے بھائی کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا۔

(۱۱) فَبَشِّرْ عِبَادِ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ۝ (الزمر: ۴۷، ع: ۲)

پس آپ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سُنا دیجئے جو اس کلام پاک کو کان لگا کر سُنتے ہیں، پھر اس کی بہترین باتوں کا اِتّباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور

---

❶ تفسیر الطبری، النحل: ۹۰

❷ تفسیر الطبری، الاحزاب: ۷۲

❸ حلیۃ الاولیاء، ۳/ ۱۸۳

یہی ہیں جو اہلِ عقل ہیں۔

ف: حضرت اِبنِ عُمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید، حضرت اَبُوذر غفاری اور حضرت سَلمان فارسی رضی اللہ عنہم، یہ تینوں حضرات جاہلیّت کے زمانہ ہی میں ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' پڑھا کرتے تھے اور یہی مُراد ہے اس آیتِ شریفہ میں ''اَحۡسَنُ الۡقَوۡل'' سے ❶۔ حضرت زَید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے قریب ہی منقول ہے کہ یہ آیتیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نازِل ہوئی ہیں جو جاہلیّت کے زمانہ میں بھی ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' پڑھا کرتے تھے۔ زَید بن عمرو بن نُفَیل اور اَبُوذر غفاری اور سَلمان فارسی رضی اللہ عنہم۔

(۱۲) وَالَّذِیۡ جَآءَ بِالصِّدۡقِ وَ صَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُتَّقُوۡنَ ○ لَهُمۡ مَّا یَشَآءُوۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الۡمُحۡسِنِیۡنَ ○ لِیُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ اَسۡوَاَ الَّذِیۡ عَمِلُوۡا وَ یَجۡزِیَهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ الَّذِیۡ كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ (الزمر: ۳۳، ع: ۴)

اور جو لوگ (اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے) سچّی بات لے کر آئے اور خود بھی اس کی تصدیق کی (اس کو سچّا جانا) تو یہ لوگ پرہیز گار ہیں، یہ لوگ جو کچھ چاہیں گے ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اَعمال کو ان سے دور کردے (اور مُعاف کر دے) اور نیک کاموں کا بدلہ (ثواب) دے۔

ف: جو لوگ اللہ کی طرف سے لانے والے ہیں وہ اَنبِیاء عَلٰی نَبِیِّنَا وَ عَلَیۡهِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام ہیں اور جو لوگ اس کے رسول کی طرف سے لانے والے ہیں وہ عُلماء کرام ہیں (شَكَرَ اللّٰهُ سَعۡیَهُمۡ)۔ حضرت اِبنِ عَبّاس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سچّی بات سے مُراد ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' ہے ❷۔ بعض مُفسّرین سے نقل کیا گیا ہے کہ ﴿اَلَّذِیۡ جَآءَ بِالصِّدۡقِ﴾ (جو شخص سچّی بات اللہ کی طرف سے لے کر آیا) سے مُراد نبیٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ﴿صَدَّقَ بِهٖ﴾ (وہ لوگ

---

❶ الدر المنثور، الزمر: ٦

❷ تفسیر الطبری، الزمر: ٣٧

جنہوں نے اس کی تصدیق کی) سے مُراد مؤمنین ہیں ①۔

(۱۳) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ٥ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ٥ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ٥ (حٰم سجدہ: ۳۰، ع: ۴)

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا ربّ اللہ (جل جلالہ) ہے، پھر مُستَقیم رہے (یعنی جمے رہے، اس کو چھوڑا نہیں) ان پر فرشتے اتریں گے (موت کے وقت اور قیامت میں یہ کہتے ہوئے) کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنج کرو اور خوشخبری لو اس جنّت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اور آخرت میں تمہارے لئے جس چیز کو تمہارا دِل چاہے، وہ موجود ہے۔ اور وہاں جو تم مانگو گے وہ ملے گا (اور یہ سب اِنعام واِکرام) بطورِ مہمانی کے ہے اللہ جَلَّ شانُہٗ کی طرف سے (کہ تم اس کے مہمان ہو گے اور مہمان کا اِکرام کیا جاتا ہے)۔

ف: حضرت اِبنِ عبّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوْا﴾ کے معنی یہ ہیں کہ پھر ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کے اقرار پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت مُجاہد رحمۃ اللہ علیہما سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ پھر ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ پر مرنے تک قائم رہے، شِرک وغیرہ میں مُبتلا نہیں ہوئے۔

(۱۴) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ٥ (حٰم سجدہ: ۳۳، ع: ۵)

بات کی عمدگی کے لحاظ سے کون شخص اس سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

---

① ایضاً

ف: حضرت حَسَن کہتے ہیں کہ ﴿دَعَا اِلَى اللّٰهِ﴾ سے مؤذِّن کا ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' کہنا مُراد ہے۔ عاصم بن ہُبَیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تو اذان سے فارغ ہو تو ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ'' کہا کر۔

(۱۵) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا (الفتح: ۲۶، ع: ۳)

پس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ (سکون تحمل یا خاص رحمت) اپنے رسول پر نازل فرمائی اور مؤمنین پر اور ان کو تقویٰ کے کلمہ پر (تقویٰ کی بات پر) جمائے رکھا اور وہی اس تقویٰ کے کلمہ کے مستَحق تھے اور اہل تھے۔

ف: تقویٰ کے کلمہ سے مُراد اکثر رِوایات میں یہی وارِد ہوا ہے کہ کلمہ طیّبہ ہے، چنانچہ حضرت اَبُوہُرَیرہ و حضرت سَلمہ رضی اللہ عنہما نے حُضورِ اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ اس سے مُراد لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے ❶ اور حضرت اُبَی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت اِبنِ عبّاس رضی اللہ عنہما، حضرت اِبنِ عُمر رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا گیا ہے ❷۔ عطاء خُراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پورا کلمہ ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ'' نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَللّٰهُ اَكْبَرُ'' بھی نقل کیا گیا ہے۔ تِرمذِی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بَراء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مُراد ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' ہے ❸۔

(۱۶) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ (الرحمن: ۶۰، ع: ۳)

بھلا اِحسان کا بدلہ اِحسان کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ سو اے (جِنّ و اِنس!) تم اپنے رَبّ کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

ف: حضرت اِبنِ عَبّاس رضی اللہ عنہما حُضورِ اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آیتِ شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص پر میں نے دنیا میں ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ'' کہنے کا اِنعام کیا، بھلا آخرت

---

❶ الاسماء والصفات، ۱۹۵

❷ ترمذی، و من سورۃ الفتح، ۳۲۶۵

❸ ایضاً

میں جنَّت کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے ①؟ حضرت عِکرِمہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے بھی یہی منقول ہے کہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہنے کا بدلہ جنَّت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ②؟ حضرت حَسَن رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔

(۱۷) قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَكّٰى (الأعلى: ۱۴، ع: ۱)   فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا (یا کی حاصل کی)۔

ف: حضرت جابر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سے نقل کرتے ہیں کہ تَزَكّٰى سے مُراد یہ ہے کہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ" کی گواہی دے اور بتّوں کو خیر باد کہے ③۔ حضرت عِکرِمہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کہتے ہیں کہ ﴿تَزَكّٰى﴾ کے معنی یہ ہیں کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھے ④۔ یہی حضرت اِبنِ عَبَّاس رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا سے بھی نقل کیا گیا ہے ⑤۔

(۱۸) فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰىۙ وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰىۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰىؕ (اللیل: ۵، ع: ۱)   پس جس شخص نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو آسان کر دیں گے ہم اس کو آسانی کی چیز کے لئے۔

ف: آسانی کی چیز سے جنَّت مُراد ہے کہ ہر قسم کی راحت اور سہولتیں وہاں میسر ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ایسے اَعمال کی توفیق اس کو دیں گے جس سے وہ اَعمال سہولت سے ہونے لگیں گے، جو جنَّت میں جلد پہنچا دینے والے ہوں۔ اکثر مُفَسِّرین سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت اَبُو بکر صِدّیق رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت اِبنِ عَبَّاس رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا سے منقول ہے کہ اچھی بات کی تصدیق سے "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کی تصدیق مُراد ہے ⑥۔ حضرت اَبُو عبدِ الرَّحمن سُلمی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اچھی بات سے "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" مراد ہے۔ حضرت امام اعظم نے بَروایتِ اَبُو الزُّبیر رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ، حضرت جابر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے نقل کیا ہے کہ حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ﴿صَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰى﴾ پڑھا اور اِرشاد فرمایا کہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کی تصدیق کرے اور ﴿كَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰى﴾ پڑھا اور اِرشاد فرمایا کہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کی تکذیب

---

① شعب الایمان، معانی المحبۃ، ۴۲۵
② الدر المنثور، الرحمٰن
③ کشف الاستار، سورۃ الفجر، ۲۲۸۴
④ حلیۃ الاولیاء، ۳/ ۳۳۳
⑤ الاسماء والصفات، ۲۰۵
⑥ تفسیر طبری، اللیل

کرے۔

(۱۹) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ (الإنعام: ۱۶۰، ع: ۲۰)

جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (کم سے کم) دس حصے ثواب کے ملیں گے اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہو گا (کہ کوئی نیکی درج نہ کی جائے یا بدی کو بڑھا کر لکھ دیا جائے)۔

ف: ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آیتِ شریفہ ﴿مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ نازل ہوئی تو کسی شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" بھی حَسَنَہ (نیکی) میں داخل ہے؟ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے❶۔ حضرت عبد اللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿حَسَنَہ﴾ سے "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" مُراد ہے❷۔ حضرت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ غالباً حُضور اقدس ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ ﴿حَسَنَہ﴾ سے "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" مراد ہے❸۔ حضرت اَبُوذر رضی اللہ عنہ نے حُضور ﷺ سے نقل کیا ہے کہ "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" تو ساری نیکیوں میں افضل ہے❹، جیسا کہ آیت نمبر ۸ کی ذیل میں گزر چکا ہے۔ حضرت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دس گنا ثواب عوام کیلئے ہے، مُہَاجِرِیْن کیلئے سات سو گنا تک ثواب ہو جاتا ہے❺۔

(۲۰) حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ (المؤمن: ۱، ع: ۱)

یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت (یا عطا) والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی کے پاس لوٹ کر جانا

---

❶ تفسیر طبری، الانعام:۱۶
❷ ایضاً
❸ امالی المحاملی، ۴۵۸
❹ الدعاء للطبرانی، ۱۴۹۸
❺ تفسیر ابن ابی حاتم، الانعام

ہے۔

ف: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس آیتِ شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ گناہ کی مغفِرت کرنے والا ہے اس شخص کے لئے جو "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اس شخص کی جو "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہے۔ سخت عذاب والا ہے اس شخص کیلئے جو "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" نہ کہے۔ ﴿ذِی الطَّوْلِ﴾ کے معنی غِنا والا ہے۔ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" رد ہے کُفّار قریش پر جو توحید کے قائل نہ تھے اور ﴿اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ﴾ کے معنی اسی کی طرف لَوٹنا ہے۔ اس شخص کا جو "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہے، تاکہ اس کو جنّت میں داخل کرے۔ اور اسی کی طرف لَوٹنا ہے اس شخص کا جو "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" نہ کہے، تاکہ اس کو جہنّم میں داخل کرے ❶۔

(۲۱) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا (البقرة: ۲۵۶، ع: ۳۴)

پس جو شخص شیطان سے بداِعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش عقیدہ ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں۔

ف: حضرت اِبنِ عبّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عُروۃِ الوُثقیٰ (مضبوط حلقہ) پکڑ لیا یعنی "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ﴿عُرْوَةِ الْوُثْقٰى﴾ سے مُراد کلمۂ اِخلاص ہے۔

---

❶ المعجم الاوسط، من اسمہ محمد، ۹۴۸۱

تکمیل

قُلْتُ: وَقَدْ وَرَدَ فِيْ تَفْسِيْرِ اٰيَاتٍ اُخَرَ عَدِيْدَةٍ اَيْضًا اَنَّ الْمُرَادَ بِبَعْضِ الْاَلْفَاظِ فِيْ هٰذِهِ الاٰيَاتِ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ۔ فَقَدْ قَالَ الرَّاغِبُ فِىْ قَوْلِهٖ فِىْ قِصَّةِ زَكَرِيَّا "مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ" قِيْلَ: كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ۔ وَكَذَا قَالَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: "اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ" الاية۔ قِيْلَ: هِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ۔ وَاقْتَصَرْتُ عَلٰى مَا مَرَّ لِلْاِخْتِصَارِ۔

فصلِ دوم

میں ان آیات کا ذِکر ہے جن میں کلمۂ طیّبہ کا ذِکر کیا گیا ہے۔ اکثر جگہ پورا کلمہ مذکور ہے اور کہیں مُختصر اور کہیں دوسرے الفاظ میں بِعَیْنِہٖ کلمۂ طیّبہ کے معنی مذکور ہیں کہ کلمۂ طیّبہ (لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ) کے معنی ہیں کوئی معبود نہیں ہے اللہ پاک کے سوا۔ یہی معنی ﴿مَا مِنْ اِلٰہٍ﴾ غیرہ کے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا یہی معنی "لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ" کے ہیں اور یہی معنی قریب قریب ہیں "لَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰہَ" کے (نہیں عبادت کرتے ہم اللہ کے سوا کسی کی) اور یہی معنی ہیں "لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِیَّاہُ" کے کہ نہیں عبادت کرتے ہیں ہم اس کے سوا کسی کی۔ اسی طرح ﴿اِنَّمَا ھُوَ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ﴾ کے معنی ہیں "اس کے سوا نہیں کہ معبود وہی ایک ہے"۔ اسی طرح اور آیات بھی ہیں جن کا مفہوم کلمۂ طیّبہ ہی کے ہم معنی ہے۔ ان آیات کی سورتوں اور رکوعوں کا حوالہ اس لئے لکھا جاتا ہے کہ پوری آیت کا ترجمہ کوئی دیکھنا چاہے، تو مُتَرجَم قرآن شریف کو سامنے رکھ کر حوالوں سے دیکھتا رہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ سارا ہی کلام مجید کلمہ طیّبہ کا مفہوم ہے کہ اصل مقصد تمام قرآن شریف کا اور تمام دین کا توحید ہی ہے۔ توحید ہی کی تعلیم کے لئے مُختلف زمانوں میں مُختلف اَنْبِیاء عَلَیْھِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام مبعوث ہوئے۔ توحید ہی سب مذاہب میں مشترک رہی ہے اور توحید کے اثبات کے لئے مُختلف عنوانات اختیار فرمائے گئے ہیں اور یہی مفہوم کلمہ طیّبہ کا ہے۔

(۱) وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (البقرہ، رکوع: ۱۹) (۲) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ (البقرہ، رکوع: ۳۴) (۳) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ (آل عمران،

رکوع: ۱) (۴) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ (آل عمران، رکوع: ۲)
(۵) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (آل عمران، رکوع: ۲) (۶) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (آل عمران، رکوع: ۸) (۷) تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا
نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ (آل عمران، رکوع: ۷) (۸) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
(النساء، رکوع: ۱۱) (۹) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (المائدہ، رکوع: ۱۰) (۱۰) قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ (الإنعام، رکوع: ۲) (۱۱) مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ (الإنعام، رکوع: ۵) (۱۲) ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الإنعام، رکوع: ۱۳) (۱۳) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ
(الإنعام، رکوع: ۱۳) (۱۴) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا (الأعراف، رکوع: ۱۶) (۱۵) لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ (الأعراف، رکوع: ۲۰) (۱۶) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ (التوبہ، رکوع: ۵) (۱۷) حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ (التوبہ، رکوع: ۱۶) (۱۸) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ (یونس، رکوع: ۱) (۱۹)
فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (یونس، رکوع: ۴) (۲۰) قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ
بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (یونس، رکوع: ۹) (۲۱) فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (یونس، رکوع: ۱۱) (۲۲) فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
(هود، رکوع: ۲) (۲۳) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ (هود، رکوع: ۳) (۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶) قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (هود، رکوع: ۵، ۶، ۷) (۲۷) ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ
اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف، رکوع: ۵) (۲۸) اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ (یوسف، رکوع: ۵)
(۲۹) قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الرعد، رکوع: ۴) (۳۰) وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (إبراهيم،
رکوع: ۷) (۳۱) اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ (النحل، رکوع: ۱) (۳۲) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (النحل،
رکوع: ۳) (۳۳) اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (النحل، رکوع: ۷) (۳۴) وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (بنی
اسرائیل، رکوع: ۴) (۳۵) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ (بنی اسرائیل، رکوع: ۵) (۳۶)
فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا (الكهف، رکوع: ۲) (۳۷)
هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً (الكهف، رکوع: ۲) (۳۸) يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ

وَّاحِدٌ (الکھف، رکوع: ۱۲) (۳۹) وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ (مریم، رکوع: ۲) (۴۰) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (طٰهٰ، رکوع: ۱) (۴۱) اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ (طٰهٰ، رکوع: ۱) (۴۲) اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (طٰهٰ، رکوع: ۵) (۴۳) لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (الأنبیاء، رکوع: ۲) (۴۴) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً (الأنبیاء، رکوع: ۲) (۴۵) اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ (الأنبیاء، رکوع: ۲) (۴٦) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا (الأنبیاء، رکوع: ۴) (۴۷) اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ (الأنبیاء، رکوع: ۵) (۴۸) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ (الأنبیاء، رکوع: ٦) (۴۹) اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (الأنبیاء، رکوع: ۷) (۵۰) فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا (الحج، رکوع: ۵) (۵۱۔ ۵۲) اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (المؤمنون، رکوع: ۲) (۵۳) وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ (المؤمنون، رکوع: ۵) (۵۴) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (المؤمنون، رکوع: ٦) (۵۵) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ (المؤمنون، رکوع: ٦) (۵٦) ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ (پانچ مرتبہ النمل، رکوع: ۵ میں وارد ہے) (۵۷) وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، لَهُ الْحَمْدُ (القصص، رکوع: ۷) (۵۸) مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ (القصص، رکوع: ۷) (۵۹) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (القصص، رکوع: ۹) (٦٠) وَاِلٰهُنَا اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ (العنکبوت، رکوع: ۵) (٦١) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (الفاطر، رکوع: ۱) (٦٢) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (الصّٰفّٰت، رکوع: ۱) (٦٣) اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ (الصّٰفّٰت، رکوع: ۲) (٦۴) اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا (صٓ، رکوع: ۱) (٦۵) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (صٓ، رکوع: ۵) (٦٦) هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزمر، رکوع: ۱) (٦۷) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الزمر، رکوع: ۱) (٦٨) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (المؤمن، رکوع: ۱) (٦٩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (المؤمن، رکوع: ۷) (۷۰) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ (المؤمن، رکوع: ۷) (۷۱) يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (حم سجدہ، رکوع: ۱) (۷۲) اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ (حم سجدہ، رکوع: ۲) (۷۳) اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ (الشوریٰ، رکوع: ۲) (۷۴) اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ (الزخرف، رکوع: ۴)

(۷۵) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (الدخان، رکوع: ۱) (۷۶) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ (الدخان، رکوع: ۱) (۷۷) اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ (الاحقاف، رکوع: ۳) (۷۸) فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (محمد، رکوع: ۲) (۷۹) وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (الذّٰریت، رکوع: ۳) (۸۰) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الحشر، رکوع: ۳) (۸۱) اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (الممتحنہ، رکوع: ۱) (۸۲) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (التغابن، رکوع: ۲) (۸۳) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (المزّمل، رکوع: ۱) (۸۴) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (الکافرون) (۸۵) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (الإخلاص)

یہ پچاسی آیات ہیں جن میں کلمۂ طیّبہ یا اس کا مضمون وَارِد ہوا ہے۔ ان کے عِلاوہ اور بھی آیات بکثرت ہیں جن میں اس کا معنی اور مفہوم وَارِد ہوا ہے اور جیسا میں اس فصل کے شروع میں لکھ چکا ہوں، توحید ہی اصل دین ہے۔ اس لئے جتنا اس میں اِنہماک اور شَغَف ہو گا دین میں پختگی پیدا ہو گی۔ اسی لئے اس مضمون کو مُختلِف عبارات میں مُختلِف طریقوں سے ذِکر فرمایا ہے کہ دِل کی گہرائیوں میں اُتر جائے اور اندرونِ دِل میں پُختہ ہو جائے اور دِل میں اللہ کے مَاسِوا کوئی جگہ باقی نہ رہے۔

فصلِ سوم

میں ان احادیث کا ذِکر ہے جن میں کلمہ طیّبہ کی ترغیب و فضائل ذِکر فرمائے گئے ہیں۔ اس مضمون میں جب آیات اتنی کثرت سے ذِکر فرمائی ہیں تو اَحادیث کا کیا پوچھنا، سب کا اِحاطہ ناممکن ہے، اس لئے چند اَحادیث بطورِ نمونہ کے ذِکر کی جاتی ہیں۔

(۱) عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَآءِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ ہے۔

(حسن)

كذا في المشكوٰة، كتاب الدعوات: ۲۳۰۶، (۲/۲۰)۔ **برواية الترمذي،** اَبُواب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة: ۳۳۸۳، (۲۶۸/۷)۔ **وابن ماجه،** كتاب الأدب، باب فضل الحامدين: ۳۸۰۰، (۲۴۷/۴)۔ **وقال المنذري** في الترغيب، كتاب الذكر: ۲۳۵۰، (۲۶۷/۲)۔ **رواه ابن ماجه والنسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب فضل أفضل الذكر: ۱۰۵۹۹، (۳۰۶/۹)۔ **وابن حبان في صحيحه، والحاكم كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه،** والحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء والتكبير:

١٨٣٤، (١/٦٧٦)۔ وقال الحاكم: صحيح الإسناد۔ قلت: (أي: المؤلف) رواه الحاكم بسندين أيضا: ١٨٥٢، (١/٦٨١)۔ وصححهما وأقره عليهما الذهبي، وكذا رقم له بالصحة السُيُوطي في الجامع، باب حرف الألف: ١٢٥٣، (١/٩٦)۔

ف: ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کا اَفْضَلُ الذِّکر تو ہونا ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وَارِد ہوا ہے۔ نیز سارے دِین کا مَدار ہی کلمۂ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردُّد ہے؟ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کو اَفْضَلُ الدُّعا اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ کریم کی ثَناء کا مطلب سُوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔

حضرت اِبنِ عَبَّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ پڑھے، اس کے بعد اس کو ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ بھی کہنا چاہیے اس لئے کہ قرآنِ پاک میں ﴿فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ کے بعد ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (سورة الإنعام) وَارِد ہے①۔ مُلَّا عَلِی قاریؒ فرماتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑھا ہوا ذِکر کلمہ طیّبہ ہے کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکّی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صُوفیہ اور عارِفین اسی کلمہ کا اِہتمام فرماتے ہیں اور سارے اَذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی جتنی ممکن ہو، کثرت کراتے ہیں کہ تَجرِبہ سے اس میں جس قدر فوائد اور مُنافِع معلوم ہوئے ہیں، کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سیّد علی بن مَیمُون رحمۃ اللہ علیہ مغربی کا قصّہ مشہور ہے کہ جب شیخ عُلوان حَمَوِیؒ جو ایک مُتَبحِّر عالم اور مفتی اور مدرِّس تھے سیّد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیّد صاحب کی ان پر خُصوصی توجُّہ ہوتی تو ان کو سارے مَشاغِل، درس، تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذِکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اِعتِراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے مَنافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سیّد صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ شریف کی تِلاوت کرتے ہیں۔ سیّد صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، سیّد صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذِکر کا اثر ہو گیا اور دِل رنگ گیا، تو سیّد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تِلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر ہر لفظ پر

---

① مستدرک حاکم، تفسیر سورہ حم، ٣٦٣٩

وہ وہ عُلوم و مُعارف کُھلے کہ پوچھنا ہی کیا ہے۔ سیّد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خدانخواستہ تِلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔

چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ اس لئے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہو گی، ایمان کا مَدار اسی کلمہ پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مَدار اسی کلمہ پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وَارِد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہنے والا کوئی زمین پر ہو❶۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو، قیامت نہیں ہو گی❷۔

(۲) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ قَالَ: قَالَ مُوْسٰى علیہ السلام يَارَبِّ، عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهٖ، وَأَدْعُوْكَ بِهٖ۔ قَالَ: قُلْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ۔ قَالَ: يَارَبِّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا۔ قَالَ: قُلْ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِيْ بِهٖ، قَالَ يَا مُوْسٰى لَوْ أَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعَ فِيْ كَفَّةٍ، وَّلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِيْ كَفَّةٍ، مَّالَتْ بِهِمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیٰ نَبِیِّنَا وعَلَیہِ الصلوٰۃُ وَالسَّلام نے اللہ جَلَّ جلالُہٗ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وِرد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اِرشاد خداوندی ہوا کہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا: اے پروردگار! یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ اِرشاد ہوا کہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کہا کرو۔ عرض کیا: میرے رَبّ! میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ اِرشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کو رکھ دیا جائے تو "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" والا پلڑا جھک جائے گا۔

(ض)

رواه النسائي في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة،: ۱۰۹۸۰، (۹/۴۹)۔ **وابن حبان**، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق: ۶۲۱۸، (۱۴/۱۰۲)۔ **والحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير: ۱۹۳۶، (۱/۶۸۰)۔ **كلهم من طريق دراج، عن أبي الهيثم عنه۔ وقال الحاكم: صحيح الإسناد۔ كذافي الترغيب**، كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لا اله الا الله، رقم الحديث: ۲۲۱۴، (۲/۲۲۴)۔ **قلت: قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه "وأقره عَلَيْهِ الذهبي" وأخرج في المشكوٰة، برواية شرح السنة**، باب فضل تلاوة القرآن،: ۱۲۷۳، (۵/۵۴)۔ **نحوه۔ زاد في مُنْتَخِب الكنز**، الباب الأول في فضيلة الذكر، (۱/۳۳۲)۔ **ابا يعلى**، في مُسْنَد أبي سعيد الخدرى: ۱۳۹۳، (۲/۵۲۸)۔ والحكيم في النوادر، في الاصل السادس والخمسون والماتان: ۱۳۶۳۰، (۱۰۵۰)۔ وابا نعيم في الحلية، عبدالله بن وهب، (۸/۳۲۸)۔ والبيهقي في الاسماء،

---

❶ مسند احمد، مسند انس بن مالک ۱۳۸۳۳

❷ ترمذی، ابواب الفتن، ۲۲۰۷

باب بیان ان للہ اسماء اخری: ۱۸۵، (۱/۲۵۲)۔ وسعید بن منصور في سننه، وفي مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما جاء في فضل الله: ۱۶۸۰۲، (۱۰/۸۸)۔ رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا فيهم ضعف۔

ف: اللہ جَلَّ جَلالُہٗ عم نوالُہ کی عادتِ شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام عطا کی جاتی ہے۔ ضروریات دُنیویہ ہی میں دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا، کیسی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ جَلَّ شانُہٗ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے، البتّہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اِخلاص کا ہے، جس قدر اِخلاص سے کام کیا جائے گا اتنا ہی وزنی ہو گا اور جس قدر اِخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہلکا ہو گا۔ اِخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی جس قدر مُفید اس کلمہ کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمہ کا نام جِلاء القُلُوب (دلوں کی صفائی) ہے۔ اسی وجہ سے حضراتِ صُوفیہ اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔

مُلّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مُرِید نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں ذِکر کرتا ہوں، مگر دِل غافل رہتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ذِکر برابر کرتے رہو اور اس پر اللہ کا شُکر کرتے رہو کہ اس نے ایک عُضو یعنی زبان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ سے دِل کی توجُّہ کے لئے دُعا کرتے رہو۔ اس قسم کا واقعہ ''اِحیاء العُلُوم'' میں بھی اَبُو عثمان مغربیؒ کے متعلِّق نقل کیا گیا کہ ان سے کسی مُرِید نے شکایت کی تھی، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ در حقیقت بہترین نسخہ ہے۔ حق تعالیٰ شانُہٗ کا کلامِ پاک میں اِرشاد ہے کہ اگر تم شُکر کرو گے تو میں اِضافہ کروں گا۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ اللہ کا ذِکر اس کی بڑی نعمت ہے، اس کا شُکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ذِکر کی توفیق عطا فرمائی ①۔

(۳) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَّا يَسْئَلَنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلَ

حضرت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شَفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے ولا قیامت کے دن کون شخص ہو گا؟ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ مجھے

---

① الغرائب الملتقط، ۱۶۵۷

مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ أَوْ نَفْسِهٖ۔

(صحیح)

رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحض على الحديث: ۹۹، (۴۹/۱)۔ **وقد** أخرجه **الحاكم بمعناه**، كتاب الإيمان: ۲۳۳، (۱۴۱/۱) واقر عَلَيْهِ الذهبي۔ **وذكر صاحب بهجة النفوس في الحديث اربعا وثلثين بحثا۔**

اَحادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھے گا۔ (پھر حضور ﷺ نے سوال کا جواب اِرشاد فرمایا) کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شَفاعت کے ساتھ وہ شخص ہو گا جو دِل کے خلوص کے ساتھ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ کہے۔

ف: سعادت کہتے ہیں کہ آدمی کو خیر کی طرف پہنچانے کے لئے توفیقِ الٰہی کے شاملِ حال ہونے کو۔ اب اِخلاص سے کلمہ طیّبہ پڑھنے والے کا سب سے زیادہ مستحقِ شَفاعت ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک تو یہ کہ اس حدیث سے وہ شخص مُراد ہے جو اِخلاص سے مسلمان ہو اور کوئی نیک عمل بجز کلمۂ طیّبہ پڑھنے کے اس کے پاس نہ ہو، اس صورت میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سعادت اس کو شَفاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، اس مطلب کے مُوافِق یہ حدیث ان اَحادیث کے قریب قریب ہو گی، جن میں اِرشاد ہے کہ میری شَفاعت میری اُمّت کے کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے ❶ کہ وہ اپنے اَعمال کی وجہ سے جہنّم میں ڈالے جائیں گے، لیکن کلمۂ طیّبہ کی برکت سے حُضور ﷺ کی شَفاعت ان کو نصیب ہو گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے مِصداق وہ لوگ ہیں جو اِخلاص سے اس کلمہ کا وِرد رکھیں اور نیک اَعمال ہوں۔ ان کے سب سے زیادہ سعادت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نفع حُضور ﷺ کی شَفاعت سے ان کو پہنچے گا کہ ترقّیٔ دَرَجات کا سبب بنے گی۔

علّامہ عَینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حُضورِ اَقدس ﷺ کی شَفاعت قیامت کے دن چھ طریقہ سے ہو گی: اوّل میدانِ حشر کی قید سے خَلاصی ہو گی، کہ حشر میں ساری مخلوق طرح طرح کے مَصائِب میں مُبتلا پریشان حال یہ کہتی ہوئی ہو گی کہ ہم کو جہنّم ہی میں ڈال دیا جائے، مگر ان مَصائِب سے تو خَلاصی ہو۔ اس وقت جلیلُ القدر انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام کی خدمت

---

❶ ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، ۲۴۳۵

میں یکے بعد دیگرے حاضری ہو گی کہ آپ ہی اللہ کے یہاں سفارش فرمائیں، مگر کسی کو جرأت نہ ہو گی کہ سفارش فرما سکیں۔ بِالآخِر حضور ﷺ شَفاعت فرمائیں گے اور شَفاعت تمام عالم، تمام مخلوق جِنّ واِنس، مسلم و کافر سب کے حق میں ہو گی اور سب ہی اس سے مُنتَفِع ہوں گے۔ احادیثِ قیامت میں اس کا مُفَصَّل قصّہ مذکور ہے۔ دوسری شَفاعت بعض کُفّار کے حق میں تخفیفِ عذاب کی ہو گی، جیسا اَبُو طالب کے بارے میں صحیح حدیث میں وَارِد ہوا ہے ❶۔ تیسری شَفاعت بعض مومنوں کو جہنّم سے نکالنے کے بارے میں ہو گی جو اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ چوتھی شَفاعت بعض مُؤمن جو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنّم میں داخل ہونے کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کی جہنّم سے معافی اور جہنّم میں نہ داخل ہونے کے بارے میں ہو گی۔ پانچویں شَفاعت بعض مؤمنین کے بغیر حساب کتاب جَنَّت میں داخل ہونے میں ہو گی۔ اور چھٹی شَفاعت مؤمنین کے دَرَجات بلند ہونے میں ہو گی ❷۔

(۴) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ قِيْلَ: وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَحْجِزَهٗ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ۔

(ض جدا)

رواه **الطبراني في الأوسط**، باب الألف من اسمه أحمد: ۱۲۳۵، (۵٦/۲)۔ **والكبير**، باب الزاء، زَيد بن ارقم، :۵۰۷، (۱۲۷۵/۴)۔

حضرت زَید بن ارقم رضی اللہ عنہ حُضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں جو شخص اِخلاص کے ساتھ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کہے، وہ جَنَّت میں داخل ہو گا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اِخلاص (کی علامت) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔

ف: اور یہ ظاہر ہے کہ جب حرام کاموں سے رُک جائے گا اور "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کا قائل ہو گا تو اس کے سیدھا جَنَّت میں جانے میں کیا تردُّد ہے، لیکن اگر حرام کاموں سے بھی نہ رکے، تب بھی اس کلمہ پاک کی یہ برکت تو بلا تردُّد ہے کہ اپنی بداعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جَنَّت میں ضرور داخل ہو گا، البتّہ اگر خدانخواستہ بداعمالیوں کی بدولت اسلام و ایمان ہی سے محروم ہو جائے، تو دوسری بات ہے۔

حضرت فقیہ اَبُو اللّیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ "تَنبِیہ الغافلین" میں لکھتے ہیں: ہر شخص کے

---

❶ بخاری، کتاب الرقاق، ٦۵٦۴

❷ عمدۃ القاری، باب الحرص علی الحدیث 2/ ۱۲۷

لئے ضروری ہے کہ کثرت سے "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" پڑھتا رہا کرے اور حق تعالیٰ شانہٗ سے ایمان کے باقی رہنے کی دُعا بھی کرتا رہے اور اپنے کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو، مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو، یہ حقیقی حسرت اور کمالِ حسرت ہے۔ اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گرجا یا بُت خانہ میں ہمیشہ رہا ہو اور وہ کافروں کی فہرست میں آخر میں شمار کیا جائے۔ افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہا ہو اور کافروں میں شمار ہو جائے اور یہ بات گناہوں کی کثرت اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مُبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا ہے، مگر دِل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحبِ حق سے مُعاف کرالوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے قبل آجاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی اس سے ہمبستری کرتے ہیں اور اسی حالت میں موت آجاتی ہے کہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی حالات میں آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ "أَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ"۔

حدیث کی کتابوں میں ایک قصّہ لکھا ہے کہ حُضور ﷺ کے زمانہ میں ایک نوجوان کا اِنتقال ہونے لگا۔ حُضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ حُضور ﷺ تشریف لے گئے اور اس سے دریافت فرمایا: کیا بات ہے: عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک قُفل سا دِل پر لگا ہوا ہے۔ تحقیقِ حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے۔ حُضور ﷺ نے ماں کو بُلایا اور دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر اس تمہارے لڑکے کو اس میں ڈالنے لگے، تو تم سفارش کروگی؟ اس نے عرض کیا: ہاں حُضور! کروں گی۔ تو حُضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسا ہے تو اس کا قصور مُعاف کر دے، انہوں نے سب مُعاف کر دیا۔ پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو

فورًا پڑھ لیا۔ حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اللہ کا شُکر ادا کیا کہ حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی ❶۔

اس قسم کے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مُبتلا رہتے ہیں، جن کی نحوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ صاحب احیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے خطبہ پڑھا جس میں اِرشاد فرمایا کہ جو شخص "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" اس طرح سے کہے کہ خلط ملط نہ ہو، تو اس کے لئے جَنَّت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ نے عرض کیا کہ حُضور! اس کو واضح فرمادیں خلط ملط کا کیا مطلب ہے؟ اِرشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور اس کی طلب میں لگ جانا ❷۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انبیاءؑ کی سی باتیں کرتے ہیں اور مُتکبِّر اور جابر لوگوں کے سے عمل کرتے ہیں، اگر کوئی اس کلمہ کو اس طرح کہے کہ یہ کام نہ کرتا ہو، تو جَنَّت اس کے لئے واجب ہے۔

(۵) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ **قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ** صلی اللہ علیہ وسلم **مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ أَبْوَابُ السَّمَآءِ حَتّٰى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرَ.**

(حسن)

حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کہے اور اس کیلئے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشر طیکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔

رواه الترمذي، أبواب الدعوات، باب الدعاء ابن سلمة: ۳۵۹۰، ص: ۸۱۶۔ **وقال: حديث حسن غريب۔ كذا في الترغيب،** كتاب الذكر، رقم الحديث: ۲۱۲۲، (۲۲۴۲)۔ **وهٰكذا في المشكوٰة،** كتاب الدعوات، باب التسبيح،: ۲۳۱۴، (۲/۲۱)۔ **لكن ليس فيها حسن، بل غريب فقط۔ قال القارى في المرقات،** كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح، (۱۴۷/۸)۔ **ورواه النسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب أفضل الذكر: ۱۰۶۰۱، (۳۰۷/۹)۔ **وابن حبان،** كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان: ۲۰۰، ص (۴۲۹)۔ **وعزاه السُيُوطي في الجامع،** باب حرف الميم،: ۷۹۹۵، (۲۷۵/۲)۔ **إلى الترمذي، ورقم له بالحسن۔ وحكاه السُيُوطي في الدر** تحت الآية: ۱۹، من سورة محمد۔ **من طريق ابن مردوية، عن أبي هريرة، وليس فيه "ما اجتنب الكبائر"۔ والجامع الصغير،** حرف اللام،: ۷۳۲۱، (۲۲۸/۲)۔ **برواية الطبراني** في الكبير: ۴۹۷، (۲۱۵/۲۰)۔ **عن معقل بن يسار، "لكل شيئ مفتاح، ومفتاح السمٰوٰت قول لا اله الا اللّٰه"۔ ورقم له بالضعف۔**

ف: کتنی بڑی فضیلت ہے اور قبولیت کی انتہاء ہے کہ یہ کلمہ براہِ راست عرشِ مُعَلّٰی تک پہنچتا ہے اور یہ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے، تو نفع سے اس وقت بھی خالی نہیں۔

---

❶ مجمع الزوائد، کتاب البر والصلۃ، ۱۳۴۳۳

❷ نوادر الاصول، ۱۷/۳

مُلّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کَبائر سے بچنے کی شرط قبول کی جلدی اور آسمان کے سب دروازے کھلنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ ثواب اور قبول سے کَبائر کے ساتھ بھی خالی نہیں۔ بعض عُلماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے واسطے مرنے کے بعد اس کی روح کے اِعزاز میں آسمان کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے: دو کلمے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے لئے عرش سے نیچے کوئی مُنْتَہا نہیں۔ دوسرا آسمان اور زمین کو (اپنے نور یا اپنے اجر سے) بھر دے۔ ایک لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دوسرا اللّٰہُ اکبر ❶۔

(۶) عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ شَدَّادُ بْنِ أَوْسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ حَاضِرٌ يُّصَدِّقُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ، يَعْنِيْ أَهْلَ الْكِتَابِ؟ قُلْنَا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْأَبْوَابِ، وَقَالَ: ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ وَقُوْلُوْا لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، أَللّٰهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِيْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ، وَوَعَدْتَّنِيْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرُوْا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ۔

حضرت شَدّاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت عُبادۃ رضی اللہ عنہ اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا: کہ کوئی نہیں۔ اِرشاد فرمایا: کواڑ بند کر دو اس کے بعد اِرشاد فرمایا: ہاتھ اٹھاؤ اور کہو "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور (کلمہ طیّبہ پڑھا) پھر فرمایا "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" اے اللہ! تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ پر جنَّت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مَغْفِرت فرمادی۔

(ض)

رواه أحمد في مسنده، مسندالشاميين، : ۱۷۱۲۱، (۳۴۸/۲۸)۔ **بإسناد حسن، والطبراني** في الكبير، باب الشين، : ۱۷۱۶۳، (۲۸۹/۷)۔ **وغيرهما۔ كذا في الترغيب**، كتاب الذكر، باب في قول لااله الاالله: ۲۲۱۶، (۶۲۵/۲)۔ **قلت:** وأخرجه **الحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير: ۱۸۴۴، (۶۰/۱)۔ **وقال: اسماعيل بن عياش احد ائمة اهل الشام، وقد نسب إلى،**

---

❶ المعجم الكبير، عبد الرحمن بن ابی عمرہ، ۳۳۴

سوء الحفظ، وانا علی شرطی فی امثالہ۔ وقال الذهبي: راشد ضعفه الدارقطني، ميزان الاعتدال، ۲۷، (۳۵/۲)۔ **وغيره، ووثقه رحيم۔ وفي مجمع الزوائد**، كتاب الإيمان، باب في من شهد، :۲۳، (۱۶۴/۱)۔ **رواه أحمد والطبراني والبزار**، في مُسْنَد عبادة بن الصامت، :۲۷۱۷، (۱۵۶/۷)۔ **ورجال موثقون اھ۔**

ف: غالباً اجنبی کو اسی لئے دریافت فرمایا تھا اور اسی لئے کواڑ بند کرائے تھے کہ ان لوگوں کے کلمۂ طیّبہ پڑھنے پر تو حُضور اَقدس ﷺ کو مَغفِرت کی بشارت کی اُمید ہو گی، اوروں کے متعلّق یہ اُمید نہ ہو۔ صُوفیہ نے اس حدیث سے مشائخ کا اپنے مُرِیدین کی جماعت کو ذِکر تلقین کرنے پر استِدلال کیا ہے۔ چنانچہ جَامِع الاُصُول میں لکھا ہے: حُضور ﷺ کا صَحابہ رضی اللہ عنہم کو جماعةً اور مُنفرِداً ذِکر تلقین کرنا ثابت ہے۔ جماعت کو تلقین کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ اس صورت میں کواڑوں کا بند کرنا مُستَفِیدین کی توجُّہ کے تام کرنے کی غرض سے ہو اور اسی وجہ سے اجنبی کو دریافت فرمایا کہ غیر کا مجمع میں ہونا حُضور ﷺ پر تشتّت کا سبب اگرچہ نہ ہو، لیکن مُستَفِیدین کے تشتّت کا اِحتمال تو تھا ہی۔

چہ خوش است باتو بزمے بنہفتہ ساز کردن
درخانہ بند کردن سر شیشہ باز کردن

(کیسی مزے کی چیز ہے تیری ساتھ خفیہ ساز کر لینا، گھر کا دروازہ بند کر لینا اور بوتل کا منہ کھول دینا)۔

(۷) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ۔ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ۔

(ض)

حُضور اَقدس ﷺ نے اِرشاد فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسولَ اللہ! ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ اِرشاد فرمایا کہ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔

رواه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، : ۸۷۱۰، (۳۲۸/۱۴)۔ **والطبراني، وإسناد حسن۔ كذا في الترغيب**، كتاب الذكر: ۲۲۱۷، (۲۲۵/۲)۔ **قلت:** (أي: المؤلف) **ورواه الحاكم في صحيحه**، كتاب التوبة والانابة: ۷۶۵۷، (۲۸۵/۴)۔ **وقال: صحيح الإسناد۔ وقال الذهبي**، ميزان الاعتدال، (۳۱۲/۲) **صدقة (الراوى) ضعفوه۔ قلت: هو من رواة أبي داود والترمذي، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، وقال في التقريب**، (۴۵۲/۱) **صدوق له اوهام۔ وذكره السُيُوطي في الجامع الصغير**، باب حرف الجيم، : ۳۵۸۱، (۳۲۸/۱)۔ **برواية أحمد والحاكم، ورقم له بالصحة۔ وفي مجمع الزوائد**، كتاب الإيمان، باب تشديد الإيمان، : ۱۵۹، (۲۱۲/۱) وايضا: ۱۶۷۹۹، (۸۷/۱۰)۔ **رواه أحمد وإسناده جيد وفي موضع آخر: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات۔**

ف: ایک روایت میں حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد وَارِد ہوا ہے کہ ایمان پُرانا ہو جاتا

ہے جیسا کہ کپڑا پُرانا ہو جاتا ہے، اس لئے اللہ جَلَّ شانُہٗ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو ❶۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مَعاصی سے قوّتِ ایمانیہ اور نورِ ایمان جاتا رہتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان (دھبہ) اس کے دِل میں ہو جاتا ہے، اگر وہ سچّی توبہ کرلیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، ورنہ جمارہتا ہے اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آخر دِل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو حق تعالیٰ شانُہٗ نے سورہ تَطْفِیف میں اِرشاد فرمایا ہے: ﴿كَلَّا بَلْ سکتہ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ اس کے بعد اس کے دِل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ حق بات اس میں اثر اور سرایت ہی نہیں کرتی ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ چار چیزیں آدمی کے دِل کو برباد کر دیتی ہیں۔ احمقوں سے مقابلہ کرنا، گناہوں کی کثرت، عورتوں کے ساتھ کثرتِ اِختلاط اور مُردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا: مردوں سے کیا مُراد ہے؟ فرمایا: ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو ❸۔

(۸) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم: أَكْثِرُوْا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُّحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا۔

حُضور اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔

(حسن)

رواه أَبُويعلى، في مُسْنَد أبي هريرة، :۶۱۴۷، (۸/۱۱) **بإسناد جيد قوى، كذافي الترغيب،** كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لا اله الا لله: ۲۲۲۰، (۲/۲۲۶) **وعزاه في الجامع،** باب حرف الألف، : ۱۴۱۰، (۱/۱۹)**۔إلى أبي يعلى وابن عدى في الكامل،** باب ذِكر اَحاديث المنكر، من اسمه ضمام، (۴/۱۰۴)**۔ورقم له بالضعف۔ وزاد: ”لقنوها موتاكم“۔وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ما جاء في فضل لا اله الا الله، : ۱۶۸۰۰، (۱۰/۸۷) **رواه أَبُويعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير ضمام، وهو ثقة۔**

ف: یعنی موت حائِل ہو جائے کہ اس کے بعد کسی عمل کا بھی وقت نہیں رہتا۔ زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا سا ہے اور یہ ہی عمل کرنے کا اور تخم بولینے کا وقت ہے اور مرنے کے بعد کا زمانہ بہت ہی وسیع ہے اور وہاں وہی مل سکتا ہے، جو یہاں بو دیا گیا۔

---

❶ المعجم الکبیر، ابو عبد الرحمن الحبلی، ۸۴، ۱۳/ ۳۶
❷ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، ۳۳۳۴
❸ الدر المنثور، المطففین

(۹) عَنْ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ، فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ۔

(صحیح)

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دِل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنّم پر حرام ہو جائے، وہ کلمہ **”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“** ہے۔

رواه الحاكم، كتاب الإيمان: ۲۴۲، (۱/۱۴۳)۔ **وقال: صحيح على شرطهما**۔ واقره عليه الذهبي۔ ورواه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم: ۱۲۸، (۱/۳۷)۔ ومسلم، كتاب الإيمان، باب من لقى الله بالإيمان: ۵۳، (۱/۶۱)۔ **بنحوه۔ كذا في الترغيب**، كتاب الأذكار، باب الترغيب في قول لا اله الا الله: ۲۲۱۹، (۲/۲۶۶)۔

ف: بہت سی رِوایات میں یہ مضمون وَارِد ہوا ہے، ان سب سے اگر یہ مُراد ہے کہ وہ مسلمان ہی اس وقت ہوا ہے، تب تو کوئی اِشکال ہی نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے گناہ بالِاتِفاق معاف ہیں۔ اور اگر یہ مُراد ہے کہ پہلے سے مسلمان تھا اور اِخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو کہہ کر مرا ہے، تب بھی کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ اپنے لُطف سے سارے ہی گناہ مُعاف فرما دیں۔ حق تعالیٰ شانہٗ کا تو خود ہی اِرشاد ہے کہ شِرک کے عِلاوہ سارے ہی گناہ جس کے چاہیں گے مُعاف فرمادیں گے۔ مُلّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عُلماء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ اور اس قسم کی اَحادیث اس وقت کے اعتبار سے ہیں جب تک دوسرے اَحکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعض عُلماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مُراد اس کلمہ کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کہنا، جیسا کہ پہلے حدیث نمبر ۴ میں گزر چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کی بھی یہی رائے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اس کلمہ کو کہا ہو کہ یہی حقیقت توبہ کی ہے اور پھر اسی حال پر اِنتِقال ہوا ہو۔ مُلّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ جہنّم میں رہنے کی حرمت مُراد ہے۔ ان سب کے عِلاوہ ایک کھلی ہوئی بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کا کوئی خاص اثر ہونا اس کے منافی نہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ اثر نہ کر سکے۔ سَقمُونیا (ایک دوا) کا اثر اِسہال ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی سخت قابض چیز کھالی جائے، تو یقیناً سَقمُونیا کا اثر نہ ہو گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دوا کا وہ اثر نہیں رہا، بلکہ اس عارِض کی وجہ سے

اس شخص پر اثر نہ ہو سکا۔

(۱۰) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کا اقرار کرنا جنّت کی کنجیاں ہیں۔

(ض)

رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار: ۲۲۱۰۲، (۴۱۸/۳۶)۔ **كذا في المشكوٰة،** كتاب الإيمان، ألفصل الأول: ۴۰، (۱۹/۱)۔ **والجامع الصغير،** باب حرف الميم: ۸۱۹۱، (۲۹۴/۲)۔ **ورقم له بالضعف۔ وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل لااله الاالله: ۲۶۸۰، (۸۷/۱۰)۔ **رواه أحمد، ورجاله وثقوا، الاان شهرا لم يسمعه عن معاذ اھ** ورواه البزار، في مُسْنَد معاذ بن جبل: ۲۶۶۰، (۱۰۳/۷)۔ **كذافي الترغيب۔ وزادالسُيُوطي في الدر،** تحت الآية: ۱۹، من سورة الزمر۔ **وابن مردوية، والبيهقي** في الاسماء والصفات، باب بيان ان لله اسماء اخرىٰ، (۲۶۰/۱)۔ **وذكره في المقاصد الحسنة،** (۲۱۲/۱)۔ **برواية أحمد، بلفظ: ”مفتاح الجنة لااله الاالله“۔ واختلف في وجه حمل الشهادة، وهى مفرد على المفاتيح، وهى جمع على اقوال اوجهها عندى انها لما كانت مفتاحا لكل باب من أَبوابه، صارت كالمفاتيح۔**

ف: کنجیاں اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر دروازہ کی اور ہر جنّت کی کنجی یہ ہی کلمہ ہے، اس لئے ساری کنجیاں یہی کلمہ ہوا، اس لحاظ سے یہ کلمہ بھی دو جزو لئے ہوئے ہے: ایک ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کا اقرار، اور دوسرا ”مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ کا اقرار۔ اس لئے دو ہو گئے کہ دونوں کے مجموعہ سے کھل سکتا ہے اور بھی ان رِوایات میں جہاں جہاں جنّت کے دخول یا جہنّم کے حرام ہونے کا ذِکر ہے اس سے مُراد پورا ہی کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ جنّت کی قیمت ”لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ ہے ❶۔

(۱۱) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِيْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا طُمِسَتْ مَا فِي الصَّحِيْفَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، حَتّٰى تَسْكُنَ إِلٰى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کہتا ہے تو اَعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

(ض)

رواه أَبُويعلى، مسند الزهرى: ۳۶۱۱، (۲۹۴/۶)۔ **كذا في الترغيب،** كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لا اله الاالله،: ۲۲۲۲، (۲۲۶/۲)۔ **وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل لااله الاالله: ۱۶۸۰۴، (۸۸/۱۰)۔ **فيه عثمان بن عبدالرحمٰن الزهرى وهومتروک اھ**

ف: برائیاں مٹ کر نیکیاں لکھی جانے کے متعلِّق باب اوّل فصلِ ثانی کے نمبر ۱۰ پر

---

❶ الغرائب الملتقطۃ، ۱۳۵۷

مُفصَّل گزر چکا ہے اور اس قسم کی آیات اور رِوایات کے چند معنی لکھے گئے ہیں۔ ہر معنی کے اعتبار سے گناہوں کا اس حدیث میں اعمالنامہ سے مٹانا تو معلوم ہوتا ہی ہے، البتّہ اِخلاص ہونا ضروری ہے اور کثرت سے اللہ کا پاک نام لینا اور کلمۂ طیّبہ کا کثرت سے پڑھنا خود بھی اِخلاص پیدا کرنے والا ہے، اسی لئے اس پاک کلمہ کا نام کلمۂ اِخلاص ہے۔

(۱۲) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَمُوْدًا مِّنْ نُوْرٍ، بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اِهْتَزَّ ذٰلِكَ الْعَمُوْدُ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أُسْكُنْ۔ فَيَقُوْلُ: كَيْفَ أَسْكُنُ وَلَمْ يُغْفَرْ لِقَائِلِهَا۔ فَيَقُوْلُ: إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ: فَيَسْكُنُ عِنْدَ ذٰلِكَ

(ض)

حُضور اَقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شخص "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا اِرشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے: کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیّبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفِرت نہیں ہوئی؟ اِرشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مَغفِرت کر دی، تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔

رواه البزار، مسند أبي هريرة: ۸۰۶۵، (۱۴/۳۶۱)۔ وهو غريب كذا في الترغيب، كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لا اله الا الله: ۲۲۲۳، (۲/۲۲۶)۔ **وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل لا اله الا الله: ۱۶۸۰۴، (۱۰/۸۸)۔ **فيه عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو وهو ضعيف جدا۔ اه قلت: وبسط السيوطي في اللآلي**، كتاب الذكر والدعاء (۳۴۳) على طرقه، وذكر له شواهد۔

ف: مُحدِّثین حضرات کو اس روایت میں کلام ہے، لیکن علّامہ سُیُوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روایت کئی طریقوں سے مُختلِف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ جَلَّ شانُہٗ کا یہ بھی اِرشاد وَارِد ہے کہ میں نے کلمۂ طیّبہ اس شخص کی زبان پر اسی لئے جاری کرادیا تھا کہ اس کی مَغفِرت کروں ①۔ کس قدر لُطف و کرم ہے اللہ کا کہ خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر خود ہی اس لُطف کی تکمیل میں مَغفِرت فرماتے ہیں۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصّہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ وہاں ایک دیوانی باندی فروخت ہو رہی تھی۔ انہوں نے خرید لی۔ جب رات کا کچھ حصّہ گزرا تو وہ دیوانی اٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ آنسوؤں

---

① الفردوس بماثور الخطاب، ۱/ ۲۸۵، ۱۱۱۹

سے دم گھٹا جارہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا: اے میرے معبود! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم! مجھ پر رحم فرمادیجئے۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا: لونڈی! یوں کہہ: اے اللہ! مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصّہ آیا اور کہنے لگی: اس کے حق کی قسم! اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے۔

اَلْكَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ   وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ
كَيْفَ الْقَرَارُ عَلٰى مَنْ لَّا قَرَارَ لَهٗ   مِمَّا جَنَاهُ الْهَوٰى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ
يَارَبِّ اِنْ كَانَ شَيْئٌ فِيْهِ لِيْ فَرَجٌ   فَامْنُنْ عَلَيَّ بِهٖ مَادَامَ بِيْ رَمَقٌ

ترجمہ: بے چینی جمع ہو رہی ہے اور دِل جَل رہا ہے۔ اور صبر جدا ہو گیا اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کو کس طرح قرار آسکتا ہے جس کو عشق وشوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ سے ذرا بھی سکون نہیں۔ اے اللہ! اگر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس میں غم سے نجات ہو تو زندگی میں اس کو عطا فرما کر مجھ پر اِحسان فرما۔ اس کے بعد اس نے کہا: اے اللہ! میرا اور آپ کا معاملہ اب راز میں نہیں رہا، مجھے اٹھالیجئے۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ توفیق جب تک شامل حال نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ ﴿وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (التکویر: ۲۹) (اور تم بدون خدائے رَبّ العَالمِیْن کے چاہے، کچھ نہیں چاہ سکتے ہو)۔

(۱۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ عَلٰى أَهْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ وَلَا مَنْشَرِهِمْ وَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى أَهْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَهُمْ يَنْفُضُوْنَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُسِهِمْ۔ وَيَقُوْلُوْنَ: أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَيْسَ عَلٰى أَهْلِ لَآ إِلٰهَ

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے، نہ میدانِ حشر میں، اس وقت گویا وہ مَنظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے (قبروں سے) اُٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم

إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ۔ (ض)

سے (ہمیشہ کیلئے) رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہو گی نہ قبر کے وقت۔

رواه الطبراني في الأوسط، باب الياء، من اسمه يعقوب: ۹۴۷۸، (۱۸۱/۹)۔ **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، باب الإيمان بالله: ۹۹، (۲۰۲/۱)۔ **كلاهما من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني، وفي متنه نكارة۔ كذا في الترغيب**، كتاب الدعاء، باب الترغيب في قول لا اله الا الله: ۲۲۲۴، (۲۲۶/۲)۔ **وذكره في الجامع الصغير**، باب حرف اللام: ۷۶۲۰، (۲۵۲/۲)۔ **برواية الطبراني، عن ابنِ عُمر رضی الله عنهما ورقم له بالضعف۔ وفي اسني المطالب**: ۱۲۰۴، (۲۳۸/۱)۔ **رواه الطبراني وأبويعلى بسند ضعيف وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ماجاء في فضل قول لا اله الا الله: ۱۶۸۰۷، (۸۹/۱۰)۔ **رواه الطبراني، وفي رواية: "ليس على أهل لا اله الاالله وحشة عندالموت ولا عندالقبر" في الأولیٰ يحيى الحماني، وفي الاخرى مجاشع بن عمرو، كلاهما ضعيف۔ اھ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة**: ۹۱۸، (۵۶۱/۱)۔ رواه أبويعلى والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط، باب الألف۔ من اسمه إبراهيم: ۲۷۷۳، (۱۵۵/۳)۔ **بسند ضعيف عن ابنِ عُمر رضی الله عنهما قلت:** (أي: المؤلف) **وماحكم عَلَيْهِ المنذري بالنكارة مبناه انه حمل اهل لا اله الاالله على الظاهر على كل مسلم، ومعلوم ان بعض المسلمين يعذبون في القبر والحشر، فيكون الحديث مخألفا للمعروف، فيكون منكرا، لكنه ان اريد به المخصوص بهٰذه الصفة، فيكون موافقا للنصوص الكثيرة من القرآن والحديث: "والسابقون السابقون أولٓئك المقربون"۔ "ومنهم سابق بالخيرات باذن الله"۔ "وسبعون ألفايد خلون الجنة بغير حساب"۔ وغير ذٰلك من الآيات والروايات، فالحديث مُوافِق لها، لا مخألف، فيكون معروفا لا منكرا، اوذكر السُيُوطي في الجامع الصغير**، باب حرف السين: ۴۶۱۴، (۴۵۸/۱)۔ **برواية ابن مردويه والبيهقي في البعث** تحت الآية باب قول الله عزوجل: "ثم اورثنا الكتاب"، (۶۳/۱)۔ **عن عمر بلفظ: "سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفورله"۔ ورقم له بالحسن۔ قلت: ويؤيده حديث: "سبق المفردون المتهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامة خفافا"۔ رواه الترمذي،** أبواب الدعوات، : ۳۵۹۶، (۵۷۷/۵)۔ **والحاكم**، كتاب الدعاء: ۱۸۲۳، (۶۷۳/۱) واقر عَلَيْهِ الذهبي۔ **عن أبي هريرة، والطبراني عن أبي الدرداء كذا في الجامع**، باب حرف السين، : ۴۶۵۱، (۴۶۴/۱)۔ ورقم له بالصحة۔ وفي الإتحاف، كتاب الذكر والدعوات، الباب الأول في فضيلة الذكر، (۶/۵)۔ **عن أبي الدرداء موقوفا: "الذين لاتزال السنتهم رطبة من ذِكر الله، يدخلون الجنة، وهم يضحكون"۔ وفي الجامع الصغير،** باب حرف السين: ۴۷۹۰، (۴۹۲/۱)۔ **برواية الحاكم،** كتاب الدعاء: ۳۵۹۲، (۴۶۲/۲)۔ **ورقم له بالصحة۔ "السابق والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب، والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا، ثم يدخل الجنة"۔**

ف: حضرت اِبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام حُضور اَقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے پاس تشریف لائے۔ حُضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے عرض کیا کہ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اِرشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ (حالانکہ حق تعالیٰ شانُہٗ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اعزاز و اِکرام اور اِظہارِ شرافت کے واسطے اس قسم کے سُوال کرائے جاتے تھے)۔ حُضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ جبرئیل! مجھے اپنی اُمّت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہو گا۔ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے دریافت کیا کہ کُفّار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حُضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے حُضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرَہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سَلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ

السَّلام نے ایک قبر پر ایک پَر مارا اور اِرشاد فرمایا کہ ”قُمْ بِإِذْنِ اللهِ“ (اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا) اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرہ والا اٹھا وہ کہہ رہا تھا ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ“ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلام نے اِرشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا، وہ چلا گیا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پَر مارا اور اِرشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت، کالا منہ، کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا: ہائے افسوس! ہائے شرمندگی! ہائے مصیبت!! پھر حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلام نے فرمایا: اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حُضورِ اَقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اُٹھیں گے ❶۔

حدیث بالا میں ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ والوں سے بظاہر وہ لوگ مُراد ہیں جن کو اس کلمۂ پاک کے ساتھ خُصوصی لگاؤ، خُصوصی مناسبت، خُصوصی اشتغال ہو اس لئے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ہاں ان چیزوں کی خُصوصی بِکری اور خُصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لئے ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اِشکال نہیں۔ قرآنِ پاک میں سورۂ فاطر میں اس اُمّت کے تین طبقے بیان فرمائے ہیں: ایک طبقہ ﴿سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَاتِ﴾ کا بیان فرمایا جن کے متعلِّق حدیث میں آیا ہے کہ وہ بے حساب جنَّت میں داخل ہوں گے ❷۔ ایک حدیث میں وارِد ہے کہ جو شخص سو مرتبہ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ پڑھا کرے اس کو حق تعالیٰ شانُہٗ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہو گا ❸۔ حضرت اَبُودرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذِکر سے تروتازہ رہتی ہیں وہ جنَّت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے ❹۔

(۱۴) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِيْ عَلٰى

حضورِاقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ قیامت کے دن میری اُمّت میں سے ایک شخص کو مُنتخِب فرما کر تمام دنیا کے

---

❶ تفسیر حقی، النساء: ۹۴

❷ مسند احمد، مسند ابی ھریرہ، ۲۱۶۹۷

❸ مسند الشامیین،، صفوان عن یزید، ۹۹۴

❹ مصنف ابن ابی شیبہ، فی ثواب ذکر اللہ، ۲۹۴۵۹

رُءُوْسِ الْخَلَآئِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِّثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحٰفِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ أَفَلَكَ عُذْرٌ، فَيَقُوْلُ لَا، يَارَبَّ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى: بَلٰى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً: فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، فَيَقُوْلُ أَحْضُرْ وَزْنَكَ۔ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ، مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَ، فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كَفَّةٍ وَّالْبِطَاقَةُ فِيْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اللهِ شَيْءٌ۔

(صحيح بالمتابعة)

رواه الترمذي، اَبُواب الإيمان، باب ماجاء في من يموت: ۲۶۳۹، ص (۵۹۵)۔ **وقال: حسن غريب۔ وابن ماجه،** كتاب الزهد، باب مايرجى عن رحمة اللّٰه: ۴۳۰۰، (۵۱۷/۴)۔ **وابن حبان في صحيحه،** كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان: ۵۰۹۵، (۱۸۶/۲)۔ **والبيهقي** في شُعَب الإيمان، الباب الثامن فصل: وإذا انقض الحساب: ۲۷۹، (۴۴۸/۱)۔ **والحاكم،** كتاب الإيمان: ۹، (۴۶/۱)۔ **وقال: صحيح على شرط مسلم۔ كذا في الترغيب،** كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لا اله الا اللّٰه: ۲۲۲۷، (۶۲۷/۲)۔ **قلت:** (أى: المؤلف) **كذا قال الحاكم في كتاب الإيمان۔** وأخرجه **ايضافي كتاب الدعوات: ۱۹۳۷،** (۷۱۰/۱)۔ **وقال: صحيح الإسناد۔ وأقره في الموضعين الذهبي۔ وفي المشكوٰة،** كتاب احوال القيامة، باب االنفخ في الصور: ۵۵۵۹، (۲۸/۳)۔ أخرجه **برواية الترمذي وابن ماجه، وزاد**

سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے ننانوے دفترِ اَعمال کے کھولیں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہو گا کہ مُنتہائے نظر تک (یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک) پھیلا ہوا ہو گا۔ اس کے بعد اس سے سُوال کیا جائے گا کہ ان اَعمالناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے جو اَعمال لکھنے پر متعیّن تھے، تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ (کہ کوئی گناہ بغیر لکھے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو)۔ وہ عرض کرے گا۔ نہیں (نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا)۔ پھر اِرشاد ہو گا کہ تیرے پاس ان بداعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: کوئی عذر بھی نہیں۔ اِرشاد ہو گا: اچّھا! تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے، پھر ایک کاغذ کا پُرزہ نکالا جائے گا۔ جس میں ”أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ“ لکھا ہوا ہو گا۔ اِرشاد ہو گا کہ جا اس کو تُلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پُرزہ کیا کام دے گا؟ اِرشاد ہو گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہو گا، پھر ان سب دفتروں کو

السُیُوطي في الدر تحت الآیة: ۸، من سورة الاعراف۔ **فیمن عزاه الیهم** أحمد، مسند عبدالله بن عمرو: ۶۹۹۴، (۱۱/۵۷۰)۔ **وابن مردویه واللالکائی والبیهقي في البعث۔ وفیه اِختلاف، وفي بعض الألفاظ کقوله في أول الحدیث: "یصاح برجل من امتی علی رؤس الخلائق" وفیه ایضا، فیقول افلک عذر او حسنة؟ فیها بالرجل، فیقول: لا یارب، فیقول: بلی؛ ان لک عندنا حسنة"۔ الحدیث۔ وعلم منه ان الاستدراک في الحدیث علی محله، ولا حاجة إذا إلی ما أوله القاری في المرقاة،** کتاب صفة القیامة، باب الحساب،: ۵۵۵۹، (۸/۳۵۳۱)۔ وذکر السُیُوطي مایؤید الروایة من الروایات الاخر۔

ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پُرزہ ہو گا، تو دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پُرزہ کے وزن کے مقابلہ میں۔ پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔

ف: یہ اِخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمۂ طیّبہ اِخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آگیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حَقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے، کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، جو اس کی نجات کیلئے کافی ہو جائے اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابلِ قبول ہو گا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصّہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے: ایک عابد تھا دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصّہ میں آکر کہہ دیا کہ خدا کی قسم! تیری مَغفِرت کبھی نہیں ہو گی۔ حق تعالیٰ شانُہٗ نے عالمِ اَرواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گنہگار کو اس لئے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا مُعاف فرما دیا اور عابد کو اس قسم کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا①۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالیٰ شانُہٗ تو اِرشاد فرمائیں: ﴿اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ (النساء: ۱۱۶) (حق تعالیٰ شانُہٗ کفر وشرک کی مَغفِرت نہیں فرماویں گے، اس کے عِلاوہ ہر گناہ کی جس کے لئے چاہیں گے مَغفِرت فرما دیں گے) تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فُلاں کی مَغفِرت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مَعاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن وحدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ اَحادیث میں بکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سزا میں مُبتلا ہوں گے②، عذاب میں شریک ہوں گے۔ اس مضمون کو میں اپنے رسالہ "فضائلِ تبلیغ" میں مُفَصَّل لکھ چکا ہوں، جس کا دِل چاہے

---

① مسند احمد، مسند ابی ھریرہ ۸۲۹۲

② ابو داود، کتاب الملاحم، ۴۳۳۹

اس کو دیکھے۔

یہاں ایک ضروری چیز یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ جہاں دینداروں کا گنہگاروں کو قطعی جہنمی سمجھ لینا مُہلک ہے، وہاں جُہلا کا ہر شخص کو مُقتداء اور بڑا بنا لینا خواہ کتنے ہی کُفریّات بَکے، سَمِّ قاتل اور نہایت مُہلِک ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعَتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے مُنہَدِم کرنے پر اِعانت کرتا ہے ❶۔ بہت سی اَحادیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں دجّال، مکّار، کذّاب پیدا ہوں گے، جو ایسی اَحادیث تم کو سنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنہ میں ڈال دیں ❷۔

(۱۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ، لَوْ جِيْءَ بِالسَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ، فَوُضِعْنَ فِيْ كَفَّةِ الْمِيْزَانِ، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرٰى، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان وزمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں، وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور "**لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ**" کا اقرار دوسری جانب ہو، تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔

(اسنادہ منقطع)

أخرجه **الطبراني** في الكبير، باب العين: ۱۳۰۲۴، (۲۵۴/۱۲)۔ **كذا في الدر** تحت الآية: ۸، من سورة الاعراف۔ **وهٰكذا في مجمع الزوائد**، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتىٰ: ۳۹۱۶، (۶۵/۳)۔ **وزاد في أوله، "لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة۔ قالوا: يارسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك اوجب واوجب۔ ثم قال: والذى نفسى بيده" الحديث۔ قال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، الا ان ابن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس۔**

ف: اس قسم کا مضمون بہت سی مُختلِف روایتوں میں ذِکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، البتّہ اس میں وزن اِخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس قدر اِخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اِخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صُوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں اس اِرشاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون مذکور ہے، وہ یہ کہ حُضور ﷺ نے یہ اِرشاد فرمایا کہ مَیّت کو "**لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ**" تلقین کیا

---

❶ شعب الایمان، فصل فی مجانبۃ الفسقۃ، ۹۴۶۴،

❷ مسلم، ۷،

کرو، جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمہ کو کہتا ہے اس کے لئے جنَّت واجب ہو جاتی ہے۔ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر کوئی تندرستی ہی میں کہے؟ حُضور ﷺ نے فرمایا: پھر تو وہ اور بھی زیادہ جنَّت کو واجب کرنے والا ہے ❶۔ اس کے بعد یہ قسمیہ مضمون اِرشاد فرمایا جو اُوپر ذِکر کیا گیا۔

(۱۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: جَاءَ النَّحَّامُ ابْنُ زَیْدٍ وَقَرْدُ بْنُ کَعْبٍ وَبَحْرِیُّ ابْنُ عَمْرٍو، فَقَالُوْا: یَا مُحَمَّدُ، مَا تَعْلَمُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا غَیْرَهٗ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، بِذٰلِكَ بُعِثْتُ، وَإِلٰی ذٰلِكَ أَدْعُوْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ قَوْلِهِمْ: ﴿قُلْ أَیُّ شَیْءٍ أَکْبَرُ شَهَادَةً﴾ ۔ الآية

(اسنادہ ضعیف)

أخرجه ابن اسحاق وابن المنذر وابن ابی حاتم تحت الآية نمبر ۱۳، من سورة الانعام، وأبو الشيخ كذا في الدر المنثور ايضا۔

حُضور اَقدس ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ تین کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد! (ﷺ) تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں جانتے (نہیں مانتے)؟ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا) اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارہ میں آیت: قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَهَادَةً نازل ہوئی۔

ف: حُضور اَقدس ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حُضور ﷺ کے اِرشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حُضور ﷺ کی اس میں خُصُوصِیَّت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمہ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سب ہی انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام نے اسی کلمہ کی طرف دعوت دی ہے۔ حضرت آدم عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ سے لے کر خَتْمُ الْاَنْبِیَاء فخرِ رُسُل ﷺ تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمہ کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور مُہتَم بِالشَّان کلمہ ہے کہ سارے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلام اور سارے سچے مذاہب اسی پاک کلمہ کی طرف بُلانے والے اور اسی کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمہ کی تصدیق میں قرآنِ پاک کی آیت ﴿قُلْ اَیُّ شَیْءٍ

---

❶ المعجم الکبیر، علی بن ابی طلحہ، ۱۳۰۲۴

اَکۡبَرُ شَهَادَةً ﴾ (الإنعام: ۱۹، ع: ۲) نازل ہوئی جس میں نبی اکرم ﷺ کی تصدیق میں حق تعالیٰ شانہٗ کی گواہی کا ذِکر ہے۔ ایک حدیث میں وارِد ہے کہ جب بندہ ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور اِرشاد فرماتے ہیں میرے بندہ نے سچ کہا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ①۔

(۱۷) عَنۡ لَيۡثٍ قَالَ: قَالَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ عَلَيۡهِ السَّلَامُ: أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَثۡقَلُ النَّاسِ فِي الۡمِيۡزَانِ، ذَلَّتۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ بِكَلِمَةٍ ثَقُلَتۡ عَلٰى مَنۡ كَانَ قَبۡلَهُمۡ۔ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ۔

(لم يوقف على بعض رجاله)

أخرج الاصبهاني في الترغيب، باب ما جاء في الترغيب في قول لا اله الا الله، : ۲۵۲۰، (۲۷۵/۳) **كذا في الدر** تحت الآية: ۸ من سورة الاعراف۔

حضرت عیسیٰ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فرماتے ہیں کہ محمد ﷺ کی اُمّت کے اَعمال (حشر کے ترازو میں اس لئے) سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مَانُوس ہیں جو ان سے پہلی اُمّتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ ہے۔

ف: یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ اُمّتِ مُحمّدیہ عَلٰی صَاحِبِهَا اَلۡفُ اَلۡفُ صَلٰوةٍ وَّتَحِيَّةٍ کے درمیان کلمۂ طیّبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے، کسی اُمّت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشائخ سلوک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقدار ہے اور پھر ہر شیخ کے کم و بیش سینکڑوں مُرِید اور تقریباً سب ہی کے یہاں کلمۂ طیّبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔ ”جَامِع الاُصُول“ میں لکھا ہے کہ لفظِ اللہ کا ذِکر ورد کے طور پر کم از کم پانچ ہزار کی مقدار ہے اور زیادہ کیلئے کوئی حد نہیں۔ اور صُوفیہ کے لئے کم از کم پچیس ہزار روزانہ اور ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کی مقدار کے متعلِّق لکھا ہے کہ کم از کم پانچ ہزار روزانہ ہو۔ یہ مقداریں مشائخِ سلوک کی تجویز کے مُوافِق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ میرا مقصود حضرت عیسیٰ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کے لئے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔

ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”قولِ جمیل“ میں اپنے والد سے

---

① سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، ۳۷۹۴

نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ دو سو مرتبہ کہا کرتا تھا۔

شیخ اَبُو یَزِید رحمۃ اللہ علیہ قُرطُبی فرماتے ہیں میں نے یہ سُنا کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی ستر ہزار کی تعداد اپنی بیوی کے لئے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لئے پڑھ کر ذخیرۂ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلّق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحبِ کشف ہے۔ جنّت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردُّد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جَل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قُرطُبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجرِبہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لئے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دِل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا! میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قُرطُبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصّہ سے دو فائدے ہوئے: ایک تو اس برکت کا جو ستر ہزار کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجَرِبہ ہوا، دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا①۔

یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم واقعات اس اُمّت کے اَفراد میں پائے جاتے ہیں۔ صُوفیہ کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز ”پاسِ انفاس“ ہے، یعنی اس کی مشق کہ کوئی سانس اللہ کے ذِکر کے بغیر نہ اندر جائے، نہ باہر آئے۔ اُمّتِ محمدیہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے کروڑوں اَفراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے تو پھر کیا تردُّد ہے حضرت عیسیٰ علیٰ نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام کے اس اِرشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کے ساتھ مَانُوس اور مُنقاد ہو گئیں۔

---

① مرقاة المفاتیح، ۳، باب ما علی المأموم من المتابعة / ۸۷۹

(۱۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَكْتُوْبٌ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا لَا أُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا۔

(لم اقف على سند هذا الحديث)

أخرجه **أبو الشيخ كذا** في **الدر** تحت الآية نمبر ۱۴، من سورة طٰه۔

حضورِ اقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جنّت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا ہے (إِنَّنِی أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لَا أُعَذِّبُ مَنْ قَالَهَا) میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس (کلمہ) کو کہتا رہے گا، میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔

ف: گناہوں پر عذاب کا ہونا دوسری اَحادیث میں بکثرت آیا ہے، اس لئے اس سے اگر دائمی عذاب مُراد ہو تو کوئی اِشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اِخلاص سے اس جملہ کا وِرد رکھنے والا ہو کہ باوجود گناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمتِ خداوندی سے بعید نہیں ہے۔ جیسا حدیث نمبر ۱۴ میں گزرا۔ اس کے عِلاوہ نمبر ۹ میں بھی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔

(۱۹) عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّيْ أَنَا اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدُوْنِيْ، مَنْ جَآءَنِيْ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بِالْإِخْلَاصِ دَخَلَ فِيْ حِصْنِيْ۔ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ أَمِنَ عَذَابِيْ

(ض)

أخرجه **أبو نعيم** في الحلية، محمد بن على الباقر، (۱۹۱/۳)۔ **كذا في الدر** تحت الآية: ۱۴ من سورة طٰه۔ **وابن عساكر** في تاريخه، حرف ألفائ: ۵۶۲۷، (۳۶۷/۴۸)۔ **كذا في الجامع الصغير**، باب حرف القاف: ۶۰۴۷، (۱۴۰/۲)۔ **وفيه أيضا برواية الشيرازى عن على ورقم له بالصحة۔ وفي الباب عن عتبان ابن مالك بلفظ ان الله قد حرم على النار من قال لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يبتغى بذٰلك وجه الله رواه الشيخان**، بخاري، كتاب الاطعمة، باب الخزيرة: ۵۴۰۱، (۷۲/۷)، مسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة: ۱۴۹۴، (۱۶۱/۵)۔ **وعن اِبنِ عُمر بلفظ ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله وأبى ان يقول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رواه ابن ماجه**، كتاب الزهد، باب مايرجى من رحمة الله: ۴۲۹۷، (۵۰۵/۴)۔

حضورِ اَقدس ﷺ حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جَلَّ جلالُہٗ کا اِرشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو، جو شخص تم میں سے اِخلاص کے ساتھ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا، وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گا، وہ میرے عذاب سے مامون ہو گا۔

ف: اگر یہ بھی کبائر سے بچنے کے ساتھ مشروط ہو جیسا کہ حدیث نمبر ۵ میں گزر چکا،

تب تو کوئی اِشکال ہی نہیں اور اگر کبائر کے باوجود یہ کلمہ کہے تو پھر قَواعِد کے مُوافِق تو عذاب سے مُراد دائمی عذاب ہے، ہاں! اللہ جَلَّ شانُہٗ کی رحمت قَواعِد کی پابند نہیں۔ قرآنِ پاک کا صاف اِرشاد ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ شرک کو مُعاف نہیں فرمائیں گے، اس کے عِلاوہ جس کو چاہیں گے، مُعاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ پر تَمَرُّد (ہیکڑی) کرے اور ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کہنے سے انکار کرے①۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ حق تعالیٰ شانُہٗ کے غصّہ کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگیں اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگیں اور ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کہتے رہیں، تو حق تعالیٰ شانُہٗ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دعویٰ میں سچّے نہیں ہو②۔

(۲۰) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَآءِ الْإِسْتِغْفَارُ، ثُمَّ قَرَأَ فَاعْلَمْ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ الآية۔

حضورِ اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل اِستِغفار ہے، پھر اس کی تائید میں سورہ محمدؐ کی آیت ”فَاعْلَمْ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ تِلاوت فرمائی۔

(ضعیف بهذا الاسناد)

أخرجه **الطبراني** في الكبير، باب العين: ۱۴۷۱۵، (۳۶۰۱/۱۱)۔ **وابن مردويه والديلمى۔ كذا في الدر** تحت الآية: ۱۹، من سورة محمد۔ **وفي الجامع الصغير**، باب حرف الميم: ۷۹۸۲، (۲۷۷/۲)۔ **برواية الطبراني: ”ما من الذكر أفضل من لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، ولا من الدعاء أفضل من الاستغفار“۔ ورقم له بالحسن۔**

ف: اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ سب اَذکار سے افضل ہے، جس کی وجہ صُوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ دِل کے پاک ہونے میں اس ذِکر کو خاص مُناسبت ہے۔ اس کی برکت سے دِل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ اِستِغفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک حدیث میں وارِد ہے کہ حضرت یُونُس عَلَیْہِ السَّلام کو جب مچھلی نے کھالیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی دُعا یہ تھی: ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ﴾۔ جو شخص بھی ان الفاظ سے دُعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہو گی③۔

---

① سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، ۴۲۹۷

② ابن النجار

③ ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۰۵

اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزرا ہے کہ سب سے افضل اور بہترین ذِکر لآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل دُعا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِرشاد ہوا تھا اور یہاں اِستِغْفار وَارِد ہے۔ اس قسم کا اِختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، ایک متقی پرہیز گار ہے اس کے لئے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہگار ہے وہ توبہ واِستِغْفار کا بہت محتاج ہے، اس کے حق میں اِستِغْفار سب سے اہم ہے۔ اس کے عِلاوہ افضلیت بھی مُختلِف وجوہ سے ہوتی ہے۔ مُنافِع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد وثناء سب سے زیادہ نافع ہے اور مضرتیں اور تنگیاں دور کرنے کے لئے اِستِغْفار سب سے زیادہ مُفید ہے۔ ان کے عِلاوہ اور بھی وجوہ اس قسم کے اختلافات کی ہوتی ہیں۔

(۲۱) عَنْ أَبِیْ بَکْرِ ِ الصِّدِّیْقِ ؓ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: عَلَیْکُمْ بِلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، فَأَکْثِرُوْا مِنْهُمَا فَإِنَّ إِبْلِیْسَ قَالَ: أَهْلَکْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوْبِ، وَأَهْلَکُوْنِیْ بِلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ۔ فَلَمَّا رَأَیْتُ ذٰلِكَ أَهْلَکْتُهُمْ بِالْأَهْوَآءِ وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۔

حضرت اَبُو بکر صِدّیق ؓ حُضور اَقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ اور اِستِغْفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ اور اِستِغْفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا (کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا) تو میں نے ان کو ہوائے نفس (یعنی بدعات) سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔

(ض)

أخرجه **أبويعلى**، مسند أبی بکر الصدیق،: ۱۳۶، (۱/۱۲۳)۔ **كذا في الدر** تحت الآیة: ۸۸، من سورة آل عمران، **والجامع الصغیر**، باب حرف العین: ۵۵۸۶، **ورقم له بالضعف**۔

ف: ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ اور اِستِغْفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا مُنتہائے مقصد دِل پر اپنا زہر چڑھانا ہے، جس کا ذِکر باب اوّل فصل دوم کے نمبر ۱۴ پر گزر چکا اور یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دِل اللہ کے ذِکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دِل سے واپس ہونا پڑتا ہے اور اللہ کا ذِکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں حُضور اَقدس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کیلئے ایک صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ

کا ذِکر ہے ①۔ اسی طرح اِستغفار کے بارے میں کثرت سے اَحادیث میں یہ وَارِد ہوا ہے کہ دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے ②۔ اَبُو عَلی دَقّاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اِخلاص سے ''لَا اِلٰہَ'' کہتا ہے تو ایک دم دِل صاف ہو جاتا ہے (جیسے آئینہ پر بھیگا ہوا کپڑا پھیرا جائے) پھر وہ ''اِلَّا اللّٰہ'' کہتا ہے تو صاف دِل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوشش بے کار ہو گئی اور ساری محنت رائیگاں گئی۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کو حق سمجھنے لگے اور جو دِل میں آجائے، اسی کو دین اور مذہب بنالے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مَذمّت وَارِد ہوئی ہے۔ ایک جگہ اِرشاد ہے: ﴿اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰھَهٗ ھَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰی سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ یَّھْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ﴾ (الجاثیہ: ۲۳، رکوع: ۳) (کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہشِ نفس کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دِل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا (کہ حق بات کو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ دِل میں اترتی ہے) پس اللہ کے (گمراہ کر دینے کے) بعد کون ہدایت کر سکتا ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے) دوسری جگہ اِرشاد ہے: ﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ ھَوٰىهُ بِغَیْرِ ھُدًی مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَھْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ﴾ (القصص: ۵۰، رکوع: ۱۵) (ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے (اس کے پاس) ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا)۔ اور بھی مُتعدِّد جگہ اس قسم کا مضمون وَارِد ہوا، یہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھاوے اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس ثواب کا امیدوار بنا رہے۔ اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر کر رہا ہے، تو اس سے توبہ کیونکر کر سکتا ہے۔

اگر کوئی شخص زناکاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مُبتلا ہو، تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی اُمید ہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو وہ عبادت سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی کرے گا۔ یہی مطلب ہے

---

① شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ، ۵۱۹

② شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ۔ ۶۴۰

شیطان کے اس کہنے کا کہ میں نے گناہوں میں مُبتلا کیا، لیکن ذِکر، اَذکار، توبہ، اِستغفار سے وہ مجھے دِق کرتے رہے، تو میں نے ایسے جال میں پھانس دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے ❶۔ اس لئے دین کے ہر کام میں نبیٔ اکرم ﷺ اور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے اور کسی ایسے طریقہ کو اختیار کرنا جو خلافِ سنّت ہو، نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے اُمّتِ محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے اِستغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کئے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے اِستغفار کریں اور وہ اَہواء یعنی بدعات ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وَہب بن مُنَبِّہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، تو شیطان کو مجمعوں میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صُوفیہ سے منقول ہے کہ کس قدر تعجّب کی بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ جیسے مُحسِن کے اِحسانات معلوم ہونے کے بعد اور ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیّاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے ❷۔

(۲۲) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، يَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلٰى قَلْبٍ مُّوْقِنٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ وَفِيْ رَوَايَةٍ: إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ۔

حضورِ اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ کی پکے دِل سے شہادت دیتا ہو، ضرور جنّت میں داخل ہو گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللہ تعالیٰ مَغفِرت فرما دیں گے۔

(صحیح بالمتابعة)

أخرجه أحمد، مسند معاذ بن جبل، : ۲۱۹۹۸، (۳۲۳/۱٦)۔ **والنسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة: ۱۰۹۱۵، (۴۱۷/۹) **والطبراني** في الكبير، باب الميم: ۷۱، (۴٦۰۱/۱۳)۔ **والحاكم**، كتاب الإيمان: ۱٦، (۵۰/۱) وسكت عنه الذهبي۔ **والترمذي في نوادر الاصول**، في الاصل الثالث عشر، (۸۹/۱)۔ **وابن مردوية والبيهقي في الاسماء والصفات**، باب بيان ان لله اسماء اخرىٰ: ۱۷۴، (۲۴۲/۱)۔ **كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۹، من سورة محمد۔ وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ: ۳۷۹٦، (۲۴٦/۴)۔ **وفي الباب عن عمران بلفظ: ”من علم ان الله ربه واني نبيه موقنا من قلبه، حرم الله على النار“۔ رواه البزار**، في مُسْنَد عبدالله بن بسر: ۳۵۵۵، (۳۷/۹)۔ **ورقم له في الجامع**، باب حرف الميم: ۸۸٦۰، (۳۳۷/۲)۔ **بالصحة۔ وفيه أيضا برواية البزار عن أبى سعيد: ”من**

---

❶ معجم ابی یعلی، باب المیم، ۲۸٦

❷ احیاء العلوم، ۳/۳۸

قال لا الہ الا اللہ مخلصا، دخل الجنة"۔ ورقم لہ بالصحۃ۔

ف: حُضورِ اَقدس ﷺ سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ خوشخبری سنو اور دوسروں کو بھی بشارت سُنا دو کہ جو شخص سچے دِل سے "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کا اقرار کرے وہ جنّت میں داخل ہو گا①۔ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کے یہاں اِخلاص کی قدر ہے اور اِخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے واسطے، لوگوں کے خوش کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جاوے، وہ تو ان کی سرکار میں بے کار ہے، بلکہ کرنے والے کے لئے وَبال ہے، لیکن اِخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے۔ اس لئے اِخلاص سے جو شخص کلمۂ شہادت پڑھے اس کی ضرورت مَغفِرت ہو گی، وہ ضرور جنّت میں داخل ہو کر رہے گا، اس میں ذرا بھی ترَدُّد نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگت کر داخل ہو، لیکن ضروری نہیں۔ کسی مُخلِص کا اِخلاص مالِکُ المُلک کو پسند ہو، اس کی کوئی خدمت ہی پسند آجائے تو وہ سارے ہی گناہوں کو مُعاف فرما سکتے ہیں۔ ایسی کریم ذات پر ہم نہ مرمٹیں، کتنی سخت محرومی ہے۔ بہر حال! ان اَحادیث میں کلمۂ طیّبہ کے پڑھنے والے کے لئے بہت کچھ وعدے ہیں، جن میں دونوں اِحتمال ہیں۔ قَواعِد کے مُوافِق گناہوں کی سزا کے بعد معافی اور کرم، لُطف، اِحسان اور مَراحِمِ خُسروانہ میں بلا عذاب معافی۔

یحییٰ بن اَکثم رحمۃ اللہ علیہ ایک مُحدِّث ہیں، جب ان کا اِنتِقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا: کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا: او گنہگار بوڑھے! تو نے فُلاں کام کیا، فُلاں کیا، میرے گناہ گنوائے گئے اور کہا گیا کہ تو نے ایسے ایسے کام کئے؟ میں نے عرض کیا: یا اللہ! مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا: اور کیا حدیث پہنچی؟ عرض کیا کہ مجھ سے عبدُ الرَّزاق نے کہا، ان سے معمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے زُہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے عُروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ان سے حضور اَقدس ﷺ نے اِرشاد فرمایا، ان سے حضرت جبرئیل عَلَیہِ السَّلام نے عرض کیا، ان سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو

---

① مسند احمد، حدیث ابی موسی الاشعری، ۱۹۵۹۷

(اس کے اَعمال کی وجہ سے) عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر مُعاف کر دیتا ہوں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اِرشاد ہوا کہ عبدُ الرَّزاق نے سچ کہا اور مَعمر نے بھی سچ کہا، زُہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ نقل کیا، عائشہ نے بھی سچ کہا اور نبی ﷺ نے بھی سچ کہا اور جبرائیل نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچّی بات کہی۔ یحیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جنَّت میں داخلہ کا اِرشاد فرمادیا❶۔

(۲۳) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ، إِلَّا قَوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَدُعَاءُ الْوَالِدِ۔

(ض)

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ہر عمل کیلئے اللہ کے یہاں پہنچنے کیلئے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر ’’لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ‘‘ اور باپ کی دُعا بیٹے کی لئے، ان دونوں کیلئے کوئی حجاب نہیں۔

أخرجه **ابن مردويه، كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۹، من سورة محمد۔ **وفي الجامع الصغير**، باب حرف القاف: ۶۳۲۴، **برواية ابن النجار**، ورقم له بالضعف۔ **وفي الجامع الصغير**، باب حرف الزاء: ۳۴۰۳، (۱/۳۰۴)۔ برواية الترمذي، اَبواب الدعوات، : ۳۵۱۸، (۷۹۸)۔ عن اِبنِ عُمر، ورقم له بالصحة: ’’التسبيح نصف الميزان، والحمدلله تملأه، ولَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ليس لها دون الله حجاب، حتى تخلص اليه‘‘۔

ف: پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی اور اُمُور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہِ راست بارگاہ الٰہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔

ایک کافر بادشاہ کا قصّہ لکھا ہے کہ نہایت مُتَشَدِّد مُتَعَصِّب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا، چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اس لئے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا، اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے اوّل اپنے بتّوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی، جب کچھ بن نہ پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور ’’لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ‘‘ کا ورد شروع کیا، لگاتار پڑھ رہا تھا اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے ظاہر ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ شانُہٗ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی، اسکے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں، جہاں سب ہی کافر تھے، جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار

---

❶ تاریخ ابن عساکر، ذکر من اسمہ یحیٰ، ۶۴/۹۱

کلمۂ طیّبہ پڑھ رہا تھا لوگ اس کے گرد جمع ہوگئے اور اعجوبہ دیکھ کر مُتَحَیِّر تھے اس سے حال دریافت کیا، اس نے اپنی سر گزشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔

(۲۴) عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَنْ يُّوَافِيَ عَبْدٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ، إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ۔

(صحیح)

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے: نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو، مگر جہنّم اس پر حرام ہوگی۔

أخرجه أحمد في مسنده، مسندالمدنيين، : ٢١٥٨٢، (٢٧/١٠)۔ **والبخاري، كتاب الرقاق**، باب العمل الذى ينبغى به وجه الله،: ٦٤٢٣، (٩٠/٨)۔ **ومسلم**، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة، : ١٤٩٤، (١٢١/٥)۔ **وابن ماجه، كتاب والبيهقي في الاسماء والصفات**، باب بيان ان لله اسماء اخرىٰ، : ١٨٠، (٢٤٦/١)۔ **كذافي الدر** تحت الآية: ١٩، من سورة محمد۔

ف: جو شخص اِخلاص کے ساتھ کلمۂ طیّبہ کا ورد کرتا رہا ہو، اس پر جہنّم کی آگ کا حرام ہونا ظاہری قَواعِد کے مُوافِق تو مُقَیّد ہے کَبائر گناہ نہ ہونے کے ساتھ، یا جہنّم کے حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے، لیکن اللہ جَلَّ شَانُہٗ اس پاک کلمہ کو اِخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنّم سے مُعاف فرمادیں تو کون روکنے والا ہے۔ اَحادیث میں ایسے بندوں کا بھی ذِکر آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانُہٗ بعض لوگوں کو فرمائیں گے تو نے فُلاں گناہ کیا، فُلاں کیا۔ اس طرح جب بہت سے گناہ گنوائے جاچکیں گے اور وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہوگیا اور اقرار بغیر چارۂ کار نہ ہوگا، تو اِرشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تیری ستّاری کی، آج بھی ستّاری کرتے ہیں، تجھے مُعاف کردیا❶۔ اس نَوع کے بہت سے واقعات اَحادیث میں موجود ہیں۔ اس لئے ان ذاکِرین کے لئے بھی اس قسم کا معاملہ ہو تو بعید نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نام میں بڑی برکت اور بہبودی ہے اس لئے جتنی بھی کثرت ہوسکے، دَریغ نہ کرنا چاہیئے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس پاک کلمہ کی برکات کو سمجھا اور اس کے ورد میں عمریں ختم کردیں۔

(۲۵) عَنْ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضی اللہ عنہ قَالَ: رُؤِيَ طَلْحَةُ حَزِيْنًا، فَقِيْلَ

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا: کیا

---

❶ بخاری، کتاب الادب، باب ستر المومن، ٦٠٧٠

لَهٗ: مَا لَكَ؟ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ، إِلَّا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَتَهٗ وَاَشْرَقَ لَوْنُهٗ، وَرَاٰى مَا يَسُرُّهٗ وَمَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَسْأَلَهٗ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ إِنِّيْ لَأَعْلَمُهَا۔ قَالَ: فَمَا هِيَ؟ قَالَ: لَا نَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ بِهَا عَمَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ: فَهِيَ وَاللّٰهِ هِيَ۔

(صحيح)

أخرجه **البيهقي في الاسماء والصفات**، باب ماجاء في فضل الكلمة الباقية، : ۱۷۲، (۱/۲۳۸)۔ **كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۹، من سورة محمد۔ **قلت:** (أى: المؤلف) أخرجه **الحاكم**، كتاب الجنائز: ۱۲۹۸، (۱/۴۶۲)۔ **وقال: صحيح على شرط الشيخين۔ وأقره عَلَيْهِ الذهبي**، وأخرجه أحمد في مسنده، مسندأبى محمد طلحة بن عبيدالله، : ۱۳۸۴، (۳/۸)۔ **وأخرج أيضا من مُسْنَد عمر رضى الله عنه، بمعناه بزيادة فيهما، وأخرجه ابن ماجه**، كتاب الأدب، باب فضل لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ: ۳۷۹۵، (۴/۲۴۵)۔ **عن يحيى بن طلحه، عن امه، وفي شرح الصدور للسُيُوطي**، (۱/۴۶)۔ وأخرج اَبُو يعلى، مسند طلحة بن عبيدالله: ۶۵۵، (۲/۲۲)۔ **والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمر قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يقول: "اني اعلم كلمة"۔**

بات ہے؟ فرمایا: میں نے حضور ﷺ سے یہ سُنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا مَنظر دیکھے، مگر مجھے حُضور ﷺ سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی (اس کا رنج ہو رہا ہے)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے طلحہ رضی اللہ عنہ (خوش ہو کر) کہنے لگے: کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے جس کو حُضور ﷺ نے اپنے چچا (اَبُو طالب) پر پیش کیا تھا اور وہ ہے "**لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ**" فرمایا: واللہ! یہی ہے، واللہ! یہی ہے۔

ف: کلمۂ طیّبہ کا سراسر نور و سُرُور ہونا بہت سی رِوایات سے معلوم و مفہوم ہوتا ہے۔ حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "مُنَبِّہات" میں حضرت اَبُو بکر صِدِّیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے پانچ ہیں اور پانچ ہی ان کے لئے چراغ ہیں: دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے۔ اور گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے۔ قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ "**لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ**" ہے۔ اور آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے۔ اور پل صِراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔

رَابِعہ عَدَویہؒ مشہور وَلِیّہ ہیں، رات بھر نماز میں مشغول رہتیں، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سو رہتیں اور جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا، تو گھبرا کر اُٹھتیں اور نفس کو

ملامت کرتیں کہ کب تک سوتا رہے گا۔ عنقریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں صُور پھونکنے تک سونا ہی ہو گا۔ جب اِنتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک خادمہ کو وصیّت فرمائی کہ یہ اونی گدڑی جس کو وہ تہجُّد کے وقت پہنا کرتی تھیں، اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسبِ وصیّت تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اَعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہا: اللہ کا ذِکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو، اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤں گی۔

(۲۶) عَنْ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهٖ فَاشْتَكٰى عُمَرُ رضی اللہ عنہ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ رضی اللہ عنہ ثُمَّ أَقْبَلَا حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رضی اللہ عنہ مَا حَمَلَكَ عَلٰى أَنْ لَا تَرُدَّ عَلٰى أَخِيْكَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ سَلَامَهٗ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ بَلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا شَعَرْتُ إِنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رضی اللہ عنہ صَدَقَ عُثْمَانُ رضی اللہ عنہ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ أَمْرٌ فَقُلْتُ أَجَلْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوَفَّى اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهٗ عَنْ نَّجَاةِ هٰذَا الْأَمْرِ

حُضور اَقدس ﷺ (روحی فداہ) کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مُختلِف طور کے وَساوِس میں مُبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا جو وَساوِس میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا، مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا، انہوں نے حضرت اَبُو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی (کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام کیا انہوں نے جواب بھی نہ دیا) اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا اور حضرت اَبُو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر

قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رضی اللہ عنہ قَدْ سَأَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهٗ بِأَبِيْ أَنْتَ وَ أُمِّيْ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رضی اللہ عنہ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ، مَا نَجَاةُ هٰذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَبِلَ مِنِّيْ الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّيْ فَرَدَّهَا، فَهِيَ لَهٗ نَجَاةٌ۔

(صحيح بالشواهد)

رواه أحمد في مسنده، مسندمسندأبى بكرالصديق: ٢٠، (١/٢٠١)۔ **كذافي المشكوٰة**، كتاب الإيمان، ألفصل الثالث: ٤١، (١/٩)۔ **وفي مجمع الزوائد**، كتاب الإيمان: ١، (١/١٥٧)۔ **رواه** أحمد **والطبراني في الأوسط**، باب الألف من اسمه إبراهيم: ٢٨٣٩، (٣/١٧٤)۔ **باختصار، وأبو يعلى،** مسند أبى بكر الصديق: ١٠، (١/٢٢)۔ **بتمامه۔ والبزار**، باب ماروى عثمان بن عفان: ٤، (١/٥٦) **بنحوه۔ وفيه رجل لم يسم، لكن الزهرى وثقه وابهمه اه قلت: وذكر في مجمع الزوائد له متابعات بألفاظ متقاربة۔**

رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا؟ (کیا بات ہے)۔ میں نے عرض کیا: میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت اَبُو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہو گا۔ غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہو گے، میں نے عرض کیا: واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت اَبُو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت اَبُو بکر صِدّیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا: تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے (کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو) حضرت اَبُو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حُضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا

(اَبُوطالب پر ان کے اِنتِقال کے وقت)
پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی
کلمۂ نجات ہے۔

ف: وَساوِس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صَحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت رنج و غم کی شِدَّت میں ایسے پریشان ہوگئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوگئے تھے، کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حُضور ﷺ کا وِصال ہوگیا، اس کی گردن اُڑادوں گا۔ حُضور ﷺ تو اپنے رَبّ سے ملنے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ عَلَیہِ السَّلام طُور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعض صَحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ خیال پیدا ہوگیا کہ دین اب ختم ہو چکا۔ بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ بعض بالکل گم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا۔

ایک اَبُوبکر صِدّیق رضی اللہ عنہ کا دَم تھا، جو حُضور ﷺ کے ساتھ کمالِ عشق اور کمالِ محبت کے باوجود اس وقت ثابت قدم اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے۔ انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ﴾ (آل عمران: ۱۴۴) والی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ محمد ﷺ نرے رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں ہیں جسے موت آ ہی نہ سکے)۔ پس اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم لوگ (دین سے) پھر جاؤ گے اور جو شخص (دین سے) پھر جائے گا، وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دیگا)①۔ مُختصر طور پر اس قصّہ کو میں اپنے رسالہ ”حکایاتِ صَحابہ“ میں لکھ چکا ہوں۔ آگے جو اِرشاد ہے کہ اس کام کی نجات کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں: ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان سب کاموں میں مَدار کس چیز پر ہے کہ جس کے بغیر چارۂ کار نہ ہو۔ اس مطلب کے مُوافِق جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارا مَدار کلمۂ شہادت پر ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمۂ طیّبہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کام یعنی دین میں دِقّتیں بھی پیش آتی ہیں، وَساوِس بھی گھیرتے ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مُستقِل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس صورت میں مطلب اِرشادِ نبوی ﷺ کا یہ ہے کہ کلمۂ طیّبہ کی کثرت

---

① تاریخ الخمیس، ذکر بیعۃ ابی بکر، ۲/ ۱۶۷

ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اِخلاص پیدا کرنے والا ہے۔ دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب رِوایات میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کئے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے ننانوے قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جن میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے ❶۔

(۲۷) عَنْ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ، إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ رضی اللہ عنہ ابْنُ الْخَطَّابِ، أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِيْ أَعَزَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصْحَابَهٗ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوٰى الَّتِيْ أَلَاصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَمَّهٗ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ۔

حضرت عثمان ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حُضور ﷺ سے سُنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اِخلاص کے ساتھ دِل سے (یقین کرتے ہوئے) اس کو پڑھے، تو جہنّم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہ ؓ کو عزت دی۔ وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی حُضور اَقدس ﷺ نے اپنے چچا اَبُوطالب سے ان کے اِنتِقال کے وقت خواہش کی تھی۔ وہ شہادت ہے "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کی۔

(اسنادہ قوی)

رواہ أحمد في مسندہٖ، مسندعثمان بن عفان: ۴۴۷، (۴۹۹/۱)۔ وأخرجه **الحاكم**، كتاب الجنائز: ۱۲۹۸، (۵۰۲/۱)، بهٰذا اللفظ، وقال: صحيح على شرطهما وأقره عَلَيْهِ الذهبي، وأخرجه **الحاكم**، كتاب الإيمان: ۲۴۲، (۱۴۴/۱) بروایة عثمان رضی الله عنه، عن عمر رضی الله عنه، مرفوعا: "اني لا علم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذٰلک، الا حرمه الله على النار: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" وقال: هٰذا صحيح على شرطهما، ثم ذِكر له شاهدين من حديثهما۔

ف: حُضور ﷺ کے چچا اَبُوطالب کا قصّہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور ومعروف ہے کہ جب ان کے اِنتِقال کا وقت قریب ہوا، تو چونکہ ان کے اِحسانات نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں پر کثرت سے تھے، اس لئے نبی اکرم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور اِرشاد فرمایا کہ اے میرے چچا! "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کہہ لیجئے، تاکہ مجھے

---

❶ الغرائب الملتقط، ۲۸۳۸

قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے اور میں اللہ کے یہاں آپکے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت اس کلمہ کے کہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر حضور ﷺ رنجیدہ واپس تشریف لائے ❶۔ اسی قصہ میں قرآنِ پاک کی آیت لکھی ﴿اِنَّكَ لَا تَهۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ﴾ (القصص: ۵۶) نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں فرماسکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اس قصہ سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ فِسق وفُجور میں مُبتلا رہتے ہیں، خدا اور اس کے رسول ﷺ سے بیگانہ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عزیز قریب بُزرگ کی دُعا سے بیڑا پار ہو جائے گا، غلطی میں مُبتلا ہیں، کام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، اسی کی طرف رُجوع کرنا چاہیئے، اسی سے سچا تعلّق قائم کرنا ضروری ہے، البتّہ اللہ والوں کی صحبت، ان کی دعا، ان کی توجُّہ مُعین ومددگار بن سکتی ہے۔

(۲۸) عَنۡ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ ﷺ: لَمَّا أَذۡنَبَ اٰدَمُ الذَّنۡبَ الَّذِیۡ أَذۡنَبَهٗ، رَفَعَ رَأۡسَهٗ إِلَی السَّمَآءِ فَقَالَ: أَسۡأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ؟ أَلَّا غَفَرۡتَ لِیۡ، فَأَوۡحَی اللهُ إِلَیۡهِ مَنۡ مُّحَمَّدٌ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسۡمُكَ لَمَّا خَلَقۡتَنِیۡ، رَفَعۡتُ رَأۡسِیۡ إِلٰی عَرۡشِكَ، فَإِذَا فِیۡهِ مَكۡتُوۡبٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللهِ، فَعَلِمۡتُ أَنَّهٗ لَیۡسَ أَحَدٌ أَعۡظَمَ عِنۡدَكَ قَدۡرًا عَمَّنۡ جَعَلۡتَ إِسۡمَهٗ مَعَ اسۡمِكَ فَأَوۡحَی اللهُ إِلَیۡهِ، یَا اٰدَمُ، إِنَّهٗ اٰخِرُ النَّبِیِّیۡنَ مِنۡ ذُرِّیَّتِكَ، وَلَوۡ لَا هُوَ مَا خَلَقۡتُكَ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ حضرت آدم (علٰی نَبِیِّنَا و عَلَیۡهِ الصَّلوٰۃ و السَّلام) سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا (جس کی وجہ سے جنّت سے دنیا میں بھیج دیئے گئے تو ہر وقت روتے رہتے تھے اور دُعا و اِستِغفار کرتے رہتے تھے)۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا: یا اللہ! محمد (ﷺ) کے وسیلہ سے تجھ سے مَغفِرت چاہتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں (جن کے واسطے سے تم نے اِستِغفار کی)؟ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا

---

❶ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، ۳۱۸۸

(ضعيف جدا)

أخرجه **الطبراني في الصغير،** باب حرف الميم من اسمه محمد: ۹۹۲، (۱۸۲/۲)۔ **والحاكم،** كتاب تواريخ المتقدمين، ۴۲۸۸، (۶۷۲/۲) قال في التلخيص: موضوع۔ **وأبو نعيم والبيهقي،** في دلائل النبوة، أبواب غزوة تبوك: ۲۲۴۳، (۱۱۸/۶)۔ **كلاهما في الدلائل، وابن عساكر** في تاريخه، حرف الياء، ص، (۴۳۷/۷) **في الدر، وفي مجمع الزوائد،** كتاب علامات النبوة، باب عزم قدره صلى الله عَلَيْهِ وسلم: ۱۳۹۱۷، (۴۵۳/۸)۔ **رواه الطبراني** في الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد،: ۶۵۰۲، (۳۱۳/۶)، **والصغير،** حرف الميم، من اسمه محمد: ۹۹۲، (۱۸۲/۲)۔ **وفيه من لم اعرفهم۔ قلت: ويؤيد الآخر الحديث المشهور: ”لولاک لما خلقت الافلاک“۔ قال القاری في الموضوعات الكبير: ۳۸۵، (۲۹۵/۱): مَوضُوع، لكن معناه صحيح۔ وفي التشرف: معناه ثابت۔ ويؤيد الأول ماورد في غير رواية من ”انه مكتوب على العرش واوراق الجنة: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ محمد رسول اللّٰه“۔ كما بسط طرقه السُيُوطي في مناقب اللآلي في غير موضع، وبسط له شواهد أيضا في تفسيره في سورة الم نشرح۔**

ہوا دیکھا تھا **”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“** تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے، جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خَاتَمُ النَّبِيِّيْن ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کئے جاتے۔

ف: حضرت آدم عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کیں اور کس کس طرح سے گڑگڑائے؟ اس بارے میں بہت سی روایات وَارِد ہوئی ہیں اور ان میں کوئی تعارُض بھی نہیں، جس پر مالک کی ناراضگی، آقا کی خَفگی ہوئی ہو وہی جانتا ہے۔ ان بے حقیقت آقاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں اور خادموں پر کیا کچھ گزر جاتا ہے اور وہاں تو مالِکُ الْمُلک، رزّاقِ عالَم اور مُختصر یہ کہ خدا کا عِتاب تھا اور گزر کس پر رہی تھی؟ اس شخص پر جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اپنا مُقَرَّب بنایا۔ جو شخص جتنا ہی مُقَرَّب ہوتا ہے اتنا ہی عِتاب کا اس پر اثر ہوتا ہے، بشرطیکہ کمینہ نہ ہو اور وہ تو نبی تھے۔ حضرت اِبْنِ عباس رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام اس قدر روئے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں کا رونا اگر جمع کیا جائے، تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چالیس برس تک سر اُوپر نہیں اٹھایا ❶۔ حضرت بُرَیْدَہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ خود حُضورِ اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدمؑ کے رونے کا تمام دنیا کے رونے سے مقابلہ کیا جائے، تو ان کا رونا بڑھ جائے گا ❷۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو ان کی تمام اولاد کے آنسوؤں سے وزن کیا جائے، تو ان کے آنسو بڑھ جائیں گے ❸، ایسی حالت میں کس کس طرح زاری فرمائی ہوگی ظاہر ہے۔

یاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں   واں ایک خامُشی تری سب کے جواب میں

اس لئے جو رِوایات میں ذِکر کیا گیا ان سب کے مجموعہ میں کوئی اِشکال نہیں۔

---

❶ شعب الایمان، الخوف من اللہ، ۸۰۹

❷ تفسیر البغوی، البقرۃ: ۳۴

❸ ایضاً

مِن جُملہ ان کے یہ بھی ہے کہ حُضور ﷺ کا وسیلہ اختیار فرمایا۔ دوسرا مضمون عرش پر ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا ہوا ہونا یہ اور بھی بہت سی مُختلِف روایتوں میں آیا ہے۔

حُضور ﷺ اِرشاد فرماتے ہیں: میں جنَّت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں تین سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں: پہلی سطر میں ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا تھا۔ دوسری سطر میں ”مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا“ تھا (جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا وہ پالیا اور جو دنیا میں کھایا، وہ نفع میں رہا اور جو کچھ چھوڑ آئے، وہ نقصان رہا) اور تیسری سطر میں تھا ”اُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ“ (امت گناہ گار اور مالک بخشنے والا) ❶۔ ایک بُزرگ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا، جس کے پھل بادام کے مُشابہ ہوتے ہیں، اس کے دو چھلکے ہوتے ہیں، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو ان کے اندر سے ایک سبز پتہ لپٹا ہوا نکلتا ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو سرخی سے ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا ہوا ملتا ہے۔ میں نے اس قصّہ کو اَبُو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ شکاری سے ذِکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ تعجّب کی بات نہیں، میں نے ”اَیلہ“ میں ایک مچھلی شکار کی تھی، اس کے ایک کان پر ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ اور دوسرے پر ”مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا ہوا تھا۔

(۲۹) عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ رضی اللہ عنہا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِسْمُ اللّٰهِ الْأَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، وَالٓمٓ o اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

(حسن)

أخرجه **ابن أبی شيبة**، كتاب الزهد، باب ماقالوافي البكاء: ۳۶۷۵۶، (۱۹/۴۷۵)۔ وأحمد في مسنده، عن اسماء بنت

حضرت اَسماء رضی اللہ عنہا حُضورِ اَقدس ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام (جو اسمِ اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے) ان دو آیتوں میں ہے (بشرطیکہ اِخلاص سے پڑھی جائیں) وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (البقرہ، ع: ۱۹) اور الٓمٓ o اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (آل عمران، ع: ۱)

---

❶ التدوین فی اخبار قزوین، باب الصاد الاسم الرابع، ۹۱/۳

يزيد رضی الله عنها: ٢٧٦١١، (٤٥/٥٨٤)۔ **والدارمی،** كتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة: ٣٣٨٩، (٢/٣٣٣)۔ **و أبوداود،** باب الدعاء: ١٤٩١، (٢/٢٨٤)۔ **والترمذي،** أبواب الدعوات، باب ماجاء في جَامِع الدعوات: ٣٤٧٨، ص (٧٩٠)۔ **وصححه وابن ماجه،** كتاب الدعاء، باب اسم الله الاعظم: ٣٨٥٥، (٤/٢٧٥)۔ **وأبومسلم الكجی في السنن، وابن الضريس** في فضائل القرآن، باب في فضل سورة البقرة: ١٨٢، (١/٨٩)۔ **وابن أبي حاتم** في تفسيره، تحت الآية: ١٦٣، من سورة البقرة۔ **والبيهقي في الشعب،** باب تعظيم القرآن، فصل في فضائل السور: ٢١٦٦، (٤/٤٩)۔ **كذافي الدر،** تحت الآية: ١٦٣، من سورة البقرة۔

ف: اسمِ اعظم کے متعلّق رِوایاتِ حدیث میں کثرت سے وَارِد ہوا ہے کہ جو دُعا بھی اس کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے ❶۔

البتّہ اسمِ اعظم کی تعیُین میں رِوایات مُختلِف وَارِد ہوئی ہیں اور یہ عادتُ اللہ ہے کہ ہر اِیسی مُہتَم بِالشّان چیز میں اِخفاء کی وجہ سے اِختلاف پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ شبِ قدر کی تعیُین میں، جمعہ کے دن دُعا قبول ہونے کے خاص وقت میں اِختلاف ہوا۔ اس میں بہت سی مَصالِح ہیں جن کو میں اپنے رسالہ ”فضائل رمضان“ میں لکھ چکا ہوں۔ اسی طرح اسمِ اعظم کی تعیُین میں بھی مُختلِف رِوایات وَارِد ہوئیں۔ مِن جُملہ ان کے یہ روایت بھی ہے جو اُوپر ذِکر کی گئی اور بھی رِوایات میں ان آیتوں کے متعلّق اِرشاد وَارِد ہوا ہے۔ حضرت اَنس رضی اللہ عنہ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نَقل کرتے ہیں کہ مُتَمَرِّد اور شَرّی شیاطین پر ان دو آیتوں سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں۔ وہ دو آیتیں **وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ** (البقرة: ١٦٣) سے شروع ہیں ❷۔ ابراہیم بن وَسْمَہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجنونانہ حالتِ نَظر کے لئے ان آیات کا پڑھنا مُفید ہے۔ جو شخص ان آیات کے پڑھنے کا اِہتمام رکھے اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہے۔ (**وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ** پوری آیت (البقرہ، رکوع: ١٩) (**اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ**) آیۃُ الکُرسی اور سورۂ بقرہ کی آخر آیت اور **اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ** سے **مُحْسِنِیْنَ** تک (الإعراف: ٥٤، رکوع: ٧) اور سورۂ حشر کی آخری آیتیں **هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** سے)۔ ہمیں یہ بات پہنچی کہ سب آیات (جن کو گنوایا) عرش کے کونوں پر لکھی ہوئی ہیں اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بچّوں کو اگر ڈر لگتا ہو یا نظر کا اندیشہ ہو، تو یہ آیات ان کے لئے لکھ دیا کرو۔

علّامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اسمِ اعظم لفظ ”اللہ“ ہے اور لکھا ہے کہ یہی قول علّامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے عُلماء سے نَقل کیا گیا ہے اور اکثر عارِفین (اکابرِ صوفیہ) کی یہی تحقیق ہے، اسی وجہ سے ان کے نزدیک ذِکر بھی

---

❶ ابوداود، باب الدعاء، ١٤٩٥

❷ مسند الفردوس (٣۔٣٨٥)، ٥١٧٧

اسی پاک نام کا کثرت سے ہوتا ہے۔ سیّد الطّائفہ حضرت شیخ عبدُ القادر جیلانی نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسمِ اعظم ''اللہ'' ہے۔ بشرطیکہ جب تُو اس پاک نام کو لے، تو تیرے دِل میں اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ عوام کے لئے اس پاک نام کو اس طرح لینا چاہیئے کہ جب یہ زبان پر جاری ہو، تو عظمت اور خوف کے ساتھ ہو اور خواص کے لئے اس طرح ہو کر اس پاک نام والے کی ذات و صِفات کا بھی اِستِحضَار ہو۔ اور اَخَصُّ الخَوَاص کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس پاک ذات کے سوا دِل میں کوئی چیز بھی نہ ہو، کہتے ہیں کہ قرآنِ پاک میں بھی یہ مبارک نام اتنی کثرت سے ذِکر کیا گیا کہ حد نہیں، جس کی مقدار دو ہزار تین سو ساٹھ (۲۳۶۰) بتاتے ہیں۔

شیخ اسماعیل فرغانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عرصہ سے اسمِ اعظم سیکھنے کی تمنّا تھی، مجاہدے بہت کرتا تھا، کئی کئی دن فاقے کرتا، حتیٰ کہ فاقوں کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر جاتا۔ ایک روز میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے۔ مجھے ان کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ یہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا: تُو کیا اسمِ اعظم سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہاں: ہاں بتا دیجئے۔ میں یہ گفتگو سن کر غور کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ لفظ ''اللہ'' ہے، بشرطیکہ صدقِ لجا سے ہو۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صَدَقِ لَجَا کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کی حالت اس وقت ایسی ہو کہ جیسا کوئی شخص دریا میں غرق ہو رہا ہو اور کوئی بھی اس کو بچانے والا نہ ہو، تو ایسے وقت جس خلوص سے نام لیا جائے گا، وہ حالت مُرادِ ہے۔

اسمِ اعظم ہونے کے لئے بڑی اہلیت اور بڑے ضبط و تحمُّل کی ضرورت ہے۔ ایک بُزرگ کا قصّہ لکھا ہے کہ ان کو اسمِ اعظم آتا تھا۔ ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تمنّا و استدعا کی کہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ ان بُزرگ نے فرمایا: تم میں اہلیت نہیں ہے۔ فقیر نے کہا مجھ میں اس کی اہلیت ہے، تو بُزرگ نے فرمایا کہ اچھّا فُلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور جو واقعہ وہاں پیش آوے، اس کی مجھے خبر دو۔ فقیر اس جگہ گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص گدھے پر لکڑیاں لادے ہوئے آ رہا ہے۔ سامنے سے ایک سپاہی آیا جس نے اس

بوڑھے کو مار پیٹ کی اور لکڑیاں چھین لیں۔ فقیر کو اس سپاہی پر بہت غصّہ آیا، واپس آ کر بُزرگ سے سارا قصّہ سنایا اور کہا کہ مجھے اگر اسمِ اعظم آ جاتا تو اس سپاہی کیلئے بد دعا کرتا۔ بُزرگ نے کہا کہ اس لکڑی والے ہی سے میں نے اسمِ اعظم سیکھا تھا۔

(۳۰) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَفِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْإِيْمَانِ، أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَوْ ذَكَرَنِيْ، أَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ۔

(حسن بالمتابعة)

أخرجه **الحاكم**، كتاب الإيمان: ۲۳۴، (۱/۱۶۹)۔ **برواية المؤمل، عن المبارك بن فضالة وقال: صحيح الإسناد۔ وأقره عَلَيْهِ الذهبي، وقال الحاكم: قد تابع أبوداود مؤملًا على روايته، واختصره،** كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر: ۴۰۸۸، (۴/۲۱۷)۔

حضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ (قیامت کے دن) حق تعالیٰ شانہ اِرشاد فرمائیں گے کہ جہنّم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کہا ہو اور اس کے دِل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" کہا ہو، یا مجھے (کسی طرح بھی) یاد کیا ہو، یا کسی موقعہ پر مجھ سے ڈرا ہو۔

ف: اس پاک کلمہ میں حق تعالیٰ شانہٗ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ سو (۱۰۰) برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر و شرک میں گزری ہو، ایک مرتبہ اس پاک کلمہ کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کئے ہوں، تب بھی اس کلمہ کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنّم سے ضرور نکلے گا۔

حضرت حُذیفہ رضی اللہ عنہ (جو حُضور اَقدس ﷺ کے رازدار ہیں) فرماتے ہیں کہ نبیِ اکرم ﷺ نے اِرشاد فرمایا ہے (ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے) کہ اسلام ایسا دُھندلا رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار (پرانے ہو جانے سے) دُھندلے ہو جاتے ہیں، کہ نہ کوئی روزہ کو جانے گا، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، آخر ایک رات ایسی ہو گی کہ قرآنِ پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، کوئی آیت اس کی باقی نہ رہے گی۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" پڑھتے سُنا تھا، ہم بھی اسی کو پڑھیں گے۔ حضرت حُذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ جب زکوٰۃ، حج، روزہ کوئی رکن نہ ہو گا تو یہ کلمہ ہی کیا کام

دے گا۔ حضرت حُذیفہ رضی اللہ عنہ نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (کسی نہ کسی وقت) جہنّم سے نکالے گا، جہنّم سے نکالے گا، جہنّم سے نکالے گا، یعنی اَرکانِ اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بُھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت اس کلمہ کی برکت سے نجات پائے گا❶۔ یہی مطلب ہے حدیثِ بالا کا کہ اگر ایمان کا ذرا سا حصّہ بھی ہے، تب بھی جہنّم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" پڑھے وہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا، گو اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے❷۔

(۳۱) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم: أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ طَيَالِسَةَ مَكْفُوْفَةٌ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا يُرِيْدُ أَنْ يَّرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ وَابْنَ رَاعٍ وَيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَابْنَ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُغْضِبًا فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهٖ فَاجْتَذَبَهٗ وَقَالَ أَلَا أَرٰى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَّا يَعْقِلُ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَلَسَ فَقَالَ إِنَّ نُوْحًا لَّمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا إِبْنَيْهِ فَقَالَ إِنِّيْ قَاصٌّ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ اٰمُرُكُمَا بِاثْنَيْنِ وَأَنْهٰكُمَا عَنِ اثْنَيْنِ أَنْهٰكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَاٰمُرُكُمَا بِلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيْهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ، وَوُضِعَتْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرٰى كَانَتْ أَرْجَحَ

حُضورِ اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دیباج کی گوٹ تھی۔ (صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب کر کے) کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے (بکری چرانے والے) اور چرواہے زادے کو بڑھا دیں اور شہسوار اور شہسواروں کی اولاد کو گرا دیں۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچا اور اِرشاد فرمایا کہ (تو ہی بتا) تو بیوقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے، پھر اپنی جگہ واپس آکر تشریف فرما ہوئے اور اِرشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیٰ نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کا جب اِنتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بُلایا

---

❶ ابن ماجہ، کتاب الفتن، ۴۰۴۹

❷ المعجم الاوسط، من اسمہ الحسین، ۳۴۸۶

مِنْهُمَا، وَلَوْ أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا كَانَتْ خَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهَا، لَقَصَمَتْهَا۔ وَاٰمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ فَإِنَّهُمَا صَلٰوةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهِمَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔

(حسن بالشاهد)

أخرجه **الحاكم**، كتاب الإيمان: ١٥٤، (١١٢/١)۔ **وقال: صحيح الإسناد۔ ولم يخرجه للصقعب ابن زهير، فانه ثقة قليل الحديث: اھ وأقره عَلَيْهِ الذهبي، وقال: الصقعب ثقة۔ ورواه ابن عجلان عن زَيد بن اسلم مرسلا (ايضاً) اھ قلت: ورواه** أحمد **في مسنده بزيادة فيه بطرق۔ وفي بعض منها: "فان السمٰوٰت السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ"۔ وذكره المنذري في الترغيب،** كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ: ٢٢٢٥، (٦٢٦/٢)۔ **عن ابن عمر رضى الله عنهما مُختصرا، وفيه: "لوكانت حلقه لقصمتهن، حتى تخلص إلى الله"۔ ثم قال: رواه البزار،** بحواله كشف الاستّار، كتاب الأذكار، باب فضل لا اله الا الله: ٣٠٦٩، (٧/٤)۔ **ورواته محتج بهم في الصحيح، الا ابن اسحاق، وهو في النسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة: ١٠٦٠٠، (٣٠٦/٩)۔ **عن صالح بن سعيد، رفعه إلى سليمان بن يسار، إلى رجل من الأنصار، لم يسمه۔ ورواه الحاكم عن عبد الله، وقال: صحيح الإسناد، ثم ذكر لفظه۔ قلت: وحديث سليمان بن يسار ياتى في بيان التسبيح۔ وفي مجمع الزوائد،** كتاب الوصايا، وصية نوح عَلَيْهِ السَّلام: ٧١٢٤، (٣٩٨/٤)۔ **رواه أحمد** في مسنده، مسند عبد الله بن عمر بن العاص: ٧١٠٠، (٦٧٠/١١)۔ **ورواه الطبراني** في الكبير، باب العين، عمرو بن دينار: (٧/١٣)۔ **بنحوه، ورواه البزار من حديث ابن عمر رضى الله عنهما۔ ورجال أحمد ثقات۔** قال: في رواية البزار محمد بن اسحاق، وهو مدلس، وهو ثقة۔

اور اِرشاد فرمایا کہ میں تمہیں (آخری) وصیّت کرتا ہوں، جس میں دو چیزوں سے روکتا ہوں اور دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ جن سے روکتا ہوں: ایک شِرک ہے، دوسرا تکبُّر۔ اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں: ایک "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" ہے کہ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں (اخلاص سے کہا ہوا) "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ" رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمہ کو اس پر رکھ دیا جائے، تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں وہ "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ" ہے کہ یہ دو لفظ ہر مخلوق کی نماز ہیں اور انہیں کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔

ف: حُضورِ اَقدس ﷺ کا کپڑوں کے متعلّق اِرشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے باطن پر اِستدلال کیا جاتا ہے، جس شخص کا ظاہر حال خراب ہے اس کے باطن کا حال بھی بظاہر ویسا ہی ہے۔ اس لئے ظاہر کو بہتر رکھنے کی سعی کی جاتی ہے کہ باطن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لئے صُوفیۂ کِرام ظاہری طہارت، وضو وغیرہ کا اِہتمام کرتے ہیں، تاکہ باطن کی طہارت حاصل ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں: اَجی "باطن اچھا ہونا چاہیئے ظاہر چاہے

کیسا ہی ہو" صحیح نہیں۔ باطن کا اچھا ہونا مُستقِل مقصود ہے اور ظاہر کا بہتر ہونا مستقل۔ نبی اکرم ﷺ کی دعاؤں میں ہے۔ "أَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً" (ترجمہ) اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا اور میرے ظاہر کو صالح اور نیک بنادے)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضورِ اَقدس ﷺ نے یہ دُعا تعلیم فرمائی ہے ❶۔

(۳۲) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ أَبَابَكْرٍ رضی اللہ عنہ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ كَئِيْبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا لِيْ أَرَاكَ كَئِيْبًا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلُ! كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لِّيَ الْبَارِحَةَ فُلَانٌ، وَهُوَ يَكِيْدُ بِنَفْسِهٖ قَالَ: فَهَلْ لَّقَّنْتَهٗ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: فَقَالَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: يَارُسُوْلُ، كَيْفَ هِيَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوْبِهِمْ، هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوْبِهِمْ۔

(ض)

رواه أبُويعلى، مسند أبى بكر الصديق،: ٧٠، (٧٠/١)۔ **والبزار**، مسند أبى حمزة: ٦٤٩٩، (١١٨/١٣)۔ **وفيه زائدة بن أبى الرقاد، وثقه القوارى**، كذا في الجرح والتعديل، (٢١٣/٣)۔ **وضعفه البخاري**، التاريخ الكبير، (٤٣٣/١٣)۔ **وغيره كذا في مجمع الزاوائد**، كتاب الجنائز، باب تلقين الموت،: ٣٩١٠، (٦٤/٣)۔ **وأخرج بمعناه عن إبْنِ عَبَّاس أيضا۔ قلت: وروى عن على مرفوعا: "من قال إذا أمر بالمقابر: السَّلام على اهل لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ من اهل لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، كيف وجدتم قول لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟ يا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، اغفر لمن قال لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ واحشرنا في زمرة من قال لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ غفر له ذنوب خمسين سنة۔ قيل: يا رسول الله، من لم يكن له ذنوب خمسين سنة؟ قال: لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين"۔ رواه الديلمى في تاريخ همدان، والرافعى، وابن النجار، كذا في منتخب كنز**

حضرت اَبو بکر صِدِّیق رضی اللہ عنہ حُضور ﷺ کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے۔ حُضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرے چچازاد بھائی کا اِنتقال ہو گیا، میں نزع کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا (اس مَنظَر سے طبیعت پر اثر ہے) حُضور ﷺ نے فرمایا: تم نے اس کو لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا: کی تھی۔ اِرشاد فرمایا کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا۔ اِرشاد فرمایا کہ جنَّت اس کے لئے واجب ہو گئی۔ حضرت اَبو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! زندہ لوگ اس کلمہ کو پڑھیں تو کیا ہو؟ حُضور ﷺ نے دو مرتبہ یہ اِرشاد فرمایا کہ کلمہ ان کے گناہوں کو بہت ہی مُنْہَدِم کر دینے والا ہے (یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا

---

❶ ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۸۶

العمال: ۴۲۵۹۱، (۱۵/۶۵۴)۔ لکن روی نحوہ السُیُوطي في ذیل اللآلی، کتاب الذکر والدعاء، (۲/۲۲۴)۔ ہے)۔
وتکلم علی سندہ، وقال: الإسناد کلہ ظلمات، ورمي رجالہ بالکذب، وفي تنبیہ الغافلین، باب ما جاء في فضل لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ: ۶۴۰، (۱/۴۱۷)۔ وروی عن بعض الصحابة: ”من قال لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ من قلبہ خالصا ومدھا بالتعظیم، کفر اللّٰہ عنہ اربعة آلاف ذنب من الکبائر۔ قیل: ان لم یکن لہ اربعة الاف ذنب؟ قال: یغفر من ذنوب اھلہ وجیرانہ“ اھ قلت: وروی بمعناہ مرفوعا، لکنھم حکموا عَلَیْهِ بالوضع، کما في ذیل الإلی (ایضا) نعم، یؤیدہ الأمر بدفن جوار الصالح وتاذیہ بجوار السوء، ذکرہ السُیُوطي في اللالی، (۲/۳۶۵)۔ بطرق، وورد السَّلام علی اھل القبور بألفاظ مختلفة في کنز العمال وغیرہ۔

ف: مَقابِر میں اور مَیِّت کے قریب کلمۂ طیّبہ پڑھنے کے متعلّق بھی کثرت سے اَحادیث میں اِرشاد ہوا ہے ❶۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازہ کے ساتھ کثرت سے ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ پڑھا کرو ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری اُمّت کا شِعار (نشان) جب وہ پُل صِراط پر چلیں گے تو ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ“ ہو گا ❸۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اُٹھیں گے تو ان کا نشان ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ“ ہو گا ❹۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کا نشان ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ“ ہو گا ❺۔ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ“ کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں مرنے سے پہلے بھی بسا اوقات نزع کے وقت محسوس ہو جاتی ہیں اور بعض اللہ کے بندوں کو اس سے بھی پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔

اَبُو الْعَبَّاس رَحمۃُ اللہِ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر ”اِشْبِیلہ“ میں بیمار پڑا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے بڑے بڑے اور مُختلِف رنگ کے سفید سرخ سبز ہیں، جو ایک ہی دفعہ سب کے سب پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ کھول دیتے ہیں اور بہت سے آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے طباق ڈھکے ہوئے ہیں، جن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں اس سب کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ موت کے تحفے ہیں۔ میں جلدی جلدی کلمۂ طیّبہ پڑھنے لگا، ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، یہ ایک اور مُؤمن کے لئے تحفہ ہے جس کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رَحمۃُ اللہِ علیہ کا جب اِنتِقال ہونے لگا تو فرمایا مجھے بٹھا دو، لوگوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا (یا اللہ!) تو نے مجھے بہت سے کاموں کا حکم فرمایا، مجھ سے اس میں کوتاہی ہوئی۔ تو نے مجھے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، مجھ سے اس میں نافرمانی ہوئی۔ تین مرتبہ یہی کہتے رہے، اس کے بعد فرمایا لیکن ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا

---

❶ تاریخ ہمدان للدیلمی، ۲۳۱۱۳
❷ الغرائب الملتقطہ، ۹۴
❸ المعجم الکبیر، ابو قبیل عن عبد اللہ بن عمرو، ۱۶۸
❹ جمع الجوامع، ۴۴
❺ الجامع الصغیر، باب حرف الشین، ۴۸۸۷

اللہُ‘‘ یہ فرما کر ایک جانب غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟۔ فرمایا کچھ سبز چیزیں ہیں کہ نہ وہ آدمی ہیں نہ جنّ، اس کے بعد اِنتِقال فرمایا۔ زبیدہ رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیہا کو کسی نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا: کیا گزری؟ اس نے کہا کہ ان چار کلموں کی بدولت میری مغفِرت ہو گئی۔ ’’لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أُفْنِي بِهَا عُمْرِيْ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أُدْخُلُ بِهَا قَبْرِيْ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أُخْلُوْ بِهَا وَحْدِيْ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَلْقٰى بِهَا رَبِّيْ ’’لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ‘‘ کے ساتھ اپنی عمر کو ختم کروں گی۔ اور لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ہی کو قبر میں لے کر جاؤں گی اور لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ہی کے ساتھ تنہائی کا وقت گزاروں گی اور لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ہی کو لے کر اپنے رَبّ کے پاس جاؤں گی)۔

(۳۳) عَنْ أَبِيْ ذَرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أَوْصِنِيْ. قَالَ: إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟ قَالَ: هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ.

حضرت اَبُوذر غفاری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کوئی وصیّت فرما دیجئے۔ اِرشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفّارہ کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو (تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے) میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔

(حسن بالمتابعة والشاهد)

رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار: ۲۱۵۳۶، (۳۵/۴۲۵)۔ **وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ما جاء في فضل لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ: ۱۶۷۹۷، (۱۰/۸۶)۔ **رواه أحمد، ورجاله ثقات، الاان شمر بن عطية حدثه عن اشياخه، ولم يسم احدا منهم۔ قال السُّيوطي في الدر**، تحت الآية: ۳۴، من سورة هود۔ أخرجه **أيضا ابن مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات**، باب بيان ان لله اسماء اخرىٰ: ۲۰۲، (۱/۲۶۹)۔ **قلت: وأخرجه الحاكم**، كتاب الإيمان: ۱۷۸، (۱/۱۲۱)۔ **بلفظ يا ابا ذر اتق الله حيث كنت واتبع السّيّئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال صحيح على شرطهما وأقره عَلَيْهِ الذهبي، وذكره السُّيوطي في الجامع**، باب حرف الألف: ۲۶۴، (۱/۵۹)۔ **مُختصرا ورقم له بالصحة**۔

ف: برائی اگر گناہِ صغیرہ ہے تو نیکی سے اس کا مَحْو ہو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے اور اگر کبیرہ ہے تو قَواعِد کے مُوافِق توبہ سے مَحْو ہو سکتی ہے، یا محض اللہ کے فضل سے، جیسا پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بہر صورت محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ اعمالنامہ میں رہتا ہے، نہ کہیں اس کا ذِکر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانُہٗ وہ گناہ کِراماً کاتبین کو بھلا دیتے ہیں اور اس گناہ گار کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین کو اس حصّہ کو بھی جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس گناہ کی گواہی

دینے والا نہیں رہتا ❶۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں آدمی کے ہاتھ، پاؤں اور بدن کے دوسرے حصے نیک یا بداَعمال جو بھی کئے ہوں، ان کی گواہیاں دیں گے، جیسا کہ بابِ سوم فصل دوم حدیث نمبر ۱۸ کے تحت میں آرہا ہے۔ حدیثِ بالا کی تائید ان رِوایات سے بھی ہوتی ہے، جن میں اِرشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں ❷۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وَارِد ہوا ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا، اس پر انتہائی ندامت اور شرم ہو اور آئندہ کے لئے پکّا ارادہ ہو کہ پھر کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔

ایک دوسری حدیث میں حُضور ﷺ کا اِرشاد وَارِد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا اور ایسے اِخلاص سے عمل کیا کر جیسا کہ وہ پاک ذات تیرے سامنے ہو۔ اور اپنے آپ کو مُردوں میں شمار کر اور اللہ کی یاد ہر پتّھر اور ہر درخت کے قریب کر (تاکہ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملیں) اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے کفّارہ میں کوئی نیکی کیا کر۔ اگر برائی مخفی کی ہے تو نیکی بھی مخفی ہو۔ اور اگر برائی کو عَلَی الِاعْلان کیا ہے تو اس کے کفّارہ میں نیکی بھی عَلَی الِاعْلان ہو ❸۔

(۳۴) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ: "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ"، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهٗ أَرْبَعُوْنَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

حُضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص **"لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ"** کو دس مرتبہ پڑھے گا، چالیس ہزار نیکیاں اس کے لکھی جائیں گی۔

(ض)

أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، : ۱۶۹۵۲، (۲۸/ ۱۵۱)۔ **قلت: أخرج الحاكم** شواهد في المستدرك، كتاب التوبة، وفي كتاب الدعا، **بألفاظ مختلفة۔**

ف: کلمۂ طیّبہ کی خاص خاص مقدار پر بھی حدیث کی کتابوں میں بڑی فضیلتیں ذِکر فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھا کرو تو ہر فرض نماز کے بعد

---

❶ الترغیب للاصبهانی، ۱/ ۴۴۱، ۷۷۸

❷ سنن ابن ماجہ، کتاب الزھد، ۴۲۵۰

❸ المعجم الکبیر، المراسیل، عن معاذ بن جبل، ۳۷۴

دس مرتبہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْئٍ قَدِیْرٌ" پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ایک غلام آزاد کیا❶۔

(٣٥) عَنْ عَبْدِاللّٰہِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰی، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: مَنْ قَالَ "لَآ إِلٰہَ إِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِيْكَ لَہٗ أَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّہٗ كُفُوًا أَحَدٌ" كَتَبَ اللّٰہُ لَہٗ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ۔

دوسری حدیث میں اِرشاد ہے کہ جو شخص "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ أَحَدًا صَمَدًا لَّمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا أَحَدٌ" پڑھے اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔

(ض)

رواه الطبراني كذافي الترغيب، كتاب الذكر، باب في الإكثار من ذكر الله: ٢٢٦٥، (٢/٢٢٩)۔**وفي مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ما جاء في فضل لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ: ١٦٨٢٦، (١٠/٩٥)۔**فيه قائد أبوالورقا متروك۔**

ف: کس قدر اللہ جَلَّ شانُہٗ کی طرف سے اِنعام واِحسان کی بارش ہے کہ ایک معمولی سی چیز کے پڑھنے پر، جس میں نہ مَشَقَّت نہ وقت خرچ ہو، پھر بھی ہزار ہزار، لاکھ لاکھ نیکیاں عطا ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور دنیاوی اَغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان الطاف کی بارشوں سے کچھ بھی وصول نہیں کرتے۔ اللہ جَلَّ شانُہٗ کے یہاں ہر نیکی کیلئے کم از کم دس گنا ثواب تو متعیّن ہی ہے، بشرطیکہ اِخلاص سے ہو۔ اس کے بعد اخلاص ہی کے اعتبار سے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حُضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ اسلام لانے سے جتنے گناہ حالتِ کفر میں کئے ہیں وہ مُعاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حساب ہے۔ ہر نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اور جہاں تک اللہ چاہیں لکھی جاتی ہے اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ جَلَّ شانُہٗ اس کو مُعاف فرمادیں تو وہ بھی نہیں لکھی جاتی❷۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں سات سو تک اور اس کے بعد جہاں تک اللہ تعالیٰ جَلَّ شانُہٗ چاہیں لکھی جاتی ہیں❸۔ اس قسم کی اور بھی اَحادیث بکثرت ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کے یہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی لینے والا ہو، یہی چیز اللہ والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو لبھا نہیں

---

❶ تاریخ الرافعی، ٢/١١٨

❷ بخاری، کتاب الایمان، ٤١

❸ بخاری، کتاب الرقاق، ٦٤٩١

سکتی۔ **أَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنْھُمْ۔**

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ اَعمال چھ طریقے کے ہیں اور آدمی چار طریقے کے: دو عمل تو واجب کرنے والے ہیں اور دو برابر برابر، اور ایک دس گنا اور ایک سات سو گنا۔ دو عمل جو واجب کرنے والے ہیں: ایک یہ کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ شِرک نہ کرتا ہو وہ ضرور جنَّت میں داخل ہو گا۔ دوسرے جو شخص شِرک کی حالت میں مرے ضرور جہنّم میں جائے گا۔ اور جو عمل برابر سرابر ہے، وہ نیکی کا ارادہ ہے کہ دِل اس کے لئے پُختہ ہو گیا ہو (مگر اس عمل کی نوبت نہ آئی ہو) اور دس گنا اجر ہے اگر عمل بھی کرلے۔ اور اللہ کے راستہ میں (جہاد وغیرہ میں) خرچ کرنا سات سو درجہ کا اجر رکھتا ہے اور گناہ اگر کرے تو ایک کا بدلہ ایک ہی ہے۔ اور چار قسم کے آدمی یہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دنیا میں وُسعت ہے آخرت میں تنگی ہے، بعض ایسے ہیں جن پر دنیا میں تنگی ہے، آخرت میں وسعت، بعض ایسے ہیں کہ جن پر دونوں جگہ تنگی ہے (کہ دنیا میں فقر اور آخرت میں عذاب ہے) بعض ایسے ہیں کہ دونوں جہان میں وُسعت ہے ①۔ ایک شخص حضرت اَبُوہُرَیرہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے سُنا ہے آپ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ بعض نیکیوں کا بدلہ دس لاکھ گنا عطا فرماتے ہیں؟ حضرت اَبُوہُرَیرہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ نے فرمایا: اس میں تعجّب کی کیا بات ہے۔ میں نے خدا کی قسم! ایسا ہی سُنا ہے ②۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے حُضور ﷺ سے سُنا ہے کہ بعض نیکیوں کا ثواب بیس لاکھ تک ملتا ہے اور جب حق تعالیٰ شانُہٗ ﴿يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾ (النساء: ۴۰) اِرشاد فرمائیں (اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور اپنے پاس سے بہت سا اجر دیتے ہیں) جس چیز کو اللہ تعالیٰ اجرِ عظیم فرمائیں اس کی مقدار کا اندازہ کون کر سکتا ہے ③۔؟ امام غزالی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ثواب کی اتنی بڑی مقداریں جب ہی ہو سکتی ہیں، جب ان الفاظ کے معانی کا تصور اور لحاظ کرکے پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ شانُہٗ کی اہم صِفات ہیں۔

---

① مسند احمد، حدیث خریم بن فاتک، ۱۹۰۳۹

② مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۷۹۴۵

③ مصنف ابن ابی شیبہ، کلام ابی ہریرۃ، ۳۴۷۰۳

(۳۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: "أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ" إِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَآءَ۔

(صحیح)

حضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے (یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے) پھر یہ دعا پڑھے "أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ" اس کے لئے جنَّت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے، داخل ہو۔

رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء: ۵۵۲، (۱۱۲/۴)۔ **وأبوداود**، كتاب الطهارة، باب مايقول الرجل إذاتوضا: ۱۷۱، (۲۲۸/۱)۔ **وابن ماجه**، كتاب الطهارة، باب مايقال بعد الوضوء: ۴۷۰، (۲۷۳/۱)۔ **وقالا: "فيحسن الوضوء، زاد أبوداود: "ثم يرفع طرفه إلى السماء، ثم يقول"۔ فذكره۔ ورواه الترمذي**، أبواب الطهارة، باب مايقال بعدالوضوء: ۵۵، (۲۴)۔ **كأبي داود وزاد: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"۔ الحديث، وتكلم فيه، كذافي الترغيب**، كتاب الطهارة: ۳۵۰، (۱۰۵/۱) **زادالسُيُوطي في الدر**، تحت الآية: ۱۹، من سورة الزمر۔ **ابن أبي شيبة**، كتاب الطهارة، باب مافي الرجل مايقول إذافرغ: ۲۱، (۳/۱)۔ **والدارمي**، كتاب الطهارة، باب القول بعدالوضوء: ۷۱۶، (۱۲۴/۱)۔

ف: جنَّت میں داخل ہونے کیلئے ایک دروازہ بھی کافی ہے، پھر آٹھوں کا کھل جانا یہ غایت اِعزاز واِکرام کے طور پر ہے۔ ایک حدیث میں وَارِد ہوا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شِرک نہ کرتا ہو اور ناحق کسی کا خون نہ کیا ہو، وہ جنَّت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو ❶۔

(۳۷) عَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَّقُوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، إِلَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَلَمْ يُرْفَعْ لِأَحَدٍ يَّوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهٖ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهٖ أَوْ زَادَ۔

(ض)

حضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص سو مرتبہ "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" پڑھا کرے، حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ اٹھائیں گے، جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔

رواه الطبراني في مسند الشاميين،: ۹۹۴، (۱۰۳/۲)۔ **وفيه عبدالوهاب بن ضحاك، متروك. كذافي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب فيمن حلل: ۱۶۸۳۰، (۹۶/۱۰)۔ **قلت: هومن رواة ابن ماجه، ولاشك انهم ضعفوه جدا، الاان معناه مؤيدبروايات، منها: ماتقدم من**

---

❶ المعجم الکبیر، باب بیان کفر الجهمية، ۲۲۸۵

رِوایات یحیی ابن طلحة، ولا شک انه أفضل الذکر، وله شاهد من حدیث ام هاني الأتی۔

ف: مُتَعدِّد آیات ورِوایات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ'' دِل کے لئے بھی نور ہے اور چہرے کے لئے بھی نور ہے اور یہ تو مُشاہَدہ بھی ہے کہ جن اکابر کا اس کلمہ کی کثرت معمول ہے ان کا چہرہ دنیا ہی میں نُورانی ہوتا ہے۔

(۳۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: إِفْتَحُوْا عَلٰی صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَقِّنُوْهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَآإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِنَّهٗ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهٖ لَآإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ، لَمْ يُسْئَلْ عَنْ ذَنْبٍ وَّاحِدٍ۔

(ض)

موضوع، ابن محموية وابوه مجهولان، وقد ضعف البخاري إبراهيم بن مهاجر، حكاه السُيُوطي عن ابن الجوزى، ثم تعقبه بقوله۔ ''الحديث في المستدرک'' وأخرجه البيهقي في الشعب، باب حقوق الأولاد والاهلين: ۸۲۸۲، (۱۲۸/۱۱)۔ عن الحاكم، وقال: متن غريب لم نكتبه الا بهٰذا الإسناد، واورده الحافظ اِبنِ حَجَر في اماليه، ولم يقدح فيه بشيئ، الا انه قال: إبراهيم فيه لين، وقدأخرج له مسلم في المتابعات، كذا في اللآلي، ص (۳۴۷/۲)۔ وذكره السُيُوطي في شرح الصدور: ۸، (۴۵/۱)۔ ولم يقدح فيه بشئ، قلت: وقد ورد في التلقين اَحاديث كثيرة، ذكرها الحافظ في التلخيص، كتاب الجنائز، باب المدخل: ۷۳۲، (۲۴۲/۲)۔ وقال: في جملة من رواها، وعن عروة بن مسعود الثقفي، رواه العقيلي في الضعفاء، (۶۵/۱)۔ بإسناد ضعيف، ثم قال: روى في الباب اَحاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة۔ ورواه ابن أبي الدُنيا في كتاب المحتضرين، حديث لقنوا موتاكم: ۲، (۴/۱)۔ من طريق عروة بن مسعود، عن ابيه، عن حذيفة بلفظ: ''لقنو موتاكم لا اله الا الله فانها تهدم ماقبلها من الخطايا''۔ وروى فيه ايضا عن عمر وعثمان واِبنِ مسعود وأنس وغيرهم اهـ وفي الجامع الصغير، باب حرف اللام: ۷۳۰۱، (۲۲۶/۲)۔ لقنوا موتاكم لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رواه أحمد ومسلم، كتاب الجنائز، باب تلقين الموت: ۱۸۲۷، (۵/۴)۔ والاربعة عن أبى سعيد ومسلم (ايضا) وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في تلقين الموت: ۱۴۴۴، (۱۹۳/۲)۔ عن أبى هريرة والنسائي، كتاب الجنائز، باب تلقين الموت: ۱۸۲۷، (۵/۴)۔ عن عائشة ورقم له بالصحة۔ وفي الحصن، بحوالة تحفة الذاكرين بعدة حصن الحصين، الباب السابع فصل المال والرفيق، (۲۷۴/۱)۔ ''إذا افصح الولد فليعلمه لا اله الا اللّٰه'' وفي الحرز: رواه ابن السني عن عَمْرو بْنُ العاص اهـ قلت: ولفظه في عمل اليوم والليلة، باب مايلقن الصبى: ۴۲۲، (۳۰۵/۲)۔ عن عمرو بن شعيب وجدت في كتاب جدى الذى حدثه عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عَلَيْهِ وسلم، قال: ''إذا افصح أولادكم فعلموهم لا اله الا اللّٰه، ثم لاتبالو متى ماتو، وإذا اثفروا فمروهم بالصلوٰة''۔ وفي الجامع الصغير، باب حرف الميم: ۸۹۶۵، (۳۴۴/۲)۔ برواية أحمد، حديث معاذ بن جبل،: ۲۱۰۲۴، (۱۷/۴۵)۔ وأبى داود، كتاب الجنائز، باب التلقين: ۳۱۱۶، (۹۰/۳)۔ والحاكم، كتاب الجنائز: ۱۲۹۹، (۵۰۳/۱)۔ عن معاذ رضى اللّٰه عنه: ''من كان آخر كلامه لا اله الا اللّٰه دخل الجنة''۔ ورقم له بالصحة۔ وفي مجمع الزوائد، باب تلقين الموت: ۳۹۱۲، (۶۴/۳)۔ عن على رضى اللّٰه عنه رفعه: ''من كان اٰخر كلامه لا اله الا اللّٰه لم يدخل النار،،۔ وفي غير رواية مرفوعة من لقن، مجمع الزوائد، باب تلقين الموت: ۳۹۰۸، (۶۴/۳)۔ عند الموت لا اله الا اللّٰه دخل الجنة۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچّہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ'' یاد کراؤ اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ'' تلقین کرو جس شخص کا اوّل کلمہ ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ'' ہو اور آخری کلمہ ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ'' وہ ہزار برس بھی زندہ رہے، تو (انشاء اللہ) کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا (یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا، یا اگر صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے مُعاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ اپنے فضل سے مُعاف فرمائیں گے)۔

ف: تلقین اس کو کہتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے۔ اس پر اس وقت جبر یا تقاضا نہیں کرنا چاہیئے کہ وہ شِدَّتِ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اخیر وقت میں کلمہ تلقین کرنے کا حکم اور بھی بہت سی اَحادیثِ صحیحہ میں وَارِد ہوا ہے۔ مُتَعدِّد حدیثوں میں یہ بھی اِرشاد نبوی وَارِد ہوا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت ”لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ“ نصیب ہو جائے، اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ❶۔

بعض اَحادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو پچھلی خطائیں مُعاف ہو جاتی ہیں ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ منافق کو اس کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی ❸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مُردوں کو ”لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ“ کا توشہ دیا کرو ❹۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص کسی بچّہ کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ ”لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ“ کہنے لگے اس سے حساب مُعاف ہے ❺۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، مرنے کے وقت ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، جو شیطان کو دور کر دیتا ہے اور مرنے والے کو لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ تلقین کرتا ہے۔ ایک بات کثرت سے تجرِبہ میں آئی ہے کہ اکثر و بیشتر تلقین کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اس پاک کلمہ کی کثرت رکھتا ہو۔ ایک شخص کا قصّہ لکھا ہے کہ بُھس فروخت کیا کرتا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو لوگ اس کو کلمہ طیّبہ کی تلقین کرتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ یہ گٹھا اتنے کا ہے اور یہ اتنے کا ہے۔ اسی طرح اور بھی مُتَعدِّد واقعات ”نُزْهَةُ الْبَسَاتِیْن“ میں بھی لکھے ہیں اور مُشاہَدہ میں بھی آتے ہیں۔

بسا اوقات کسی گناہ کا کرنا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیّبہ نصیب نہیں ہوتا۔ عُلماء نے لکھا ہے کہ افیون کھانے میں ستر نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اس کے بِالْمُقابِل مسواک میں ستر فائدے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیّبہ یاد آتا ہے۔ ایک شخص کا قصّہ لکھا ہے کہ مرتے

---

❶ معرفة الصحابہ للاصبھانی، من اسمہ عروہ، ۴۹۱۲

❷ المحتضرین لابن ابی الدنیا، ۲

❸ جمع الجوامع، ۱۱۱۴

❹ الغرائب الملتقطہ، ۱۷۳۲

❺ عمل الیوم واللیلہ، ۴۲۲

وقت اس کو کلمۂ شہادت تلقین کیا گیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ سے دُعا کرو میری زبان سے نکلتا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: میں تولنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ ایک دوسرے شخص کا قصّہ ہے کہ جب اس کو تلقین کی گئی تو کہنے لگا کہ مجھ سے کہا نہیں جاتا۔ لوگوں نے پوچھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے وہ اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا۔

اور بھی بہت سے واقعات اس نَوع کے ہیں جن میں سے بعض ''تذکِرۂ قرطبیہ'' میں بھی لکھے ہیں۔ بندہ کا کام ہے کہ گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ شانُہٗ سے توفیق کی دُعا کرتے رہے۔

(۳۹) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ، وَّلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا۔

حُضورِ اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ''لا الٰہ إلا اللہ'' سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔

(ض)

رواه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ: ٣٧٩٧، (٤/٢٤٦)۔ **كذا في مُنْتَخِب كنز العمال**، كتاب الأذكار، الباب الأول في فضيلة الذكر، (١/٣٢٧) **قلت: وأخرجه الحاكم**، كتاب الدعا والتكبير: ١٨٩٣، (١/٦٩٥)۔ **في حديث طويل، وصححه ولفظه: "قول لا اله الا الله لا يترك ذنبا ولا يشبهها عمل"۔ اھ وتعقب عَلَيْهِ الذهبي بان زكريا ضعيف، وسقط بين محمد وام هاني وذكره في الجامع**، باب حرف لا: ٩٧٠٣، (٢/٣٨٦)۔ **بروایة ابن ماجه، ورقم له بالضعف۔**

ف: کسی عمل کا اس سے نہ بڑھ سکنا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے، جو بغیر کلمۂ طیّبہ پڑھے کارآمد ہو سکتا ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض ہر عمل ایمان کا بھی محتاج ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اَعمال بھی مقبول ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور کلمۂ طیّبہ جو خود ایمان لانا ہی ہے وہ کسی عمل کا متحاج نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص فقط ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے عِلاوہ کوئی عملِ صالح نہ ہو، تو بھی وہ کسی نہ کسی وقت انشاء اللہ جنَّت میں ضرور جائے گا اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو خواہ وہ کتنے ہی پسندیدہ اَعمال کرے، نجات کیلئے کافی نہیں۔

دوسرا جزو کسی گناہ کو نہ چھوڑنا ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو شخص آخری وقت میں مسلمان ہو اور کلمۂ طیّبہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی مر جائے تو ظاہر ہے کہ اس ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کئے تھے وہ سب بِالِاجْمَاع جاتے رہے۔ اور اگر پہلے

سے پڑھنا مُراد ہو تو حدیثِ شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ دِلوں کی صفائی اور صَیقَل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب اس پاک کلمہ کی کثرت ہو گی تو دِل کی صفائی کی وجہ سے توبہ کئے بغیر چین ہی نہ پڑے گا اور آخر کار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ کا اِہتمام ہو، اس کو دنیا بھی آخرت پر مُستَعِد کرے گی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گی۔ ❶

(۴۰) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآإِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ۔ وَالْحَيَآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ۔

(متفق عليه)

حُضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں (بعض رِوایات میں ستتر آئی ہیں) ان میں سب سے افضل ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ کا پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز (اینٹ لکڑی کاٹنے وغیرہ) کا ہٹا دینا ہے اور حیا بھی ایک خُصوصی شعبہ ہے ایمان کا)۔

رواه الستة، البخاري، كتاب الإيمان، باب أُمُور الإيمان، : ۹، (۱۲/۱)۔ **ومسلم،** كتاب الإيمان، باب شُعَب الإيمان: ۱۵۲، (۱۹۵/۱)۔ **وأَبوداود،** كتاب السنة، باب في رد الارجاء، : ۴۶۴۳، (۲۱۶/۵)۔ والترمذي، أَبواب الإيمان، باب ماجاء في استكمال الإيمان: ۲۶۱۴، (۹۸۵)۔ والنسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب ذكر شعب الإيمان: ۵۰۰۵، (۱۱۰/۸)۔ وابن ماجه: ۵۷، (۴۳/۱)۔ **وغيرهم بألفاظ مختلفة، واختلاف يسير في العدد وغيره۔ وهٰذا اخر ما اردت ايراده في هذا ألفصل رعاية لعدد الاربعين، والله الموفق لما يحب ويرضىٰ۔**

ف: حیا کو خُصوصی اِہتمام کی وجہ سے ذِکر فرمایا کہ یہ بہت سے گناہوں زنا، چوری، فحش گوئی، ننگا ہونا، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رسوائی کے خیال سے بہت سے نیک کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی شرم سارے ہی نیک کاموں پر ابھارتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو ظاہر ہیں، اسی طرح سے اور بھی تمام اَحکام بجا لانے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے مثل مشہور ہے ”تُو بے حیا باش وہر چہ خواہی کن“ تو بے غیرت ہو جا، پھر جو چاہے کر۔ اس معنی میں حدیث بھی وَارِد ہے۔ ”إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ“ ❷ جب تو حیادار نہ رہے تو پھر جو چاہے کر، کہ ساری فکر غیرت اور شرم ہی کی ہے۔ اگر حیا ہے تو یہ خیال بھی ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھوں گا تو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور شرم نہیں ہے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی کہہ کر کیا کرے گا۔

---

❶ جمع الجوامع، حرف المیم، ۵۳۹۶

❷ بخاری، باب حدیث الغار، ۳۴۸۳

تنبیہ: اس حدیث شریف میں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں اِرشاد فرمائی ہیں۔ اس بارے میں رِوایات مُختلف وَارِد ہوئی ہیں اور مُتعدِّد رِوایات میں سَتتر کا عدد آیا ہے، اسی لئے ترجمہ میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ ان سَتتر کی تفصیل میں عُلماء نے بہت سی مُستقِل تَصانِیف فرمائی ہیں۔ امام اَبُوحاتم بن حَبَّان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کا مطلب ایک مدت تک سوچتا رہا۔ جب عبادتوں کو گنتا تو وہ سَتتر سے بہت زیادہ ہو جاتیں۔ اَحادیث کو تلاش کرتا اور حدیث شریف میں جن چیزوں کو خاص طور سے ایمان کی شاخوں کے ذیل میں ذِکر کیا ہے، ان کو شمار کرتا تو وہ اس عدد سے کم ہو جاتیں۔ میں قرآنِ پاک کی طرف مُتوَجِّہ ہوا اور قرآن شریف میں جن چیزوں کو ایمان کے ذیل میں ذِکر کیا ہے، ان کو شمار کیا تو وہ بھی اس عدد سے کم تھیں، تو میں نے قرآن اور حدیث شریف دونوں کو جمع کیا اور دونوں میں جن چیزوں کو ایمان کا جزو قرار دیا، ان کو شمار کرکے جو چیزیں دونوں میں مشترک تھیں ان کو ایک ایک عدد شمار کرکے میزان دیکھی، تو دونوں کا مجموعہ مُکرَّرات کو نکال کر اس عدد کے مُوافِق ہو گیا، تو میں سمجھا کہ حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے ان شاخوں کی تفصیل بیان کرنے کا اِہتمام کیا ہے اور اِجتِہاد سے ان تفصیلات کے مُراد ہونے کا حکم لگایا ہے۔ حالانکہ اس مقدار کی خُصوصی تفصیل نہ معلوم ہونے سے ایمان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، جب کہ ایمان کے اصول و فروع سارے بِالتَّفصِیل معلوم و مُحقَّق ہیں۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تعداد کی تفصیل اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے اور شریعتِ مُطہَّرہ میں موجود ہے، تو اس تعداد کے ساتھ تفصیل کا علم نہ ہونا کچھ مُضِر نہیں۔

امام نَوَوِی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیِٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ توحید یعنی کلمہ ''لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ'' کو قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان میں سب سے اُوپر اس کا درجہ ہے، اس سے اُوپر کوئی چیز ایمان کی شاخ نہیں ہے۔ جس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اصل توحید ہے، جو ہر مکلف پر ضروری ہے اور سب سے نیچے دفن کرنا ہے اس چیز کا جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا اِحتمال رکھتی ہو۔ باقی سب شاخیں ان کے درمیان ہیں

جن کی تفصیل معلوم ہونا ضروری نہیں، اِجمالاً ان پر ایمان لانا کافی ہے جیسا کہ سب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیل اور ان کے نام ہم نہیں جانتے، لیکن ایک جماعت مُحدّثین نے ان سب شاخوں کی تفصیل میں مُختلِف تَصانِیف فرمائی ہیں۔ چنانچہ اَبُوعبداللہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اسی مضمون میں تصنیف فرمائی ہے جس کا نام "فَوَائِدُ الْمِنْهَاج" رکھا ہے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ہی "شُعَبُ الْإِيمان" رکھا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی "شُعَبُ الْإِيمان" رکھا ہے اور اسحاق بن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب النصائح" اسی مضمون میں تصنیف فرمائی ہے اور امام اَبُوحاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام "وَصْفُ الْإِيمانِ وَشُعَبُه" رکھا ہے۔

شُرّاحِ بخاری نے اس باب میں مُختلِف تَصانِیف سے تلخیص کرتے ہوئے ان کو مُختصر طور پر فرمایاہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دراصل ایمانِ کامل تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: اوّل تصدیق قلبی یعنی دِل سے جملہ اُمُور کا یقین کرنا۔ دوسرے زبان کا اقرار وعمل، تیسرے بدن کے اَعمال۔ یعنی ایمان کی جملہ شاخیں تین حِصّوں پر مُنقسِم ہیں: اوّل وہ جن کا تعلّق نیّت و اِعتِقاد اور عمل قلبی سے ہے۔ دوسرے وہ جن کا تعلّق زبان سے ہے۔ تیسرے وہ جن کا تعلّق باقی حصّہ بدن سے ہے۔ ایمان کی جملہ چیزیں ان تین میں داخل ہیں۔

پہلی قسم: جو تمام عقائد کو شامل ہے اس کا خلاصہ تیس (۳۰) چیزیں ہیں۔

(۱) اللہ پر ایمان لانا جس میں اس کی ذات، اس کی صِفات پر ایمان لانا داخل ہے اور اس کا یقین بھی کہ وہ پاک ذات ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی مثل ہے۔ (۲) اللہ کے مَاسِوا سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں ہمیشہ سے وہی ایک ذات ہے۔ (۳) فرشتوں پر ایمان لانا۔ (۴) اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ (۵) اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ (۶) تقدیر پر ایمان لانا کہ بھلی ہو یا بری، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ (۷) قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانا، جس میں قبر کا سُوال جواب، قبر کا عذاب، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب ہونا، اَعمال کا تُلنا اور پل صِراط پر پر گزرنا سب ہی داخل ہے۔

(۸) جنت کا یقین ہونا اور یہ کہ مُؤمن انشاء اللہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (۹) جہنم کا یقین ہونا اور یہ کہ اس میں سخت سے سخت عذاب ہیں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ شانُہٗ سے محبت رکھنا۔ (۱۱) اللہ کے واسطے دوسروں سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے واسطے بُغض رکھنا (یعنی اللہ والوں سے محبت رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے بُغض رکھنا) اور اسی میں داخل ہے صَحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بِالْخُصوص مُہَاجِرِیْن اور انصار کی محبت اور آل رسول ﷺ کی محبت۔ (۱۲) حضور اَقدس ﷺ سے محبت رکھنا، جس میں آپ ﷺ کی تعظیم بھی آگئی اور حُضور ﷺ پر درود شریف پڑھنا بھی اور آپ ﷺ کی سنتوں کا اِتّباع کرنا بھی داخل ہے۔ (۱۳) اِخلاص، جس میں رِیا نہ کرنا اور نفاق سے بچنا بھی داخل ہے۔ (۱۴) توبہ، یعنی دِل سے گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ (۱۵) اللہ کا خوف۔ (۱۶) اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا۔ (۱۷) اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ (۱۸) شکر گزاری۔ (۱۹) وفا۔ (۲۰) صبر۔ (۲۱) تواضُع، جس میں بڑوں کی تعظیم بھی داخل ہے۔ (۲۲) شفقت و رحمت، جس میں بچّوں پر شفقت کرنا بھی داخل ہے۔ (۲۳) مُقدَّر پر راضی ہونا۔ (۲۴) تَوکّل۔ (۲۵) خود بینی اور خود ستائی کا چھوڑنا، جس میں اِصلاحِ نفس بھی داخل ہے۔ (۲۶) کِینہ اور خلش نہ رکھنا، جس میں حسد بھی داخل ہے۔ (۲۷) ”عَینی“ میں یہ نمبر رہ گیا ہے، میرے خیال میں اس جگہ حیا کرنا ہے، جو کاتب کی غلطی سے رہ گیا ہے۔ (۲۸) غصہ نہ کرنا۔ (۲۹) فریب نہ دینا، جس میں بدگمانی نہ کرنا اور اس کے ساتھ مکر نہ کرنا بھی داخل ہے۔ (۳۰) دنیا کی محبت دِل سے نکال دینا، جس میں مال کی اور جاہ کی محبت بھی داخل ہے۔ علّامہ عَینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اُمُور بالا میں دِل کے تمام اَعمال داخل ہیں، اگر کوئی چیز بظاہر خارج معلوم ہو تو وہ غور سے ان نمبروں میں سے کسی نہ کسی نمبر میں داخل ہو گی۔

دوسری قسم: زبان کا عمل تھا اس کے سات شعبے ہیں۔

(۱) کلمۂ طیّبہ کا پڑھنا۔ (۲) قرآنِ پاک کی تِلاوت کرنا۔ (۳) علم سیکھنا۔ (۴) علم دوسروں کو سکھانا۔ (۵) دعا کرنا۔ (۶) اللہ کا ذِکر، جس میں اِستِغفار بھی داخل ہے۔ (۷) لَغو

باتوں سے بچنا۔

تیسری قسم: باقی بدن کے اَعمال ہیں، یہ کل چالیس ہیں جو تین حِصّوں پر مُنقسِم ہیں۔

پہلا حصّہ: اپنی ذاتوں سے تعلّق رکھتا ہے۔ یہ سولہ شاخیں ہیں۔

(۱) پاکی حاصل کرنا، جس میں بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، مکان کی پاکی، سب ہی داخل ہیں اور بدن کی پاکی میں وضو بھی داخل ہے اور حیض و نفاس اور جنابت کا غسل بھی۔ (۲) نماز کی پابندی کرنا، اس کو قائم کرنا، جس میں فرض، نفل اور قضا سب داخل ہے۔ (۳) صدقہ، جس میں زکوٰۃ، صدقۂ فطر وغیرہ بھی داخل ہے اور بخشش کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مہمان کا اِکرام کرنا اور غلاموں کا آزاد کرنا بھی داخل ہے۔ (۴) روزہ، فرض ہو یا نفل۔ (۵) حج کرنا، فرض ہو یا نفل اور اسی میں عمرہ بھی داخل ہے اور طواف بھی۔ (۶) اِعتکاف کرنا، جس میں لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ کو تلاش کرنا بھی داخل ہے۔ (۷) دین کی حفاظت کیلئے گھر چھوڑنا، جس میں ہجرت بھی داخل ہے۔ (۸) نذر کا پورا کرنا۔ (۹) قسموں کی نگہداشت رکھنا۔ (۱۰) کَفّاروں کا ادا کرنا۔ (۱۱) سَتر کا نماز میں اور نماز کے عِلاوہ ڈھانکنا۔ (۱۲) قربانی کرنا اور قربانی کے جانوروں کی خبر گیری کرنا اور ان کا اِہتمام کرنا۔ (۱۳) جنازہ کا اہتمام کرنا، اس کے جُملہ اُمُور کا انتظام کرنا۔ (۱۴) قرض کا ادا کرنا۔ (۱۵) مُعاملات کا درست کرنا، سود سے بچنا۔ (۱۶) سچی بات کی گواہی دینا حق کو نہ چھپانا۔

دوسرا حصّہ: کسی دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا ہے۔ اس کی چھ شاخیں ہیں۔

(۱) نکاح کے ذریعہ سے حرام کاری سے بچنا۔ (۲) اہل و عِیال کے حقوق کی رعایت کرنا اور ان کا ادا کرنا، اس میں نوکروں اور خادموں کے حقوق بھی داخل ہیں۔ (۳) والدین کے ساتھ سلوک کرنا، نرمی برتنا، فرمانبرداری کرنا۔ (۴) اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ (۵) صلہ رحمی کرنا۔ (۶) بڑوں کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنا۔

تیسرا حصّہ: حقوقِ عامّہ کا ہے۔ جو اٹھارہ شعبوں پر مُنقسِم ہے۔

(۱) عدل کے ساتھ حکومت کرنا۔ (۲) حقّانی جماعت کا ساتھ دینا۔ (۳) حُکّام کی

اطاعت کرنا (بشرطیکہ خلافِ شرع حکم نہ ہو)۔ (۴) آپس کے معاملات کی اِصلاح کرنا جس میں مُفسدوں کو سزا دینا، باغیوں سے جہاد کرنا بھی داخل ہے۔ (۵) نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا۔ (۶) نیک کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا جس میں وعظ و تبلیغ بھی داخل ہے۔ (۷) حُدود کا قائم کرنا۔ (۸) جہاد کرنا جس میں مورچوں کی حفاظت بھی داخل ہے۔ (۹) امانت کا ادا کرنا، جس میں خُمس جو غنیمت کے مالوں میں ہوتا ہے، وہ بھی داخل ہے۔ (۱۰) قرض کا دینا اور ادا کرنا۔ (۱۱) پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ان کا اِکرام کرنا۔ (۱۲) معاملہ اچّھا کرنا، جس میں جائز طریقہ سے مال کا جمع کرنا بھی داخل ہے۔ (۱۳) مال کا اپنے محل (موقع) پر خرچ کرنا، اِسراف اور بخل سے بچنا بھی اس میں داخل ہے۔ (۱۴) سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ (۱۵) چھینکنے والے کو ''یَرْحَمُکَ اللہ'' کہنا۔ (۱۶) دنیا کو اپنے نقصان سے، اپنی تکلیف سے بچانا۔ (۱۷) لَہو ولَعِب سے بچنا۔ (۱۸) راستہ سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا۔

یہ ستتر (۷۷) شاخیں ہوئیں، ان میں بعض کو ایک دوسرے میں مُنْضَم (شامل) بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اچھے معاملہ میں مال کا جمع کرنا اور خرچ کرنا دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے غور سے اور بھی اَعداد کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس لحاظ سے ستر (۷۰) والی روایت یا سرسٹھ (۶۷) والی روایت کے تحت میں بھی یہ تفصیل آ سکتی ہے۔ اس تفصیل میں بندہ نے علّامہ عَینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جو بخاری شریف کی شرح میں ہے اصل قرار دیا ہے، کہ انھوں نے نمبر وار ان چیزوں کو ذِکر فرمایا ہے اور حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ''فتح الباری'' اور علّامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ''مِرقاۃ'' سے توضیح واِضافہ کیا ہے۔ عُلماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے سارے شعبے مُجملًا یہ ہیں جو مذکور ہوئے۔ آدمی کو چاہیئے کہ ان میں غور و فکر کرے جو اَوصاف اس میں ان میں سے پائے جاتے ہیں ان پر اللہ جَلَّ شانُہٗ کا شُکر ادا کرے کہ اسی کی توفیق و لُطف سے ہر بھلائی حاصل ہو سکتی ہے اور جن اوصاف میں کمی ہو ان کے حاصل کرنے کی سَعی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حصول کی توفیق مانگتا رہے۔ **وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰہِ۔**

تیسرا باب

کلمۂ سوم کے فضائل میں

یعنی "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اَکْبَرُ" اور بعض رِوایات میں ان کلمات کے ساتھ "لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ" بھی وَارِد ہوا ہے۔ اَحادیث میں ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، یہ کلمات تَسبیحات فاطمہؓ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اس لئے کہ یہ کلمات حُضور اَقدس ﷺ نے اپنی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی تعلیم فرمائے ہیں، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ اس باب میں بھی چونکہ کلامِ پاک کی آیات اور اَحادیث بکثرت وَارِد ہوئی ہیں، اس لئے دو فصلوں پر اس کو مُنقسِم کر دیا: پہلی فصل آیات قُرانیہ میں اور دوسری اَحادیث نَبوِیّہ میں۔

فصلِ اوّل

ان آیات کے بیان میں جن میں "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اَکْبَرُ" کا مضمون ذِکر فرمایا گیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو چیز جتنی مُہتَم بِالشَّان ہوتی ہے اتنے ہی اِہتمام سے ذِکر کی جاتی ہے اور مُختلِف طریقہ سے ذہن نشین کی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات کا مفہوم بھی قرآنِ پاک میں مُختلِف طریقوں سے ذِکر فرمایا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا کلمہ "سُبْحَانَ اللّٰہِ" ہے۔ "سُبْحَانَ اللّٰہِ" کے معنی ہیں اللہ جَلَّ شَانُہٗ ہر عَیب اور برائی سے پاک ہے۔ میں اس کی پاکی کا پورا پورا اقرار کرتا ہوں، اس مضمون کو حکم سے بھی ذِکر فرمایا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو۔ خبر سے بھی اِرشاد فرمایا ہے کہ فرشتے اور دوسری مخلوقات اللہ کی پاکی کا اقرار و بیان کرتی رہتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کا بھی یہی حال ہے کہ مُختلِف عُنوانات سے کلام اللہ شریف میں ان مضامین کا ذِکر فرمایا ہے۔

(۱) وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ۔
(البقرہ: ۳۰)

(فرشتوں کا مقولہ انسان کی پیدائش کے وقت) ہم بحمدِ اللہ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی کا دِل سے اقرار کرتے

رہتے ہیں۔

(۲) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

(البقرہ: ۳۲)

(ملائکہ کا جب بمقابلہ انسان امتحان ہوا تو) کہا: آپ تو ہر عَیب سے پاک ہیں، ہم کو تو اس کے سوا کچھ بھی علم نہیں جتنا آپ نے بتا دیا ہے۔ بیشک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔

(۳) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

(ال عمران: ۴۱)

اور اپنے رَبّ کو بکثرت یاد کیجیو اور اس کی تسبیح کی جیو دن ڈھلے بھی اور صبح کے وقت بھی۔

(۴) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(ال عمران: ۱۹۱)

(سمجھ دار لوگ جو اللہ کے ذِکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور قدرت کے کارناموں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں) یہ کہتے ہیں: اے ہمارے رَبّ! آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے (بلکہ بڑی حکمتیں اس میں ہیں) آپ کی ذات ہر عَیب سے پاک ہے، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔

(۵) سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ

(النساء: ۱۷۱)

وہ ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔

(۶) قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

(المائدہ: ۱۱۶)

(قیامت میں جب حضرت عیسٰی علٰی نَبِیِّنَا و عَلَیۡہِ السَّلام سے سُوال ہو گا کہ اپنی اُمّت کو تثلیث کی تعلیم کیا تم نے دی تھی؟ تو) وہ

کہیں گے (توبہ توبہ!!) میں تو آپ کو (شرک سے اور ہر عَیب سے) پاک سمجھتا ہوں، میں ایسی بات کیسے کہتا، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔

(۷) سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

(الأنعام: ۱۰۰)

اللہ جَلّ جَلَالُہٗ ان سب باتوں سے پاک ہے جن کو (یہ کافر لوگ اللہ کی شان میں) کہتے ہیں (کہ اس کے اولاد ہے، یا شریک ہے، وغیرہ وغیرہ)

(۸) فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(الإعراف: ۱۴۳)

(جب طُور پر حق تعالیٰ شانُہٗ کی ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیٰ نَبِیِّنَا وَعَلَیہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام بیہوش ہو کر گر گئے تھے) پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ بیشک آپ کی ذات (ان آنکھوں کے دیکھنے سے اور ہر عَیب سے) پاک ہے، میں (دیدار کی درخواست سے) توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔

(۹) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۝

(الأعراف: ۲۰۶)

بیشک جو اللہ کے مُقَرَّب ہیں (یعنی فرشتے) وہ اس کی عبادت سے تکبُّر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

ف: صُوفیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں تکبُّر کی نفی کو مُقَدَّم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تکبُّر کا ازالہ عبادات پر اِہتمام کا ذریعہ ہے اور تکبُّر سے عبادات میں کوتاہی واقع ہوتی ہے۔

(۱۰) سُبْحَانَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(التوبہ: ۳۱)

اس کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ (کافر اس کا) شریک بناتے ہیں۔

(۱۱) دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(یونس: ۱۰)

(ان جنّتیوں کے) منہ سے یہ بات نکلے گی ”سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ“ اور آپس کا ان کا سلام ہو گا: **السّلام علیکم** (اور جب دنیا کی دِقّتوں کو یاد کریں گے اور خیال کریں گے کہ اب ہمیشہ کے لئے ان سے خَلاصی ہو گئی تو) آخر میں کہیں گے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“۔

(۱۲) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(یونس: ۱۸)

وہ ذات، پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ کافر شریک بناتے ہیں۔

(۱۳) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ هُوَ الْغَنِيُّ

(یونس: ۶۸)

وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔

(۱۴) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(یونس: ۱۰۸)

اور اللہ جَلَّ شانُہٗ (ہر عَیب سے) پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

(۱۵) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

(الرعد: ۱۳)

اور رَعد (فرشتہ) اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے ڈر سے (تسبیح و تحمید کرتے ہیں)۔

ف: عُلماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بجلی کے کڑکنے کے وقت ﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ﴾ پڑھے گا، اس کو بجلی کے نقصان سے حفاظت حاصل ہو گی۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب بجلی کی کڑک سُنا کرو تو اللہ کا ذِکر کیا کرو، بجلی ذِکر کرنے والے تک نہیں جاسکتی ①۔ دوسری حدیث میں وارِد ہے کہ بجلی کی کڑک کے

---

① المعجم الکبیر، عطاء، عن ابن عباس، ۱۱۳/۱۷

وقت تسبیح کیا کرو، تکبیر نہ کہا کرو❶۔

(۱۶) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ٥ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (الحجر: ۹۷)	اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ (جو نامناسب کلمات آپ کی شان میں) کہتے ہیں ان سے آپ کو دِل تنگی ہوتی ہے۔ پس (اسکی پرواہ نہ کیجئے) آپ اپنے رَبّ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) میں شامل رہیں اور اپنے رَبّ کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت آوے۔
(۱۷) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ٥ (النحل: ۱)	وہ ذات لوگوں کے شِرک سے پاک اور بالاتر ہے۔
(۱۸) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ٥ (النحل: ۵۷)	اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ ذات اس سے پاک ہے (اور تماشا یہ ہے کہ) اپنے لئے ایسی چیز تجویز کرتے ہیں، جس کو خود پسند کرتے ہیں۔
(۱۹) سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى (بنی اسرائیل: ۱)	(ہر عَیب سے) پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے (محمد ﷺ) کو رات کے وقت مسجدِ حرام (یعنی مسجدِ کعبہ) سے مسجدِ اقصیٰ تک لے گئی (معراج کا قصہ)۔
(۲۰) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا٥ (بنی اسرائیل: ۴۳)	یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہٗ اس سے پاک اور بہت زیادہ بلند مرتبہ ہیں۔
(۲۱) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ	تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے

---

❶ مراسیل ابی داود، باب ماجاء فی المطر، ۵۰۲

وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ (بنی اسرائیل: ۴۴)	(آدمی، فرشتے اور جنّ) ان کے درمیان میں ہیں، سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔
(۲۲) وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بنی اسرائیل: ۴۴)	(اور یہی نہیں بلکہ) کوئی چیز بھی (جاندار ہو یا بے جان) ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔
(۲۳) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا o (بنی اسرائیل: ۹۴)	(آپ ان لغو مطالبوں کے جواب میں جو وہ کرتے ہیں) کہہ دیجئے کہ سُبْحَانَ اللہ! میں تو ایک آدمی ہوں، رسول ہوں (خدا نہیں ہوں کہ جو چاہے کروں)۔
(۲۴) وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا o (بنی اسرائیل: ۱۰۸)	(ان عُلماء پر جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ بیشک اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔
(۲۵) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا o (مریم: ۱۱)	پس (حضرت زکریا علٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام) حجرہ میں سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کو اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔
(۲۶) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ (مریم: ۳۵)	اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی شان (ہی) نہیں کہ وہ اولاد اِختیار کرے، وہ ان سب قصوں سے پاک ہے۔

(۲۷) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

(طٰهٰ: ۱۳۰)

(محمد! آپ ان لوگوں کی نامناسب باتوں پر صبر کیجئے) اور اپنے رب کی حمد (وثناء) کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کیجئے۔ آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اوّل و آخر میں، تاکہ آپ (اس ثواب اور بے انتہاء بدلے پر، جو ان کے مقابلہ میں ملنے والا ہے، بے حد) خوش ہو جائیں۔

(۲۸) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝

(الأنبياء: ۲۰)

(اللہ کے مقبول بندے اس کی عبادت سے تھکتے نہیں) شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ کسی وقت بھی موقوف نہیں کرتے۔

(۲۹) فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

(الأنبياء: ۲۲)

اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا، ان سب اُمور سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (کہ نَعُوْذُ بِاللہ اس کے شریک ہیں، یا اس کے اولاد ہے)۔

(۳۰) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ

(الأنبياء: ۲۶)

یہ (کافر لوگ یہ) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) رحمن نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو) اولاد بنایا ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے۔

(۳۱) وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

(الأنبياء: ۲۰)

ہم نے پہاڑوں کو داوٗد (عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام) کے تابع کر دیا تھا، کہ ان کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کریں اور

	(اسی طرح) پرندوں کو (تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضرت داوٗد کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کریں)۔
(۳۲) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (الأنبياء:۸۷)	(حضرت یُونُسؑ نے تاریکیوں میں پکارا) کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب عُیوب سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔
(۳۳) سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (المؤمنون:۹۱)	اللہ تعالیٰ ان سب اُمور سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔
(۳۴) سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (النور:۱۶)	سُبحان اللہ! یہ (لوگ جو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں تہمت لگاتے ہیں) بہت بڑا بہتان ہے۔
(۳۵) يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِo رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُo (النور:۳۶)	ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے، نہ فروخت کرنا۔ وہ ایسے دن (کے عذاب) سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دِل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی (یعنی قیامت کے دن سے)۔
(۳۶) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ط وَاللهُ	(اے مُخاطَب!) کیا تجھے (دلائل اور مُشاہَدہ سے) یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور

عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

(النور: ۴۱)

زمین میں ہیں اور (خصوصاً) پرندے بھی، جو پَر پھیلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا (نماز) اور اپنی اپنی تسبیح (کا طریقہ) معلوم ہے۔ اور اللہ جَلَّ شانُہٗ کو سب کا حال اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ سب معلوم ہے۔

(۳۷) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ۝

(الفرقان: ۱۸)

(قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور جن کو یہ پوجتے تھے سب کو جمع کر کے ان معبودوں سے پوچھے گا: کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ تو) وہ کہیں گے: سُبحان اللہ! ہماری کیا طاقت تھی کہ آپ کے سوا اور کسی کو کارساز تجویز کرتے، بلکہ یہ (احمق خود ہی بجائے شُکر کے کفر میں مُبتلا ہوئے) کہ آپ نے ان کو اور ان کے بڑوں کو خوب ثَروت عطا فرمائی، یہاں تک کہ یہ لوگ (دولت کے نشہ میں شَہوَتوں میں مبتلا ہوئے اور) آپ کی یاد کو بھلایا اور خود ہی برباد ہو گئے۔

(۳۸) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۭ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَا ۝

(الفرقان: ۵۸)

اور اس ذات پاک پر توَکُّل رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی اس کو فنا نہیں اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے (یعنی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے)، کیونکہ وہ پاک

ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے (قیامت میں ہر شخص کی مخالفت کا بدلہ دیا جائے گا)۔

(۳۹) وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
(النمل:۸)

اللہ رب العالمین ہر قسم کی کدورت سے پاک ہے۔

(۴۰) سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝
(القصص:۶۸)

اللہ جَلَّ جلالُہٗ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور ان سے بالاتر ہے۔

(۴۱) فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِیْنَ تُظْهِرُوْنَ۝
(الروم:۱۷)

پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت (یعنی رات میں) اور صبح کے وقت۔ اور اسی کی حمد (کی جاتی) ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور اسی کی (تسبیح و تحمید کیا کرو) شام کے وقت بھی (یعنی عصر کے وقت بھی) اور ظہر کے وقت بھی۔

(۴۲) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝
(الروم:۴۰)

اللہ جَلَّ شانُہٗ کی ذات پاک اور بالاتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف (منسوب کرکے) بیان کرتے ہیں۔

(۴۳) اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۝
(السجدہ:۱۵)

پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبُّر نہیں کرتے۔

(۴۴) يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذِکر خوب

ذِكْرًا كَثِيْرًا o وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا o

(الأحزاب: ۴۱)

کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(۴۵) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ

(السبا: ۴۱)

(جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کر کے حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں سے پوچھیں گے: کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ تو) وہ کہیں گے: آپ (شرک وغیرہ عیوب سے) پاک ہیں، ہمارا تو محض آپ سے تعلّق ہے، نہ کہ ان سے۔

(۴۶) سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

(یس: ۳۶)

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام جوڑ کی (یعنی ایک دوسرے کے مُقابِل) چیزیں پیدا کیں۔

(۴۷) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ o

(یس: ۸۳)

پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(۴۸) فَلَوْ لَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ o لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ o

(الصافات: ۱۴۳)

پس اگر (یُونُس عَلَیْہِ السَّلام) تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، تو قیامت تک اسی (مچھلی) کے پیٹ میں رہتے۔

(۴۹) سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

(الصافات: ۱۵۹)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

(۵۰) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ

(الصافات: ۱۶۶)

(فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب ادب سے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں) اور سب اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

(۵۱) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

آپ کا رب جو عِزت (وعظمت) والا ہے،

يَصِفُوْنَo وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَo وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَo

(الصافات: ۱۸۰)

پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ثابت ہے، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

(۵۲) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِo وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌo

(ص: ۱۸)

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے (حضرت داؤد عَلَيْهِ السلام کے) ساتھ شریک ہو کر صبح و شام تسبیح کیا کریں۔ اسی طرح پرندوں کو بھی حکم کر رکھا تھا (جو کہ تسبیح کے وقت) ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور سب (پہاڑ اور پرندے مل کر حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلام کے ساتھ) اللہ کی طرف رُجوع کرنے والے (اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہونے والے) ہوتے ہیں۔

(۵۳) سُبْحٰنَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُo

(الزمر: ۴)

وہ عُیوب سے پاک ہے، ایسا اللہ جو اکیلا ہے (کوئی اس کا شریک نہیں) زبردست ہے۔

(۵۴) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَo

(الزمر: ۶۷)

وہ ذات پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔

(۵۵) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَo

(الزمر: ۷۵)

آپ (قیامت میں) فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہوں گے اور (اس دن) تمام بندوں کا ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور (ہر طرف سے) کہا جائے گا:

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْن" (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے)۔

(۵۶) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ٥

(المؤمن:۷)

جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے چاروں طرف ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور حمد کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اِستِغفار کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ اے ہمارے پرودگار! آپ کی رحمت اور علم ہر شے کو شامل ہے، پس ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کرلی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہنّم کے عذاب سے بچایئے۔

(۵۷) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ٥

(المؤمن:۵۵)

صبح او رشام (ہمیشہ) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہئے۔

(۵۸) فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ٥

(حم سجدہ:۳۸)

جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں (یعنی مُقَرَّب ہیں، مُراد فرشتے ہیں) وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں اکتاتے۔

(۵۹) وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ

(الشوریٰ:۵)

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں رہتے ہیں، ان کے لئے اِستِغفار کرتے

رہتے ہیں۔

(۶۰) وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ o وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ o

(الزخرف: ۱۴)

(اور تم سواریوں پر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب کی یاد کیا کرو) اور کہو: پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ ان کو تابع کر سکتے۔ اور بیشک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(۶۱) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُوْنَ o

(الزخرف: ۸۲)

آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو مالک ہے عرش کا بھی، پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں۔

(۶۲) وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِیْلًا o

(الفتح: ۹)

اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح کے وقت اور شام کے وقت۔

(۶۳) فَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ o وَمِنَ الَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ

(ق: ۳۹)

پس ان لوگوں کی (نامناسب باتوں پر) جو کچھ وہ کہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب کے غروب کے بعد اور رات میں بھی اس کی تسبیح و تحمید کیجئے اور (فرض) نمازوں کے بعد بھی تسبیح و تحمید کیجئے۔

(۶۴) سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ

(الطور: ۴۳)

اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔

(۶۵) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُوْمُ o وَمِنَ الَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ o

(الطور: ۴۹)

اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے (مجلس سے یا سونے سے) اٹھنے کے بعد (یعنی تہجُّد کے وقت) اور رات کے وقت بھی اس

	کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے (غروب ہونے کے) بعد بھی۔
(۶۶ ۔ ۶۷) فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ (الواقعه: ۹۶، ۷۴)	پس اپنے اس بڑی عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔
(۶۸) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ o (الحديد: ۱)	اللہ جَلَّ شانہٗ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔
(۶۹) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ o (الحشر: ۱)	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
(۷۰) سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ o (الحشر: ۲۳)	اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔
(۷۱) يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ o (الحشر: ۲۴)	اللہ تعالیٰ شانہٗ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔
(۷۲) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ o (الصف: ۱)	اللہ جَلَّ شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین ہیں۔ اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔
(۷۳) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ الۡمَلِكِ الۡقُدُّوۡسِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِ o (الجمعه: ۱)	اللہ جَلَّ شانہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں، وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے زبردست ہے حکمت والا

ہے۔

(۷۴) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(التغابن: ۱)

اللہ جَلَّ شانُہٗ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اسی کے لئے ساری سلطنت ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

(۷۵۔ ۷۶) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

(القلم: ۲۸)

ان میں سے جو افضل تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے (پہلے ہی) کہا نہ تھا: اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ کہنے لگے: سُبْحَانَ رَبِّنَا (ہمارا رب پاک ہے) بیشک ہم خطاوار ہیں۔

(۷۷) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

(الحاقة: ۵۲)

پس اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔

(۷۸) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

(الدھر: ۲۵)

اپنے پروردگار کا صبح شام نام لیا کیجئے اور رات کو بھی اس کے لئے سجدہ کیجئے۔ اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔

(۷۹) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

(الاعلیٰ: ۱)

آپ اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔

(۸۰) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

(النصر: ۳)

پس اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہئے۔ بیشک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

ف: یہ اسّی (۸۰) آیات ہیں جن میں اللہ جَلَّ جلالُہٗ وعَمَّ نَوالُہٗ کی تسبیح کا حکم ہے۔ اس

کی پاکی بیان کرنے اور اقرار کرنے کا حکم ہے، یا اس کی ترغیب ہے۔ جس مضمون کو اللہ مالِکُ الْمُلک نے اس اِہتمام سے اپنے پاک کلام میں بار بار فرمایا ہو اس کے مُہتَم بِالشّان ہونے میں کیا تردُّد ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بہت سی آیات میں تسبیح کے ساتھ دوسرے کلمۂ تحمید یعنی اللہ کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا اور اسی میں "اَلْحَمْدُ لِلّٰہ" کہنا بھی ذِکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اُوپر کی آیات سے معلوم ہو گیا۔ ان کے عِلاوہ خاص طور پر اللہ کی تعریف کا بیان جو مفہوم ہے "اَلْحَمْدُ لله" کا اور آیات میں بھی آیا ہے اور سب سے اہم یہ کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کی پاک کلام کا شروع ہی "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" سے ہے۔ اس سے بڑھ کر اس پاک کلمہ کی اور کیا فضیلت ہو گی کہ اللہ جَلَّ جلالُہٗ نے قرآنِ پاک کا شروع اس سے فرمایا ہے۔

(۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (الفاتحہ: ۱)	سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
(۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّہِمْ یَعْدِلُوْنَ o (الإنعام: ۱)	تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ (دوسروں کو) اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔
(۳) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (الإنعام: ۴۵)	پھر (ہماری گرفت سے) ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (اس کا شُکر ہے)، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
(۴) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ہَدٰنَا لِہٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَہْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ ہَدٰنَا اللّٰہُ (الإعراف: ۴۳)	اور (جنت میں پہنچنے کے بعد) وہ لوگ کہنے لگے: تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے، اگر

اللہ جَلَّ شَانُہٗ ہم کو نہ پہنچاتے۔

(۵) اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِیْلِ

(الإعراف:۱۵۷)

جو لوگ ایسے رسول نبی ﷺ اُمّی کا اِتّباع کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

ف: توریت میں جو صِفات حُضور ﷺ کی نقل کی گئی ہیں، ان میں یہ بھی ذِکر کیا گیا ہے کہ ان کی اُمّت بہت کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والی ہے۔ چنانچہ ''دُرِّ مَنْثُور'' میں کئی رِوایات سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔

(۶) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

(التوبہ:۱۱۲)

(ان مُجاہِدِین کے اَوصاف جن کے نُفوس کو اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے جنّت کے بدلہ میں خرید لیا ہے یہ ہیں کہ) وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لئے سفر کرنے والے ہیں،، رکوع: اور سجدہ کرنے والے ہیں (یعنی نمازی ہیں) نیک باتوں کا حکم کرنے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں (تبلیغ کرنے والے ہیں) اور اللہ کی حُدود کی (یعنی احکام) کی حفاظت کرنے والے ہیں، (ایسے) مومنوں کو آپ خوشخبری سُنا دیجئے۔

(۷) وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اور آخری پُکار ان کی یہی ہے ''اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ'' (تمام تعریف اللہ ہی کے

(یونس: ۱۰)	لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)۔
(۸) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَی الْکِبَرِ اِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ (ابراهیم: ۳۹)	تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، جس نے بڑھاپے میں مجھ کو (دو بیٹے) اسماعیل و اسحٰق (عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ) عطا فرمائے۔
(۹) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ o (النحل: ۵۵)	تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (پھر بھی وہ لوگ اس طرف مُتَوَجِّہ نہیں ہوتے) بلکہ اکثر ان میں سے ناسمجھ ہیں۔
(۱۰) یَوْمَ یَدْعُوْکُمْ فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِیْلًا o (بنی اسرائیل: ۵۲)	جس دن (صُور پھُنکے گا اور تم کو (زندہ کر کے) پُکارا جائے گا، تو تم مجبوراً اس کی حمد (وثناء) کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے اور (ان حالات کو دیکھ کر) گمان کرو گے (کہ تم دنیا میں اور قبر میں) بہت ہی کم مدت ٹھہرے تھے۔
(۱۱) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّهٗ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِیْرًا o (بنی اسرائیل: ۱۱۱)	اور آپ (علی الاعلان) کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اسی اللہ کے لئے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور اس کی خوب تکبیر (بڑائی بیان) کیا کیجئے۔
(۱۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا o (الکهف: ۱)	تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس نے اپنے بندہ (محمد ﷺ) پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا سی

بھی کجی نہیں رکھی۔

(۱۳) فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝

(المؤمنون: ۲۸)

(حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلام کو خطاب ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ) تو کہنا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔

(۱۴) وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

(النمل: ۱۵)

اور (حضرت سلیمانؑ اور حضرت داوٗدؑ نے) کہا: تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے، جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

(۱۵) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

(النمل: ۵۹)

آپ (خطبہ کے طور پر) کہیے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو، جن کو اس نے مُنتخب فرمایا۔

(۱۶) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا

(النمل: ۹۳)

اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں، وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھادے گا، پس تم اس کو پہچان لو گے۔

(۱۷) لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

(القصص: ۷۰)

حمد وثناء کے لائق دنیا اور آخرت میں وہی ہے اور حکومت بھی اسی کیلئے ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(۱۸) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۝

(العنکبوت: ۶۳)

آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہیں (یہ لوگ مانتے نہیں)، بلکہ اکثر ان میں سمجھتے بھی نہیں۔

(۱۹) وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ۝

اور جو شخص کفر کرے (ناشکری کرے) تو

(لقمان:۱۲)	اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔
(۲۰) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (لقمان:۲۵)	آپ کہہ دیجئے: تمام تعریف اللہ کے لئے ہے (یہ لوگ مانتے نہیں)، بلکہ اکثر ان میں کے جاہل ہیں۔
(۲۱) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (لقمان:۲٦)	بیشک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے۔
(۲۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ (السبا: ۱)	تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے، جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اسی کی حمد (وثناء) ہو گی آخرت میں (کسی دوسرے کی پوچھ نہیں)۔
(۲۳) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الفاطر: ۱)	تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کا۔
(۲۴) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝ (الفاطر:۱۵)	اے لوگو! تم محتاج ہو اللہ کے اور وہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔
(۲۵) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۝ الَّذِيْۤ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۝ (الفاطر:۳۴)	(جب مسلمان جنّت میں داخل ہوں گے تو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے) اور کہیں گے: تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کیلئے) رنج دور کر دیا، بیشک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدر

کرنے والا ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے مقام میں پہنچا دیا۔ نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔

(۲۶) وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(الصافات: ۱۸۱)

اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(۲۷) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(الزمر: ۲۹)

تمام تعریف اللہ کے واسطے ہے (مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں)، بلکہ اکثر جاہل ہیں۔

(۲۸) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

(الزمر: ۷۴)

اور (جب مسلمان جنّت میں داخل ہوں گے تو) کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے واسطے ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچّا کیا اور ہم کو اس زمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنّت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھّا بدلہ ہے۔

(۲۹) فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(الجاثیہ: ۳۶)

پس اللہ ہی کے لئے تمام تعریف ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(۳۰) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(البروج: ۸)

(ایک کافر کے بادشاہ کے مسلمانوں کو ستانے اور تکلیفیں دینے کا اُوپر سے ذِکر ہے) اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عَیب نہیں پایا تھا، بجُز اس کے کہ وہ

خدا پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست
ہے اور تعریف کا مستحق ہے، اسی کے لئے
سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔

ف: ان آیات میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کی ترغیب، اس کا حکم، اس کی خبر ہے۔ اَحادیث میں بھی کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والوں کے فضائل خاص طور پر ذِکر کئے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنَّت کی طرف سے سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں، راحت ہو یا تکلیف، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں ①۔ ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے ② اور ہونا بھی چاہیئے کہ درحقیقت تعریف کی مستحق صرف اللہ ہی کی پاک ذات ہے۔ غیر اللہ کی تعریف کیا؟ جس کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے قبضہ میں نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوں ③۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ حمد شُکر کی اصل اور بنیاد ہے، جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شُکر بھی ادا نہیں کیا ④۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی نعمت پر حمد کرنا اس نعمت کے زائل ہو جانے سے حفاظت ہے ⑤۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا ساری کی ساری میری اُمّت میں سے کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" کہے تو یہ کہنا اس سب سے افضل ہے ⑥۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حق تعالیٰ شانُہٗ کوئی نعمت کسی بندہ کو عطا فرماتے ہیں اور وہ اس نعمت پر حمد کرتا ہے، تو وہ حمد بڑھ جاتی ہے خواہ نعمت کتنی ہی بڑی ہو ⑦۔ ایک صحابی ؓ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے، "**اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَثِیْرًا طَیِّبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ**" کہا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ دُعا کس نے پڑھی؟ وہ صحابی ؓ اس سے ڈرے کہ شاید کوئی نامناسب بات ہوگئی ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ

---

① مستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر، ۱۸۵۱
② المعجم الکبیر، الاسود بن سریع، ۸۲۵
③ المعجم الکبیر: ۱۸، ۲۵۴/ ۱۲۴
④ مستدرک حاکم، تعدید نعم اللہ، ۴۰۸۵
⑤ الفردوس للدیلمی، باب الحا، ۲۷۸۳
⑥ نوادر الاصول، الاصل الحادی والسبعون: ۲/ ۲۶۷
⑦ المعجم الکبیر، ثابت بن عجلان، ۷۷۹۴

کچھ مضائقہ نہیں ہے اس نے بری بات نہیں کہی۔ تب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ دُعا میں نے پڑھی تھی۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اس کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کلمہ کو سب سے پہلے وہ لے جائے۔ ❶ اور یہ حدیث تو مشہور ہے کہ جو مُہتَم بِالشَّان کام بغیر اللہ کی تعریف کے شروع کیا جائے گا، وہ بے برکت ہوگا ❷۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہر کتاب، اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے، تو حق تعالیٰ شانُہٗ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بچّہ کی روح نکال لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نکال لی۔ پھر اِرشاد ہوتا ہے کہ اس کے دِل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں: بے شک لے لیا۔ اِرشاد ہوتا ہے: پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں: تیری حمد کی اور "إِنَّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا إِلَیۡہِ رَاجِعُوۡنَ" پڑھا۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ اچھّا اس کے بدلے میں جنَّت میں ایک گھر اس کے لئے بنادو اور اس کا نام "بَیۡتُ الۡحَمۡدِ" (تعریف کا گھر) رکھو ❸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانُہٗ اس سے بیحد راضی ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پئے اور اس پر "اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ" کہے ❹۔

تیسرا کلمہ تہلیل تھا، یعنی "لَآ إِلٰہَ إِلَّا اللّٰہُ" کہنا جس کا مُفَصَّل بیان اس سے پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ چوتھا کلمہ تکبیر کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی بلندی اور عظمت کا اقرار کرنا، جس کا مِصداق "اللہ اکبر" کہنا بھی ہے، وہ ان آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ ان کے عِلاوہ صرف تکبیر کا یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بیان بھی بہت سی رِوایات میں وَارِد ہوا ہے، جن میں سے چند آیات ذِکر کی جاتی ہیں۔

(۱) وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ (البقرہ: ۱۸۵)	اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور تاکہ تم شُکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔
(۲) عَالِمُ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ الۡكَبِيۡرُ	وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا

---

❶ نسائی، کتاب الافتتاح، ۹۰۱

❷ ابن ماجہ، کتاب النکاح، ۱۸۹۴

❸ ترمذی، ابواب الجنائز، ۱۰۲۱

❹ مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۱۱۱۹۷۳

الْمُتَعَالِ o

(الرعد: ۹)

ہے، (سب سے) بڑا ہے۔ اور عالیشان رتبہ والا ہے۔

(۳) كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

(الحج: ۳۷)

اسی طرح اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے (قربانی کے جانوروں کو) تمہارے لئے مسخر کر دیا، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی (اور قربانی کرنے کی توفیق دی) اور (اے محمد!) اِخلاص والوں کو (اللہ کی رضا کی) خوشخبری سُنا دیجئے۔

(۴۔ ۵) وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ o

(الحج: ۶۲، لقمن: ۳۰)

اور بیشک اللہ جَلَّ شَانُہٗ ہی عالیشان اور بڑائی والا ہے۔

(۶) حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ o

(السبا: ۲۳)

(جب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ خوف کے مارے گھبرا جاتے ہیں) یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پرودگار کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں (فلانی) حق بات کا حکم ہوا، واقعی وہ عالیشان اور بڑے مرتبہ والا ہے۔

(۷) فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ o

(المؤمن: ۱۲)

پس حکم اللہ ہی کے لئے ہے، جو عالی شان ہے، بڑے رتبہ والا ہے۔

(۸) وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ o

(الجاثیہ: ۳۷)

اور اسی (پاک ذات) کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔

(۹) هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

(الحشر: ۲۳)

وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے، (سب نقصانات سے) سالم ہے، امن دینے والا ہے اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ (یعنی آفتوں سے بچانے والا ہے) زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے۔

ف: ان آیات میں اللہ جَلَّ شانُہٗ کی بڑائی اور عظمت کی ترغیب اور اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اَحادیث میں بھی خُصُوصِیَّت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا حکم، اس کی ترغیب کثرت سے وَارِد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ جب یہ دیکھو کہ کہیں آگ لگ گئی تو تکبیر (یعنی اللہ اکبر کثرت سے) پڑھا کرو، یہ اس کو بجھادے گی ①۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تکبیر (یعنی اللہ اکبر کہنا) آگ کو بجھا دیتا ہے ②۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ تکبیر کہتا ہے تو (اس کا نور) زمین سے آسمان تک سب چیزوں کو ڈھانک لیتا ہے ③۔ ایک حدیث میں اِرشاد ہے کہ مجھے جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام نے تکبیر کا حکم کیا ④۔

ان آیات و اَحادیث کے عِلاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت، اس کی حمد و ثناء اور عُلُوِّ شان کو مُختَلِف عُنوانات سے کلام اللہ شریف میں بہت سے مُختَلِف الفاظ سے ذِکر فرمایا ہے۔ ان کے عِلاوہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں ان تَسبیحات کے الفاظ ذِکر نہیں فرمائے، لیکن مُراد یہ تَسبیحات ہیں۔ چنانچہ چند آیات حسب ذیل ہیں۔

(۱) فَتَلَقّٰٓی اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(البقرہ: ۳۷)

پس حاصل کر لئے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلام نے اپنے رب سے چند کلمے (ان کے ذریعہ سے توبہ کی)، پس اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجُّہ فرمائی، بیشک وہی ہے بڑی

---

① الدعاء للطبرانی، باب القول عند بناء، ۱۰۰۲

② ایضا

③ تاریخ بغداد، من اسمہ عبد الرحیم، ۵۷۶۹

④ المعجم الاوسط، من اسمہ بکر، ۳۲۱۸

توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

ف: ان کلمات کی تفسیر میں مُختلِف اَحادیث وَارِد ہوئی ہیں، مِنْ جُملہ ان کے یہ ہے کہ وہ کلمات یہ تھے۔ ”لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَبِحَمْدِکَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓأً وَظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ إِنَّکَ أَنْتَ خَیْرُ الْغَافِرِیْنَ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَبِحَمْدِکَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓأً وَظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَارْحَمْنِیْ إِنَّکَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَبِحَمْدِکَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْٓأً وَظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَتُبْ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ“ اس قسم کے مضمون کی اور بھی مُتعدِّد اَحادیث وَارِد ہوئی ہیں، جن کو علّامہ سُیُوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”دُرِّ مَنْثُور“ میں لکھا ہے، ان میں تسبیح وتحمید مذکور ہے۔

(۲) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(الإنعام: ۱۶۰)

جو شخص ایک نیکی لے کر آوے گا، اس کو دس گنا اجر ملے گا۔ اور جو شخص برائی لے کر آوے گا اس کو برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

ف: نبیٔ اکرم ﷺ کا اِرشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کا اِہتمام کرلے، جنّت میں داخل ہو۔ اور وہ دونوں بہت معمولی چیزیں ہیں، مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں: ایک یہ کہ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ اَکْبَرُ“ ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو روزانہ ایک سو پچاس مرتبہ (پانچوں نمازوں کے بعد کا مجموعہ) ہو جائے گا اور دس گنا ہو جانے کی وجہ سے پندرہ سو نیکیاں حساب میں شمار کی جائیں گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ سوتے وقت ”اللہ اکبر“ چونتیس (۳۴) مرتبہ، ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ تینتیس (۳۳) مرتبہ، ”سُبْحَانَ اللّٰهِ“ تینتیس (۳۳) مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو سو (۱۰۰) کلمے ہو گئے، جن کا ثواب ایک ہزار نیکیاں ہو گئیں۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی میزان کل دو ہزار پانچ سو نیکیاں ہو گئیں۔ بھلا اَعمال تولنے کے وقت ڈھائی ہزار برائیاں روزانہ کی کس کی ہوں گی، جو ان پر غالب آ جائیں ①۔ بندۂ ناچیز کہتا ہے: صَحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اگرچہ ایسا کوئی نہ ہو گا جس کی ڈھائی ہزار برائیاں روزانہ ہوں، مگر اس زمانہ میں ہم لوگوں کی

---

① سنن کبری للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، ۹۹۰۷

بداعمالیاں روزانہ کی اس سے بھی بدرجہا زائد ہیں۔ لیکن نبیٔ اکرم ﷺ (روحی فداہ) نے اپنی شفقت سے برائیوں پر نیکیوں کے غالب آجانے کا نسخہ اِرشاد فرمایا۔ عمل کرنا نہ کرنا بیمار کا کام ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی سَہل اور ان کو کرنے والے بہت کم ہیں؟ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ان کے پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات یاد دلاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا جاوے ❶۔ ایک حدیث میں حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا: کیا تم اس سے عاجز ہو کو ہزار نیکیاں روزانہ کما لیا کرو؟ کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہزار نیکیاں روزانہ کس طرح کمائی جائیں؟ اِرشاد فرمایا کہ ”سُبحَان اللہ“ سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھو، ہزار نیکیاں ہو جائیں گی۔

(۳) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

(الکھف: ۴۶)

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق (فقط) ہے اور باقِیات صالحات (وہ نیک اَعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی (بدرجہا) بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں (کہ ان کے ساتھ امیدیں قائم کی جائیں، بخلاف مال اور اولاد کے، کہ ان سے امیدیں قائم کرنا بے کار ہے)۔

(۴) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

(مریم: ۷۶)

اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور باقِیات صالحات تمہارے ربّ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔

---

❶ ابوداود، ابواب النوم، باب فی التسبیح عند النوم، ۵۰۶۵

ف: اگرچہ باقیات صالحات (وہ نیک عمل جو ہمیشہ رہنے والے ہیں) میں سارے ہی ایسے اَعمال داخل ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے، لیکن بہت سی اَحادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا مِصداق یہی تسبیحیں ہیں۔ حُضور اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا ہے کہ باقیات صالحات کو کثرت سے پڑھا کرو، کسی نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ تکبِیر (أَللّٰہُ اَکْبَرُ کہنا)، تہلیل (لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰہُ کہنا)، تسبیح (سُبْحَانَ اللّٰہِ کہنا)، تحمید (اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہنا) اور "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ"۔ ❶ دوسری حدیث میں آیا ہے: حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ دیکھو! خبردار رہو "سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ" باقیات صالحات میں ہیں ❷۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی حفاظت کا انتظام کرلو۔ کسی نے پوچھا: یارسول اللہ! کسی دشمن کے حملہ سے جو درپیش ہے؟ حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا: نہیں، بلکہ جہنّم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو اور وہ "سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ" کا پڑھنا ہے کہ یہ قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں (کہ سفارش کریں، یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنّت کی طرف بڑھاتے ہیں) اور پیچھے رہنے والے ہیں، (کہ حفاظت کریں) اِحسان کرنے والے ہیں اور یہی باقیات صالحات ہیں ❸۔ اور بھی بہت سی رِوایات میں یہ مضمون وارِد ہوا ہے، جن کو علّامہ سُیُوطی رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہ نے "دُرِّ مَنْثُور" میں ذِکر فرمایا ہے۔

(۵) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الاٰية) اللہ ہی کے واسطے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔

(الشوریٰ: ۶۳)

ف: حضرت عثمان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے ﴿مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ یعنی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کے بارے میں دریافت کیا تو حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا کہ "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ الَّذِیْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ

---

❶ صحیح ابن حبان، باب الاذکار، ۸۴۰

❷ مسند احمد، حدیث النعمان بن بشیر، ۱۸۳۵۳،

❸ شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ، ۵۹۸

الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ" ہیں①۔ دوسری حدیث میں ہے کہ "مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ" ہیں اور یہ عرش کے خزانے سے نازل ہوئی②۔ اور بھی رِوایات میں یہ مضمون وارِد ہوا ہے۔

(۶) إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ

اسی کی طرف اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔

(الفاطر: ۱۰)

ف: کلمۂ طیّبہ کے بیان میں بھی اس آیت کا ذِکر گزر چکا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تمہیں ہم کوئی حدیث سناتے ہیں تو قرآن شریف سے اس کی سند اور تائید بتا دیتے ہیں۔ مسلمان جب "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" اور "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ" پڑھتا ہے، تو فرشتہ اپنے پروں میں نہایت احتیاط سے ان کلموں کو آسمان پر لے جاتا ہے اور جس آسمان پر گزرتا ہے اس آسمان کے فرشتے اس پڑھنے والے کے لئے مغفِرت کی دُعا کرتے ہیں اور اس کی تائید یہ آیتِ شریفہ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ ہے③۔ حضرت کَعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ" کے لئے عرش کے گرداگرد ایک بھنبھناہٹ ہے، جس میں اپنے پڑھنے والوں کا تذکِرہ کرتے رہتے ہیں④۔ بعض رِوایات میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حُضور ﷺ سے یہ مضمون نقل کیا ہے اور ایک دوسرے صَحابی حضرت نُعمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس قسم کا مضمون خود حُضورِ اَقدس ﷺ ہی سے نقل کیا ہے⑤۔

---

① الاسماء والصفات للبیہقی، ۱۹
② مسند الحارث، کتاب الاذکار، ۱۰۴۵
③ شعب الایمان، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ، ۶۲۵
④ الزھد لابن مبارک، ۹۳۱
⑤ مسند احمد، حدیث نعمان بن بشیر، ۱۸۳۶۲

فصل دوم

ان اَحادیث کے بیان میں جن میں ان کلمات کی فضیلت اور ترغیب ذِکر فرمائی گئی ہے۔

(۱) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔

حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، وہ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" اور "سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم" ہیں۔

(متفق عليه)

رواه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب إذاقال والله لاتكلم: ۶۳۰۴، (۲۳۵۹/۶)۔ **ومسلم**، كتاب الذكروالدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح: ۶۸۶۷، (۲۱/۱۷)۔ **والترمذي**، أبواب الدعوات: ۳۴۶۷، (۴۸۷)۔ **والنسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليل، باب مايثقل الميزان: ۱۰۵۹۷، (۳۰۵/۹)۔ **وابن ماجه**، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ۳۸۰۶، (۲۵۱/۴)۔ **كذافي الترغيب**، كتاب الذكروالدعاء، باب الترغيب في التسبيح: ۲۲۳۶، (۶۳۰/۲)۔

ف: زبان پر ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہو کہ بہت مُختصر ہیں، نہ یاد کرنے میں کوئی دِقّت یا دیر لگے۔ اور اس کے باوجود جب اَعمال کے تولنے کا وقت آئے گا، تو ترازو میں ان کلموں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا، تو بھی اس سے بڑھ کر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب "صحیح بخاری" کو ان ہی دو کلموں پر ختم فرمایا اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذِکر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اِرشادِ نبوی ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اس بات کہ نہ چھوڑے کہ ہزار نیکیاں روزانہ کر لیا کرے۔ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھ لیا کرے، ہزار نیکیاں ہو جائیں گی۔ اتنے گناہ تو انشاء اللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں۔ اور اس تسبیح کے عِلاوہ جتنے نیک کام کئے ہوں گے، ان کا ثواب علیحدہ نفع میں رہا۔ ❶ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام ایک ایک تسبیح "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" کی پڑھے اس کے گناہ مُعاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر

---

❶ مسند احمد، حدیث ابی الدرداء، ۲۷۴۷۸

کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں ①۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”سُبْحَانَ اللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے (سردی میں) درخت سے پتے جھڑتے ہیں ②۔

(۲) عَنْ اَبِیْ ذَرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اَلَآ اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَی اللّٰہِ قُلْتُ: یَارَسُوْلَ اللّٰہِ، اَخْبِرْنِیْ بِاَحَبِّ الْكَلَامِ اِلَی اللّٰہِ۔ فَقَالَ: اِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اِلَی اللّٰہِ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِهٖ۔

حضرت اَبُوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتاویں، اِرشاد فرمایا: ”سُبْحَان اللّٰہ وَبِحَمْدِهٖ“۔ دوسری حدیث میں ہے ”سُبْحَانَ رَبِّی وَبِحَمْدِهٖ“۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کیلئے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے اور وہ ”سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِهٖ“ ہے۔

(ض)

رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل سُبْحَان الله: ۲۸۶۳، (۵۰/۱۷)۔**والنسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر ما اصطفي الله عز وجل: ۱۰۵۹۲، (۳۰۴/۹)۔**والترمذي،** اَبْواب الدعوات، باب أى الكلام أحب إلى الله: ۳۵۹۳، ص(۸۱۲)۔**الا انه قال ”سُبْحَان ربى وبحمده“۔ وقال: حسن صحيح۔ وعزاه السُيُوطي في الجامع الصغير،** باب حرف الألف: ۲۱۴، (۱۶/۱)۔**إلى مسلم وأحمد،** مسند الأنصار: ۲۰۵۴۹۔ ص (----۔**والترمذي، ورقم له بالصحة۔ وفي رواية المسلم،** كتاب الذكروالدعاء، باب فضل سُبْحَان الله: ۲۷۳۱، (۲۰۹۳/۴) **: ان رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم سئل: أى الكلام أفضل قال: ما اصطفي الله لملائكته ولعباده: ”سُبْحَان الله وبحمده“ كذا في الترغيب،** كتاب الذكر، باب الترغيب في التسبيح: ۲۲۶۷، (۲۳۰/۲)۔ **قلت: وأخرج الاخير الحاكم،** كتاب الدعاء والتكبير: ۱۸۴۶، (۶۸۰/۱)۔ **وصححه على شرط مسلم۔ وأقره عَلَيْهِ الذهبي۔ وذكره السُيُوطي في الجامع،** باب حرف الألف: ۱۲۹۱، (۹۸/۱)۔**برواية أحمد عن رجل مُختصرا، ورقم له بالصحة۔**

ف: پہلی فصل میں کئی آیتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ ملائکہ جو عرش کے قریب ہیں، وہ اور ان کے عِلاوہ سب اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اور حمد کرنے میں مشغول رہیں۔ اسی وجہ سے جب آدم عَلَیْہِ السَّلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہِ الٰہی میں ذِکر کیا کہ ﴿نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ﴾۔ جیسا کہ اس سے پہلی فصل کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ آسمان (عظمتِ الٰہی کے بوجھ سے) بولتا ہے (چرچراتا ہے جیسا کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے) اور آسمان کے لئے حق ہے کہ وہ بولے

---

① مستدرک حاکم، کتاب الدعاء والتکبیر، ۱۹۶

② مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۱۲۵۳۴

(کہ ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے)۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، کہ آسمان میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں، جہاں کوئی فرشتہ سجدہ کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول نہ ہو❶۔

(۳) عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَّأَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ أَلْفَ حَسَنَةٍ۔ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ۔ قَالَ: بَلٰى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجِيْءُ بِالْحَسَنَاتِ، لَوْ وُضِعَتْ عَلٰى جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ۔ ثُمَّ تَجِيْءُ النِّعَمُ، فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَحْمَتِهٖ۔

(صحیح علی ماصححه الذهبی ووافقه الذهبی)

رواه الحاكم، كتاب التوبة والانابة: ۷۸۰۱، (۱۷۶/۵)۔ **وقال: صحيح الإسناد۔** كذا في الترغيب، كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في التسبيح: ۲۲۳۸، (۶۳۰/۲)۔ **قلت: وأقره عَلَيْهِ الذهبي۔**

حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کہے اس کیلئے جنّت واجب ہو جائے گی اور جو شخص "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ" سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھے گا، اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسی حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہو سکتا (کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی)۔ حضور ﷺ نے فرمایا: (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اور کیوں نہ ہوں) بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ کَالعَدَم ہو جائیں گی۔ البتّہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔

ف: اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں دب جانے اور کَالعَدَم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور مُحاسَبہ ہو گا کہ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شُکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ

---

❶ کنز العمال عن ابن مردویہ، ۲۹۸۳۰

ہوتا ہے۔ چنانچہ حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”یُصْبِحُ عَلٰی کُلِّ سُلَامٰی مِنْ أَحَدِکُمْ صَدَقَةٌ“❶۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں تین سو ساٹھ (۳۶۰) جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ حق تعالیٰ شانہٗ نے سونے کے بعد مر جانے کے مشابہ حالت تھی، پھر از سرِ نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اتنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے۔ ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ ایک مرتبہ کہنا، صدقہ ہے۔ ”اللہ اکبر“ کہنا صدقہ ہے۔ راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے❷۔ غرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے راحت و آرام کے متعلّق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسّر ہوتی ہیں، وہ مزید برآں۔

قرآنِ پاک میں سورۂ ﴿أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سوال ہو گا۔ حضرت ابنِ عبّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہو گا کہ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائیں، ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا❸؟ (یا چوپایوں کی طرح صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا) چنانچہ دوسری جگہ سورۂ بنی اسرائیل، میں ارشاد ہے ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (کان، آنکھ، دِل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہو گی کہ ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا؟) حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہو گا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے اور صحتِ بدن بھی ہے❹۔ مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذّت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہو گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص

---

❶ مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین، ۷۲۰

❷ مسلم، کتاب الزکاۃ، ۱۰۰۹۔ والحلیہ

❸ شعب الایمان، تعدید نعم اللہ، ۴۲۹۳

❹ الزھد لابن حنبل، ۸۵۷

نے حضرت علی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے پوچھا کہ ﴿ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ﴾ (التکاثر: ۸) (پھر اس دن نعمتوں سے بھی سُوال کئے جاؤ گے) کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اِرشاد فرمایا کہ گیہوں کی روٹی اور ٹھنڈا پانی مُراد ہے، کہ اس سے بھی سُوال ہو گا اور رہنے کے لئے مکان سے بھی ①۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صَحابہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کن نعمتوں کا سُوال ہو گا؟ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے اور وہ بھی جَو کی (پیٹ بھرائی روٹی بھی میسر نہیں) وحی نازل ہوئی: کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے؟ کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں ②۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض صَحابہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم نے اس آیتِ شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کیا: یارسول اللہ! کن نعمتوں سے سُوال ہو گا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں اور ہماری تلواریں (جہاد کے لئے) ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں اور دشمن (کافر کوئی نہ کوئی) مقابل (جس کی وجہ سے وہ دو چیزیں بھی اطمینان اور بے فکری سے نصیب نہیں ہوتیں)۔ حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ عنقریب نعمتیں مُیَسَّر ہونے والی ہیں ③۔

ایک حدیث میں حُضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا اِرشاد ہے کہ قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہو گا، ان میں سب سے اوّل یہ ہو گا کہ ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا فرمائی، (یعنی اس تندرستی کا کیا حق ادا کیا اور اس میں اللہ کی رضا کی کیا خدمت ادا کی) اور ہم نے ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب کیا ④ (جو درحقیقت اللہ کی بڑی نعمت ہے، جہاں ٹھنڈا پانی مُیَسَّر نہیں ہوتا ان سے کوئی اس کی قدر پوچھے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حد نہیں، مگر ہم لوگوں کو اس نعمتِ عظیمہ ہونے کی طرف اِلتفات بھی نہیں ہوتا، چہ جائیکہ اس کا شُکر اور اس کی ادائیگی حق)۔ ایک حدیث میں وَارِد ہے کہ جن نعمتوں سے سُوال ہو گا، یہ ہیں: وہ روٹی کا ٹکڑا جس سے پیٹ بھر جاتا ہے، وہ پانی جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ وہ کپڑا جس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے ⑤۔

ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت اَبُو بکر صِدِّیق رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ پریشان ہو

---

① تفسیر ابن ابی حاتم، التکاثر

② ایضا

③ مسند احمد، حدیث محمود بن لبید، ۲۳۶۴۰

④ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، ۳۳۵۸

⑤ الدر المنثور، التکاثر

کر گھر سے چلے۔ مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت اَبُو بکر صِدّیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھا دیکھ کر دریافت کیا کہ تم اس وقت یہاں کہاں؟ فرمایا کہ بھوک کی بیتابی نے پریشان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: واللہ! اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا کہ کہیں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر رہی رہے تھے کہ سردارِ دوعالم نبیٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! بھوک نے پریشان کیا جس سے مضطرب ہو کر نکل پڑے۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا: اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر حضرب اَبُو ایُّوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے، وہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ بیوی نے بڑی مَسرّت و اِفتخار سے ان حضرات کو بٹھایا۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اَبُو ایُّوب رضی اللہ عنہ کہاں گئے ہیں؟ عرض کیا: ابھی حاضر ہوتے ہیں کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں۔

اتنے میں اَبُو ایُّوب رضی اللہ عنہ بھی حاضرِ خدمت ہو گئے اور فرطِ خوشی میں کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ سارا خوشہ کیوں توڑا، اس میں کچی اور آدھ کچری بھی ٹوٹ گئیں، چھانٹ کر پکی ہوئی توڑ لیتے۔ انہوں نے عرض کیا: اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کی سامنے ہوں، جو پسند ہو وہ نوش فرما دیں، (کہ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے آدھ کچری زیادہ پسند ہوتی ہیں) خوشہ سامنے رکھ کر جلدی سے گئے اور ایک بکری کا بچّہ ذبح کیا اور جلدی جلدی کچھ تو ویسے ہی بھون لیا، کچھ سالن تیار کر لیا۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر اَبُو ایُّوب رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہنچا دو۔ اس کو بھی کئی دن سے کچھ نہیں مل سکا۔ وہ فوراً پہنچا کر آئے۔ ان حضرات نے بھی سیر ہو کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ دیکھو! یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ روٹی ہے، گوشت ہے، ہر قسم کی کچی اور پکی کھجوریں ہیں۔ یہ فرما کر نبیٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اِرشاد فرمایا: اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں سُوال ہو گا، (جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ چیزیں

مُیَسَّر ہوئی تھیں ان کے لحاظ سے) صَحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑی گرانی اور فکر پیدا ہو گیا (کہ ایسی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں یہ چیزیں مُیَسَّر آئیں اور ان پر بھی سُوال و حساب ہو گا)۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ اللہ کا شُکر ادا کرنا تو ضروری ہے ہی۔ جب اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ ڈالو تو اوّل "بِسْمِ اللّٰہِ" پڑھو اور جب کھا چکو تو کہو "**اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھُوَ أَشْبَعَنَا وَ أَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ أَفْضَلَ**" (تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو پیٹ بھر کر کھلایا اور ہم پر اِنعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا فرمایا)۔ اس دُعا کا پڑھنا شُکر ادا کرنے میں کافی ہے ❶۔ اس قسم کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے، جو مُتعدِّد اَحادیث میں مُختلِف عُنوانات سے ذِکر کئے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اَبُو الہیثم مالک بن تَیِّہَان رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے جانے کی نوبت آئی ❷۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک اور صاحب کے ساتھ پیش آیا جن کو واقفی کہا جاتا تھا ❸۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو کوڑھی بھی تھا اور اندھا، بہرا، گونگا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی کچھ نعمتیں اس شخص پر بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے پاس کونسی نعمت ہے؟ آپ نے اِرشاد فرمایا کہ پیشاب سہولت سے نہیں کر سکتا ❹؟

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں تین دربار ہیں: ایک دربار میں نیکیوں کا حساب ہے، دوسرے میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہے، تیسرے میں گناہوں کا مطالبہ ہے۔ نیکیاں نعمتوں کے مقابلہ میں ہو جائیں گی اور برائیاں باقی رہ جائیں گی جو اللہ کے فضل کے تحت میں ہوں گی ❺۔ ان سب کا مطلب ہے کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ کی جس قدر نعمتیں ہر آن اور ہر دم آدمی پر ہوتی ہیں ان کا شُکر کرنا، ان کا حق ادا کرنا بھی آدمی کے ذمہ ہے، اس لئے جتنی مقدار بھی نیکیوں کی پیدا ہو سکے ان کو حاصل کرنے میں کمی نہ کرے اور کسی مقدار کو بھی زیادہ نہ سمجھے کہ وہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کتنے کتنے گناہ ہم نے اپنی آنکھ، ناک، کان اور دوسرے بدن کے حِصّوں سے ایسے کئے ہیں، جن کو ہم گناہ بھی نہ سمجھے۔

---

❶ صحیح ابن حبان، باب آداب الاکل، ٥٢١٦

❷ المعجم الکبیر باب العین ١٠٤٩٦،،

❸ ایضاً، ١٩_٥١ / ٥٦٧

❹ الدر المنثور عن عبد بن حمید، التکاثر

❺ مصنف ابن ابی شیبۃ، کتاب الزھد، ٣٤٥٤٦

حضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی قیامت میں اللہ کے یہاں پیشی نہ ہو کہ اس وقت نہ کوئی پردہ درمیان میں حائل ہو گا نہ ترجمان (وکیل وغیرہ)۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اَعمال کا انبار ہو گا، بائیں طرف دیکھے گا تب بھی یہی منظر ہو گا۔ جس قسم کے بھی اچھے یا برے اَعمال کئے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے، جہنّم کی آگ سامنے ہو گی، اس لئے جہاں تک ممکن ہو صدقہ سے جہنّم کی آگ کو دفع کرو، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو ①۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں سب سے اوّل یہ سُوال ہو گا کہ ہم نے تجھے بدن کی صحت عطا کی، اور ٹھنڈا پانی پینے کو دیا (یعنی ان چیزوں کا کیا حق ادا کیا) ②۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس وقت تک آدمی حساب کے میدان سے نہ ہٹے گا جب تک پانچ چیزوں کا سُوال نہ ہو جائے۔ عمر کس کام میں خرچ کی؟ جوانی (کی قوت) کس مشغلہ میں صرف کی؟ مال کس طریقہ سے کمایا اور کس طریقہ سے خرچ کیا؟ (یعنی کمائی کے اور خرچ کے طریقے جائز تھے یا ناجائز)۔ جو کچھ علم حاصل کیا (خواہ کسی درجہ کا ہو) اس میں کیا عمل کیا؟ (یعنی جو مسائل معلوم تھے ان پر عمل کیا یا نہیں) ③۔

(۴) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَآءِ وَإِنَّهَا قِيْعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ۔

(حسن بالشاهد)

رواه الترمذي، أَبْواب الدعوات: ۳۴۶۲، (۵/۵۱۰)۔ **والطبراني في الصغير**، باب حرف العين، من اسمه علي: ۵۳۹، (۱/۳۲۶)، **والأوسط**، باب حرف العين، من اسمه علي:

حضورِ اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ شبِ معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی اُمّت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنّت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹّی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے (درخت) ”سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اکبر“ ہیں (جتنے کسی کا دِل چاہے درخت لگا لے)۔ ایک حدیث میں اس

---

① مسلم باب الحث على الصدقة، ۱۰۱۶

② ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، ۳۳۵۸

③ ترمذی، باب فی القیامۃ، ۲۴۱۶

۴۱۷۰، (۲۷۰/۴)۔ وزاد: ”لا حول ولا قوة الا بالله“۔ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا لوجه۔ رواه الطبراني ايضاً بإسناد واه، من حديث سلمان ألفارسي۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ الله عنهما مَرْفُوْعًا: ”مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، غُرِسَ لَهٗ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ“۔ رواه الطبراني وإسناده حسن، لاباس به في المتابعات، وَعَنْ جَابِرٍ رضِيَ الله عنه مَرْفُوْعًا: ”مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ، غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔

رواه الترمذي (قدمر) وحسنه، والنسائي في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة: ۱۰۵۹۴، (۳۰۴/۶)۔ الا انه قال: شجرة۔ وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الأذكار: ۸۲۱، (۱۰۳/۳)۔ والحاكم في الموضعين، كتاب الدعاء: ۱۸۴۷، (۶۸۰/۱)۔ بإسنادين، قال في احدهما: على شرط مسلم، واقرعليه الذهبي۔ وفي الاخر، كتاب الدعاء: ۱۸۸۸، (۶۹۳/۱) وسكت عنه الذهبي۔ على شرط البخاري۔ وذكره في الجامع الصغير، باب حرف الميم: ۸۸۹۷، (۳۳۹/۲)۔ برواية الترمذي وابن حبان والحاكم، ورقم له بالصحة۔ وعن أبى هريرة رضى الله عنه، ان النبى صلى الله عَلَيْهِ وسلم مر به وهو يغرس۔ الحديث۔ رواه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ۳۸۰۷، (۲۵۲/۴)۔ بإسناد حسن والحاكم، كتاب الدعاء: ۱۸۸۷، (۶۹۳/۱)۔ وقال: صحيح الإسناد۔ كذا في الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في التسبيح: ۲۲۴۹، (۶۳۲/۲)۔ وعزاه في الجامع، باب حرف الألف: ۲۸۷۱، (۲۴۸/۱)۔ إلى ابن ماجه والحاكم، رقم له بالصحة۔ قلت: وفي الباب من حديث أبى ايُّوْب رضى الله عنه مرفوعا، رواه أحمد، مسند أبى ايُّوْب: ۲۳۵۵۲، (۵۳۳/۳۸)۔ بإسناد حسن، وابن أبى الدنيا وابن حبان في صحيحه، ورواه ابن أبى الدُنيا والطبراني في الكبير، باب العين: ۱۳۳۵۴، (۳۶۴/۱۲)۔ من حديث اِبنِ عُمر ايضا مرفوعا مُختصرا، الاان في حديثهما الحوقلة فقط، كما في الترغيب، كتاب الذكر، باب الترغيب في قول لا حول ولا قوة: ۱۵۸۴، (۶۴۹/۲)۔ قلت: وذكر السُيُوطي في الدر، تحت الآية: ۱۳، من سورة البقرة۔ حديث اِبنِ عَبَّاس مرفوعا بلفظ حديث اِبنِ مسعود رضى الله عنه: وقال: أخرجه ابن مردويه، وذكر أيضا حديث اِبنِ مسعود رضى الله عنه۔ وقال: أخرجه الترمذي وحسنه، والطبراني وابن مردويه، قلت: وذكر في الجامع الصغير، باب حرف الرائ: ۴۳۷۹، (۴۲۱/۱)۔ برواية الطبراني، ورقم له بالصحه۔ وذكر في مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما جاء في الباقيات الصالحات: ۱۶۸۶۲، (۱۰۶/۱۰)۔ عدة رِوايات في معني هذا الحديث۔

کے بعد ”لا حول ولاقوة الا باللّٰه“ بھی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں میں سے ہر کلمہ کے بدلے ایک درخت جَنَّت میں لگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ”سُبْحَان اللّٰهِ الْعَظِيْم وَ بِحَمْدِهٖ“ پڑھے گا، ایک درخت جَنَّت میں لگایا جاوے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حُضور اَقدس ﷺ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت اَبُوہُرَیرہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کو دیکھا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا: کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: درخت لگا رہا ہوں۔ اِرشاد فرمایا: میں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جاویں۔ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ ہر کلمہ سے ایک درخت جَنَّت میں لگتا ہے۔

ف: حُضور اَقدس ﷺ کے ذریعہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ علیٰ نَبِیِّنَا و عَلَیْہِ الصلوٰۃ و السَّلام نے سلام بھیجا ہے، اس لئے عُلماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس یہ حدیث پہنچے، اس کو چاہیئے کہ حضرت خلیل اللّٰہ کے سلام کے جواب میں ”وعَلَیْہِ السَّلام وَرَحْمَۃُ اللّٰہ وَ بَرَکَاتُہٗ“ کہے۔ اس کے بعد اِرشاد ہے کہ جَنَّت کی مٹی بہترین ہے اور پانی میٹھا۔ اس کے دو مطلب ہیں: اوّل یہ کہ صرف اس جگہ کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ بہترین جگہ ہے، جس کی مٹی کے متعلِّق اَحادیث میں آیا ہے کہ مُشک وزَعفران کی ہے ① اور پانی نہایت لذیذ۔ ایسی

---

① ترمذی، باب ماجاء فی صفۃ القیامۃ، ۲۵۲۶

جگہ ہر شخص اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے اور تفریح وراحت کے لئے باغ وغیرہ لگانے کے اسباب مُہیا ہوں تو کون چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ زمین بہتر اور پانی بہتر ہو وہاں پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ”سُبۡحَان اللہ“ کہہ دینے سے ایک درخت وہاں قائم ہو جاوے گا، اور پھر وہ جگہ اور پانی کی عمدگی کی وجہ سے خود ہی نشو ونما پاتا رہے گا۔ صرف ایک مرتبہ بیج ڈال دینا ہے، باقی سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔

اس حدیث میں جنَّت کو چٹیَل میدان فرمایا ہے، اور جن اَحادیث میں جنَّت کا حال بیان کیا گیا ہے، ان میں جنَّت میں ہر قسم کے میوے، باغ، درختوں وغیرہ کا موجود ہونا بتایا گیا ہے، بلکہ جنَّت کے معنی ہی باغ کے ہیں۔ اس لئے بظاہر اِشکال واقع ہوتا ہے۔ بعض عُلماء نے فرمایا ہے کہ اصل کے اعتبار سے وہ میدان ہے، لیکن جس حالت پر وہ نیک عمل لوگوں کو دی جائے گی، ان کے اَعمال کے مُوافِق اس میں باغ اور درخت وغیرہ موجود ہوں گے۔ دوسری توجیہ بعض عُلماء نے یہ فرمائی ہے کہ جنَّت کے وہ باغ وغیرہ ان اَعمال کے مُوافِق ملیں گے۔ جب ان اَعمال کی وجہ سے اور ان کے برابر ملے تو گویا یہ اَعمال ہی درختوں کا سبب ہوئے۔ تیسری توجیہ یہ فرمائی گئی ہے کہ کم سے کم مقدار جو ہر شخص کے حصّہ میں ہے وہ ساری دنیا سے کہیں زائد ہے، اس میں بہت سے حصّہ میں خود اپنے اصلی باغ موجود ہیں اور بہت سا حصّہ خالی پڑا ہوا ہے۔ جتنا کوئی ذِکر تسبیح وغیرہ کرے گا، اتنے ہی درخت اور لگ جائیں گے۔ شیخ المَشائخ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اِرشاد جو ”الکَوۡکَبِ الدُرِّی“ میں نقل کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس کے سارے درخت پنیر کی طرح سے ایک جگہ مُجتَمِع ہیں۔ ہر شخص جس قدر اَعمال خیر کرتا رہتا ہے، اتنا ہی اس کے حصّہ کی زمین میں لگتے رہتے ہیں اور نشو ونما پاتے رہتے ہیں۔

(۵) عَنۡ أَبِيۡ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: مَنۡ هَالَهُ اللَّيۡلُ أَنۡ يُّكَابِدَهٗ، أَوۡ بَخِلَ بِالۡمَالِ أَنۡ يُّنۡفِقَهٗ،

حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ جو شخص رات کو مَشقَّت جھیلنے سے ڈرتا ہو (کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے

أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُّقَاتِلَهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُّنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

قاصر ہو) یا بُخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دُشوار ہو، یا بُزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمّت نہ پڑتی ہو، اس کو چاہیئے کہ ”سُبحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ“ کثرت سے پڑھا کرے، کہ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

(حسن بالشاهد)

رواه ألفريأبى والطبراني في الكبير، باب الصاد: ۷۷۹۵، (۲۳۷/۶) **واللفظ له، وهو حديث غريب، ولا باس بإسناده انشاء الله۔ كذا في الترغيب**، كتاب الذكر، باب الترغيب في الإكثار من ذكر الله: ۲۲۴۱، (۲/۲۳۱)۔ **وفي مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ما جاء في سُبْحَان الله: ۱۶۸۷۶، (۱۰/۱۱۲)۔ **رواه الطبراني، وفيه سليمان بن** أحمد **الواس**طي، **وثقه عبدان**، انظر لسان الميزان، من اسمه سليمان،: ۲۷۲، (۳/۷۲)۔ **وضعفه الجمهور**، المغني في الضعفاء للذهبي، حرف السين،: ۲۵۵۵، (۱/۲۷۷)۔ **والغالب على بقية رجاله التوثيق، وفي الباب عن أبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا**، أخرجه **ابن مردويه وابْنِ عَبَّاس أيضا عند ابن مردويه، كذا في الدر**، تحت الآية: ۱۵۲، من سورة البقرة۔

ف: کس قدر اللہ کا فضل ہے کہ ہر قسم کی مَشَقَّت سے بچنے والوں کے لئے بھی فضائل اور دَرَجات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بُزدلی اور کم ہِمّتی سے جہاد جیسا مبارک عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی اگر دین کی قدر ہے، آخرت کا فکر ہے، تو اس کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی کچھ کمانہ سکے، تو کم نصیبی کے سوا اور کیا ہے؟ پہلے یہ مضمون ذرا تفصیل سے گزر چکا ہے۔

(۶) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ۔

حُضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمے ہیں: ”سُبحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں (کوئی خاص ترتیب نہیں)۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمے قرآنِ پاک میں بھی موجود ہیں۔

(صحيح)

رواه مسلم، كتاب الأدب، باب كراهية التسمية بالاسماء القبيحة: ۵۵۶۶، (۱۴/۳۴۳)۔ **وابن ماجه**، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ۳۸۱۱، (۴/۲۵۴)۔ **والنسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ذكر الناقلين: ۱۰۶۱۴، (۹/۳۱۲)۔ **وزاد: ”وهن من القرآن“۔ ورواه النسائي أيضا** في السنن الكبرىٰ: ۱۰۶۰۹، (۹/۳۱۰)۔ **وابن حبان في صحيحه**، باب صفة الصلوٰة في ذكر البيان بان هذه الكلمات: ۱۷۸۲، (۲/س ۵۱۱)۔ **من حديث أبی هريرة رضی الله عنه، كذا في الترغيب**، كتاب الذكر، باب الترغيب في التسبيح: ۲۲۴۷، (۲/۲۳۲)۔ **وعزا السُيُوطي** في الجامع الصغير، باب حرف الألف: ۲۱۵، (۱/۱۶) وايضا: ۴۰۲۸، (۱!۳۸۲)۔ **حديث سمرة إلى أحمد أيضا، ورقم له بالصحة۔ وحديث أبی هريرة رضی الله عنه، إلى مُسْنَد ألفردوس للديلمی، ورقم له أيضا بالصحه۔**

ف: یعنی قرآنِ پاک کے الفاظ میں بھی یہ کلمے کثرت سے وَارِد ہوئے ہیں اور قرآنِ پاک میں ان کا حکم، ان کی ترغیب وَارِد ہوئی ہے۔ چنانچہ پہلی فصل میں مُفَصَّل بیان ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عیدوں کو ان کلموں کے ساتھ مزیّن کیا کرو یعنی عید کی زینت یہ ہے کہ ان کلموں کا کثرت سے ورد کیا جائے ❶۔

(۷) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ إِنَّ الْفُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ مَا ذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَآ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتُحَمِّدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ مَرَّةً قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهٗ فَقَالَ

حضور اَقدس ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ فُقراء، مُہاجِرِیْن جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ مالدار سارے بلند درجے لے آڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہیں کے حصّہ میں آگئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزہ میں تو یہ ہمارے شریک کہ ہم بھی کرتے ہیں اور یہ بھی اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک ان ہی اَعمال کو نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ضرور بتا دیجئے۔ اِرشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ''سُبْحَانَ اللہِ، اَلْحَمْدُ للہِ، اللہُ اَکْبَر'' ۳۳، ۳۳ مرتبہ

---

❶ حلیۃ الاولیاء، عبد اللہ بن زید، ۲۔ ۲۸۸

رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ۔

(متفق علیه)

متفق عليه، مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوٰة، : ١٣٤٦، (٩٥/٥)۔ بخاري، كتاب صفة الصلوٰة، باب الذكر بعد الصلوٰة، :٨٠٧، (٢٨٩/١)۔ **وليس قول أبي الصالح إلى اخره الا عند مسلم، وفي رواية للبخاري،** كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلوٰة، : ٦٣٢٩، (٧٢/٨)۔ **"تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا، وَّتُحَمِّدُوْنَ عَشْرًا، وَّتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا، بَدْلَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ"۔ كذا في المشكوة،** كتاب الصلوٰة، باب الذكر بعد الصلوٰة: ٩٦٥، (٢١١/١)۔ **وعن أبي ذر رضِی اللہ عنه بنحو هٰذا الحديث،** مسلم، كتاب الزكوٰة: ١٠٠٦، (٦٩٧/٢)۔ وفيه **"اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَفِي بِضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً۔ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، يَأْتِي اَحَدُنَا شَهْوَتَهٗ يَكُوْنُ لَهٗ فِيهَا اَجْرٌ"۔ الحديث** أخرجه أحمد: ٢٧٥١٥، (٥٠٧/٤٥) **وفي الباب عن أبي الدردا عند** أحمد۔

پڑھ لیا کرو، (ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فُقَراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ! ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حُضور ﷺ نے فرمایا: یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح یہ قصّہ ذِکر کیا گیا، اس میں حُضور ﷺ کا اِرشاد ہے کہ تمہارے لئے بھی اللہ نے صدقہ کا قائم بنا رکھا ہے۔ "سُبحَان اللہ" ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے تعجّب سے عرض کیا: یارسول اللہ! بیوی سے ہم بستری میں اپنی شَہوت پوری کریں اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حُضور ﷺ نے فرمایا: اگر حرام میں مُبتلا ہو تو گناہ ہو گا یا نہیں؟ صَحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ضرور ہو گا۔ اِرشاد فرمایا: اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔

ف: مطلب یہ ہے کہ اس نیّت سے صحبت کرنا کہ حرام کاری سے بچے، ثواب اور اجر

کا سبب ہے، اسی قصّہ کی ایک دوسری حدیث میں اس اِشکال کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شہوت کا پورا کرنا ہے، حُضور ﷺ کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ بتاؤ! اگر بچّہ پیدا ہو جائے پھر وہ جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی اُمید باندھنے لگو، پھر وہ مر جائے، کیا تم ثواب کی اُمید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ بیشک اُمید ہے۔ حُضور ﷺ نے فرمایا: کیوں تم نے اس کو پیدا کیا؟ تم نے اس کو ہدایت کی تھی؟ تم نے اس کو روزی دی تھی؟ بلکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، وہی روزی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفہ کو حلال جگہ رکھتے ہو، پھر اللہ کے قبضہ میں ہے کہ چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کر دے، یا مُردہ کرے کہ اولاد پیدا نہ ہو❶۔ اس حدیث کا مقتضٰی یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب بچّہ کے پیدا ہونے کا سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔

(٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ، وَ كَبَّرَ اللهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ۔

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد "سُبحان اللہ" ٣٣ مرتبہ، "اَلحمدُ للہ" ٣٣ مرتبہ، "اللہ اکبر" ٣٣ مرتبہ اور ایک مرتبہ "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" پڑھے۔ اس کے گناہ مُعاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے جھاگ۔

(صحیح)

رواہ مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب الذکر بعد الصلوٰۃ: ١٣٥١، (٩٥/٥)۔ **کذا في المشکوٰۃ**، کتاب الصلوٰۃ، باب الذکر بعد الصلوٰۃ: ٩٦٧، (٢١١/١)۔ **وکذا في مُسْنَد** أحمد، مسند أبی هریرة: ٨٨٣٤، (٤٢٨/١٤)۔

ف: خطایا کی مَغفِرت کے بارہ میں پہلے کئی حدیثوں کے تحت میں بحث گزر چکی ہے، کہ ان خطایا سے مُراد عُلماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہیں۔ اس حدیث میں تین کلمے ٣٣، ٣٣ مرتبہ اور "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" ایک مرتبہ وَارِد ہوا ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں دو کلمے ٣٣، ٣٣ مرتبہ اور اللہ اکبر ٣٤

---

❶ مسند احمد، حدیث ابی ذر، ٢١٤٨٤

مرتبہ آرہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ہم کو حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ" ہر ایک کو ۳۳ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہر ایک کلمہ کو پچیس مرتبہ کرلو اور ان کے ساتھ "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" ۲۵ مرتبہ کا اِضافہ کرلو۔ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا اور اس کی اجازت فرمادی کہ ایسا ہی کرلیا جائے ❶۔ ایک حدیث میں "سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ" ہر کلمہ کو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کا حکم ہے ❷ اور ایک حدیث میں ۱۰، ۱۰ مرتبہ وَارِد ہوا ہے ❸۔ ایک حدیث میں "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" ۱۰ مرتبہ، باقی تینوں کلمے ہر ایک ۳۳ مرتبہ ❹۔ ایک حدیث میں ہر نماز کے بعد چاروں کلمے ۱۰۰، ۱۰۰ مرتبہ وَارِد ہوئے ہیں، جیسا کہ "حِصنِ حصِین" میں ان رِوایات کا ذِکر کیا گیا ہے۔ یہ اِختلاف بظاہر حالات کے اِختلاف کی وجہ سے ہے کہ آدمی فراغت اور مَشاغِل کے اعتبار سے مُختلف ہیں، جو لوگ دوسرے ضروری کاموں میں مشغول ہیں ان کے لئے کم مقدار تجویز فرمائی، اور جو لوگ فارغ ہیں ان کے لئے زیادہ مقدار۔ لیکن مُحقِّقین کی رائے یہ ہے کہ جو عدد اَحادیث میں مذکور ہیں ان کی رعایت ضروری ہے کہ جو چیز دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس میں مقدار کی رعایت بھی اہم ہے۔

(۹) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوْبَةٍ: ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَسْبِيْحَةً، وَّثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَحْمِيْدَةً، وَّأَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَكْبِيْرَةً۔

حُضور اَقدس کا اِرشاد ہے کہ چند پیچھے آنے والے (کلمات) ایسے ہیں، جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا، وہ یہ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ "سُبحَان الله"، ۳۳ مرتبہ "اَلحَمدُ لِله"، ۳۴ مرتبہ "الله اکبر"۔

(صحیح)

رواه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوٰة: ۱۳۴۹، (۱۹۷/۵)۔ كذا في المشكوٰة، وعزاه السُيُوطي في الجامع الصغير، باب حرف الميم: ۸۱۸۸، (۲۹۴/۲)۔ **إلى أحمد ومسلم، والترمذي**، أبواب الدعوات: ۳۴۱۲، (۷۷۴)۔ والنسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح: ۱۳۴۹، (۷۵/۳)۔ **ورقم له بالضعف۔ وفي الباب عن ابى الدرداء عند الطبراني** في الكبير، باب الكاف: ۲۶۰، (۴۳۳۱/۱۲)۔

---

❶ مسند احمد، حدیث زید بن ثابت، ۲۱۶۰۰

❷ مسند البزار، مسند ابن عباس، ۶۱۳۳

❸ بخاری، کتاب الدعوات، ۶۳۲۹

❹ تحفۃ الذاکرین شرح الحصن

ف: ان کلمات کو پیچھے آنے والے یا تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ گناہوں کے بعد پڑھنے سے ان کو دھونے اور مٹا دینے والے ہیں، یا اس وجہ سے کہ یہ کلمات ایک دوسرے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت اَبُو درداء رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کے بعد ’’سُبْحَانَ اللہ‘‘، ’’اَلْحَمْدُ لِلّٰہ‘‘ ۳۳، ۳۳ بار اور ’’اللہ اکبر‘‘ ۳۴ مرتبہ پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے۔①

(۱۰) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: أَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلاً، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ مَا ذَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَّلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَّاللهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

(حسن)

المعجم الكبير، باب العين: ۳۹۸، (۴۰۹۷/۱۲)۔ والبزار، مسند عمران بن حصين: ۳۶۰۹، (۷۸/۹)۔ **كذا في جمع ألفوائد،** كتاب الأذكار، باب الاستغفار والتسبيح: ۹۵۲۰، (۱۰۸/۴)۔ **واليهما عزاه في الحصن،** الباب التاسع فضل الذكر، (۳۶۷/۱)۔ **ومجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ما جاء في الباقيات الصالحات: ۱۶۸۵۹، (۱۰۵/۱۰)۔ وقال: رجالها رجال الصحيح۔

حُضورِ اَقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ اِرشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ اُحُد (جو مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے) کے برابر عمل کر لیا کرے۔ صحابہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُم نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ (کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے) حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُم نے عرض کیا: اس کی کیا صورت ہے؟ اِرشاد فرمایا کہ ’’**سُبْحَانَ اللہ**‘‘ کا ثواب اُحد سے زیادہ ہے، ’’**لَا إِلٰهَ إِلَّا اللہُ**‘‘ کا اُحد سے زیادہ ہے، ’’**اَلْحَمْدُ لِلّٰہ**‘‘ کا اُحد سے زیادہ ہے، ’’**اللہ اکبر**‘‘ کا اُحد سے زیادہ ہے۔

ف: یعنی ان کلموں میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب اُحد پہاڑ سے زیادہ ہے اور ایک پہاڑ کیا، نامعلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ’’**سُبْحَانَ اللہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ**‘‘ سارے آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں②۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ’’**سُبْحَانَ اللہ**‘‘ کا ثواب آدھی ترازو ہے اور ’’**اَلْحَمْدُ لِلّٰہ**‘‘ اس کو پُر کر دیتی ہے اور ’’اللہ

---

① کنز العمال، ۱۹۹۸

② مسلم، باب فضل الوضوء، ۲۲۳

اکبر" آسمان زمین کے درمیان کو پُر کر دیتی ہے ❶۔ ایک حدیث میں حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ کا اِرشاد نقل کیا گیا ہے کہ "سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ" مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر آفتاب نکلے ❷۔ مُلّا عَلی قاری رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ مُراد یہ ہے کہ ساری ہی دنیا اللہ کے واسطے خرچ کر دوں، تو اس سے بھی یہ زیادہ محبوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلام ہوائی تخت پر تشریف لے جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کئے ہوئے تھے اور جِنّ واِنس وغیرہ لشکر در قطار۔ ایک عابد پر گزر ہوا جس نے حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلام کے اس وُسعتِ ملکی اور عمومِ سلطنت کی تعریف کی۔ آپ نے اِرشاد فرمایا کہ مُؤمن کے اَعمال نامہ میں ایک تسبیح سلیمان بن داوٗد عَلَیْہِ السَّلام کے سارے مُلک سے اچھی ہے کہ یہ ملک فنا ہو جائے گا اور تسبیح باقی رہنے والی چیز ہے ❸۔

(۱۱) عَنْ أَبِيْ سَلَامٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، بَخٍّ بَخٍّ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ؛ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهٗ۔

ایک مرتبہ حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ نے اِرشاد فرمایا کہ واہ واہ!! پانچ چیزیں (اَعمال نامہ تُلنے کی) ترازو میں کتنی زیادہ وزنی ہیں "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ اکبر، سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" اور وہ بچّہ جو مر جائے اور باپ (اسی طرح ماں بھی) اس پر صبر کرے۔

(صحيح)

أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين: ۱۵۶۶۲، (۲/۴۳۰)۔ **ورجاله ثقات، كما في مجمع الزوائد،** كتاب الإيمان، باب في الإيمان بالله: ۱۴۵، (۱/۲۰۷)۔ **والحاكم،** كتاب الدعا: ۱۸۸۵، (۱/۶۹۲)۔ **و قال: صحيح الإسناد۔ وأقره عَلَيْهِ الذهبي۔ وذكره في الجامع الصغير،** باب حرف الباء: ۳۱۴۹، (۱/۲۷۹)۔ **برواية البزار،** مسند ثوبان: ۴۱۸۶، (۱۰/۱۲۱)۔ **عن ثوبان، وبراوية النسائي** في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة: ۹۹۲۳، (۹/۷۴)۔ وابن حبان، باب الأذكار: ۸۳۳، (۳/۱۱۴)۔ **والحاكم عن أبى سلمىٰ، وبرواية أحمد عن أبي امامة:** ۲۲۱۷۸، (۳۶/۵۱۴)۔ **ورقم له بالحسن، وذكره في مجمع الزوائد،** كتاب الأذكار، باب ما جاء في الباقيات الصالحات: ۱۶۸۴۴، (۱۰/۱۰۱) وايضا: ۱۶۸۴۵۔ **برواية ثوبان، وأبى سلمىٰ راعى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم، وسفينة ومولى لرسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم لم يسم، وصحح بعض طرقها۔**

ف: یہ مضمون کئی صحابہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ سے مُتعدِّد اَحادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ بَخٍّ بَخٍّ!! بڑے سرور اور فرحت کا کلمہ ہے۔ جس چیز کو حُضور اَقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اس خوشی اور مَسرّت سے

---

❶ مسند احمد، احادیث الرجال، ۲۳۰۹۹

❷ مسلم، باب فضل التهلیل، ۲۶۹۵،

❸ الزهد لابن المبارک، ۲۱۰

اِرشاد فرمارہے ہوں، عطا فرمارہے ہوں، کیا محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کلموں پر مر مٹیں کہ حُضور ﷺ کی اس خوشی کی قدردانی اور اس کا اِستقبال یہی ہے۔

(۱۲) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ نُوْحٌ لِّابْنِهٖ إِنِّيْ مُوْصِيْكَ بِوَصِيَّةٍ وَّقَاصِرُهَا لِكَيْ لَا تَنْسَاهَا: أُوْصِيْكَ بِإِثْنَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَيْنِ، أَمَّا الَّتِيْ أُوْصِيْكَ بِهِمَا: فَيَسْتَبْشِرُ اللهُ بِهِمَا، وَصَالِحُ خَلْقِهٖ، وَهُمَا يُكْثِرَانِ الْوُلُوْجَ عَلَى اللهِ، أُوْصِيْكَ بِلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَوْ كَانَتَا حَلْقَةً قَصَمَتْهُمَا، وَلَوْ كَانَتَا فِيْ كِفَّةٍ وَزَنَتْهُمَا، وَأُوْصِيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ، فَإِنَّهُمَا صَلٰوةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَيَحْتَجِبُ اللهُ مِنْهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهٖ أَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ۔

(حسن بالشاهد)

رواه النسائي في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب أفضل الذكر: ۱۰۶۰۰، (۳۰۶/۹)۔ **واللفظ له، والبزار كشف** الاستار، كتاب الأذكار: ۳۰۶۹، (۷/۴)۔ **والحاكم**، كتاب الإيمان: ۱۵۴، (۱۱۲/۱) وأقره عَلَيْهِ الذهبي۔ **من حديث عبدالله بن عمرو وقال: صحيح الإسناد۔ كذا في الترغيب**، كتاب

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ حضرت نوح عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیّت کرتا ہوں اور اس خیال سے کہ بُھول نہ جاؤ، نہایت مُختصر کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دو کام کرنے کی وصیّت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ جن دو کاموں کے کرنے کی وصیّت کرتا ہوں وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جَلَّ شانُہٗ ان سے نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نیک مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی اللہ کے یہاں رسائی (اور مقبولیت) بھی بہت زیادہ ہے۔ ان دو میں سے ایک ”لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمین ایک حلقہ ہو جائیں تو بھی یہ پاک کلمہ ان کو توڑ کر آسمان پر جائے بغیر نہ رہے۔ اور اگر تمام آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں یہ پاک کلمہ ہو، تب بھی وہی پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ **”سُبْحَانَ اللہ وبحمدہ“**

الذکر، باب الترغيب في التسبيح: ٢٢٤٣، (٦٣١/٢)۔ **قلت: وقد تقدم في بيان التهليل حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنه مرفوعا، وتقدم فيه أيضا ما في الباب، وتقدم في الأيات قوله عز اسمه، "وان من شيئ الا يسبح بحمده" الأية۔ وأخرج ابن جرير في تفسيره، تحت الآية: ٤٣، من سورة الاسراء۔ وابن أبى حاتم** ايضا۔ **وأبوالشيخ في العظمة،** تحت الآية: "وان من شيئ الا يسبح"، (١٧٤٣/٥)۔ **عن جابر مرفوعا: "الا اخبركم بشيئ أمر به نوح ابنه: ان نوحا قال لابنه: يابني، امرك ان تقول سُبحَان الله، فانها صلوٰة الخلق، وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق"۔ وأخرج** أحمد، مسندعبدالله عمر: ٦٥٨٣، (١٥٠/١١)۔ **وابن مردويه۔۔۔ عن اِبنِ عُمر مرفوعا: "ان نوحا لما حضرته الوفاة، قال لابنيه: أمركما بسُبحَان الله وبحمده، فانها صلوٰة كل شيئ، وبها يرزق كل شيئ" كذا في الدر،** تحت الآية: ٨٥، من سورة الاسراء۔

کا پڑھنا ہے کہ یہ کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کا کلام سمجھتے نہیں ہو اور جن دو چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبُّر ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے حجاب ہو جاتا ہے۔

ف: "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کے بیان میں بھی اس حدیث کا مضمون گزر چکا ہے۔ تسبیح کے متعلّق جو اِرشاد اس حدیث میں ہے قرآنِ پاک کی آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ﴾ قرآنِ پاک کی آیت ہے۔ نبیِٔ اکرم ﷺ کا اِرشاد بہت سی اَحادیث میں وَارِد ہوا ہے کہ شبِ معراج میں آسمانوں کی تسبیح حُضور اَقدس ﷺ نے خود سنی ①۔ ایک مرتبہ حُضور ﷺ کا ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جو اپنے گھوڑوں اور اُونٹوں پر کھڑی ہوئی تھی۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ جانوروں کو منبر اور کرسیاں نہ بناؤ۔ بہت سے جانور سواروں سے بہتر اور ان سے زیادہ اللہ کا ذِکر کرنے والے ہوتے ہیں ②۔ حضرت اِبنِ عَبّاس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کھیتی بھی تسبیح کرتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے ③۔

ایک مرتبہ حُضور اَقدس ﷺ کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں ثَرِید تھا۔ آپ ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ کسی نے عرض کیا: آپ اس کی تسبیح سمجھتے ہیں؟ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا: ہاں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو فُلاں شخص کے قریب کردو۔ وہ پیالہ اس کے قریب کیا

---

① المعجم الاوسط، باب العین، ٣٧٤٢

② مسند احمد، حدیث معاذ بن انس، ١٥٦٢٩

③ العظمۃ لابی الشیخ، ذکر ساعات اللیل، ٥۔١٧٢٨

گیا، تو اس نے بھی تسبیح سنی۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرے صاحب کے قریب اسی طرح کیا گیا، انہوں نے بھی سنا۔ کسی نے درخواست کی کہ مجمع کے سب ہی لوگوں کو سنوایا جائے۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ اگر کسی کو ان میں سے سنائی نہ دے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ گناہگار ہے ①۔ اس چیز کا تعلّق کشف سے ہے۔ حضرات اَنْبِیاء عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃ والسَّلام کو تو یہ چیز بدرجۂ اَتمّ حاصل تھی اور ہونا چاہیئے تھی۔ حضرات صَحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بسا اوقات حُضورِ اَقدس ﷺ کے فیضِ محبت اور انوارِ قُرب کی بدولت یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی۔ سینکڑوں واقعات اس کے شاہد ہیں۔ صُوفیہ کو بھی اکثر یہ چیز مُجاہدوں کی کثرت سے حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جمادات اور حیوانات کی تسبیح، ان کا کلام، ان کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں، لیکن مُحقّقِین مشائخ کے نزدیک چونکہ یہ چیز نہ دلیلِ کمال ہے، نہ مُوجبِ قُرب، کہ جو بھی اس قسم کے مجاہدے کرتا ہے وہ حاصل کرلیتا ہے، خواہ اس کو حق تعالیٰ شانُہٗ کے یہاں قُرب حاصل ہو یا نہ ہو۔ اس لئے مُحقّقِین اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس لحاظ سے مُضر سمجھتے ہیں کہ جب مُبتدی اس میں لگ جاتا ہے تو دنیا کی سیر کا ایک شوق پیدا ہو کر ترقی کے لئے مانع بن جاتا ہے۔

مجھے اپنے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خُدام کے متعلّق معلوم ہے کہ جب ان کو یہ صورتِ کشف پیدا ہونے لگی، تو حضرت نے چند روز کے لئے اِہتمام سے سب ذِکر شغل چھڑا دیا تھا کہ مَبادا یہ حالت ترقی پکڑ جائے۔ اس کے عِلاوہ یہ حضرات اس لئے بھی بچتے ہیں کہ اس صورت میں دوسروں کے گناہوں کا اِظہار ہوتا ہے، جو ان حضرات کے لئے تکدُّر کا سبب ہوتا ہے۔

علّامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے "مِیزانُ الکُبریٰ" میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے، تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کرلیتے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلافِ اولیٰ۔ جیسا کہ حِسّی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں، اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کوفہ کی جامِع مسجد کے وضوخانہ میں تشریف فرما تھے، ایک جوان وضو کر رہا تھا اس کے

---

① العظمة، ۵۔۱۷۲۶

وضو کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چپکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا! والدین کی نافرمانی سے توبہ کرلے، اس نے توبہ کی۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا تو اس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی زِنا نہ کیا کر، بہت برا عیب ہے۔ اس وقت اس نے بھی زِنا سے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا کہ شراب خوری اور لَہو ولَعِب کا پانی گر رہا ہے، اس کو بھی نصیحت فرمائی، اس نے بھی توبہ کی۔ الغرض اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ جَلَّ جَلالُہٗ سے دُعا کی کہ اے اللہ! اس چیز کو مجھ سے دور فرمادے کہ میں لوگوں کی برائیوں پر مطلع نہیں ہونا چاہتا۔ حق تعالیٰ شانُہٗ نے دُعا قبول فرمالی اور یہ چیز زائل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مُستَعمَل پانی کے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ جب وہ گندہ پانی اور مُتعَفِّن نظر آتا تھا تو کیسے اس کو پاک فرماتے۔ مگر جب یہ چیز زائل ہو گئی تو اس کو ناپاک فرمانا بھی چھوڑ دیا۔

ہمارے حضرت مولانا الشّاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری نَوَّرَ اللہ مَرقَدَہٗ کے خُدام میں ایک صاحب تھے، جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنجے نہیں جاسکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے۔ اور بھی سینکڑوں ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں، جن میں کسی قسم کے تردُّد کی گنجائش نہیں کہ جن لوگوں کو کشف سے کوئی حصّہ ملتا ہے، وہ اس حصّہ کے بقدر احوال کو معلوم کرلیتے ہیں۔

(۱۳) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضی اللہ عنہا قَالَتْ مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَمَا قَالَتْ فَمُرْنِيْ بِعَمَلٍ أَعْمَلُهٗ وَأَنَا جَالِسَةٌ قَالَ سَبِّحِي اللّٰهَ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُّلْدِ إِسْمَاعِيْلَ وَاحْمَدِي اللّٰهَ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں۔ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سُبحان اللہ“ سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سو (۱۰۰) غلام عرب آزاد کئے۔ اور

مُسْرَجَةٍ مَلْجَمَةٍ تَحْمِلِيْنَ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَبِّرِي اللّٰهَ مِائَةَ تَكْبِيْرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِي اللّٰهَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ قَالَ أَبُوْ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ لِأَحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِمَّا يُرْفَعُ لَكَ، إِلَّا أَنْ يَّأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ۔

(حسن بالسواهد)

رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار: ۲۶۹۱۱، (۴۷۹/۴۴)۔ بإسناد حسن، واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ثواب من سبح الله: ۱۰۶۱۳، (۳۱۱/۹)۔ ولم يقل: ولا يرفع الىٰ اٰخره والبيهقي في شُعَب الإيمان، فصل في إدامة ذكر الله: ۶۱۲، (۱۳۵/۲)۔ بتمامه وابن أبى الدُنيا۔۔۔ فجعل ثواب الرقاب في التحميد، وألفرس في التسبيح، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ۳۸۱۰، (۲۵۴/۴)۔ بمعناه باختصار والطبراني في الكبير، اَبُوصالح بإذام: ۱۰۰۸، (۴۱۴/۲۴)۔ بنحو أحمد، ولم يقل: "احسبه"۔ وفي الأوسط، باب الميم: ۶۳۱۳، (۲۴۷/۶)۔ بإسناد حسن بمعناه۔ كذا في الترغيب، كتاب الذكر: ۲۳۹۲، (۲۷۷/۲)۔ باختصار قلت: رواه الحاكم، كتاب الدعاء: ۱۸۹۳، (۶۹۵/۱) قال في التلخيص: زكريا ضعيف، وسقط من بين محمد وام هاني۔ بمعناه وصححه، وعزاه في الجامع الصغير: ۹۶۷۹، إلى أحمد الطبراني والحاكم، ورقم له بالصحة۔ وذكره في مجمع الزوائد بطرق۔ وقال: اسانيدهم حسنة۔ وفي الترغيب أيضا: عن أبى امامة مرفوعا بنحو حديث الباب مُختصرا۔ وقال: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح خلا سليم بن عثمان ألفوزى، يكشف حاله، فانه لا يحضرني الان فيه جرح ولا عدالة، اهـ وفي الباب عن سلمىٰ ام بني أبى رافع، قالت: يارسول الله، اخبرني بكلمات ولا تكثر على"۔ الحديث مُختصرا فيه التكبير والتسبيح عشرا عشرا، واللهم اغفرلى عشرا، قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير، باب السين: ۷۶۶، (۳۰۲/۲۴)۔ ورواته محتج بهم في الصحيح اهـ قلت: وبمعناه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا، بلفظ: "من سبح لله مائة بالغداة ومائة بالعشى، كان كمن حج مائة حجة"۔ الحديث وجعل فيه التحميد كمن حمل على مائة فرس، والتهليل كمن اعتق مائة رقبة من ولد اسماعيل۔ ذكره في المشكوٰة، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح: ۲۳۱۲، (۲۱/۲)۔ برواية الترمذي، اَبُواب الدعوات:

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے سو گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ جہاد میں سواری کیلئے دے دیئے۔ اور "اللّٰہ اکبر" سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا تم نے سو اونٹ قربانی میں ذبح کئے اور وہ قبول ہو گئے اور "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان وزمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ حضرت اَبُو رافع رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی بیوی حضرت سَلمٰی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا نے بھی حُضور ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ مُختصر سا بتا دیجئے، زیادہ لمبا نہ ہو۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ "اللّٰہ اکبر" دس مرتبہ پڑھا کرو۔ اللّٰہ جَلَّ شَانُہٗ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے، پھر "سُبْحَانَ اللّٰہِ" دس مرتبہ کہا کرو۔ اللّٰہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے ہے، پھر "اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ" دس مرتبہ پڑھا کرو، حق تعالیٰ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مَغْفِرت کر دی۔ دس مرتبہ "اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ" کہو (دس مرتبہ اللّٰہ جَلَّ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ

۳۴۷۱، (۷۸۸)۔ وقال: حسن غریب۔

میں نے مغفِرت کر دی۔)

ف: ضُعفَاء اور بوڑھوں کیلئے بِالخُصُوص عورتوں کیلئے کس قدر سَہل اور مُختصر چیز حُضور اَقدس ﷺ نے تجویز فرما دی ہے۔ دیکھیے! ایسی مُختصر چیزوں پر جن میں نہ زیادہ مَشقَّت ہے، نہ چلنا پھرنا ہے، کتنے بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ ہے۔ کتنی کم نصیبی ہو گی اگر ان کو وصول نہ کیا جائے۔ حضرت اُمِّ سُلَیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے حُضور ﷺ سے عرض کیا کہ کوئی چیز مجھے تعلیم فرما دیجئے جس کے ذریعے سے نماز میں دُعا کیا کروں۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ "سُبحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ" ۱۰، ۱۰ مرتبہ پڑھ لیا کرو اور جو چاہے اس کے بعد دُعا کیا کرو①۔ دوسری حدیث میں اس کے بعد یہ اِرشاد ہے کہ جو چاہے دُعا کیا کرو، حق تعالیٰ شانُہٗ اس دُعا پر فرماتے ہیں: ہاں، ہاں! (میں نے قبول کی)②۔ کتنے سَہل اور معمولی الفاظ ہیں جن کو نہ یاد کرنا پڑتا ہے، نہ ان میں کوئی محنت اٹھانی پڑتی ہے، دن بھر ہم لوگ بکواس میں گزار دیتے ہیں، تجارت کے ساتھ دکان پر بیٹھے بیٹھے یا کھیتی کے ساتھ زمین کے اِنتِظامات میں مشغول رہتے ہوئے اگر زبان سے ان تسبیحوں کو پڑھتے رہیں، تو دنیا کی کمائی کے ساتھ ہی آخرت کی کتنی بڑی دولت ہاتھ آ جائے۔

(۱۴) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكَةً يَّطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلٰى حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَآءِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَّكَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِيْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذِکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذِکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ باوجودیکہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ

---

① صحیح ابن حبان، فصل فی القنوت، ۲۰۱۱

② ترمذی، باب ماجاء صلاۃ التسبیح، ۴۸۱

كَيْفَ نَوْرَأَوْنِيْ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّلَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَأَكْثَرَلَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِ فَيَقُوْلُوْنَ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَافَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حَرْصًا وَأَشَدَّ لها طلباً وَّأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً فَيَقُوْلُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَآءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ۔

(متفق عليه)

رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله: ٦٠٤٥، (٢٣٥٣/٥)۔ ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مَجَالِس الذكر: ٦٨٠٧، (١٧/١٧)۔ **والبيهقي في الاسماء والصفات**، باب ما جاء في اثبات صفة القول، (٥٢١/١)۔ **كذافي الدر**، تحت الآية: ١٥٢، من سورة البقرة۔ **والمشكٰوة** كتاب الدعوات، باب ذكر الله: ٢٢٦٧، (١٠/٢)۔

تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فُلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید (بڑائی بیان کرنے اور تعریف کرنے) میں مشغول تھے۔ اِرشاد ہوتا ہے: کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: یا اللہ! دیکھا تو نہیں۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جنّت چاہتے ہیں۔ اِرشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جنّت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنّا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اِرشاد ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ جہنّم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے جہنّم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے اِرشاد ہوتا ہے کہ

اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ اِرشاد ہوتا ہے اچّھا تم گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک عرض کرتا ہے کہ یا اللہ! فُلاں شخص اس مجلس میں اتفاقًا اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا (لہٰذا اس کو بھی بخش دیا)۔

ف: اس قسم کا مضمون مُتَعدِّد اَحادیث میں وَارِد ہوا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ذِکر کی مَجَالِس اور ذِکر کرنے والی جماعتوں اور اَفراد کی تلاش میں رہتی ہے اور جہاں مل جاتی ہے ان کے پاس یہ جماعت بیٹھتی ہے، ان کا ذِکر سنتی ہے۔ چنانچہ پہلے باب کی حدیث نمبر ۸ میں یہ مضمون گزر چکا ہے اور اس میں یہ گزر چکا ہے کہ فرشتوں سے تفاخر کے طور پر اللہ جَلَّ شانُہٗ اس کا ذِکر کیوں فرماتے ہیں۔ فرشتہ کا یہ عرض کرنا کہ ایک شخص مجلس میں ایسا بھی تھا کہ جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، واقعہ کا اِظہار ہے کہ اس وقت یہ حضرات بِمَنْزِلَہ گواہوں کے ہیں اور ان لوگوں کی عبادت اور ذِکر اللہ میں مشغولی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اِظہار کی ضرورت پیش آئی کہ مَبادا! اِعتراض ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا لُطف ہے کہ ذاکِرِین کی برکت سے ان کے پاس اپنی ضرورت سے بیٹھنے والے کو بھی محروم نہ فرمایا۔ اللہ جَلَّ شانُہٗ کا اِرشاد ہے ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ۝﴾ (التوبۃ: ۱۱۹) (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو)۔ صُوفیہ کا اِرشاد ہے کہ اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کے ساتھ رہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ”صحیح بخاری“ میں اِرشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قُرب میں ترقی رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں محبوب بنالیتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے ذیل میں ہوتا ہے۔ اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کیخلاف نہیں ہوتا۔ صُوفیہ کے احوال اور ان کے واقعات جو کثرت سے تواریخ میں موجود ہیں، وہ اس کے شاہدِ عدل ہیں اور وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کے انکار کی بھی گنجائش نہیں۔ ایک رسالہ اس باب میں ”نزھۃالبساتین“ کے نام سے مشہور ہیں، جس سے اس قسم کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔

شیخ اَبُو بکر کَتّانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں چند صُوفیہ کا اجتماع تھا، جن میں سب سے کم عمر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس مجمع میں محبتِ الٰہی پر بحث شروع ہوئی کہ مُحِب کون ہے؟ مُختلف حضرات مختلف اِرشاد فرماتے رہے۔ حضرت جُنَید رحمۃ اللہ علیہ چُپ رہے۔ ان حضرات نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس پر انہوں نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا کہ عاشق وہ ہے جو اپنی خودی سے جاتا رہے، خدا کے ذِکر کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو، دِل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو، اس کے دِل کو انوارِ ہیبت نے جلا دیا ہو۔ اس کے لئے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہو تو اللہ ہی کا کلام ہو۔ گویا حق تعالیٰ شانُہٗ ہی اس کی زبان سے کلام فرماتا ہے، اگر حرکت کرتا ہو تو اللہ ہی کے حکم سے، اگر تسکین پاتا ہو تو اللہ ہی کے ساتھ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر کھانا پینا، سونا جاگنا سب کاروبار اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا کا رسم ورواج قابلِ اِلتفات رہتا ہے، نہ لوگوں کی طعن و تشنیع قابلِ وقعت۔

حضرت سَعِید بن المُسَیَّب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، بڑے مُحدِّثین میں شمار ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شخص عبد اللہ بن اَبی وَدَاعہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک

مرتبہ چند روز حاضر نہ ہو سکے۔ کئی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا: کہاں تھے؟ عرض کیا: میری بیوی کا اِنتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے مَشاغِل میں پھنسا رہا۔ فرمایا کہ ہم کو خبر نہ کی، ہم بھی جنازہ میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر آنے لگا، فرمایا: دوسرا نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا: حضرت! مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ دو تین آنے کی میری حَیثِیَّت ہے۔ آپ نے فرمایا: ہم کر دیں گے اور یہ کہہ کر خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مَہر آٹھ دس آنہ پر مجھ سے کر دیا۔ (اتنی مقدار مَہر کی ان کے نزدیک جائز ہو گی، جیسا کہ بعض اماموں کا مذہب ہے، حَنَفِیّہ کے نزدیک ڈھائی روپے سے کم جائز نہیں) نکاح کے بعد میں اٹھا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مجھے کس قدر مَسَرَّت تھی، خوشی میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کے انتظام کے لئے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں۔ اسی فکر میں شام ہو گئی۔ میرا روزہ تھا، مغرب کے وقت روزہ افطار کیا۔ نماز کے بعد گھر آیا چراغ جلایا، روٹی اور زیتون کا تیل موجود تھا، اس کو کھانے لگا کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا: کون ہے؟ کہا: سعید ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کون سعید ہے۔ حضرت کی طرف میرا خیال بھی نہ گیا کہ چالیس برس سے اپنے گھر یا مسجد کے سوا کہیں آنا جانا تھا ہی نہیں۔ باہر آکر دیکھا کہ سَعِید بنُ المُسَیَّب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: آپ نے مجھے نہ بلایا؟ فرمایا: میرا ہی آنا مُنَاسِب تھا۔ میں نے عرض کیا: کیا اِرشاد ہے؟ فرمایا: مجھے یہ خیال آیا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تنہا رات کو سونا مُنَاسِب نہیں، اس لئے تمہاری بیوی کو لایا ہوں۔

یہ فرما کر اپنی لڑکی کو دروازہ کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے گر گئی۔ میں نے اندر سے کواڑ بند کئے اور وہ روٹی اور تیل جو چراغ کے سامنے رکھا تھا، وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کی نظر نہ پڑے اور مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا کہ حضرت سَعِید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے اور اس وقت وہ اس کو خود ہی پہنچا گئے ہیں۔ سب کو بڑا تعجّب ہوا، کہنے لگے: واقعی وہ تمہارے گھر میں ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس کا چرچا ہوا۔ میری والدہ کو

خبر ہوئی، وہ بھی اسی وقت آگئیں اور کہنے لگیں کہ اگر تین دن تک تو نے اس کو چھیڑا تو تیرا منہ نہ دیکھوں گی۔ ہم تین دن میں اس کی تیاری کرلیں۔ تین دن کے بعد جب میں اس لڑکی سے ملا، تو دیکھا نہایت خوبصورت، قرآن شریف کی حافظہ اور سنّت رسول ﷺ سے بھی بہت زیادہ واقف، شوہر کے حقوق سے بھی بہت زیادہ باخبر۔ ایک مہینہ تک تو نہ حضرت سَعید رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے، نہ میں ان کی خدمت میں گیا۔ ایک ماہ کے بعد میں حاضر ہوا تو وہاں مجمع تھا، میں سلام کرکے بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو فرمایا: اس آدمی کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا: نہایت بہتر ہے کہ دوست دیکھ کر خوش ہوں، دشمن جلیں۔ فرمایا: اگر کوئی بات ناگوار ہو تو لکڑی سے خبر لینا۔ میں واپس آگیا تو ایک آدمی کو بھیجا، جو بیس ہزار درہم (تقریباً پانچ ہزار روپے) مجھے دے گیا۔ اس لڑکی کو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اپنے بیٹے ولید کے لئے، جو ولی عہد بھی تھا، مانگا تھا، مگر حضرت سَعید رحمۃ اللہ علیہ نے عذر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبد الملک ناراض بھی ہوا اور ایک حیلہ سے حضرت سَعید رحمۃ اللہ علیہ کے سو کوڑے سخت سردی میں لگوائے اور پانی کا گھڑا ان پر گروا دیا۔

(۱۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةِ بَاطِلٍ، لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ، حَتّٰى يَنْزِعَ۔ وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِيْ أَمْرِهٖ۔ وَمَنْ بَهَّتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً، حَبَسَهُ اللهُ فِيْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، وَلَيْسَ بِخَارِجِ

حُضور اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو شخص “سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ” پڑھے، ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرتا ہے، وہ اللہ کے غصّہ میں رہتا ہے، جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے۔ اور جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے (اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو) وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مُؤمن مرد یا عورت پر بہتان باندھے وہ قیامت کے دن “رَدْغَةُ

(اسنادہ لا باس بہ)

رواہ الطبراني في الكبير، باب العين، : ۱۳۴۳۵، (۱۰/۳۲۹۴)۔ **والأوسط**، باب الميم، من اسمه محمد: ۶۴۹۱، (۶/۳۰۹)۔ **ورجالهما رجال الصحيح۔ كذا في مجمع الزوائد**، كتاب الأذكار، باب ما جاء في الباقيات الصالحات: ۱۶۸۶۰، (۱۰/۱۰۶)۔ **قلت:** أخرجه **أبوداود، كتاب الاقضية، باب في من يعين على خصومة**، : ۳۵۹۲، (۴/۲۱۸)۔ بدون ذِكر التسبيح فيه۔

الْخَبال'' میں قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس بہتان سے نکلے اور کس طرح اس سے نکل سکتا ہے۔

ف: ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرف داری ہے، پارٹی کا سوال ہے۔ لاکھ اللہ کے غصّہ میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عِتاب ہو، مگر کُنبہ برادری کی بات کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور سُکوت کریں، یہ بھی نہیں، بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مدد کریں گے، کیا یہی ہے ہمارے ایمان کا مقتضٰی؟ یہی ہے دینداری؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں، یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عَصَبِیَّت پر کسی کو بلائے یا عَصَبِیَّت پر لڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے ①۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عَصَبِیَّت سے یہ مُراد ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے ②۔

''**رَدْغَةُ الْخَبال**'' وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لہو، پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندی اور اَذِیَّت دینے والی جگہ ہے، جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہوں ③۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلِّق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا۔ کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا اور ثُبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو، دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لِسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسرے کو چُپ کر دیا جائے، اس وقت آنکھیں کھلیں گی، ہم نے کیا کہا تھا اور کیا نکلا۔ نَبِیِ کریم ﷺ کا اِرشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسا نکالتا ہے، جس کی پرواہ بھی

---

① ابو داؤد، باب فی العصبیۃ: ۵۱۲۱

② ایضاً: ۵۱۱۹

③ شعب الایمان، التشدید علی من اقترض: ۶۳۱۰

نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنّم میں پھینک دیا جاتا ہے ❶۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بعضے بات صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور (جہنم میں) پھینک دیا جاتا ہے جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ پھر اِرشاد فرمایا کہ زبان کی لَغزِش پاؤں کی لَغزِش سے زیادہ سخت ہے ❷۔

ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کو کسی گناہ سے عار دلا دے، وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مُبتلا ہوتا ہے ❸۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ مُراد ہے جس سے گناہ گار توبہ کر چکا ہو۔ حضرت اَبُو بکر صِدّیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک پکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری بدولت ہم ہلاکتوں میں پڑتے ہیں۔ اِبْنُ الْمُنْکَدِر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مُحدِّثین میں ہیں اور تابِعی ہیں۔ اِنتِقال کے وقت رونے لگے۔ کسی نے پوچھا: کیا بات ہے؟ فرمانے لگے: مجھے کوئی گناہ تو ایسا معلوم نہیں جو میں نے کیا ہو، اس پر روتا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو، جس کو میں نے سرسری سمجھا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک سخت ہو۔

(۱۶) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِأٰخِرِهٖ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُأَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ۔ فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًامَا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِيْمَا مَضٰى؟ قَالَ: كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُوْنُ فِي الْمَجْلِسِ۔

(صحیح)

رواه ابن أبي شيبة، كتاب الدعا، باب مايدعوبه الرجل: ۲۹۹۳۹، (۲۵۶/۱۰)۔ **وأبُوداود**، كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس: ۴۸۲۶، (۲۹۶/۵)۔ **والنسائي** في السنن الكبرىٰ،

حُضور اَقدس ﷺ کا معمول اخیر زمانۂ عمر شریف میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اٹھتے تو "سُبحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ أَشْھَدُأَنْ لَّآ إِلٰہَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوْبُ إِلَیْکَ" پڑھا کرتے۔ کسی نے عرض کیا کہ آج کل ایک دُعا کا معمول حُضور ﷺ کا ہے، پہلے تو یہ معمول نہیں تھا۔ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ یہ مجلس کا کفّارہ ہے۔ دوسری روایت میں بھی یہ قصّہ مذکور ہے۔ اس میں حُضور اَقدس ﷺ کا یہ اِرشاد منقول ہے کہ یہ کلمات

---

❶ ترمذی: ابواب الزہد: ۲۳۱۴

❷ شعب الایمان، باب حفظ اللسان: ۴۴۹۲

❸ ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ: ۲۵۰۵

كتاب عمل اليوم والليلة، باب كفارة ما يكون في المجلس: ١٠١٨٧، (١٦٣/٩)۔ **والحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير، ١٩٧١، (١٢٧/١) واقرعليه الذهبي۔ **وابن مردويه۔ كذافي**

مجلس کا کفّارہ ہیں، حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام نے مجھے بتائے ہیں۔

الدر، تحت الآية: ٤٣، من سورة الطور۔ **وفيه أيضا برواية ابن أبي شيبة**: ٢٩٩٣٧۔ **عن أبي العاليه بزيادة علمنيهن جبرئيل۔**

ف: حضرت عائشہ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبیٔ اکرم ﷺ جب بھی مجلس سے اٹھتے تو ”سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ أَشْھَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوْبُ إِلَیْکَ“ پڑھتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ اس دُعا کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں؟ اِرشاد فرمایا کہ جو شخص مجلس کے ختم پر اس کو پڑھ لیا کرے، تو اس مجلس میں جو لغزشیں اس سے ہوئی ہوں، وہ سب مُعاف ہو جائیں گی ❶۔ مَجالس میں عموماً فضول باتیں بیکار تذکِرے ہو ہی جاتے ہیں۔ کتنی مُختصر دُعا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دعاؤں میں سے کوئی سی ایک دُعا پڑھ لے تو مجلس کے وَبال سے خَلاصی پا سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانُہٗ نے کیسی کیسی سہولتیں مَرحمَت فرمائی ہیں۔

(۱۷) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، مِنْ تَسْبِيْحِهٖ وَتَحْمِيْدِهٖ وَتَكْبِيْرِهٖ وَتَهْلِيْلِهٖ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يَذْكُرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَّا يَزَالَ لَهٗ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ يُّذْكِرُ بِهٖ۔ (صحيح)

رواه أحمد في مسنده، مسندالكوفيين: ١٨٣٦٢، (٣١٢/٣٠)۔ **والحاكم**، كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٥٥، (٦٨٢/١)۔ **وقال: صحيح الإسناد: قال الذهبي: موسى بن سالم، قال ابوحاتم، منكر الحديث۔ ولفظ الحاكم: ”كدوى النحل يقلن لصاحبهن“**۔ وأخرجه **يسند أخر**، كتاب الدعاء والتكبير: ١٨٤١، (٦٧٨/١)۔ **وصححه على شرط مسلم۔ وأقره عليه الذهبي۔ وفيه: ”كدوى النحل يذكرن بصاحبهن“۔**

حضورِ اَقدس ﷺ کا اِرشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یعنی ”سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اللهُ اَكْبَر، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ“ پڑھتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں کہ ان کے لئے ہلکی سی آواز (بھنبھناہٹ) ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کا تذکِرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکِرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذِکرِ خیر کرتا رہے۔

ف: جو لوگ حُکّامِ رَس ہیں، کرسی نشین کہلاتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ بادشاہ

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب الدعاء والتدبیر: ۱۸۲۷

نہیں، وزیر نہیں، وائسرائے کو بھی چھوڑ دیجئے، کسی گورنر کے یہاں ان کی تعریف ہو جائے، ان کا ذِکرِ خیر آ جائے پھولے نہیں سماتے، دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس تذکرہ سے نہ تو دین کا نفع نہ دنیا کا۔ دین کا نفع نہ ہونا تو ظاہر اور کھلا ہوا ہے اور دنیا کا نفع نہ ہونا اس وجہ سے کہ شاید جتنا نفع اس قسم کے تذکروں سے ہوتا ہو، اس سے زیادہ نقصان اس نَوع کے مرتبے اور تَذکِرے حاصل کرنے میں پہنچ جاتا ہے۔ جائیدادیں فروخت کر کے، سودی قرض لے کر ایسے مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مفت کی عداوتیں مول لی جاتی ہیں اور ہر قسم کی ذِلّتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ الیکشنوں کے مَنظر سب کے سامنے ہیں کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بِالمُقابِل اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کے عرش پر تذکرہ، مالِکُ المُلک کے حُضور میں تَذکِرہ، اس پاک ذات کے یہاں تَذکِرہ، جس کے قبضہ میں بادشاہوں کے دِل ہیں۔ حاکموں کے اختیارات اس کے اختیار میں ہیں۔ نفع اور نقصان کا واحد مالک وہی ہے، سارے جہان کے تمام آدمی، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور مالِکُ المُلک نہ چاہے تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اس کی رضا نہ ہو، تو ایک قطرہ پانی کا نہیں پلا سکتی۔ ایسی پاک ذات کے یہاں اپنا ذِکرِ خیر ہو، کوئی دولت دنیا کی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کوئی عِزت دنیا کی خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے اس کی برابری کر سکتی ہے؟ نہیں! ہر گز نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا کی کسی عِزت کو اگر وقیع سمجھا جائے تو کیا اپنے اُوپر ظلم نہیں۔

(۱۸) عَنْ يُّسَيْرَةَ رضی اللہ عنہا وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُلَاتٌ مُّسْتَنْطِقَاتٌ، وَّلَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ۔

حضرت یُسَیرَہ رضی اللہ عنہا جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشاد فرمایا کہ اپنے اُوپر تسبیح (سُبحَانَ اللّٰہِ کہنا) اور تہلیل (لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پڑھنا) اور تقدیس (اللہ کی پاک بیان کرنا مثلاً ”سُبحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ“ پڑھنا یا ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ وَ رَبُّ الْمَلٰٓئِکَۃِ وَ

الرُّوۡحِ" کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ انگلیوں سے قیامت میں سُوال کیا جاوے گا (اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کئے اور جواب میں) گویائی دی جائے گی۔ اور اللہ کے ذِکر سے غفلت نہ کرنا (اگر ایسا کرو گی تو اللہ کی) رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔

(حسن بالشواهد)

رواه الترمذي، اَبُواب الدعوات: ۳۵۸۳، (۸۱۴)۔ **واَبُوداود،** باب تفريع اَبُواب الوتر، باب التسبيح،: ۱۴۹۶، (۲۸۶/۲)۔ **كذافي المشكوٰة،** كتاب **وفي المنهل،** باب تفريع اَبُواب الوتر، التسبيح بالحصى، (۱۶۵/۸)۔ أخرجه **ايضا** أحمد في مسنده، مسندالأنصار: ۲۷۰۸۹، (۳۵/۴۵)۔ **والحاكم،** كتاب الدعاء والتكبير: ۲۰۰۷، (۷۳۲/۱)۔ **اه وقال الذهبي في تلخيصه، صحيح۔ وكذارقم له بالصحة في الجامع الصغير،** باب حرف العين: ۵۵۸۷، (۱۰۴/۲)۔ **وبسط صأحب ال**إتحاف، كتاب الأذكار، باب فضيلة التحميد، (۱۷/۵)۔ **في تخريجه، وقال عبدالله بن عمرورايت** "رسول الله صلى الله عَلَيۡهِ وسلم يعقد التسبيح" رواه اَبُوداود، تفريع اَبُواب الوتر، باب التسبيح بالحصى: ۱۴۹۷، (۲۸۷/۲)۔ **والنسائي،** كتاب السهو، باب عقدالتسبيح: ۱۳۵۵، (۹۷/۳)۔ **والترمذي،** اَبُواب الدعوات: ۳۴۱۱، ص (۷۷۴)۔ **وحسنه، والحاكم،** كتاب الدعاء والتكبير،: ۲۰۰۵، (۷۳۱/۱)۔ **كذافي الإتحاف وبسط في تخريجه، ثم قال: قال الحافظ: معني العقد المذكورفي الحديث احصاء العدد۔ وهواصطلاح العرب بوضع بعض الانامل على بعض عقد انملة اخرىٰ، فالآحاد والعشرات باليمين والمؤن والألاف باليسار اه۔**

ف: قیامت میں آدمی کے بدن سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سُوال ہو گا کہ ہر ہر حصّہ بدن نے کیا کیا نیک کام کئے اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کئے۔ قرآنِ پاک میں مُتَعدِّد جگہ اس کا ذِکر ہے ایک جگہ اِرشاد ہے ﴿يَوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ اَلۡسِنَتُهُمۡ وَاَيۡدِيۡهِمۡ﴾ الاية (النور: ۲۴) جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کاموں کی (یعنی گناہوں کی) جن کو یہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ اِرشاد ہے: ﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ اَعۡدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ﴾ الاية (حم سجده: ۱۹) اس جگہ کئی آیتوں میں اس کا ذِکر ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن (حشر میں) اللہ کے دشمن جہنّم کی طرف جمع کئے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جاوے گا، پھر سب کے سب اس جہنّم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہیاں دیں گے (اور بتائیں گی کہ ہمارے ذریعہ سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کئے) اس وقت وہ لوگ (تعجب سے) ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ (ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذّت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے) وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس پاک اللہ نے گویائی عطا کی جس نے سب چیزوں کو گویا عطا فرمائی، اسی نے تم کو بھی اوّل پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔

اَحادیث میں اس گواہی کے مُتَعدِّد واقعات ذِکر کئے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وَارِد

ہے کہ قیامت کے دن کافر، باوجودیکہ اپنی بداعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کئے، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا کہ یہ لوگ دشمنی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں وہ ان کو بھی جھٹلائے گا، تو اس کے اَعضاء کو گواہ بنایا جائے گا❶۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بداعمالیاں اس سے کرائی گئی تھیں❷۔ ایک حدیث میں ہے کہ پل صِراط سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا، جیسے کہ بچّہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھّا! اگر تو سیدھا چل کر پل صِراط سے گزر جائے تو اپنے سب اَعمال بتادے گا؟ وہ اس کا وعدہ کرے گا کہ میں سچ سچ سب بتادوں گا اور اللہ کی عِزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ وہ کہیں گے کہ اچھّا! سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے پل صِراط پر گزر جائے گا اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھّا! اب بتا۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے۔ اس لئے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ اچھّا! اگر ہم نے گواہ پیش کر دیئے، تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں، اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے ہیں، اس لئے کہے گا کہ اچھّا لاؤ گواہ۔ تو اس کے اَعضاء کو حکم کیا جائے گا اور وہ کہنا شروع کریں گے، تو مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا اور کہے گا کہ بیشک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہیں، تو اِرشاد ہوگا کہ اچھّا! ہم نے مَغفِرت کر دی❸۔

غرض ان وجوہ سے ضروری ہے کہ آدمی کے اَعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہوں تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔ اسی لئے حُضورِ اَقدس ﷺ نے اس حدیث بالا میں انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری اَحادیث میں مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے کہ نشاناتِ قدم بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے❹۔ کس قدر خوش

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب الأھوال: ۸۷۹۰

❷ تفسیر ابن ابي حاتم، یٰس

❸ الاحکام الشرعیۃ الکبریٰ: ۲/۴۰۵ ومثلہ فی المعجم الکبیر: ۷۶۷۰

❹ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۰۹۳

قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لئے برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہو کہ گناہ کئے ہی نہیں، یا توبہ وغیرہ سے مُعاف ہو گئے اور بھلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں، جس کی سَہل ترین صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے، تو فوراً توبہ سے اس کو محو کر ڈالیں کہ پھر وہ کالعدم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ باب دوم فصل سوم حدیث نمبر ٣٣ کے تحت گزر چکا ہے اور نیکیاں اَعمال ناموں میں باقی رہیں، جس کے گواہ بھی موجود ہوں اور جن جن اَعضاء سے یہ نیک اَعمال کئے ہیں، وہ سب گواہی دیں۔ مُتَعدِّد اَحادیث میں خود نبیٔ اکرم ﷺ کا انگلیوں پر گننا مُختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبیٔ اکرم ﷺ (انگلیوں پر) تسبیح گنتے تھے ❶۔ اسکے بعد حدیث بالا میں اللہ کے ذِکر سے غفلت پر رحمتِ الٰہیہ سے محروم کئے جانے کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذِکر سے محروم رہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآنِ پاک میں اِرشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں (رحمت کے ساتھ) تمہارا ذِکر کروں گا۔ حق تعالیٰ شانُہٗ نے اپنی یاد کو بندہ کی یاد پر مُرَتَّب فرمایا۔ قرآنِ پاک میں اِرشاد ہے ﴿وَمَنۡ يَّعۡشُ عَنۡ ذِكۡرِ الرَّحۡمٰنِ نُقَيِّضۡ لَهٗ شَيۡطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيۡنٌ٥ وَاِنَّهُمۡ لَيَصُدُّوۡنَهُمۡ عَنِ السَّبِيۡلِ وَيَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ﴾٥ (الزخرف: ٣٦) اور جو شخص اللہ کے ذِکر سے (خواہ کسی قسم کا ہو، قرآنِ پاک ہو یا کسی اور قسم کا، جان بوجھ کر) اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان کو مُسلَّط کر دیتے ہیں۔ پس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو (جو اللہ کے ذِکر سے اندھے بن گئے ہیں سیدھے) راستہ سے ہٹاتے رہتے ہیں اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مُقرَّر ہے۔ کافر کے ساتھ تو وہ ہر وقت شریکِ حال رہتا ہے۔ کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی، لیکن مُؤمن سے ذرا دور رہتا ہے اور ہر وقت منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو ذرا غافل پاتا ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے ❷۔ دوسری جگہ اِرشاد ہے۔ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ﴾ (المنافقون: ٩) اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد (اور

---

❶ سنن بیہقی الکبریٰ، باب الترغیب فی مکث المصلی: ٢٨٥٠

❷ حلیۃ الاولیاء، وھب بن منبہ: ٥٨/٤

اسی طرح دوسری چیزیں) اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں اور ہم نے جو کچھ (مال و دولت) عطا کر رکھا ہے اس میں سے (اللہ کے راستہ میں) اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر (حسرت و افسوس سے) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار! مجھے کچھ دنوں اور مہلت کیوں نہ دی، تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا اور اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے اور اللہ کو تمہارے سارے اَعمال کی پوری پوری خبر ہے۔ (جیسا کرو گے، بھلا یا برا، ویسا ہی پاؤ گے) اللہ جَلَّ شانُہٗ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈھیلے مار رہے ہیں۔ میں نے ان کو دھمکایا، وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے غور سے سُنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھّا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مُسلَّط کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں، کہنے لگا: کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مُدَّعی ہو۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا: شبلی! اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قُرب و بُعد میں مجھ کو بھٹکا رکھا ہے، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے (یعنی حُضوری حاصل نہ رہے) تو میں دردِ فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا بھاگ گیا۔

خَیَالُکَ فِیْ عَیْنِیْ وَ ذِکْرُکَ فِیْ فَمِیْ   وَمَثْوَاکَ فِیْ قَلْبِیْ فَاَیْنَ تَغِیْبُ

تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذِکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے۔ تیرا ٹھکانا میرا دِل ہے، پس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے۔

حضرت جُنَید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کا جب اِنتقال ہونے لگا تو کسی نے کلمہ ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ تلقین کیا، فرمانے لگے: میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا (یعنی یاد تو اس کو دلاؤ جس کو کسی وقت بھی غفلت ہوئی ہو)۔ حضرت ممشاد دِینَوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بُزرگ ہیں، جس

وقت ان کا اِنتقال ہونے لگا، تو کسی پاس بیٹھنے والے نے دُعا کی: حق تعالیٰ شانہٗ آپ کو (جنت کی) فُلاں فُلاں دولت عطا فرمائیں، تو ہنس پڑے۔ فرمانے لگے: تیس برس سے جَنَّت اپنے سارے سازو سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے۔ ایک دفعہ بھی تو (اللہ جَلَّ شانُہٗ کی طرف سے توجُّہ ہٹا کر) ادھر توجُّہ نہیں کی۔ حضرت رُوَیم رحمۃ اللہ علیہ کو اِنتِقال کے وقت کسی نے کلمہ تلقین کیا، تو فرمانے لگے: میں اس کے غیر کو اچھی طرح جانتا ہی نہیں۔ احمد بن خَضرَویہ رحمۃ اللہ علیہ کا اِنتِقال کا وقت تھا، کسی شخص نے کوئی بات پوچھی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کہنے لگے: پچانویں برس سے ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، وہ اس وقت کھلنے والا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ سعادت کے ساتھ کھلتا ہے، یا بد بختی کے ساتھ، مجھے اس وقت بات کی فرصت کہاں۔

(۱۹) وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ رضی اللہ عنہا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً، حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ، عَدَدَ خَلْقِهٖ، وَرِضَا نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ۔

اُمُّ الْمُؤمِنین حضرت جُوَیرِیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حُضور اَقدس ﷺ صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لئے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی (تسبیح میں مشغول تھیں) حُضور ﷺ چاشت کی نماز کے بعد (دوپہر کے قریب) تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حُضور ﷺ نے دریافت فرمایا: تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ عرض کیا: جی ہاں! حُضور ﷺ نے فرمایا: میں نے تم سے (جدا ہونے کے بعد) چار کلمے تین مرتبہ پڑھے، اگر ان کو ان سب کے مقابلہ میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے، تو وہ غالب ہو

(حسن بالمتابعة)

رواه مسلم، كتاب الذكروالدعاء، باب التسبيح أول النهار: ۶۸۵۱، (۶۴/۱۷)۔ **كذا في المشكوٰة**، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح، **قال القارى**، مرقات، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح، (۱۴۴/۸)۔ **وكذا اصحاب السنن الاربعة**، اَبُوداود، باب تفريع اَبواب الوتر: ۱۴۹۸، (۲۸۷/۲)۔ **وفي الباب عن**

صفية، قالت: "دخل على رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم، وبين يدى اربعة الاف نواة، اسبح بهن" الحديث، أخرجه **الحاكم،** كتاب الدعاء، :٢٠٠٨، (١/٧٣٢)۔ وقال الذهبي: صحيح۔

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رضی اللہ عنہ أَنَّهٗ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى إِمْرَأَةٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْحَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا، أَوْ أَفْضَلُ؟: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ۔

(حسن)

رواه اَبُوداود، باب تفريع اَبُواب الوتر، باب التسبيح بالحصى: ١٤٩٥، (٢/٢٨٦)۔ **والترمذي،** اَبُواب الدعوات، باب دعاء النبى عَلَيْهِ السَّلام: ٣٥٦٨، (٨١٠)۔ **وقال الترمذي: حديث غريب۔ كذا في المشكوٰة۔ قال القارى: وفي نسخة: حسن غريب اه وفي المنهل،** اَبُواب تفريع الوتر، التسبيح بالحصى: ١٦٥٨ ۔ أخرجه **أيضا النسائي،** كتاب السهو، باب نوع اٰخر من عدد التسبيح: ١٣٥١، (٣/٧٧) وفي السنن الكبرىٰ، كتاب عمل اليوم والليلة: ٩٩٢٢، (٩/٧٣)۔ **وابن ماجه،** كتاب الأدب، باب فضل التسبيح: ٣٨٠٨، (٤/٢٥٢)۔ **وابن حبان،** باب

جائیں۔ وہ کلمے یہ ہیں: **"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ، وَرِضَا نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ"** (اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اس کے عرش کے اور اس کے کلمات کی مقدار کے مُوافِق پر)۔

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حُضور اَقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی عورت کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ حُضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس سے سَہل ہو (یعنی کنکریوں پر گننے سے سَہل ہو) یا (یہ اِرشاد فرمایا کہ) اس سے افضل ہو **"سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ"** اخیر تک۔ اللہ کی تعریف کرتی ہوں بقدر اس مخلوق کے جو آسمان میں پیدا کی، اور بقدر اس مخلوق کے جو زمین میں پیدا کی، اور بقدر اس مخلوق کے جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں

الأذكار، ذكرالأمر بالتسبيح: ۸۳۷، (۱۱۸/۳)۔ والحاكم: ۲۰۰۹، (۷۳۲/۱)۔ والترمذي۔ وقال: حسن غريب من هذا الوجه اهقلت: وصححه الذهبي۔

بقدر اس کے جس کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس سب کے برابر ”اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ اور اس کے برابر ہی ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ“ اور اسی کے مانند ”لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ“۔

ف: مُلَّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کَیفِیّات کے ساتھ تسبیح کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذِکر کرنے سے ان کَیفِیّات اور صِفات کی طرف ذہن مُتَوَجِّہ ہو گا، اور یہ ظاہر ہے کہ جتنا بھی تدَبُّر اور غور و فکر زیادہ ہو گا اتنا ہی ذِکر افضل ہو گا❶۔ اس لئے قرآنِ پاک جو تدَبُّر سے پڑھا جائے وہ تھوڑا سا بھی اس تِلاوت سے بہت زیادہ افضل ہے جو بلا تدبر کے ہو۔ اور بعض عُلماء نے کہا ہے کہ افضلیت اس حَیثِیَّت سے ہے کہ اس میں اللہ جَلَّ جَلالُہٗ کی حمد و ثنا کے شمار سے عجز کا اِظہار ہے، جو کمال ہے عَبدِیَّت کا۔ اسی وجہ سے بعض صُوفیہ سے نقل کیا گیا ہے: وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو بلا حساب اور بیشمار کرتے ہو اور اللہ کے پاک نام کو شمار سے اور گن کر کہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمار نہ کرنا چاہیئے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اَحادیث میں کثرت سے خاص خاص اوقات میں شمار کیوں بتائی جاتی، حالانکہ بہت سی اَحادیث میں خاص خاص مقداروں پر خاص خاص وعدے فرمائے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شمار پر قناعت نہ کرنا چاہیئے۔ بلکہ جو اوراد مخصوص اوقات میں متعیّن ہیں ان کو پورا کرنے کے عِلاوہ خالی اوقات میں بھی جتنا ممکن ہو، بے شمار اللہ کے ذِکر میں مشغول رہنا چاہیئے، کہ یہ ایسی بڑی دولت ہے جو شمار کی پابندیوں اور اسکے حُدود سے بالاتر ہے۔

ان اَحادیث سے تسبیحِ متعارف یعنی دھاگہ میں پروئے ہوئے دانوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اس کی اصل ثابت ہے، حُضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے کنکریوں اور گٹھلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا اور اس پر انکار نہیں فرمایا، تو پھر اصل ثابت ہو گئی، دھاگہ میں پرو دینے میں اور نہ پرونے میں کوئی فرق نہیں۔ اسی وجہ سے جملہ مشائخ اور فقہاء اس کا استعمال فرماتے رہے ہیں۔ مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مُستقِل رسالہ ”نُزھۃُ الفِکر“ اس بارے میں تصنیف فرمایا ہے۔ مُلّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ

---

❶ مرقاۃ: ۴/۱۵۹۶

کہتے ہیں کہ یہ حدیثِ صحیح دلیل ہے تسبیح مُتعارَف کے جواز کی، اس لئے کہ نبیٔ کریم ﷺ نے ان گٹھلیوں یا کنکریوں پر گنتے ہوئے دیکھا اور اس پر انکار نہیں فرمایا، جو شرعی دلیل ہے۔ اور کُھلے ہوئے دانے یا پروئے ہوئے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کا قول قابل اعتماد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صُوفیہ کی اصطلاح میں اس کو شیطان کا کوڑا کہا جاتا ہے ❶۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی نے ایسے وقت میں بھی تسبیح دیکھی جب وہ مُنتہائے کمال پر پہنچ چکے تھے، تو ان سے اس بارہ میں سُوال کیا۔ فرمایا: جس چیز کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ بہت سے صَحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رہتی تھیں اور وہ ان پر گن کر تسبیح پڑھا کرتے تھے ❷، چنانچہ حضرت اَبُوصَفِیَّہ صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کنکریوں پر گنا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے گٹھلیاں اور کنکریاں دونوں نقل کی گئی ہیں ❸۔ حضرت اَبُوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی کنکریوں پر پڑھنا نقل کیا گیا ہے ❹۔ ''مرقاۃ'' میں لکھا ہے کہ حضرت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگہ رہتا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر شمار فرمایا کرتے تھے اور اَبُوداوٗد میں ہے کہ حضرت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں بھری رہتیں، ان پر تسبیح پڑھا کرتے۔ اور جب وہ تھیلی خالی ہو جاتی تو ایک باندی تھی، جو ان سب کو پھر اس میں بھر دیتی اور حضرت اَبُوہُرَیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیتی ❺۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھیلی سے نکالتے رہتے اور باہر ڈالتے رہتے تھے، اور جب وہ خالی ہو جاتی تو سارے دانے سمیٹ کر وہ باندی پھر اس تھیلی میں بھر دیتی۔

حضرت اَبُودرداء رضی اللہ عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک تھیلی میں عَجوہ کھجور کی گٹھلیاں جمع رہتیں، صبح کی نماز پڑھ کر اس تھیلی کو لے کر بیٹھتے اور جب تک وہ خالی نہ ہوتی، بیٹھے پڑھتے رہتے ❻۔ حضرت اَبُوصَفِیَّہ رضی اللہ عنہ جو حُضور اَقدس ﷺ کے غلام تھے، ان کے سامنے ایک چمڑا بچھا رہتا، اس پر کنکریاں پڑی رہتیں اور صبح سے زوال کے وقت تک

---

❶ مرقاۃ، ثواب التسبیح، ۴/۱۶۰۱

❷ معرفۃ الصحابۃ للأصبهانی، باب الصاد، ابو الصفیہ: ۵/ ۲۹۳۸

❸ طبقات ابن السعد، ذکر جمعہ علیہ السلام لسعد، ۳/ ۱۳۳

❹ المنحہ علی السبحہ للسیوطی

❺ ابو داوٗد، کتاب النکاح: ۲۱۷۴

❻ الزهد لِابن حنبل: ۱۴۱

ان کو پڑھتے رہتے۔ جب زوال کا وقت ہوتا تو وہ چمڑا اٹھا لیا جاتا، وہ اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر وہ بچھا دیا جاتا اور شام تک ان کو پڑھتے رہتے۔ حضرت اَبُوہُرَیرہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کے پوتے نقل کرتے ہیں کہ دادا ابا کے پاس ایک دھاگہ تھا، جس میں دو ہزار گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ایک مرتبہ ان پر تسبیح نہ پڑھ لیتے ①۔ حضرت امام حسین رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک دھاگہ تھا، جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔

صُوفیہ کی اصطلاح میں تسبیح کا نام مُذَکِّرہ (یاد دلانے والی) بھی ہے، اس وجہ سے کہ جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو خواہ مخواہ پڑھنے کو جی چاہتا ہی ہے، اس لئے گویا اللہ کے نام کو یاد دلانے والی ہے۔ اس بارہ میں ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے، جو حضرت علی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ سے نقل کی گئی ہے کہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے اِرشاد فرمایا کہ تسبیح کیا ہی اچھی ''مُذَکِّرہ'' یعنی یاد دلانے والی چیز ہے ②۔ اس باب میں ایک مسلسل حدیث مولانا عبد الحی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ صاحب نے نقل فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سے لے کر اُوپر تک ہر استاد نے اپنے شاگرد کو ایک تسبیح عطا فرمائی اور اس کے پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ اخیر میں حضرت جنید بغدادی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے شاگرد تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت جُنَید رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس عُلُوِّ مرتبہ پر بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے استاد سری سقطی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو ان سے یہی سُوال کیا تھا جو تم نے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے استاد حضرت معروف کرخی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی تو یہی سُوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت بشر حافی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو یہی سُوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت عمر مکی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی تو یہی سُوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت حَسَن بصری رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ (جو سارے مشائخ چشتیہ کے سرگروہ ہیں) کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی

---

① حلیۃ الاولیاء، ابو ھریرۃ، ۱/۳۸۳

② الفردوس بماثور الخطاب، ۴/۲۵۹

تو عرض کیا تھا کہ آپ کی اس رفعتِ شان اور عُلُوِّ مرتبہ کے باوجود بھی اب تک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے تصوُّف کی ابتداء میں اس سے کام لیا تھا اور اس کے ذریعہ سے ترقی حاصل کی تھی، تو گوارا نہیں کہ اب اخیر میں اس کو چھوڑ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دِل سے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر طرح اللہ کا ذِکر کروں۔ مُحدِّثانہ حیثیّت سے ان میں کلام بھی کیا گیا ہے۔

(۲۰) عَنِ ابْنِ أَعْبُدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّيْ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهٖ إِلَيْهِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى أَثَّرَ فِيْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى أَثَّرَ فِيْ نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتّٰى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِهٖ خَادِمًا فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهٗ حِدَاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكَ يَارَسُوْلَ اللهِ جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى أَثَّرَتْ فِيْ يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى أَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا فَلَمَّا أَنْ جَآءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيْهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيْهِ قَالَ اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ وَأَدِّيْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِيْ عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو حضور ﷺ کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھیں قصّہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیسی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹّے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑے مَیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حُضور اَقدس ﷺ کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچّھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئیں، حُضور اَقدس ﷺ کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لئے واپس چلی آئیں۔ حضور ﷺ

فَسَبِّحِيْ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدِيْ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرِيْ أَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَّسُوْلِهٖ۔

(متفق عليه)

أخرجه أبوداؤد، كتاب الخراج، باب في بيان مواضع قسم الخمس: ٩٢٨١، (٣/٤٦١)۔

وَفِي الْبَابِ عَنِ ألفضلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضَبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَّأْمُرَلَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ، وَّلٰكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ: تُكَبِّرْنَ اللهَ عَلٰى أَثْرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَكْبِيْرَةً، وَّثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَّثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَحْمِيْدَةً، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

(صحيح)

رواه أبوداود (ايضا) وفي الجامع الصغير، باب كان: ٦٩٤٥، (٢/٢٠٥)۔ برواية ابن مندة، عن جليس كان يأمر نسائه إذا ارادت احداهن ان تنام: ان تحمد۔ الحديث، ورقم له بالضعف۔

دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا: تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئیں (شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں) میں نے عرض کیا: حضور! چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں، کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقّتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: فاطمہ! اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو اور جب سونے کیلئے لیٹو تو ”سُبْحَانَ اللهِ“ ۳۳ مرتبہ، ”اَلْحَمْدُلِلّٰهِ“ ۳۳ مرتبہ، ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ ۳۴ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ (کی تقدیر) اور اس کے رسول ﷺ (کی تجویز) سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور ﷺ کی چچازاد بہنوں کا قصّہ بھی اسی قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں حضور ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تینوں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر

ہوئیں اور اپنی مَشَقَّت اور دِقّتیں ذِکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حُضور ﷺ نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مُقَدَّم ہیں، میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سُبْحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ ۳۳، ۳۳ مرتبہ اور ایک مرتبہ ”لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ، وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔

ف: حُضورِ اَقدس ﷺ اپنے گھر والوں اور عزیزوں کو خاص طور سے ان تَسْبِیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حُضور اَقدس ﷺ اپنی بیویوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ سونے کا ارادہ کریں تو ”سُبْحَانَ اللّٰہِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ ہر ایک ۳۳ مرتبہ پڑھیں①۔ حدیث بالا میں حُضور اَقدس ﷺ نے دُنیوِی مَشَقَّتوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں ان تَسْبِیحات کو تلقین فرمایا۔ اس کی ظاہری وجہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لئے دُنیوِی مَشَقَّت اور تکلیف قابلِ اِلتِفات نہیں ہے، اس کو ہر وقت آخرت اور مرنے کے بعد کی راحت و آرام کی فکر ضروری ہے۔ اس لئے حُضور اَقدس ﷺ نے چند روزہ زندگی کی مَشَقَّت اور تکلیف کی طرف سے توجُّہ ہٹا کر آخرت کی راحت کے سامان بڑھانے کی طرف مُتَوَجِّہ فرمایا اور ان تَسْبِیحات کا آخرت میں زیادہ سے زیادہ نافع ہونا ان رِوایات سے جو اس باب میں ذِکر کی گئی ہیں ظاہر ہے۔

اس کے عِلاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان تَسْبِیحات کو حق تعالیٰ شانُہٗ نے جہاں دینی مَنافِع اور ثمرات سے شرف بخشا ہے، دُنیوِی مَنافِع بھی ان میں رکھے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام میں، اس کے رسول کے پاک کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جن میں

---

① الجامع الصغیر عن ابن مندہ، باب کان: ۶۹۴۵

آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی مَنافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجّال کے زمانہ میں مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہوگی ❶، یعنی تسبیح وتقدیس (سُبْحَانَ اللّٰہِ وغیرہ الفاظ کا پڑھنا) کہ جس شخص کا کلام ان چیزوں کا پڑھنا ہوگا، حق تعالیٰ شانُہٗ اس سے بھوک کی مَشَقَّت کو زائل کردیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بغیر کھائے پیے صرف اللہ کے ذِکر پر گزارہ ممکن ہوسکتا ہے اور دجّال کے زمانہ میں عام مؤمنین کو یہ دولت حاصل ہوگی، تو اس زمانہ میں خواص کو اس حالت کا مُیَسَّر ہوجانا کچھ مشکل نہیں۔ اس لئے جن بُزرگوں سے اس قسم کے واقعات بکثرت منقول ہیں کہ معمولی غذا پر یا بلا غذا کے وہ کئی کئی دن گزار دیتے تھے، ان میں کوئی وجہ انکار یا تکذیب کی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو تکبیر (یعنی اللہ اکبر کثرت سے) پڑھا کرو، یہ اس کو بجھا دیتی ہے ❷۔ ''حِصْن حَصِین'' میں نقل کیا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی کام میں تَعَب اور مَشَقَّت معلوم ہو یا قوّت کی زیادتی مطلوب ہو تو سوتے وقت ''سُبْحَانَ اللّٰہِ'' ۳۳ مرتبہ، ''اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ'' ۳۳ مرتبہ، ''اَللّٰہُ اَکْبَرُ'' ۳۴ مرتبہ پڑھے، یا تینوں کلمے ۳۳، ۳۳ مرتبہ پڑھے، یا کوئی سا ایک ۳۴ مرتبہ پڑھ لے۔ (چونکہ مُختلف اَحادیث میں مُختلف عدد آئے ہیں، اس لئے سب ہی کو نقل کردیا ہے)۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان اَحادیث سے جن میں نبیِّ اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے حضرت فاطمہ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا کو خادم کے بدلے یہ تَسبِیحات تعلیم فرمائیں، یہ اِستِنباط کیا ہے کہ جو شخص ان پر مُدَاوَمت کرے اس کو مَشَقَّت کے کاموں میں تکان اور تَعَب نہیں ہوگا۔ حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر معمولی تَعَب ہوا، تب بھی مضرت نہ ہوگی۔ مُلّا عَلِی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عمل مجرب ہے، یعنی تَجرِبہ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان تسبیحوں کا سوتے وقت پڑھنا ازالۂ تکان اور زیادتیٔ قوّت کا سبب ہوتا ہے۔

علّامہ سُیُوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ''مرقاۃُ الصُّعود'' میں لکھا ہے کہ ان تسبیحوں کا خادم سے بہتر ہونا آخرت کے اعتبار سے بھی ہوسکتا ہے کہ آخرت میں یہ تسبیحیں جتنی مفید، کارآمد اور نافع ہوں گی دنیا میں خادم اتنا کارآمد اور نافع نہیں ہوسکتا۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہو

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب الفتن والملاحم: ۸۵۶۱

❷ الدعاء للطبرانی، باب القول عند بناء الرجل: ۱۰۰۲

سکتا ہے کہ ان تسبیحوں کی وجہ سے کام پر جس قدر قوّت اور ہمّت ہو سکتی ہے خادم سے اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ان پر عمل کرے وہ جنَّت میں داخل ہو اور وہ دونوں بہت سَہل ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں: ایک یہ کہ ان تسبیحوں کو ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ پڑھے کہ یہ پڑھنے میں تو ایک سو پچاس ہوئیں، لیکن اَعمال کے ترازو میں پندرہ سو ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سوتے وقت ”سُبْحَانَ اللهِ“، ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ ۳۳، ۳۳ مرتبہ پڑھے اور ”أَللهُ اَكْبَرُ“ ۳۴ مرتبہ پڑھے کہ یہ پڑھنے میں سو مرتبہ ہوئیں اور ثواب کے اعتبار سے ایک ہزار ہوئیں۔ کسی نے پوچھا: یارسول اللہ! یہ کیابات ہے کہ ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ حُضور ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ نماز کے وقت شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فُلاں ضرورت ہے اور فُلاں کام ہے اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے، جس سے پڑھنا رہ جاتا ہے ❶۔ ان اَحادیث میں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنَّت کی عورتوں کی سردار اور دوجہاں کے سردار کی بیٹی اپنے ہاتھ سے آٹا پیستیں، حتیٰ کہ ہاتھوں میں گٹے پڑگئے۔ خود ہی پانی بھر کر لاتیں، حتیٰ کہ سینہ پر مشک کی رسی کے نشان ہوگئے۔ خود ہی گھر کی جھاڑو وغیرہ سارا کام کرتیں، جس سے ہر وقت کپڑے میلے رہتے۔ آٹا گوندھنا، روٹی پکانا، غرض سب ہی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ کیا ہماری بیبیاں یہ سارے کام تو کیا، ان میں سے آدھے بھی اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں؟ اور اگر نہیں کرتیں تو کتنی غیرت کی بات ہے کہ جن کے آقاؤں کی یہ زندگی ہو، ان کے نام لیوا، ان کے نام پر فخر کرنے والوں کی زندگی اس کے آس پاس بھی نہ ہو۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ خادموں کا عمل ان کی مَشقَّت آقاؤں سے کچھ آگے ہوتی، مگر افسوس کہ یہاں اس کے آس پاس بھی نہیں۔ **فَاِلَى اللهِ الْمُشْتَكٰى، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ۔**

خاتمہ

خاتمہ میں ایک نہایت مُہتَم بِالشّان چیز کو ذِکر کرتا ہوں اور اسی پر اس رسالہ کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تَسبِیحات جن کا اُوپر ذِکر کیا گیا، نہایت ہی اہم اور دین و دنیا میں کارآمد اور

---

❶ ترمذی، ابواب الدعوات: ۳۴۱۰

مُفید ہیں، جیسا کہ اَحادیث بالا سے معلوم ہوا۔ حُضور اَقدس ﷺ نے ان کے اِہتمام اور فضیلت کی وجہ سے ایک خاص نماز کی ترغیب بھی فرمائی ہے، جو صلوۃُ التَّسبِیح (تسبیح کی نماز) کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کو صلوٰۃ التسبیح کہا جاتا ہے کہ یہ تَسبِیحات اس میں تین سو مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ حُضور ﷺ نے بہت ہی اِہتمام اور ترغیبوں کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا، چنانچہ حدیث میں وَارِد ہے:

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَاعَبَّاسُ، يَاعَمَّاهُ، إِلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَخْبُرُكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ، غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ، قَدِيْمَهٗ وَحَدِيْثَهٗ، خَطَاءَهٗ وَعَمَدَهٗ، صَغِيْرَهٗ وَكَبِيْرَهٗ، سِرَّهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ، أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاءُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ، وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا، فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا

حُضور اَقدس ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عبّاس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عبّاس! اے میرے چچا! کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں؟ تمہیں دس چیزوں کا مالک بناؤں،؟ جب تم اس کام کو کروگے تو حق تعالیٰ شانہٗ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کئے ہوئے اور جان بوجھ کر کئے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چُھپ کر کئے ہوئے اور کھلم کھلا کئے ہوئے، سب ہی مُعاف فرمادیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ چار رکعت نفل (صلوٰۃ التسبیح کی نیّت باندھ کر) پڑھو اور ہر رکعت میں جب "اَلْحَمْدُ لِلّٰہ" اور سورت پڑھ چکو، تو رکوع سے پہلے "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَآ إِلٰہَ إِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ" پندرہ مرتبہ پڑھو، پھر جب رکوع کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو دس مرتبہ پڑھو، پھر سجدہ کرو

عَشْرًا، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ۔ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً۔

(حسن بالشواهد)

رواه أبوداود، تفريع أبواب الوتر، باب صلوٰة التسبيح: ۱۲۹۱، (۱۹۳/۲)۔ **وابن ماجه،** كتاب اقامة الصلوٰة، باب ما جاء في صلوٰة التسبيح: ۱۳۸۷، (۱۱۳/۱)۔ **والبيهقي في الدعوات الكبير،** باب صلوٰة التسبيح،: ۳۹۳، (۱۵۹/۲)۔ **وروى الترمذي،** أبواب الوتر، باب ما جاء في صلوٰة التسبيح: ۴۸۲، ص (۱۲۷)۔ **عن أبي رافع نحوه۔ كذا في المشكوٰة۔ قلت: و**أخرجه **الحاكم،** كتاب الوتر: ۱۱۹۲، (۳۶۴/۱)۔ **وقال: هٰذا حديث وصله موسى بن عبدالعزيز عن الحكم بن ابان وقد** أخرجه **أبوبكر محمد بن اسحاق وأبوداود وأبو عبدالرحمٰن** أحمد **بن شعيب في الصحيح، ثم قال بعد ما ذكر توثيق رواته: واما ارسال إبراهيم بن الحكم عن ابيه، فلا يومن وصل الحديث، فان الزيادة من الثقة أولىٰ من الارسال، على ان امام عصره في الحديث اسحٰق بن إبراهيم الحنظلى قد اقام هٰذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم، ووصله اهـ قال السُيُوطي في للآلى،** كتاب الصلوٰة، **(۳۹/۲)۔ هٰذا إسناد حسن، وما قال الحاكم** أخرجه **النسائي في كتابه الصحيح، لم نره في شيئ من نسخ السنن، لاالصغرىٰ ولاالكبرىٰ۔**

(۲) وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ رَّجُلٍ كَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ، يَرَوْنَ أَنَّهٗ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِئْتِنِيْ غَدًا، أَحْبُوْكَ وَأُثِيْبُكَ وَأُعْطِيْكَ، حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهٗ يُعْطِيْنِيْ عَطِيَّةً، قَالَ: إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فذكر نحوه، وفيه: وَقَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ

تو دس مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو دس مرتبہ پڑھو، پھر جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو دس مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو (تو دوسری رکعت میں) کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان پچھتر (۷۵) ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پچھتر (۷۵) دفعہ ہو گا۔ اگر ممکن ہو سکے روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی (مال) عطا فرمائیں گے۔ (جب میں حاضر ہوا) تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو چار رکعت نماز پڑھو، اسی طریقہ سے بتایا جو

ذَنْبًا، غُفِرَلَكَ بِذٰلِكَ۔ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَّمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ؟ قَالَ: صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔

(حسن)

رواه أَبُوداود، باب تفريع أَبْواب التطوع، باب صلوٰة التسبيح: ۱۲۹۲، (۱۹۴/۲)۔

پہلی حدیث میں گزرا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہو گے، تو تمہارے گناہ مُعاف ہو جائیں گے، میں نے عرض کیا اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں؟ تو اِرشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔

(۳) عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ إِلٰى بِلَادِ الْحَبْشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ إِعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَهَبُ لَكَ، أَلَا أُبَشِّرُكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، إِلَّا أُتْحِفُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: تُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ۔

فذكر نحوه أخرجه **الحاكم**، كتاب الوتر، : ۱۱۹۶، (۴۶۴/۱)۔ **وقال: إسناد صحيح لا غبار عَلَيْهِ، وتعقبه الذهبي بان** أحمد **بن داود كذبه الدار قطني۔ كذا في المنهل،** باب صلوٰة التسبيح، (۲۱۵/۷)۔ **وكذا قال غيره تبعا للحافظ، لكن في النسخة التى بايدينا من المستدرك: "وقد صحت الرواية عن ابن عمران رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم علم ابن عمه جعفر"۔ ثم ذكر الحديث بسنده، وقال في اٰخره، هٰذا إسناد صحيح لا غبار عَلَيْهِ، وهٰكذا قال الذهبي في أول الحديث، اٰخره ثم لا يذهب عَلَيْهِ ان في هٰذا الحديث زيادة لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، أيضا علىٰ الكلمات الاربع۔**

حضوراَقدس ﷺ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حبشہ بھیج دیا تھا، جب وہاں سے واپس مدینہ طیّبہ پہنچے تو حُضور ﷺ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر فرمایا: میں تجھے ایک چیز دوں؟ ایک خوشخبری سناؤ؟ ایک بخشش کرو؟ ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرور۔ حُضور ﷺ نے فرمایا: چار رکعت نماز پڑھ۔ پھر اسی طریقہ سے بتائی جو اُوپر گزرا۔ اس حدیث میں ان چار کلموں کے ساتھ "لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم" بھی آیا ہے۔

(۴) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَهَبُ لَكَ، أَلَا أُعْطِيْكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ؟ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِيْنِيْ مِنَ

حضرت عبّاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حُضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں بخشش کروں؟ ایک عطیہ دوں؟ ایک چیز عطا کروں؟ وہ کہتے ہیں: میں یہ سمجھا کہ

الدُّنْيَا شَيْئًا لَمْ يُعْطِهٖ أَحَدًا مِّنْ قَبْلِيْ۔ قَالَ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ۔ (حسن بالمتابعات)

فذكر الحديث، وفي **أخره: ”غيرانک اذاجلست تشهد، قلت ذٰلک عشرمرات قبل التشهد“۔ الحديث** أخرجه **الدار قطنی في الافراد وأبو نعيم** في **القربان، وابن شاهين** في **الترغيب**، باب فضل صلوٰة التسبيح، ص (۴۲)۔ **كذا** في إتحاف السادہ شرح الاحياء، باب صلوٰة التسبيح، (۴۷۸/۳)۔

قال الترمذي أبواب الوتر، باب ماجاء في صلوٰة التسبيح: ۴۸۱، (۱۲۷) وقدروی ابن المبارک وغيرواحد من اهل العلم صلوٰةالتسبيح **وَذَكَرُوا الفَضْلَ فيهِ**۔

کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی (اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں)۔ پھر آپ نے چار رکعت نماز سکھائی جو اُوپر گزری، اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب التَّحیّات پر بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کو پڑھو، پھر التَّحیّات کو پڑھنا۔

(۵) حَدَّثَنَا أحمد بْنُ عَبْدَةَ، نَا أَبُوْ وَهْبٍ، سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلٰوةِ الَّتِيْ يُسَبَّحُ فيهَا، قَالَ: يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ”سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالىٰ جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ“۔ ثُمَّ يَقُوْلُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، ثُمَّ يَقُوْلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ”سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ“۔ ثُمَّ يَرْكَعُ فيقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فيقُوْلُهَا عَشْرًا، يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلٰى هٰذَا، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ تَسْبِيْحَةً فِى كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبُوْوَهْبٍ

حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے عُلماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ ”سُبحَانک اللھم“ پڑھنے کے بعد اَلحَمْدُ شریف پڑھنے سے پہلے پندرہ دفعہ ان کلموں کو پڑھے پھر اَعُوْذُ اور بِسْمِ اللّٰہِ پڑھ کر اَلحَمْدُ شریف پڑھے اور پھر کوئی سورت پڑھے، سورت کے بعد رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں دس مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر، پھر دونوں سجدوں میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر دس دس مرتبہ پڑھے، یہ پچھتر پوری ہوگئی (لہٰذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی) رکوع میں پہلے ”سُبحَان رَبِّیَ الْعَظِیم“ اور سجدہ میں پہلے ”سُبحَان ربی

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، وَفِي السَّجْدَةِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلٰثًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيْحَاتِ۔ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: إِنْ سَهَا فِيْهَا يُسَبِّحُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَشْرًا عَشْرًا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هِيَ ثَلٰثُمِائَةِ تَسْبِيْحَةٍ۔

"الاَعْلٰی" پڑھے۔ پھر ان کلموں کو پڑھے (حضور اَقدس ﷺ سے بھی اس طریقہ سے نقل کیا گیا ہے۔

مختصرا، قلت: وهٰكذا رواه الحاكم، وقال: رواته عن ابن المبارک كلهم ثقات ثبات، ولا يتهم عبدالله ان يعلمه مالم يصح عنده سنده اهـ وقال الغزإلى في الاحياء، كتاب اسرار الصلوٰة، الباب السابع في النوافل، (۱/۲۰۷)۔ بعد ماذكر حديث اِبْنِ عَبَّاس المذكور، وفي رواية اخرىٰ، انه يقول في أول الصلوٰة: "سُبْحَانک اللهم، ثم يسبح خُمس عشرة تسبيحة۔ قبل القراءة، وعشرا بعد القراءة"۔ والباقى كماسبق عشرا عشرا، ولا يسبح بعد السجود الاخير، وهٰذا هو الا حسن، وهو اختيار ابن المبارک اهـ قال الزبيدى في الإتحاف، باب صلوٰة التسبيح، (۳/۴۷۵)۔ ولفظ القوت هٰذه الرواية أحب الوجهين إلى اهـ قال الزبيدى: أى: لا يسبح في الجلسة الأولىٰ بين الركعتين، ولا في جلسة التشهد شيئا، كمافي القوت۔ قال: وكذلک روينافي حديث عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ان النبى صلى الله عَلَيْهِ وسلم علمه صلوٰة التسبيح فذكره اهـ ثم قال الزبيدى، واما حديث عبدالله بن جعفر، فأخرجه الدارقطني من وجهين عن عبدالله بن زياده بن سمعان، قال في "احدهما عن معاوية واسماعيل بن عبدالله ابني جعفر عن ابيهما"۔ وقال في الاخرىٰ "عن عون بدل اسماعيل عن ابيهما قال: قال لى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: الا اعطي ک"۔ فذكر الحديث۔ وابن سمعان ضعيف، وهٰذه الرواية هى التى اشار اليها صأحب القوت، وهى الثانية عنده، قال فيها: يفتتح الصلوٰه فيكبر، ثم يقول: فذكر الكلمات، وزاد فيها الحوقلة، ولم يذكر هٰذا السجدة الثانية عند القيام ان يقولها، قال: وهو الذى اختاره ابن المبارک اهـ قال المنذري في الترغيب، كتاب النوافل، باب الترغيب في صلوٰة التسبيح،: ۹۸۱، (۱/۳۰۸)۔ وروى البيهقي من حديث أبي جناب الكلبى عن أبى الجوزاء عن ابن عمرو (بن العاص) فذكر الحديث بالصفة التى رواها الترمذي عن ابن المبارک، ثم قال: وهٰذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارک، ورواه قتيبة بن سعيد عن يحيى بن سليم عن عمران بن مسلم عن أبى الجوزاء، قال: نزل على عبدالله بن عَمْرو بْنُ العاص، فذكر الحديث، وخألفه في رفعه إلى النبى صلى الله عَلَيْهِ وسلم، ولم يذكر التسبيحات في ابتداء القراءة، انما ذكرها بعدها، ثم ذِكر جلسة الاستراحة، كما ذكرها سائر الرواة اهـ قلت: حديث أبى الجناب مذكور في السنن على هٰذا الطريق طريق ابن المبارک، وماذكر من كلام البيهقي ليس في السنن بهٰذا اللفظ، فلعله ذكره في الدعوات الكبير: ومافي السنن انه ذِكر أولا حديث أبى جناب تعليقا مرفوعا، ثم قال: قال اَبوداود رواه روح ابن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالک النكرى عن ابى الجوزاء عن اِبْنِ عَبَّاس قوله۔ وقال في حديث روح: فقال: حديث النبى صلى الله عَلَيْهِ وسلم وظاهر ان الاختلاف في السند فقط، لافي لفظ الحديث، وذكر شارح الاقناع من فروع الشافعية صلوٰة التسبيح، واقتصر على صفة ابن المبارک فقط، قال البجيرمى: هٰذه رواية اِبْنِ مسعود والذى عَلَيْهِ مشائخنا انه لا يسبح قبل القراءة، بل بعدها خمسة عشر، والعشرة في جلسة الاستراحة، وهٰذه رواية اِبْنِ عَبَّاس اهـ مختصرا وعلم منه ان طريق ابن المبارک مروى عن اِبْنِ مسعود أيضا، لكن لم اجد حديث اِبْنِ مسعود فيما عندى من الكتب، بل المذكور فيها على مابسطه صأحب المنهل وشارح الاحياء وغيرهما ان حديث صلوٰة التسبيح مروى عن جماعة من الصحابة، منهم: عبدالله وألفضل ابنا العبّاس ابوهما عبّاس بن عبد المطلب، وعبدالله بن عَمْرو بْنُ العاص، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، واَبورافع مولىٰ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم، وعلى بن أبى طالب، جعفر بن أبى طالب وابنه عبدالله بن جعفر، وام المؤمنين ام سلمة، وأنصارى غير مسمى۔ وقد قيل: انه جابر بن عبدالله۔ قالا له الزبيدى في الإتحاف، (۳/۴۷۷)۔ وبسط في تخريج احاديثهم۔ وعلم مماسبق ان حديث صلوٰة التسبيح مروى بطرق كثيرة، وقد افرط ابن الجوزى ومن تبعه في ذكره في الموضوعات، ولذا تعقب عَلَيْهِ غير واحد من ائمة الحديث، كالحافظ اِبْنِ حَجَر والسُيُوطي والزركشى، قال ابن المديني قد أساء ابن الجوزى بذكره اياه في الموضوعات۔ كذا في اللاٰلى، كتاب الصلوٰة، (۲/۳۹)۔ قال الحافظ: وممن صححه او حَسَنَهُ: ابن منده وألف فيه كتابا، والاجرى، والخطيب، واَبوسعد السمعاني، واَبو موسى المديني، واَبوالحسن بن المفضل، والمنذري، وابن الصلاح والنووى في تهذيب الاسماء، والسبكى وٰاخرون۔ كذا في الإتحاف، (۳/۴۸۰)۔ وفي المرقاة، باب التطوع، (۴/۴۸۷)۔ عن اِبْنِ حَجَر: صححه الحاكم، وابن خزيمة، وحسنه جماعة اهـ قلت: وبسط السُيُوطي في اللاٰلى في تحسينه، انظر كتاب الصلوٰة، (۴۰ الى ۴۳)۔ وحكى عن أبى منصور الديلمى صلوٰة التسبيح اشهر الصلوٰة

واصحها إسنادا۔

ف۱: صلوٰۃُ التَّسبیح بڑی اہم نماز ہے، جس کا اندازہ کچھ اَحادیث بالا سے ہو سکتا ہے کہ نبیٔ اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے کس قدر شفقت اور اِہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ عُلمائے امت، مُحدِّثین، فقہاءِ صُوفیہ ہر زمانہ میں اس کا اِہتمام فرماتے رہے ہیں۔ امامِ حدیث حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تبعِ تابِعین کے زمانہ سے ہمارے زمانہ تک مقتداء حضرات اس پر مُداوَمت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں۔ بَیْہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اَبُو الجوزاء رحمۃ اللہ علیہ جو مُعتَمد تابِعی ہیں، اس کا اِہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے۔

عبد العزیز ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں۔ بڑے عابد وزاہد متقی لوگوں میں ہیں، کہتے ہیں کہ جو جنّت کا ارادہ کرے، اس کو ضروری ہے کہ صلوٰۃُ التَّسبیح کو مضبوط پکڑے ❶۔ اَبُو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کے لئے صلوٰۃُ التَّسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ❷۔ علّامہ تقی سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے۔ بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیئے ❸۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے، وہ دین کے بارے میں سُستی کرنے والا ہے۔ صُلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکّا آدمی نہ سمجھنا چاہیئے۔ ''مِرقاۃ'' میں لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عبّاس رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے ❹۔

ف۲: بعض عُلماء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب صرف چار رکعت پر مشکل ہے، بِالخُصوص کبیرہ گناہوں کا مُعاف ہونا۔ لیکن جب روایت بہت سے صَحابہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُم سے منقول ہے تو انکار مشکل ہے، البتّہ دوسری آیات واحادیث کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کیلئے توبہ کی شرط ہوگی۔

ف۳: اَحادیثِ بالا میں اس نماز کے دو طریقے بتائے گئے ہیں: اوّل یہ کہ کھڑے ہو

---

❶ اتحاف السادۃ المتقین، باب الصلوٰۃ التسبیح
❷ ایضاً
❸ ایضاً
❹ مرقاۃ، باب صلوٰۃ التسبیح، ۹۹۶/۲

کر اَلْحَمْدُ شریف اور سورت کے بعد پندرہ مرتبہ چاروں کلمے ''سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ'' پڑھے پھر رکوع میں ''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِيْمِ'' کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر ''سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ'' کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں میں ''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلٰی'' کے بعد دس دس مرتبہ پڑھے اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے دس مرتبہ پڑھے، اور جب دوسرے سجدہ سے اٹھے تو اَللهُ اَكْبَرُ کہتا ہوا اٹھے اور بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جائے اور دس مرتبہ پڑھ کر بغیر اَللهُ اَكْبَرُ کے کہنے کے کھڑا ہو جائے اور دو رکعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو دس مرتبہ پڑھے، پھر التَّحِیّات پڑھے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (سورۂ فاتحہ) سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھے اور پھر اَلْحَمْدُ اور سورت کے بعد دس مرتبہ پڑھے اور باقی سب طریقہ بدستور۔ البتّہ اس صورت میں نہ تو دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ التَّحِیّات کے ساتھ پڑھنے کی۔ عُلماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طرح پڑھ لیا کرے، کبھی اس طرح۔

ف ۴: چونکہ یہ نماز عام طور سے رائج نہیں ہے، اس لئے اس کے متعلّق چند مسائل بھی لکھے جاتے ہیں، تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت ہو۔

مسئلہ ۱: اس نماز کے لئے کوئی سورت قرآن کی متعیّن نہیں، جونسی سورت دِل چاہے پڑھے، لیکن بعض عُلماء نے لکھا ہے کہ سورۂ حدید، سورۂ حشر، سورۂ صف، سورۂ جمعہ، سورۂ تغابُن میں سے چار سورتیں پڑھے۔ بعض حدیثوں میں بیس آیتوں کی بقدر آیا ہے ❶، اس لئے ایسی سورتیں پڑھے جو بیس آیتوں کے قریب ہوں۔ بعض نے إِذَا زُلْزِلَتِ وَالْعَادِيَات، تَكَاثُر، وَالْعَصْر، كَافِرُوْن، نَصْر، اِخلاص لکھا ہے، کہ ان میں سے پڑھ لیا کرے۔

مسئلہ ۲: ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اُنگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔ بہتر

---

❶ مصنف عبد الرزاق، باب الصلوٰۃ التی تکفر: ۵۰۰۴

یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسی ہی رہیں اور ہر کلمہ پر ایک ایک اُنگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔

مسئلہ ۳: اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے، البتہّ بھولے ہوئے کی قضاء رکوع سے اٹھ کر اور دو سجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے، بلکہ صرف ان کی ہی تسبیح پڑھے اور ان کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے، مثلاً اگر، رکوع: میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھ لے، اسی طرح پہلے سجدہ کی دوسرے سجدہ میں، اور دوسرے سجدہ کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے اور اگر رہ جائے تو آخری قعدہ میں التَّحیّات سے پہلے پڑھ لے۔

مسئلہ ۴: اگر سجدۂ سہو کسی وجہ سے پیش آجائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنا چاہیئے، اس لئے کہ مقدار تین سو (۳۰۰) ہے وہ پوری ہو چکی، ہاں! اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہی ہو تو سجدہ سہو میں پڑھ لے۔

مسئلہ ۵: بعض اَحادیث میں آیا ہے کہ التَّحیّات کے بعد سلام سے پہلے یہ دُعا پڑھے:

دعا یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ أَهْلِ الْهُدٰى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِيْنِ، وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ، وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ، وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ، حَتّٰى أَخَافَكَ۔ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِيْ بِهَا عَنْ مَّعَاصِيْكَ، وَحَتّٰى أَعْمَلَ	اے اللہ! میں آپ سے ہدایت والوں کی سی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یقین والوں کے عمل اور توبہ والوں کا خُلوص مانگتا ہوں۔ اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے والوں کی سی کوشش (یا احتیاط) مانگتا ہوں۔ اور رغبت والوں کی سی طلب اور پرہیز گاروں کی سی عبادت اور عُلماء کی سی

رواه أبونعيم في الحلية، (۱/۶۲)۔ من حديث ابن عباس، ولفظه: ”إذافرغت قلت بعدالتشهد قبل التسليم: اللهم“ الخ كذا في ال إتحاف، (۳/۴۸۳)۔ وقال: اورده الطبراني، باب العين، عكرمة عن ابن عباس: ۱۱۶۲۲، (۱۱/۲۴۳)۔ أيضا من حديث العبّاس وفي سنده متروک ۱ھ قلت: زاد في المرقاة، كتاب الصلوٰة، باب صلوٰة التسبيح، (۳/۹۹۶)۔ في أخر الدعاء بعض الألفاظ بعد قوله خالق النور، زدتها تكميلا للفائدة۔

بِطَاعَتِكَ عَمَلًا أَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ، وَحَتّٰى أُنَاصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ، وَحَتّٰى أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَّكَ، وَحَتّٰى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُوْرِ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، بِرَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

معرفت، تاکہ میں آپ سے ڈرنے لگوں، اے اللہ! ایسا ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاؤں۔ اور تاکہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے لگوں اور تاکہ سچّا اِخلاص آپ کی محبت کی وجہ سے کرنے لگوں اور تاکہ آپ کے ساتھ حسنِ ظن کی وجہ سے آپ پر تَوَکُّل کرنے لگوں۔ اے نور کے پیدا کرنے والے! تیری ذات پاک ہے، اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہماری مَغْفِرت فرما۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اَرحَم الرّاحِمین! اپنی رحمت سے درخواست کو قبول فرما۔

مسئلہ ٦: اس نماز کا اوقات مکروہ کے عِلاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پھر دن میں کسی وقت، پھر رات کو۔

مسئلہ ۷:۔ بعض حدیثوں میں سوم کلمہ کے ساتھ لاحول کو بھی ذِکر کیا گیا ہے جیسا کہ اُوپر تیسری حدیث میں گزرا، اس لئے اگر کبھی کبھی اس کو بڑھالے تو اچّھا ہے۔

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

محمد زکریا کاندھلوی
شب جمعہ ٦، شوال ۱۳۵۸ھ

فضائلِ تبلیغ

مؤلفہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمّد زکریا صاحب قَدَّسَ اللّٰہ سِرُّہٗ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

تمہید

حمد و صلوٰۃ کے بعد، مجد دینِ اسلام کے ایک درخشندہ جوہر اور علماء و مشائخ عصر کے ایک آبدار گوہر کا ارشاد ہے کہ تبلیغِ دین کی ضرورت کے متعلق مختصر طور پر چند آیات واحادیث لکھ کر پیش کروں، چونکہ مجھ جیسے سیہ کار کے لئے ایسے ہی حضرات کی رضا و خوشنودی وسیلۂ نجات اور کفارۂ سیئات ہوسکتی ہے، اس لئے اس عجالۂ نافعہ کو خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہر اسلامی مدرسہ، اسلامی انجمن، اسلامی سکول اور ہر اسلامی طاقت، بلکہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس وقت دین کا انحطاط جس قدر روز افزوں ہے، دین کے اوپر جس طرح کفار کی طرف سے نہیں، خود مسلمانوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، فرائض وواجبات پر عمل، عام مسلمانوں سے نہیں، بلکہ خاص اور اخص الخواص مسلمانوں سے متروک ہوتا جارہاہے۔ نماز روزہ کے چھوڑ دینے کا کیا ذکر، جب کہ لاکھوں آدمی کھلے ہوئے شرک وکفر میں مبتلاہیں اور غضب یہ ہے کہ ان کو شرک وکفر نہیں سمجھتے۔ محرمات اور فسق وفجور کا شیوع (گروہ) جس قدر صاف اور واضح طریق سے بڑھتا جارہاہے اور دین کے ساتھ لاپرواہی، بلکہ استخفاف (ہلکا سمجھنا) واستہزاء جتنا عام ہوتا جارہاہے، وہ کسی فرد بشر سے مخفی نہیں۔

اسی وجہ سے خاص علماء، بلکہ عام علماء میں بھی لوگوں سے یکسوئی اور وحشت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا لازمی اثر یہ ہورہاہے کہ دین اور دینیات سے اجنبیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہاہے۔ عوام اپنے کو معذور کہتے ہیں کہ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں، اور علماء اپنے کو معذور سمجھتے ہیں کہ ان کی سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن خدائے قدوس کے یہاں نہ عوام کا یہ عذر کافی کہ کسی نے بتلایانہ تھا، اس لئے کہ دینی امور کا معلوم کرنا، تحقیق کرنا ہر شخص کا اپنا فرض ہے، قانون سے ناواقفیت کا عذر کسی حکومت میں بھی معتبر نہیں، احکم الحاکمین کے یہاں یہ پوچ عذر (کمزور عذر) کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو" عذرِ گناہ بدتر از گناہ" کا مصداق

ہے۔ اسی طرح نہ علماء کے لئے یہ جواب موزوں کہ کوئی سننے والا نہیں۔ جن اسلاف کی نیابت کے آپ حضرات دعوے دار ہیں، انہوں نے کیا کچھ تبلیغ کی خاطر برداشت نہیں فرمایا، کیا پتھر نہیں کھائے، گالیاں نہیں کھائیں، مصیبتیں نہیں جھیلیں؟ لیکن ہر نوع کی تکالیف برداشت فرمانے کے بعد اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کا احساس فرما کر لوگوں تک دین پہنچایا، ہر سخت سے سخت مزاحمت کے باوجود نہایت شفقت سے اسلام واحکامِ اسلام کی اشاعت کی۔

عام طور پر مسلمانوں نے تبلیغ کو علماء کے ساتھ مخصوص سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو، یا اس کے روکنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہو، اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو روکے۔ اور اگر بفرض محال مان بھی لیا جاوے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی جب کہ وہ اپنی کوتاہی سے یا کسی مجبوری سے اس حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یا ان سے پورا نہیں ہو رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہر شخص کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہو۔ قرآن وحدیث میں جس قدر اہتمام سے تبلیغ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ ان آیات واحادیث سے ظاہر ہے، جو آئندہ فصلوں میں آرہی ہیں، ایسی حالت میں صرف علماء کے ذمہ رکھ کر یا ان کی کوتاہی بتا کر کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے میری علی العموم درخواست ہے کہ ہر مسلمان کو اس وقت تبلیغ میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیئے اور جس قدر وقت بھی دین کی تبلیغ اور حفاظت میں خرچ کر سکتا ہو کرنا چاہیئے۔

ہر وقت خوش کہ دست دہد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست کہ انجامِ کار چیست

یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ تبلیغ کے لئے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے پورا کامل ومکمل عالم ہونا ضروری نہیں، ہر وہ شخص جو کوئی مسئلہ جانتا ہو اس کو دوسروں تک پہنچائے، جب اس کے سامنے کوئی ناجائز امر کیا جارہا ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو، تو اس کا روکنا اس پر واجب ہے۔

اس رسالہ میں مختصر طور پر سات فصلیں ذکر کی ہیں۔

فصلِ اول

اس میں تَبَرُّکاً اللہ پاک کے بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ ، جن میں تبلیغ وَاَمر بالمعروف کی تاکید وترغیب فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ وتقدّس کو اس کا کتنا اہتمام ہے، کہ جس کے لئے بار بار مختلف عنوانات سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً ساٹھ آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہیں، اگر کوئی دقیقُ النظر (باریک بین) غور سے دیکھے، تو نہ معلوم کس قدر آیات معلوم ہوں، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہو گا، اس لئے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) ﴿قَالَ اللّٰهُ عَزَّ اِسْمُهٗ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ (حم السجدة: ۳۳)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔ (بیان القرآن)

مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریق سے بلائے، مثلاً انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت اِلَی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمالِ ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمالِ باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخِ صوفیہ معرفتُ اللہ کی طرف بلاتے ہیں (خازن)۔

مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”وَقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لئے باعثِ عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ، نصیحت، تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔

(۲) ﴿وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (الذاریات: ۵۵)

اے محمد! لوگوں کو سمجھاتے رہیئے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔

مُفَسِّرِین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیات سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے۔ مومنین کے لئے تو ظاہر ہے، کفار کے لئے بھی اس لحاظ سے کہ وہ انشاء اللہ اس کے ذریعہ سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے، وعظ کا مقصد بالعموم شستگیٔ تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص تقریر و بلاغت اس لئے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل“❶۔

(۳) ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾ (طٰہٰ: ۱۳۲)

اے محمد! اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیئے اور خود بھی اس کے پابند رہیئے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیز گاری ہی کا ہے۔

متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا، تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیتِ بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعتِ رزق کا وعدہ اہتمامِ نماز پر موقوف ہے❷۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لئے ارشاد ہوا ہے کہ یہ اَنفع (زیادہ نفع بخش) ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے، خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے، کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لئے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل

---

❶ ابو داؤد، کتاب الادب، باب ماجاء فی المتشدق: ۵۰۰۶

❷ شعب الایمان، تحسین الصلوۃ: ۲۹۱۱

کرنا سہل ہو اور یہ خدشہ نہ گزرے کے فلاں حکم مشکل ہے اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بعد رزق کے وعدہ کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسبابِ معیشت میں ظاہرًا نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں، اس لئے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرمادیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد بطورِ قاعدۂ کلیہ اور امرِ بدیہی کے فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لئے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔

(۴) ﴿يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾

(لقمان: ۱۱۰)

بیٹا! نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ (بیان القرآن)

اس آیتِ شریفہ میں مہتم بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے اور حقیقۃً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لوگوں نے ان ہی چیزوں کو خاص طور سے پسِ پشت ڈال رکھا ہے، امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سب ہی کے نزدیک متروک ہے، نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامتِ نماز سے اشارہ ہے، صرف غرباء کے لئے رہ گئی، امراء اور باعزت لوگوں کے لئے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا ہے، فإلى الله المشتكى ؏

آنچہ عارِ تست او فخرِ من است

(۵) ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗئِكَ هُمُ

اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور

الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ (آل عمرن: ۱۰۴)

برے کاموں سے روکا کرے اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

حق سبحانہ وتقدس نے اس آیتِ شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لئے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لئے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکلیہ ترک کر دیا ہے اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے، نصاریٰ (عیسائیوں) کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لئے مخصوص ہیں اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کے لئے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں، تو اثبات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لئے اٹھتا بھی ہے، تو اس وجہ سے کہ بجائے اعانت کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ خیر خواہی کا مقتضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام نہ کیا جاوے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام کرنے سے گویا روک دیا جاوے۔

(۶) ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ ﴾ (آل عمرن: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے (نفع رسانی) کے لئے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ (بیان القرآن وترجمہ عاشقی)

مسلمانوں کا اَشرف الناس اور امتِ محمدیہ ﷺ کا اشرف الاُمَم (بہترین امت) ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحۃً واشارۃً بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیتِ شریفہ میں بھی خیرِ امۃ کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور اُمَمِ سابقہ (گذشتہ امتیں) بھی شریک تھیں، یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متبعین سے امتِ محمدیہ کو تفوّق (برتری) ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو اس امت کا تمغۂ امتیاز ہے اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لئے ساتھ ہی بطورِ قید کے اس کو بھی ذکر فرمادیا، ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالذکر ہے، اس لئے اس کو مقدم فرمایا۔

اس امت کے لئے تمغۂ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کردینا اس میں کافی نہیں، اس لئے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو ﴿فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ﴾ (الانعام: ۱۱۴) وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے، امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح سے اس میں مشغول ہوں۔

(۷) ﴿لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾ (النساء: ۱۱۴)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (وبرکت) نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی، یا اور کسی نیک کام کی، یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں (اور اس تعلیم و ترغیب کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں ان کے مشوروں میں البتہ خیر وبرکت ہے) اور جو شخص یہ کام (یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض) اللہ کی رضا کے واسطے کریگا، (نہ کہ لالچ

اور شہرت کی غرض سے) اس کو ہم
عنقریب اجرِ عظیم عطا فرمائیں گے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لئے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور جس اجر کو حق جَلَّ جلالہٗ بڑا فرمادیں اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے، مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو①۔

دوسری احادیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ، سب سے افضل ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمایئے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ استرا بالوں کو اڑا دیتا ہے②۔ اور بھی بہت سی نصوص (احادیث) میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریق سے بھی پیدا ہو سکے، اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔

فصلِ ثانی

اس میں ان احادیث میں سے بعض کا ترجمہ ہے جو مضمون بالا کے متعلق وارد ہوئی ہیں، تمام احادیث کا نہ احاطہ مقصود ہے نہ ہو سکتا ہے، نیز اگر کچھ زیادہ مقدار میں آیات واحادیث جمع بھی کی جائیں تو ڈر یہ ہے کہ دیکھے گا کون۔ آج کل ایسے امور کے لئے کسے فرصت اور کس کے پاس وقت ہے۔ اس لئے صرف یہ امر دکھانے کے لئے اور آپ حضرات تک پہنچا دینے کے لئے کہ حضور اقدس ﷺ نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے، چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

---

① ترمذی، ابواب الزھد: ۲۴۱۲

② ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ: ۲۵۰۹

(۱) ﴿عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ، وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ۔﴾

(صحیح)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ في كتاب الإيمان، باب قول النهي عن المنكر: ۱۷، (۲/۲۱۱)۔ **والترمذي في أبواب الفتن**، باب ما جاء في تغيير المنكر: ۲۱۷۲، (ماجه ۴، ۴۶۹) **وابن ماجه** في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ۴۰۱۳، (۲/۳۳۰)۔ **والنسائي**، في كتاب الإيمان، باب تقابل اهل الإيمان: ۵۰۰۸، (۸/۱۱۱)۔ **كذافي الترغيب**

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مَقْدُرَت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو بُرا سمجھے کہ اس صورت میں بھی وہ بری الذمہ ہے ①۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ②۔

اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم ﷺ کے مختلف احادیث میں نقل کئے گئے ہیں، اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجہ کے موافق دل ہی سے اس کو بُرا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تلملاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجئے کہ کیا ہونا چاہیئے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔

(۲) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا، كَمَثَلِ قَوْمِنِ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ،

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود میں پڑنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے

---

① سنن نسائی، کتاب الایمان، باب تفاضل اھل الایمان: ۵۰۰۹

② مسلم، باب کون النھی عن المنکر من الایمان: ۸۰

فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَآءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا۔

(صحیح)

رواه البخاري في كتاب الشركة، باب هل يكره في القسمة: ۲۴۹۳، ص(۱۳۹/۳) ۔ والترمذي في أبواب الفتن: ۲۱۷۳، ص(۴۹۱)۔

جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرعہ سے (مثلاً) جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں، کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے (طبق) کے حصہ میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آکر پانی لیتے ہیں، اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لئے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم اپنے ہی حصہ میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے، ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانیں ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس ﷺ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ وبرباد ہوسکتے ہیں جب کہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود

ہوں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب خباثت غالب ہو جائے ①۔

اس وقت مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کئے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال (تعلیمِ جدید کے شیدائی) کی تو کیا، کسی تاریک خیال (مولوی صاحب) کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے، کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج بتلایا ہے اور اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کیا اس ظلم کی کچھ انتہاء ہے کہ جو سببِ مرض ہے جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ (دین کی ترقی کے لئے دین و اسبابِ دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی برائیوں پر عمل کیا جا رہا ہے) تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہو گا تو کیا ہو گا۔

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

(۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ أَنَّهٗ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُوْلُ: يَاهٰذَا: اِتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ بِهٖ، فَإِنَّهٗ لَايَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰى حَالِهٖ، فَلَا يَمْنَعُهٗ ذٰلِكَ أَنْ يَّكُوْنَ أَكِيْلَهٗ وَشَرِيْبَهٗ وَقَعِيْدَهٗ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ، إِلٰى قَوْلِهٖ: فَاسِقُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللّٰهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ! اللہ سے ڈر ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا، جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا (یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے،

---

① بخاری، کتاب احادیث الانبیاء باب قصۃ یاجوج ماجوج: ۳۳۴۶

الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا۔

(اسنادہ منقطع)

رواه أبوداود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: ۴۳۳۶، (۵/۵۴) ـ **والترمذي** في أبواب تفسير القرآن، باب ومن المائدة: ۳۰۴۸، ص(۶۸۲) ـ **كذا في الترغيب**، كتاب الحدود، بابالترغيب بالأمر والمعروف: ۳۳۵۵، (۲/۹۸۸)۔

ان کی نحوست سے فرماں برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیئے) پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سے فَاسِقُوْنَ تک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔

دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور ﷺ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو①۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیئے جائیں گے جس طرح ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی②۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لئے پڑھیں کہ ان آیاتِ شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور سببِ لعنت منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔

آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلحِ کل رہے، جس جگہ جاوے ویسی ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسعتِ اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں امر بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت (خاموشی) کی کچھ گنجائش نکل آوے (نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی)۔ لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلاً اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دست نگر لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمالِ اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً وعرفاً خود مجرم ہے۔

---

① ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۰۴۸

② شعب الایمان، باب فی الامر بالمعروف، ۷۵۴۵

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محمود ہو، (اغلب یہ ہے کہ) وہ مُداہِن ہوگا۔

متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جائے تو اس کی مَضَرّت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے تو اس کی مضرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے①۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کرلے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کئے جاتے ہیں، جن کو وہ روک سکتا ہے اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہ نظر بتلایا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ﴿فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ﴾ (الشعراء:۲۲۷)

(۴) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ، يَقْدِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَّمُوْتُوْا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔

(صحيح بالمتابعة)

رواه أبوداود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي عن المنكر: ۴۳۳۹، (۵/۵۶)۔ **وابن ماجه** في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف: ۴۰۰۹، (۴/۳۶۲)۔ **وابن حبان** في كتاب البر والإحسان، باب ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف: ۲۸۶۴، (۳/۵۱۷)۔ والأصبهاني في الترغيب، باب في الترهيب من ترتيب الامر:۲۹۷، ص (۱/۲۱۴)۔ وغيرهم، **كذافى الترغيب**، كتاب الحدود، باب الترغيب بالأمر والمعروف، :۳۳۵۶، (۲/۸۸۹)۔

میرے مخلص بزرگو! اور ترقیٔ اسلام و مسلمین کے خواہشمند دوستو! یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روزافزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر

---

① ابوداؤد، کتاب الملاحم، باب الامر والنہی:۴۳۳۸

سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیئے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نہ ملوث ہو جائیں، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی اور تبرّیٰ (بری ہونے) کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے، جو معمولی حاکمِ عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرفِ غلط کی طرح بھی نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بکجا

ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لئے ناخوش ہیں کہ وہ اَحدی (سُست) ہے، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی سعی نہیں کرتا ہے، یا دکان کا کام تندہی سے نہیں کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لئے ناراض ہیں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، نماز قضا کر دیتا ہے۔

بزرگو اور دوستو! اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا، تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہیں امور کی وجہ سے ہے۔ غور تو کیجئے اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے۔ ﴿مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى﴾ حقیقی بات یہ ہے کہ ﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصارهم غشاوة﴾ کا پرتو (عکس) ہے۔

(۵) رُوِیَ عَنْ اَنَسٍ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ قَالَ: لَا تَزَالُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

حضور ﷺ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ (کلمۂ توحید) لا الہ الا اللہ (محمدؐ رسول

تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا، وَتَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ، مَا لَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا الْاِسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا؟ قَالَ: يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِيْ اللّٰهِ، فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ۔

(ض)

رواه الأصبهاني في الترغيب، باب الألف في باب الترهيب من ترک الأمر بالمعروف، :۳۰۷، (۲۱۹/۱)۔ **الترغيب،** كتاب الحدود، باب الترغيب في الأمر بالمعروف، :۳۳۶۱، (۸۹۱/۲)۔

اللہ) کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب وبلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی و استخفاف کئے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔

اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمایئے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہاء، کوئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی یا کم از کم تقلیل (کم کرنے) کی کوئی سعی، کوئی کوشش ہے؟! ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کیلئے کیا کچھ اسباب نہیں پیدا کر لئے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں، تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے ❶۔ اس لئے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے، اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدانخواستہ اگر منکرات کے اس شُیوع (گروہ) پر کوئی بلا نازل ہو گئی، تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهٖ أَنْ قَدْ حَضَرَهٗ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ دولت کدہ پر تشریف لائے، تو میں نے چہرۂ انور پر

---

❶ صحیح ابن حبان، الخلق یبعثون علی نیاتھم: ۷۳۱۴

فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ: مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلَا أُجِيْبَ لَكُمْ، وَتَسْأَلُوْنِيْ فَلَا أُعْطِيَكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلَا أَنْصُرَكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ۔

(حسن بالشواھد)

رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف : ۴۰۰۴، (۳۵۹/۴)۔ **وابن حبان في صحيحه** في كتاب البر والإحسان، باب في ذكر الأخبار عمايجب على المرء: ۲۹۰، (۵۲٦/۱)۔ **كذافي الترغيب**، كتاب الحدود، باب الترغيب بالأمروالمعروف: ۳۳٦۷، (۸۹۲/۲)۔

ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور ﷺ نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد وثناء کے بعد ارشاد فرمایا ”لوگو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا! وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشموں کیخلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔“ یہ کلمات طیبات حضور ﷺ نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلہ کے لئے امور دینیہ میں تسامُح اور مساہلت پر زور دیتے ہیں، کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، تو قبول نہ ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو مدد

نہ ہو گی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی①۔ خود حق جل جلالہ کا ارشاد ہے ﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ۷) (ترجمہ) اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا (اور دشمنوں کے مقابلہ میں) تمہارے قدم جمادے گا۔ (بیان القرآن) دوسری جگہ ارشاد باری عزّ اسمہ ہے۔ ﴿اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۰) (ترجمہ) اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیئے۔

دُرِّ منثور میں بروایتِ ترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ ؓ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہو گی②۔

یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں جاتی ہی، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے۔

(۷) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا عَظَّمَتْ أُمَّتِيَ الدُّنْيَا، نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِيْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللّٰهِ۔

(ض)

كذا في الدر، تحت الآية: ۷۸، من سورة المائدة۔ عن الحكيم

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

---

① الامر بالمعروف لابن ابی الدنیا: ۸

② ترمذی، ابواب الفتن ماجاء فی الامر بالمعروف: ۲۱۶۹

الترمذي في نوادر الأصول، في الأصل الخامس والسبعون والمائة، في قدر تعظيم الدنيا: ۹۳۳، ص (۲۳۳/۴)۔

اے بہی خواہان قوم! ترقیٔ اسلام اور ترقیٔ مسلمین کے لئے ہر شخص کوشاں اور ساعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لئے اختیار کئے جارہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر درحقیقت تم اپنے رسول (روحی فداہ ﷺ) کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سببِ مرض بتارہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرمارہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سببِ شفاء وصحت قرار دی جارہی ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا، جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہوجائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے، تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کرسکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ﴾ (الشوریٰ: ۲۰)	جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ (بیان القرآن)

حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنالیتا ہے، اللہ جلّ شانہ اس کے دل کو غنی فرمادیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور دنیا میں جتنا حصہ مقدر ہوچکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں ①۔

نبی کریم ﷺ نے اس آیت پاک کو تلاوت فرماکر ارشاد فرمایا کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے کہ ”اے ابن آدم! تو میری عبادت کیلئے فارغ ہوجا، میں تیرے سینہ کو تفکرات سے خالی کردوں گا اور تیرے فقر کو ہٹادوں گا، ورنہ تیرے دل میں (سینکڑوں طرح کے)

---

① ترمذی، ابواب صفة القيامة: ۲۴۶۵

مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا“ ❶۔

یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے اور تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لئے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کیلئے اختیار کیا جاتا ہے، یہ مُلّا نے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ مُلّا نے ایسے ہی لالچی ہیں، تو آپ حضرات کی ترقیات ان کیلئے تو مسرت کا سبب ہوں گی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعہ سے ہے، تو جس قدر وسعت اور فتوحات آپ پر ہوں گی، وہ ان کے لئے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کوئی تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں اور آپ جیسے محسن و مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔

میرے دوستو! ذرا غور تو کرو، اگر یہ مُلّا نے کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن پاک میں بھی صاف طور پر موجود ہو، تو پھر تو ان کی ضد سے منہ پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے، بلکہ شانِ اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ ملانے خواہ کتنے ہی نا اہل ہوں، مگر جب کہ صریح ارشاد باری عزّ اسمہ اور ارشاد نبی کریم ﷺ آپ تک پہنچا رہے ہوں، تو آپ پر ان ارشادات کی تعمیل فرض ہے اور حکم عدولی کی صورت میں جواب دہی لازمی ہے۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کی اس لئے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بھنگی تھا۔

آپ حضرات یہ نہ فرمائیں کہ یہ مولوی جو دینی کاموں کے لئے مخصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیشہ دنیا سے سوال کرتے ہیں، اس لئے کہ میرا جہاں تک خیال ہے، حقیقی مولوی اپنی ذات کیلئے شاید ہی کبھی سوال کریں، بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں، اسی قدر استغناء سے ہدیہ بھی قبول فرماتے ہیں، البتہ کسی دینی کام کے لئے سوال کرنے میں انشاء اللہ وہ اس سے زیادہ ماجور ہیں، جتنا اپنے لئے سوال نہ کرنے میں۔

ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ دین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں رہبانیت کی تعلیم

---

❶ ترمذی، ابواب صفة القیامة: ۲۴۶۶

نہیں، اس میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری عز اِسمہ ہے: ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرۃ: ۲۰۱) اور اس آیت شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے، گویا تمام قرآن پاک میں عمل کرنے کے لئے یہی ایک آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اول تو یہ آیتِ شریفہ کی تفسیر راسخین فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالمِ قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علماء تابعین سے جو آیت شریفہ کی تفسیریں منقول ہیں، وہ حسبِ ذیل ہیں:

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت اور بقدرِ کفایت روزی ہے۔ حضرت علی کَرَّمَ اللہ وَجْہَہٗ سے منقول ہے کہ اس سے صالح بیوی مراد ہے۔ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت ہے۔ سُدّیؒ سے منقول ہے کہ پاک مال مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نیک اولاد اور خلقت کی تعریف مراد ہے۔ جعفرؒ سے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح اور صالحین کی صحبت مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہر قسم کی دنیا کی ترقی مراد ہو جیسا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے، تب بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی تحصیل میں انہماک اور مشغولی کا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا خواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کرتا ہے۔ یقیناً حاصل کیجئے اور بہت شوق سے حاصل کیجئے۔ ہم لوگوں کی ہرگز یہ غرض نہیں ہے کہ خدانخواستہ آپ دنیا جیسی مُغتنم و مقصود چیز کو چھوڑ دیں۔

مقصد یہ ہے کہ جتنی کوشش دنیا کیلئے کریں اس سے زیادہ نہیں، تو کم از کم اس کے برابر تو دین کیلئے کریں، اس لئے کہ خود آپ کے قول کے موافق دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی گئی ہے، ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ جس قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، اسی کلام پاک کی وہ آیت بھی تو ہے جو اوپر گزر چکی ﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ﴾ (الشوریٰ: ۲۵) اور اسی کلام پاک میں یہ بھی ہے ﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا

لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ○ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۸) ﴿ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴾ (پ: ۱۵، ع: ۲) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴾ (ال عمران: ۱۴، رکوع: ۲) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ﴾ (ال عمران: ۱۵۲، پ: ۴) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ﴾ (النساء: ۷، پ: ۵) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ﴾ (الانعام: ۳۲) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ﴾ (الانعام: ۷۰) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ﴾ (الانفال: ۶۷، پ: ۱۰) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴾ (التوبۃ: ۳۸، پ: ۱۰) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ (هود: ۱۵، پ: ۱۲) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (الرعد: ۲۶، پ ۱۳) اسی کلام پاک میں ہے ﴿ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ﴾ (النحل: ۱۰۷، پ: ۱۴)۔ ان کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن میں دنیا و آخرت کا تقابل کیا گیا ہے۔ اس وقت نہ احصاء مقصود نہ ضرورت، نمونہ کے طور پر چند آیات اختصاراً لکھ دی ہیں اور اختصار ہی کی وجہ سے ترجمہ کی بجائے پارہ کا حوالہ لکھ دیا ہے۔ کسی مترجم قرآن شریف سے ترجمہ دیکھ لیجئے، مقصود سب کا یہ ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، وہ نہایت خُسران (نقصان) میں ہیں۔ اگر دونوں کو آپ نہیں سنبھال سکتے، تو پھر صرف آخرت ہی قابلِ ترجیح ہے۔ مجھے انکار نہیں کہ دنیا کی زندگی میں آدمی ضروریات دنیویہ کا سخت محتاج ہے، مگر اس وجہ سے کہ آدمی کو بیت الخلاء جانا لابدّ

(ضروری) ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لئے دن بھر وہیں بیٹھا رہے، اس کو کوئی بھی عقلِ سلیم گوارا نہیں کرے گی۔

حکمت الٰہی پر ایک نگاہ عمیق ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شریعتِ مطہرہ میں ایک ایک چیز کا انضباط ہے۔ اللہ جل جلالہ و عَمَّ نَوالہ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تقسیم نے صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ روز و شب کے چوبیس گھنٹوں میں نصف بندہ کا حق ہے، چاہے وہ اس کو اپنی راحت میں خرچ کرے یا طلبِ معیشت میں۔ اور نصف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور آپ کی تجویز کے موافق دین و دنیا کے ساتھ ساتھ رکھنے کا مقتضیٰ (تقاضا) بھی یہی ہونا چاہیئے کہ روز و شب میں سے آدھا وقت دین کے لئے خرچ ہونا چاہیئے اور آدھا دنیا کے لئے۔ ورنہ اگر دنیاوی مشاغل خواہ فکرِ معاش کے ہوں، یا راحتِ بدن کے، نصف سے بڑھ گئے تو یقیناً آپ نے دنیا کو راجح بنالیا۔ پس آپ کی تجویز کے موافق بھی مقتضائے عدل یہی ہے کہ شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں سے ۱۲ گھنٹے دین کیلئے خرچ کئے جاویں، تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے اور اس وقت یقیناً یہ کہنا بجا ہو گا کہ دنیا و آخرت دونوں کی حسنات کی تحصیل کا حکم دیا گیا ہے اور اسلام نے رہبانیت نہیں سکھلائی۔ یہ مضمون اس جگہ مقصود نہ تھا، بلکہ اشکال کے جواب میں تبعاً آ گیا۔ اس لئے مختصر و مجمل طور پر اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس فصل میں مقصود احادیثِ تبلیغ کا ذکر کرنا تھا، ان میں سے سات احادیث پر اکتفا کرتا ہوں کہ ماننے والے کے لئے سات تو سات ایک بھی کافی ہے اور نہ ماننے والے کے لئے ﴿فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ﴾ (الشعراء: ۲۲۷) کافی سے زائد ہے۔

اخیر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بخل کی اطاعت ہونے لگے اور خواہشاتِ نفسانیہ کا اتباع کیا جائے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے دوسرے کی نہ مانے، اس وقت میں نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کر یکسوئی کا حکم فرمایا ہے ❶، مگر مشائخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اس لئے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ خدا نہ کرے کہ وہ وقت

---

❶ ابو داؤد، کتاب الملاحم، باب الامر والنھی: ۴۳۴۱

دیکھتی آنکھوں آن پہنچے کہ اس وقت کسی قسم کی اصلاح ممکن نہ ہو گی۔ نیز ان عیوب سے جن کا ذکر اس حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، اہتمام سے بچنا ضروری ہے کہ یہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان کے بعد سراسر فتنے ہی فتنے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث میں ان کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ **اَللّٰھُمَّ احۡفَظۡنَا مِنَ الۡفِتَنِ مَاظَھَرَ مِنۡھَا وَمَا بَطَنَ۔**

فصلِ ثالث

اس میں ایک خاص مضمون پر تنبیہ مقصود ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح اس زمانہ میں نفسِ تبلیغ میں کوتاہی ہو رہی ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں ایک خاص مرض یہ ہے کہ جب وہ کسی دینی منصب، تقریر، تحریر، تعلیم، تبلیغ وعظ وغیرہ پر مامور ہو جاتے ہیں، تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ جس قدر دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اپنے نفس کی اصلاح کی احتیاج ہے۔ نبی کریم ﷺ نے متعدد مواقع میں بہت زیادہ اہتمام سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھرے اور خود مبتلائے معاصی رہے۔

آپ ﷺ نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کترے جاتے تھے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرئیلؑ نے عرض کیا کہ یہ لوگ آپ ﷺ کی امت کے واعظ و مقرر ہیں، کہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے ❶۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اہلِ جنت کے چند لوگ بعض اہلِ جہنم سے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو جنت میں تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بدولت پہنچے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو بتلاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے ❷۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بدکار قرّاؔ (علماء) کی طرف عذابِ جہنم زیادہ سرعت سے چلے گا۔ وہ اس پر تعجب

---

❶ مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۱۳۴۲۱

❷ المعجم الکبیر، ما اسند الولید بن عقبۃ: ۴۰۵

کریں گے کہ بت پرستوں سے بھی پہلے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، تو جواب ملے گا کہ جاننے کے باوجود کسی جرم کا کرنا انجان ہو کر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ①۔

مشائخ نے لکھا ہے کہ اس شخص کا وعظ نافع نہیں ہوتا جو خود عامل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں ہر روز جلسے، وعظ، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مگر ساری بے اثر، مختلف انواع کی تحریرات و رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں، مگر سب بے سود۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

﴿اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ (البقرۃ: ۴۴)

”کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھتے نہیں“ (ترجمہ عاشقی)

نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے۔

مَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ، وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَعَنْ عِلْمِهٖ مَا ذَا عَمِلَ فِيْهِ۔

(حسن لغیرہ)

قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک چار سوال نہ کر لئے جائیں۔ عمر کس مشغلہ میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔

الترغيب، كتاب العلم، باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل: ۱۲۷، (۱/۱۱۶)۔ **عن البيهقي** في شعب الإيمان، باب طلب العلم: ۱۶۴۸، (۳/۲۷۸) وغیرہ۔

حضرت ابو الدرداء رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ جو ایک بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجمعوں کے سامنے مجھے پکار کر یہ سوال نہ کیا جاوے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ خود نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے کسی صحابی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے دریافت کیا کہ بدترین خلائق کون شخص ہے؟ آپ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ برائی کے

---

① شعب الایمان، باب طلب العلم، ۱۷۵۶

سوالات نہیں کرتے، بھلائی کی باتیں پوچھو، بدترین خلائق بدترین علماء ہیں ①۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جو صرف زبان پر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم پر حُجتِ تام ہے۔ دوسرے وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے، وہ علم نافع ہے ②۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علمِ باطن بھی حاصل کرے، تاکہ علم کے ساتھ قلب بھی مُتَّصِف (موصوف) ہو جائے، ورنہ اگر دل میں اس کا اثر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگا اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا، اور بھی بہت سی روایات میں اس پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لئے میری درخواست ہے کہ مبلغین حضرات اپنی اصلاحِ ظاہر وباطن کی پہلے فکر کریں، مبادا ان وعیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی رحمتِ واسعہ کے طفیل اس سیہ کار کو بھی اصلاح ظاہر وباطن کی توفیق عطا فرما دیں کہ اپنے سے زیادہ بدافعال کسی کو بھی نہیں پاتا۔ إِلَّا أَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ۔

فصلِ رابع

اس میں بھی ایک خاص ونہایت اہم امر کی طرف حضرات مبلغین کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، جو نہایت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ تبلیغ میں بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لئے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے، بہت سے لوگ تبلیغ کے جوش میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کی پردہ دری ہو رہی ہے، حالانکہ عِرضِ مسلم (مسلمان کی آبرو) ایک عظیم الشان ووقیع شے ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مَرْفُوْعًا: مَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جَلَّ شَانُہٗ دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندہ کی

---

① مسند البزار، مسند معاذ بن جبل: ۲۶۴۹

② سنن دارمی، باب التوبیخ لمن یطلب العلم: ۳۷۶

الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ۔

(صحیح)

مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

رواہ مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن: ۶۷۹۳، (۲۳/۱۷)۔ **وأبو داود**، كتاب الأدب، باب المعونة للمسلم: ۴۹۰۷، (۳۳۲۳/۵)۔ **وغيرهما الترغيب**، كتاب الحدود، باب الترغيب في ستر المسلم: ۳۳۸۰، (۸۹۵/۲)۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما مَرْفُوْعًا مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهٗ حَتّٰى يَفْضَحَهٗ بِهَا فِيْ بَيْتِهٖ۔

(حسن بالشواهد)

رواه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن: ۲۵۴۶، (۲۱۹/۳)۔ **الترغيب**، كتاب الحدود، باب الترغيب في ستر المسلم: ۳۳۸۸، (۸۹۷/۲)۔

نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جَلَّ شَانُہٗ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ جَلَّ شَانُہٗ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کردیتا ہے۔

الغرض بہت سی روایات میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس لئے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے، کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبروریزی ہورہی ہو، تو اللہ جَلَّ شَانُہٗ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب کہ وہ مدد کا محتاج ہو ❶۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد مبارک ہے، کہ بدترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے ❷۔

اسی طرح بہت سی روایات میں مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لئے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہی عن المنکر میں اپنی طرف سے پردہ دری نہ ہو۔ جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو، اس پر مخفی انکار ہو۔ اور جو اعلانیہ کیا جائے، اس پر اعلانیہ انکار ہونا چاہیئے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبرو کی حتی الوسع فکر رہنی چاہیئے، مبادا ”نیکی برباد گناہ لازم“ کا مصداق ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ منکر (برائی) پر

---

❶ ابوداؤد، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم: ۴۸۸۴

❷ ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی الغیبۃ: ۴۸۷۶

انکار ضرور کیا جائے، کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر اس میں اس کی آبرو کا بھی حتی الوسع سخت اہتمام کیا جائے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت (گناہ) کا وقوع اعلانیہ طور پر ہو رہا ہو، اس پر بے تکلف اعلانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشانہ ہو، اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے، جس سے اس کا افشا ہو۔ نیز یہ بھی آدابِ تبلیغ میں سے ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ مامون الرشید خلیفہ کو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لئے کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ حضرت ہارون عَلَیۡہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا ﴿ فَقُوۡلَا لَہٗ قَوۡلًا لَّیِّنًا ﴾ (طٰہٰ: ۴۴) یعنی اس سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرلے۔

نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ کی خدمت اقدس میں ایک جوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اس کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ نے اس سائل سے فرمایا: قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا: میں آپ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ پر قربان ہوں، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا: اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی مائوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا: کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں نہیں چاہتا۔ فرمایا: اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح بہن، خالہ، پھوپھی کو پوچھ کر حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ نے دستِ مبارک اس شخص کے سینہ پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ! اس کے دل کو پاک اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت (گناہ) سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مبغوض نہ تھی ❶۔ بالجملہ دعا سے، دوا سے، نصیحت سے، نرمی سے یہ تصور کر کے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا، تو میں اپنے لئے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔

---

❶ مسند احمد، حدیث ابی امامہ الباھلی: ۲۲۲۱۱

فصلِ خامس

اس میں بھی مبلغین کی خدمت میں ایک ضروری درخواست ہے وہ یہ کہ اپنی ہر تقریر و تحریر کو خلوص و اخلاص کے ساتھ متصف فرمائیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی دینی اور دنیوی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا ہے اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر، نہ آخرت میں کوئی اجر۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ (صحیح)

حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔

مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة: ۵۳۱۴، (۳/۱۴۶۲)۔ **عن مسلم**، کتاب البر والصلة، باب تحریم ظلم المسلم۔: ۶۴۸۹، (۱۶/۳۳۷)۔

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اخلاص ❶۔ ترغیب نے مختلف روایات میں یہ مضمون ذکر کیا ہے، نیز ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم ﷺ نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے ❷۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہیں کیلئے کیا گیا ہو ❸۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: **قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهٗ وَ شِرْكَهٗ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، فَهُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهٗ** ❹۔ ترجمہ: حق سبحانہ وتقدّس کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، (یعنی دنیا کے شرکاء شرکت کے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں اور میں خلّاق علی الاطلاق ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں) جو شخص کوئی ایسا

---

❶ شعب الایمان، باب اخلاص عمل اللہ: ۶۴۴۱
❷ مستدرک حاکم، کتاب الرقاق: ۷۸۴۴
❸ شعب الایمان: باب اخلاص العمل للہ: ۶۴۵۲
❹ **مسلم**، کتاب الزہد والرقاق، باب من اشرک فی عملہ: ۵۸۹۲۔

عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرلے، میں اس کو اسکے شریک کے حوالہ کر دیتا ہوں"۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں ❶۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں ایک منادی بلند آواز سے کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے ❷۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے۔

مَنۡ صَلّٰى يُرَائِيۡ فَقَدۡ أَشۡرَكَ، وَمَنۡ صَامَ يُرَائِيۡ فَقَدۡ أَشۡرَكَ، وَمَنۡ تَصَدَّقَ يُرَائِيۡ، فَقَدۡ أَشۡرَكَ۔

(إسناده ضعيف، لشهر بن حوشب)

المشكوٰة، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة: ۵۳۳۱، (۱۴۶۵/۳)۔عن **أحمد**، مسند الشاميين، حديث شرار بن أوس: ۱۷۱۴۰، (۳۶۲/۲۸)۔

جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔

مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لئے یہ اعمال کئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیتا ہے۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کیلئے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کیلئے کئے جاتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقۡضٰى يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ عَلَيۡهِ رَجُلٌ اسۡتُشۡهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلۡتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلۡتُ فِيكَ حَتّٰى اسۡتُشۡهِدۡتُ۔ قَالَ: كَذَبۡتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلۡتَ لِأَنۡ يُقَالَ: جَرِيۡءٌ، فَقَدۡ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلٰى وَجۡهِهِ، حَتّٰى أُلۡقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الۡعِلۡمَ

قیامت کے دن جن لوگوں کا اول وہلہ (پہلے پہل) میں فیصلہ سنایا جاوے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہو گا جس کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا؟۔ وہ کہے گا تیری

---

❶ المعجم الاوسط، من اسمہ محمد، ۶۴۲۹

❷ صحیح ابن حبان، اخبارہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البعث: ۷۳۴۵

وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: إِنَّكَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔

(صحیح)

المشکوة، کتاب العلم، الفصل الأول: ۲۰۵، (۱/۷۱)۔
عن مسلم، کتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء: ۱۹۰۵، (۳/۱۵۱۳)

رضا کیلئے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہو گا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا اور جس غرض کیلئے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہو گا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کئے گئے تھے، ان کا اظہار کیا جاوے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کئے؟ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لئے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیری رضا کیلئے حاصل کیا۔ جواب ملے گا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں، سو کہا جا چکا (اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی) اسکے بعد اس کو بھی حکم سنایا جاوے گا اور وہ بھی منہ کے

بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا، بلایا جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرفِ خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس پر خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہو گا کہ جھوٹ ہے، سب اس لئے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

لٰہذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلّغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی سنت کا اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر خیال آ بھی جائے تو لاحَولَ و استغفار سے اس کی اصلاح فرمالیں۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے پاک کلام کی برکت سے مجھ سیاہ کار کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ناظرین کو بھی۔
آمین

فصلِ سادس

اس میں عامّۃ المسلمین کو ایک خاص امر کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ یہ کہ اس زمانہ

میں علماء کی طرف سے بدگمانی، بے توجہی نہیں، بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جارہی ہیں، یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے، اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں اور علماءِ سوء، علماء رُشد میں مخلوط ہیں، مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں: اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماءِ سُوء میں سے ہونا محقّق (ثابت) نہ ہو جائے، اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیئے۔ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۳۶) ترجمہ: اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عملدرآمد نہ کیا کر، کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوں گی (بیان القرآن)۔ اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سوء میں ہو، اس کی بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔

نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے۔ حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے ❶، یعنی یہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق تصدیق و تکذیب سے روک دیا، لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے، تو اس کی بات کی وقعت گرانے کیلئے کہنے والے کی ذات پر حملے کئے جاتے ہیں، گو اس کا اہلِ حق ہونا بھی محقّق ہو۔

دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ علماءِ حقانی، علماءِ رشد، علماءِ خیر بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے، معصوم ہونا انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کی شان ہے، اس لئے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہیں پر عائد ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے، سزا دیں یا معاف فرما دیں، بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاء اللہ معاف ہی ہو جاویں گی۔ اس لئے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں

---

❶ بخاری، کتاب تفسیر القرآن: ۴۴۸۵

مشغول ہو جائے اور ہمہ تن اس میں لگا رہے، اکثر تسامح اور درگزر کیا کرتا ہے، پھر اللہ جَلَّ و علا کے برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بمقتضاءِ عدل گرفت بھی فرمائیں تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان سب امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لئے بددینی کا سبب ہوگا اور ایسا کرنے والوں کے لئے وبالِ عظیم ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

اِنَّ مِنۡ اِجۡلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِكۡرَامَ ذِی الشَّيۡبَةِ الۡمُسۡلِمِ، وَ حَامِلِ الۡقُرۡاٰنِ غَيۡرِ الۡغَالِیۡ فِيۡهِ وَلَا الۡجَافِیۡ عَنۡهُ، وَاِكۡرَامَ ذِی السُّلۡطَانِ الۡمُقۡسِطِ۔

تینوں اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ محافظ قرآن جو افراط تفریط سے خالی ہو، تیسرا مُنصِف حاکم۔

(حسن)

الترغيب، كتاب العلم، باب الترغيب في إكرام العلماء: ۹۸، ص (۱/۱۰۶)۔ **عن أبي داود**، كتاب الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم: ۴۸۱۰، (۵/۲۹۰)۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔

لَيۡسَ مِنۡ أُمَّتِیۡ مَنۡ لَّمۡ يُبَجِّلۡ كَبِيۡرَنَا، وَيَرۡحَمۡ صَغِيۡرَنَا، وَيَعۡرِفۡ عَالِمَنَا۔

وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔

(حسن)

الترغيب، كتاب العلم، باب الترغيب في إكرام العلماء: ۱۰۱، ص (۱/۱۰۶)۔ **عن أحمد** في مسنده، مسند الأنصار، حديث عبادة بن الصامت، وفيه: "وبعرف لعالمنا": ۲۲۷۵۵، ص (۷۔ ۳۷ ـ ۴۱۶)۔ **والحاكم**، كتاب العلم، فصل في توقير العلماء: ۴۲۵، ص (۱/۲۲۴) وسكت عنه الذهبي۔ **وغيرهما**۔

ایک اور حدیث میں وارد ہے۔

عَنۡ أَبِیۡ أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ، عَنۡ رَّسُوۡلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ثَلٰثٌ لَا يَسۡتَخِفُّ بِهِمۡ إِلَّا مُنَافِقٌ: ذُوالشَّيۡبَةِ فِی الۡإِسۡلَامِ، وَذُوالۡعِلۡمِ، وَإِمَامٌ مُقۡسِطٌ۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف (ہلکا) سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے (نہ کہ مسلمان، وہ تینوں شخص یہ ہیں) ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔

(ض)

الترغیب، کتاب ٦ العلم، باب الترغیب في إكرام العلماء: ٨٣، ص(١/١٠٧)۔ **عن الطبراني** في الأوسط، باب الصاد: ٧٨١٩، (٦/٢٠٤٤)۔

بعض روایات میں نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ہے: ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کے معانی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے ❶۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چون وچرا کا کیا حق ہے۔ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپروائی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایتِ طبرانی ذکر کیا ہے اور اس قسم کی روایات بکثرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔

جس قسم کے الفاظ اس زمانہ میں علماء اور علومِ دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کئے جاتے ہیں، ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظِ کفریہ میں شمار کیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں، اس لئے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جاوے کہ علماءِ حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے، علماءِ سوء ہی ہیں، تب بھی آپ حضرات کی صرف علماء کو علماءِ سوء کہنے سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماءِ حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لئے کہ علماء کا وجود فرضِ کفایہ ہے، اگر ایک جماعت اس کے لئے موجود ہے، تو یہ فرض سب سے ساقط ہے، ورنہ تمام دنیا گناہ گار ہے۔

ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ وبرباد کر دیا ہے،

---

❶ المعجم الکبیر، شریح بن عبید: ۳۴۴۲

ممکن ہے کسی درجہ میں صحیح ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج کا نہیں، سو پچاس برس کا نہیں، خیر القرون بلکہ خود نبی اکرم ﷺ کے زمانہ سے ہے۔

حضور اقدس ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نعلین شریف بطور علامت کے دے کر اس اعلان کے لئے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ گو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا، راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حضور کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زور سے ان کے سینہ پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچارے سرینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں❶، مگر نہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف پوسٹر شائع ہوتا ہے، نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریزولیوشن پاس ہوتا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہزاروں مسئلے مختلَف فیہا (اختلافی) ہیں اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے یہاں تو شاید فقہ کی کوئی جزئی ہو جو مختلَف فیہ نہ ہو۔ چار رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً دو سو مسئلے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے یہاں ایسے مختلف فیہ ہیں جو مجھ کو تاہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اور اس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے، مگر کبھی رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ دو تین مسئلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے، نہ ان کے لئے اشتہارات و پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے، نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے۔ راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہیں۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے اور بدیہی امر ہے، جب کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہیں، تو وہ شرعاً اختلاف کرنے پر مجبور ہے، اگر اختلاف نہ کرے تو مُداہن اور عاصی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لئے اس لُچر اور پوچ عذر کو حیلہ بناتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اطبّاء میں اختلاف ہوتا ہے، وکلاء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، مگر کوئی شخص علاج کرانا نہیں چھوڑتا، مقدمہ لڑانے سے نہیں رکتا، پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں اختلافِ علماء کو حیلہ بنایا جاتا ہے۔ یقیناً سچے عمل کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتا ہے، متبع سنت سمجھتا ہے، اس کے قول پر عمل کرے اور دوسروں پر لغو حملوں

---

❶ مسلم، باب من لقی اللہ بالایمان: ۵۲

اور طعن و تشنیع سے باز رہے۔ جس شخص کے ذہن کی رسائی دلائل کے سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے تک نہیں ہے، اس کا حق نہیں کہ ان میں دخل دے۔

نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا، جو اس کے اہل نہ ہوں، اس کو ضائع کرنا ہے ❶، مگر جہاں بددینی کی یہ حد ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے صریح ارشادات پر لب کشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہو، وہاں بیچارے علماء کا کیا شمار ہے، جس قدر الزامات رکھے جائیں کم ہیں۔ ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ (البقرة: ۲۲۹، پ: ۲)

فصلِ سابع

یہ گویا چھٹی فصل کا تکملہ اور تتمّہ ہے، اس میں ناظرین کی خدماتِ عالیہ میں ایک اہم درخواست ہے، وہ یہ کہ اکثر اللہ والوں کے ساتھ ارتباط، ان کی خدمت میں کثرت سے حاضری، دینی امور میں تقویت اور خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے:

أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْأَمْرِ، الَّذِيْ تُصِيْبُ بِهٖ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ۔

(ض)

المشكوة، كتاب الآداب، باب الحب في الله، : ۵۰۵۲، (۱۳۹۸/۳)۔

”کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں، جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے اور جب تُو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رَطبُ اللّسان رکھا کر۔“

اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ اہل اللہ کی پہچان اتباعِ سنت ہے کہ حق سبحانہ وتقدّس نے اپنے محبوب نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو امت کی ہدایت کیلئے نمونہ بنا کر بھیجا ہے اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ

---

❶ سنن دارمی، باب مذاکرۃ العلم: ۶۴۸

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(البقرة: ۳۱، پ: ۳، ع: ۱۲)

سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں (بیان القرآن)

لہٰذا جو شخص نبی اکرم ﷺ کا کامل متبع ہو، وہ حقیقۃً اللہ والا ہے اور جو شخص اتباعِ سنت سے جس قدر دور ہو، وہ قربِ الٰہی سے بھی اسی قدر دور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنتِ رسول ﷺ کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لئے کہ قاعدۂ محبت اور قانونِ عشق یہ ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، در و دیوار سے، صحن سے، باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے، اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلٰى أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

ترجمہ: کہتا ہے کہ لیلیٰ کے شہر پر گزرتا ہوں، تو اس دیوار کو اور اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کارفرمائی ہے، جو شہروں کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے

تَعْصِي الْإِلٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٗ وَهٰذَا لَعُمْرِيْ فِي الْفِعَالِ بَدِيْعٌ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهٗ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ

ترجمہ: تُو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا، تو کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے لئے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو گی، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”جس نے انکار کر دیا“ سے کیا مراد ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے ❶۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں ❷۔

حیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے دعویدار، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے بے بہرہ ہوں، کسی بات کو ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے، حضور ﷺ کے طریقہ کے خلاف ہے، گویا برچھی مار دینا ہے۔

خلاف پیمبر کسے رہ گزید   کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

پیمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقہ کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا، کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالجملہ اس تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ ربط کا بڑھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم سے منتفع ہونا، دین کی ترقی کا سبب ہے اور نبی کریم ﷺ کا امر بھی ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالس ❸۔

دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو، کہ حق تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے، اور حکماء دین کے جاننے والے ہی ہیں، نہ کہ دوسرے اشخاص ❹۔

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم ﷺ سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہم نشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے

---

❶ بخاری، کتاب الاعتصام بالسنۃ، باب الاقتداء بالسنن: ۷۲۸۰

❷ شرح السنۃ، باب رد البدع: ۹۶/۱

❸ المعجم الکبیر، مجاھد عن ابن عباس: ۱۱۱۵۸

❹ المعجم الکبیر، عبید بن زحر: ۷۸۱۰

اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے ❶، ترغیب میں ان روایات کو ذکر کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے ❷۔ خود حق سبحانہ وتقدّس کا ارشاد ہے:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ	اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ (بیان القرآن)

(التوبة: ۹، پ: ۱۱، ع: ۴)

مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخِ صوفیہ ہیں، جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خُدّام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوتِ ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے۔ شیخِ اکبر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے، تو تُو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے۔ لہٰذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ، کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر، اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر، اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے، نہ کہ اپنی رائے سے، بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا، لہٰذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر، تاکہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے۔ نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو، تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور حق سبحانہ وتقدّس اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں ❸۔ ایک دل رَبُودَہ کے واسطے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والی جماعت کے لوگوں کو، جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تمہاری

---

❶ مسند ابی یعلی، مسند ابن عباس: ۲۴۳۷

❷ ابن ماجہ، کتاب الزھد: ۴۱۱۹

❸ مسلم، کتاب الذکر، ۲۷۰۰

مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا①۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حسرت ہو گی۔

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا ہے کہ یا اللہ! اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے گزر کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوئے دیکھے، تو میرے پاؤں توڑ دے②۔

جب اس کی صوت و صورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے
مرے کانوں کا کَر ہونا، اور آنکھیں کور ہو جانی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے نزدیک ستارے③۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہاں کچھ بھی تقسیم نہ ہو رہا تھا۔ واپس جا کر عرض کیا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے④۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوع کی روایات بکثرت ذکر فرمائی ہیں۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حکم ہے:

﴿وَاصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوةِ وَالۡعَشِىِّ يُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنٰكَ عَنۡهُمۡ تُرِيۡدُ زِيۡنَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِكۡرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ

آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کیلئے کرتے ہیں، اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے

---

① مسند احمد، مسند انس بن مالک: ۱۲۴۵۳
② الزھد لاحمد بن حنبل
③ مصنف ابن ابی شیبہ، باب ماجاء فی فضل ذکر اللہ: ۳۵۰۵۵
④ المعجم الاوسط، من اسمہ احمد: ۱۴۲۹

وَكَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا ۔ ﴾

(پ:۱۵، ع:۱۶)

ہٹنے نہ پاویں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

متعدد روایات میں وارد ہے کہ نبی کریم ﷺ اللہ جل جلالہ کا اس پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے، جن کی مجلس میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا مامور ہوں، اور اسی آیتِ شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جن کے قلوب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، حدود سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اتباع سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ حضرات جو ہر قول و فعل میں دین و دنیا کے کاموں میں کفار و فُسّاق کو مقتدا بناتے ہیں، مشرکین و نصاریٰ کے ہر قول و فعل پر سو جان سے نثار ہیں، خود ہی غور فرمالیں کہ کس راستے جارہے ہیں۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میروی بترکستان است
مراد ما نصیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغ

ممتثلِ امر
محمد زکریا کاندھلوی
مقیم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ۵ صفر ۱۹۳۰ھ
مطابق ۲۱ جون ۱۹۳۱ء شبِ دوشنبہ

فضائلِ رمضان

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ سرہٗ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ ط
حَامِداً وَّمُصَلِّیاً وَّمُسَلِّماً ط

حمد و صلوٰۃ کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی رحمۃ للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لئے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدر دانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو در کنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی۔ حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔

ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حُفاظ، اور وہ پڑھے لکھے حضرات، جن کو دین کی کسی درجہ میں بھی رغبت ہے، اوائلِ رمضان میں اس رسالہ کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کریں، تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بداعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانُہٗ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں، تو تیرے لئے سرخ اونٹوں سے (جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے) بہتر اور افضل ہے ①۔

رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کیلئے حق تعالیٰ شانُہٗ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لئے ایک مہینہ تک رمضان رمضان چلّائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے ②۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کارے دارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلہ میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا

---

① بخاری، کتاب المغازی، غزوۂ خیبر: ۴۲۱۰

② صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام، باب فی فضل شہر رمضان: ۱۸۸۶

دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے ①۔ آخر کوئی بات تو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں، باوجود نبی کریم ﷺ کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے، روزہ کا اہتمام فرماتے، حتی کہ حضور ﷺ کو حکماً منع فرمانا پڑا ②۔

حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں، بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے، اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے، جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے ③۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔

نبی کریم ﷺ سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کئے گئے، جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے، کہ اس زمانہ میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جارہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جارہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے، اس لئے اکیس احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو تین فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔

فصل اول: رمضان المبارک کے فضائل میں، جس میں دس (۱۰) احادیث مذکور ہیں۔

دوسری فصل: شب قدر کے بیان میں، جس میں سات (۷) حدیثیں ہیں۔

تیسری فصل: میں اعتکاف کا ذکر ہے، جس میں تین (۳) حدیثیں ہیں، اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالہ کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ شانہٗ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب ﷺ کے طفیل اس کو قبول فرماویں اور مجھ سیہ کار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرماویں۔

فَإِنَّهٗ بَرٌّ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ

---

① مسند احمد، مسند البصریین، ۲۰۷۳۸

② صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام، ۲۰۳۸

③ مسلم، کتاب الصیام، ۱۱۱۹

فصلِ اوّل

فضائل رمضان میں

(۱) عَنۡ سَلۡمَانَ رضی اللہ عنہ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ فِیۡ اٰخِرِ یَوۡمٍ مِّنۡ شَعۡبَانَ، فَقَالَ یَآاَیُّهَا النَّاسُ قَدۡ أَظَلَّكُمۡ شَهۡرٌ عَظِیۡمٌ مُّبَارَكٌ، شَهۡرٌ فِیۡهِ لَیۡلَةٌ خَیۡرٌ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٍ۔ شَهۡرٌ جَعَلَ اللّٰهُ صِیَامَهٗ فَرِیۡضَةً، وَقِیَامَ لَیۡلِهٖ تَطَوُّعًا، مَنۡ تَقَرَّبَ فِیۡهِ بِخَصۡلَةٍ، كَانَ كَمَنۡ أَدّٰی فَرِیۡضَةً فِیۡ مَا سِوَاهُ، وَمَنۡ أَدّٰی فَرِیۡضَةً فِیۡهِ، كَانَ كَمَنۡ أَدّٰی سَبۡعِیۡنَ فَرِیۡضَةً فِیۡمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهۡرُ الصَّبۡرِ، وَالصَّبۡرُ ثَوَابُهُ الۡجَنَّةُ، وَشَهۡرُ الۡمُوَاسَاةِ، وَشَهۡرٌ یُزَادُ فِیۡ رِزۡقِ الۡمُؤۡمِنِ فِیۡهِ، مَنۡ فَطَّرَ فِیۡهِ صَائِمًا، كَانَ مَغۡفِرَةً لِّذُنُوۡبِهٖ، وَعِتۡقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهٗ مِثۡلُ أَجۡرِهٖ، مِنۡ غَیۡرِ أَنۡ یُّنۡقَصَ مِنۡ أَجۡرِهٖ شَیۡءٌ، قَالُوۡا یَارَسُوۡلَ اللّٰهِ، لَیۡسَ كُلُّنَا یَجِدُ مَا یُفَطِّرُ الصَّآئِمَ؟ فَقَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ: یُعۡطِی اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنۡ فَطَّرَ صَآئِمًا عَلٰی تَمۡرَةٍ أَوۡ شَرۡبَةِ مَاءٍ أَوۡ مَذۡقَةِ لَبَنٍ وَهُوَ شَهۡرٌ اَوَّلُهٗ رَحۡمَةٌ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے، (شبِ قدر) جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام (یعنی تراویح) کو ثواب کی چیز بنایا ہے، جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیرِ رمضان میں ستر فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہو گا اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہو گا، مگر اس روزہ

وَاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ، وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ وَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ، وَ تَعُوْذُوْنَ بِهٖ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ سَقٰى صَائِمًا، سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَّايَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔

(ض)

رواه ابن خزية في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان: ۱۸۸۷، (۹۱۰/۲)۔ **وقال: إن صح الخبرفي ورواه البيهقي** في كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان: ۳۳۳٦، (۲۲۳/۵)۔ **و رواه أبوالشيخ ابن حبان في الثواب، باختصار عنهما، وفي اسانيدهم على بن زيد بن جدعان، و رواه ابن خزيمة أيضاً** في كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان: ۱۸۸۴، (۹۰۸/۲)۔ **والبيهقي باختصار** في كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان، : ۳۳۳۵، (۲۲۲/۵)۔ **عنه من حديث أبي هريرة وفي إسناده كثيربن زيد، كذافي الترغيب،** كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان،: ۵۸۹، (۴۲۵/۱)۔ **قلت: على بن زيد ضعفه جماعة** (انظر: الجرح والتعديل، رقم: ۱۰۲۵، (۱۸٦/٦) وأيضا المغني في الضعفاء: ۴۲٦۵، (۴۴۷/۲)۔) **وقال الترمذي: صدوق،** تذكرة الحفاظ، الطبقة الرابعة: (۱۰٦/۱)۔ **وصحح له حديثا فى الإسلام، الترمذي،** أبواب المناقب، فصل في فضل الأنصار: ۳۹۰۲، (۷۱۳/٦)۔ **وحسن له غير ماحديث، وكذا كثير ضعفه النسائي** في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى، من اسمه كثير، (۲۲/۳)۔ وأيضا الضعفاء المتروكين للنسائی، (۲۲۹/۱)۔ وغيره **قال ابن معين: "ثقة"**

دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ (پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں) یہ ثواب تو اللہ جَلَّ شَانُہٗ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسّی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام (خادم) کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شَانُہٗ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارۂ کار نہیں، پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمۂ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ (قیامت کے دن) میرے حوض سے اس کو

وقال ابن عدی: لم أر بحديثه باسا، ميزان الاعتدال، (۴۸۹/۵)۔ **وأخرج بحديثه ابن خزيمة في صحيحه**، كتاب الصلوٰة، باب ذكر تبعد الشيطان: ۳۹۲، (۲۰۳/۱)۔ **كذافي رجال المنذري، ص: (۷۰۴)، لكن قال العيني، الخبر منكر**، عمدة القاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان، (۲۶۹/۱۰)۔ فتأمل۔

ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔

ف: محدثین کو اس کے بعض رُواۃ (راویوں) میں کلام ہے، اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابلِ تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤیِّد ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں: اول نبی کریم ﷺ کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی، تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شبِ قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ وتقدّس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم ﷺ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور ﷺ اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں، برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔

حضرت مولانا الشاہ عبد الحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے "**ماثبتَ بالسُّنَّه**" میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلامِ مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں: تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی، البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز

میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقعہ ہوا وہاں تراویح پڑھ لی، کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہو گا اور اپنے کام کا حرج بھی نہ ہو گا۔

حضور ﷺ نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینہ میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضاء ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے، گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ مہتم بالشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے اداءِ ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم ﷺ کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو (گویا) نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ①۔

”مظاہرِ حق“ میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نذر ہو جاتی ہے اور رکعتِ اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں تین کو ضائع کیا۔ یہ تین تو اکثر ہیں ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ (دوپہر کے آرام) کی نذر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نذر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرمالیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نذر ہو ہی جاتے ہیں اور اوّابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عینِ سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں، لیکن یہ باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی

---

① السنن الکبریٰ للبیھقی، باب ما جاء من التشدید فی ترک الجمعۃ: ۵۱۳۹

ہیں کہ ع

"توہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں"

کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کیلئے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے، میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نورؒ اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضُعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا، اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد، ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سوا دو گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً تین گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی، اس کے بعد آپ حسب اِختلافِ موسم دو تین گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اَوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔

اِسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مُراقِب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً بارہ بجے تک اور گرمیوں میں ایک بجے تک "بَذْلُ الْمَجْهُوْد" تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ "بَذْلُ الْمَجْهُوْد" ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کچھ کتب بینی میں "بَذْلُ الْمَجْهُوْد" اور "وَفَاءُالوفاء" زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافلِ مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا، البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھنا بھی مشکل ہے۔

حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ اور یکے بعد دیگرے متفرق حُفّاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائپوری قُدِّسَ سِرُّہٗ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا

ہوتا تھا، کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خُدّام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادہ چائے کے ایک دو فنجان (پیالی) نوش فرمائیں، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے، یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لئے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ گیارہ مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو دس بجے سے چار بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے دس بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دِقّت ہے، آخر دنیوی ضروریات کیلئے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں، یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں۔ اور تاجروں کیلئے تو اس میں کوئی دِقّت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینہ میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں، یا کم از کم دکان پر ہی تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں، کہ اس مبارک مہینہ کو کلامِ الٰہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔

اسی وجہ سے عموماً اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا تئیس (۲۳) سال کے عرصہ میں نازل ہوا①۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی یکم یا ۳ تاریخ کو عطا ہوئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ۱۸ یا ۱۲ رمضان کو ملی۔ اور حضرت موسیٰؑ کو توریت ۶ رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ۱۲ یا ۱۳ رمضان المبارک کو ملی②، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلامِ الٰہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینہ میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم ﷺ کو سناتے

---

① شعب الایمان، فصل فی استحباب القراءۃ فی الصلوۃ: ۲۰۵۳

② مسند ابی یعلیٰ، تابع مسند جابر: ۲۱۹۰

تھے ① اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے سنتے تھے ②۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دَور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے، استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے، کرے اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے اسی حدیث کے آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینہ میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمۂ طیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لئے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے اور یہی نبی کریم ﷺ کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقّت ہے کہ اپنے دنیوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا ورد رہے اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے۔

میں گو رہا رہین ستم ہائے روزگار
لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے اس مہینہ کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے: اولاً یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیئے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ، ہول پکار، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزہ کا سوگ شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقّت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیئے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں، کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الٰہی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے۔

پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غرباء، مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا، اگر (۱۰) چیزیں اپنی افطاری کے لئے تیار کی ہیں تو دو چار غرباء کے لئے بھی کم از کم ہونی چاہئیں، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لئے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے، اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غرباء کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کیلئے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کیلئے ان کی شاہراہِ عمل کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردہ والے

---

① مسلم، کتاب الفضائل ۲۳۰۸

② الدر المنثور

کا کام ہے، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

ایک واقعہ مثالاً لکھتا ہوں، ابو جہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں مَیں اپنے چچازاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا، کہ اگر اس میں کچھ رمق (تھوڑی سی جان) باقی ہوئی، تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا۔ انہوں نے اشارہ سے مانگا، کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی، چچازاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچازاد بھائی کے پاس آیا، تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہیں تمہارے اسلاف کے ایثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارہ نہ کیا①۔ رَضِیَ اللہُ عَنْھُمْ وَاَرْضَاھُمْ وَرَزَقَنَا اِتِّبَاعَھُمْ۔ آمین

روح البیان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے بروایتِ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، کہ میری امت میں ہر وقت پانسو برگزیدہ بندے اور چالیس ابدال رہتے ہیں، جب کوئی شخص ان سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے (بھی) احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں②۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے، یا ننگے کو کپڑا پہنائے، یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، حق تعالیٰ شَانُہٗ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں③۔

یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ ایک ہزار درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! یحییٰ نے میری دنیا کی

---

① شعب الایمان، کتاب الزکوٰۃ، باب التصدق من کسب طیب: ۳۲۰۸

② حلیۃ الاولیاء: ۱/۸

③ شعب الایمان، فصل فی من فطر صائما: ۳۹۵۵

کفایت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شبِ قدر میں جبرئیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرئیلؑ مصافحہ کرتے ہیں (اس کی علامت یہ ہے کہ) اس کے دل میں رِقَّت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدِّث ہیں روزانہ پچاس (۵۰) آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔

افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شَانُہٗ کا انعام متوجہ ہوتا ہے اور یہ رحمتِ عامہ سب مسلمانوں کیلئے ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لئے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿لَئِنۡ شَكَرۡتُمۡ لَاَزِيۡدَنَّكُمۡ﴾ (ابراھیم: ۷) اور اسکے درمیانی حصہ سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لئے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔

اور بھی بہت سی روایات میں ختمِ رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے تین حصے کئے گئے جیسا کہ مضمونِ بالا سے معلوم ہوا۔ بندۂ ناچیز کے خیال میں تین حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی تین طرح کے ہیں: ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لئے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لئے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلہ میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لئے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لئے ابتداء ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشے بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، کہ ان کے لئے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ وَ اللهُ أَعۡلَمُ وَ عِلۡمُهٗ أَتَمُّ۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینہ میں تخفیف (آسانی) رکھیں، اس لئے کہ آخر وہ بھی روزہ دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزہ میں دقّت ہو گی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کیلئے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزہ دار بھی ہو، ورنہ اس کے لئے رمضان بے رمضان برابر۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر، بے حیا منہ سے، روزہ دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزہ کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ﴾ (الشعراء: ۲۲۷) ترجمہ: ”اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی (مصیبت) کی جگہ لوٹ کر جائیں گے (مراد جہنم ہے)“۔

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا: اول کلمۂ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ! تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے، کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے ”لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰؑ! اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے، میرے سوا، یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑہ میں رکھ دیئے جائیں اور دوسرے میں کلمۂ طیبہ رکھ دیا جاوے تو وہی جھک جائے گا①۔

ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمہ کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لئے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطیکہ کہنے والا کبائر سے بچے②۔ عادتُ اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورتِ عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے، اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ شانُہٗ کی بے پایاں رحمت نے اس کو اس قدر عام کر رکھا ہے۔ اور کیمیا جیسی لغو اور بیکار چیز کو عنقا (کمیاب) کر دیا۔ اسی طرح کلمۂ طیبہ افضل الذکر ہے، متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے عام کر

---

① مستدرک حاکم، کتاب الدعاء والتدبیر: ۱۹۳۶

② ترمذی، ابواب الدعوات: ۳۵۹۰

رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بد بختی ہے، بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔

دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیثِ بالا میں ارشاد فرمایا گیا، وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ شَانُہٗ ہر تنگی میں اس کیلئے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا❶۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے❷۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے❸۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے دو چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں: جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔

(۲) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُعْطِيَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَ خِصَالٍ فِيْ رَمَضَانَ، لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا، وَيُزَيِّنُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهٗ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُّلْقُوْا عَنْهُمُ الْمَؤُنَةَ وَيَصِيْرُوْا إِلَيْكَ، وَتُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، فَلَا يَخْلُصُوْا فِيْهِ إِلٰى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ إِلَيْهِ فِيْ غَيْرِهٖ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِيْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ،

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں: (۱) یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (۲) یہ کہ ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ (۳) جنت ہر روز ان کیلئے آراستہ ہو جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شَانُہٗ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے (دنیا کی) مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ (۴)

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب التوبۃ والانابۃ: ۷۶۷۷

❷ ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ: ۲۴۹۹

❸ ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الذنوب: ۴۲۴۴

قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفّٰى أَجْرَهٗ إِذَا قَضٰى عَمَلَهٗ۔

(حسن بالمتابعة والشواهد)

رواه احمد في مسنده، في مسند المكثرين، مسند أبي هريرة: ٧٩١٧، (٢٩٥/١٣)۔ **والبزار** في مسند أبى هريرة: ٨٥٧١، (١٨٩/١٥)۔ **والبيهقي** في شعب الإيمان، كتاب الصيام، فصل فضائل شهر رمضان: ٣٣٣٠، (٢١٩/٥)۔ **ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، إلا أن عنده "وتستغفر لهم الملائكة" بدل "الحيتان" كذا في الترغيب**، كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم: ٥٨٦، (۴٢٣/١)۔

اس میں سرکش شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ (۵) رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شبِ مغفرت شبِ قدر ہے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے"۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پانچ خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو اس امت کے لئے حق تعالیٰ شانہٗ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئیں۔ کاش! ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔

اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ شانہٗ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شُرّاحِ حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں آٹھ قول ہیں جن کو مُوطّا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندہ کے نزدیک ان میں سے تین قول راجح ہیں: اول یہ کہ حق تعالیٰ شانہٗ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے، جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہو گی، یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بُعد بھی نہیں، نیز "دُرِّ منثور" کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے ❶، اس لئے یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہو گی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہو گی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندہ کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے، وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ امر بابِ المحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لئے ہزار خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔

---

❶ الجوع لابن ابی الدنیا، رقم الحدیث ۱۴۰

اے حافظِ مسکین چہ کنی مشک ختن را
از گیسوئے احمد بستان عطر عدن را

مقصود روزہ دار کا کمالِ تقرب ہے کہ بمنزلۂ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالیٰ شَانُہٗ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزہ کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لئے کہ وہ خالص میرے لئے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ ”اُجْزٰی بِہٖ“ ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں میں خود اپنے کو دیتا ہوں اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے ❶، یعنی روزہ کی وجہ سے قلب منوّر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر جن کا بیان حدیث نمبر ۹ کے ذیل میں مفصل آئے گا۔

اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بناء پر بعض ائمہ روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لئے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے اور حدیث میں جس بُو کا ذکر ہے، وہ معدہ کے خالی ہونے کی ہے نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتبِ فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔

دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کیلئے استغفار کرتے ہیں ❷، میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا ارشاد ہے ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَھُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾ (مریم: ۹۶، پ: ۱۶، ع: ۹) ”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کئے حق تعالیٰ شَانُہ ان کے لئے (دنیا ہی میں) محبوبیت فرما دیں گے“۔ اور حدیثِ پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالیٰ شَانُہٗ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے تم بھی اس سے محبت کرو، وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے

---

❶ مسند الشھاب، ان لکل شی بابا: ۱۰۳۲

❷ شعب الایمان، فضائل شھر رمضان: ۳۶۰۳

ہیں اور پھر اس کے لئے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے ❶۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اِس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں، بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے، کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویابَر (زمین) سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہاء ہے، نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریقِ اولیٰ معلوم ہو گیا۔

تیسری خصوصیت جنت کا مزیّن ہونا ہے، یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے ❷، اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے، اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔

چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضیٰ (تقاضا) یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی ان تھک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور مُحقَّق کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے، کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لئے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں، اس بناء پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو، تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید کے بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے، پس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے، کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات (شرائط) معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو، تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیئے، اس لئے کہ اگرچہ معاصی (گناہ) عموماً شیاطین

---

❶ بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکۃ: ۳۲۰۹

❷ شعب الایمان، الباب الثالث والعشرون، فصل فی التماس لیلۃ القدر: ۳۶۹۵

کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہوجاتا ہے، کہ تھوڑی بہت غَیبت (غیر موجودگی) محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے، اسی لئے اس کا اثر ہے۔

دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کرلیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہوجاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالیٰ شَانُہٗ نے اپنے کلام پاک میں ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ﴾ (المطففین: ۱۴) سے ارشاد فرمایا ہے①، کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہوگئے، ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کرلیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے، تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے، مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سوّر کھانے کو کہا جائے، تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں، تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لئے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مُقید (قید) ہوجانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر مُتمرّد (سرکش) اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو، تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔ اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولیٰ ہے اور ہر شخص اس کو غور کرسکتا ہے اور تجربہ کرسکتا ہے، کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لئے یا کسی معصیت سے بچنے کیلئے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے، جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہوجاتی ہے۔

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف

---

① ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب ذکر الذنوب: ۴۲۴۴

لوگوں کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی فُسّاق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس (قید) ہو جاتے ہیں۔

پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کیلئے ہو سکتی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختمِ رمضان کا ہے۔

(۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم: اُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقٰى دَرَجَةً، قَالَ: اٰمِيْنَ۔ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ، قَالَ: اٰمِيْنَ۔ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: اٰمِيْنَ۔ فَلَمَّا نَزَلَ، قُلْنَا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهٗ، قَالَ: إِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَرَضَ لِيْ، فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهٗ، قُلْتُ: اٰمِيْنَ۔ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ، قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْتُ: اٰمِيْنَ۔ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهٗ أَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ۔ قُلْتُ: اٰمِيْنَ

کعب بن عُجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا، تو فرمایا: آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا، تو فرمایا: آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا، تو پھر فرمایا: آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرئیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے (جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو) انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا: آمین۔

(حسن بالشواهد)

رواه الحاكم في المستدرک: کتاب البر والصلة: ۷۲۵۶، ص (۱۷۰/۴)، وقال: صحيح الإسناد۔ وأقر عليه الذهبي۔ كذا في الترغيب: كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم: ۱۴۲۷، ص (۴۲۴/۱)۔ **وقال السخاوی: رواه ابن حبان في ثقاته**، باب الميم، (۴۲۸۷)۔ **وصححه، والطبراني في الكبير**، باب الكاف: ۳۱۵، (۴۳۴۷/۱۲)۔ والبخاري في برالوالدين، الأدب المفرد، باب من أدرک والديه: ۲۱، (۲۱/۱)۔ **والبيهقي في الشعب**، في الباب الخامس عشرفی تعظيم النبي عليه السلام، فصل في معنى الصلوٰة عليه السلام: ۱۴۷۱، (۱۳۴/۳)۔ **وغيرهم، ورجاله ثقات، وبسط طرقه۔ وروى الترمذي عن أبي هريرة**، أبواب الدعوات، باب قوله: رغم أنف رجل: ۳۵۴۵، (۸۰۰۵)۔ **بمعناه، وقال ابن حجر: طرقه كثيرة، كما في المرقاة**، كتاب الصلوٰة، باب الصلوٰة على النبي عليه السلام، (۷۴۵/۲)۔

پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا: آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا کہ آمین۔

ف: اس حدیث میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تین بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس ﷺ نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرئیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی اور پھر حضور اقدس ﷺ کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماویں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ ''دُرِّ منثور'' کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور ﷺ سے کہا کہ آمین کہو۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: آمین ①، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔

اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے، کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بداعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کیلئے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تامل ہے، اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے

---

① المعجم الکبیر، باب الجیم، قیس بن الربیع: ۲۰۲۲

کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ واستغفار کرے۔

دوسرا شخص جس کیلئے بددعا کی گئی، وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم ﷺ کا ذکرِ مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم ﷺ کا ذکرِ مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جس کے سامنے حضور ﷺ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے ❶۔ نیز جفاکار ❷ اور جنت کا راستہ بھولنے ❸، والا حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے ❹۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کا چہرۂ مبارک نہ دیکھے گا ❺۔

محققین علماء نے ایسی روایات کی تاویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لئے آپ ﷺ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ ﷺ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر وتقریر ان کا احصاء (احاطہ) کر سکے، اس کے علاوہ آپ ﷺ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موزوں معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو گی کہ جو شخص نبی کریم ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ شَانُہٗ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں ❻۔ نیز ملائکہ کا اس کے لئے دعا کرنا ❼، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا ❽، اُحد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا ❾، شفاعت کا اس کے لئے واجب ہونا ❿، وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں۔ نیز اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصہ سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے دیکھ لینا، وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں"۔

ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگیٔ معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول

---

❶ ترمذی، ابواب الدعوات: ۳۵۴۶

❷ مصنف عبد الرزاق، باب الصلوٰۃ علی النبی، ۳۱۲۱

❸ ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ: ۹۰۸

❹ المعجم الکبیر، باب العین، ۱۲۵۵۱

❺ القول البدیع، ص ۵۳

❻ مسلم: ۱۱

❼ مسند احمد: ۱۵۶۸۰

❽ سنن نسائی، الفضل فی الصلوٰۃ: ۱۲۹۷

❾ مصنف عبد الرزاق: ۱۵۳

❿ مسند احمد، رویفع بن ثابت: ۱۶۹۹۱

" القول البدیع

کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کا ذکرِ مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔

تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے، علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نرمی کرے۔ اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے تو اس کی حفاظت کر، یا اس کو ضائع کر دے ①۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا جہنم ②، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے ③۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں ④۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لئے جنت ہے ⑤۔

---

① ابن ماجہ، کتاب الطلاق: ۲۰۸۹
② ابن ماجہ، کتاب الادب: ۳۶۶۲
③ شعب الایمان، برّ الوالدین: ۷۸۵۶
④ مستدرک حاکم، البر والصلوۃ: ۷۲۶۳
⑤ المعجم الکبیر، طلحہ بن معاویہ: ۸۱۶۲

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے ❶۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو، تو ان کیلئے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع (فرمانبردار) شمار ہو جاتا ہے ❷۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے ❸۔

(۴) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمًا وَّحَضَرَنَا رَمَضَانُ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ، يَغْشَاكُمُ اللّٰهُ فِيْهِ، فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ، يَنْظُرُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلٰى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ، وَيُبَاهِيْ بِكُمْ مَلٰئِكَتَهُ، فَأَرُوْا اللّٰهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

(رجاله ثقات ماعدا محمد بن أبي قيس، ولم أجد من ترجمه)

حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شَانُہٗ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمتِ خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔

رواه الطبراني في مسند الشاميين، رقم الحديث: ۲۲۳۸، (۳/ ۲۷۱)۔ **ورواه ثقات إلا أن محمد بن قيس لايحضرني فيه جرح ولا تعديل، كذافي الترغيب**، كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم، رقم الحديث: ۵۹۲، (۱/ ۴۲۷)۔

ف: تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے۔ تفاخر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاویں۔ فخر کی بات نہیں تحدیث بالنعمۃ (نعمت کے شکر) کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں

---

❶ الترمذی، ابواب البر والصلہ: ۱۸۸۹

❷ شعب الایمان، باب فی بر الوالدین: ۷۹۰۲

❸ ترمذی، ابواب البر والصلہ: ۱۹۰۳

کر سکتا، مگر اپنے گھرانہ کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ پندرہ بیس پارے روزانہ بے تکلف پورے کرلیتی ہیں۔ حق تعالیٰ شانُہٗ اپنی رحمت سے قبول فرماویں اور زیادتی کی توفیق عطا فرماویں۔

(۵) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عُتَقَاءَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُّسْتَجَابَةً۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے (جہنم کے) قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

(حسن بالشواهد)

رواه البزار، كشف الأستار عن زوائد البزار، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، رقم الحديث: ۹۶۲، (۱/۴۵۸)۔ **كذا في الترغيب**، كتاب الصوم، باب الترغيب في الصوم، رقم الحديث: ۱۴۴۳، (۱/۴۳۰)۔

ف: بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے ❶۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ❷، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں، کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، افطار کی مشہور دعا یہ ہے:

"اَللّٰهُمَّ لَکَ صُمْتُ وَبِکَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْکَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ" ❸

(ترجمہ) اے اللہ تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔

حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: **" اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ "** ❹ (ترجمہ) اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے **"يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِيْ"** ❺ (ترجمہ) اے وسیع عطا والے! میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں

---

❶ شعب الایمان، فضائل الصوم، ۳۳۲۳

❷ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصائم لا ترد دعوتہ: ۱۷۵۱

❸ مرقاۃ، باب فی مسائل متفرقۃ من کتاب الصوم، ۱۹۹۴

❹ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصائم لا ترد دعوتہ: ۱۷۵۳

❺ مرقاۃ، کتاب الصوم، مسائل متفرقۃ، ص (۴۔۱۳۷۸)۔

روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں، اجابتِ دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضروریات کیلئے دعا فرماویں۔ یاد آجاوے تو اس سیاہ کار کو بھی شامل فرمالیں، کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔

چشمہ فیض سے گر ایک اشارا ہو جائے
لطف ہو آپ کا اور ہمارا کام ہو جائے

(٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ثَلٰثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَآءِ، وَيَقُوْلُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِيْ لَاَ نْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شَانُہٗ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کیلئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہو جائے

(صحیح بالشواھد)

رواه احمد في مسنده، مسند أبي هريرة: ۸۰۴۳، (۴۱۰/۱۳)۔ **والترمذي في** أبواب الدعوات، باب اي الكلام أحب إلى الله: ۳۵۹۸، ص (۱۸۷)۔ **وحسنه وابن خزيمة في صحيحه في** كتاب الصوم، باب ذكر استجابة الله: ۱۹۰۱، (۹۱۷/۲)۔ وابن حبان في صحيحه في باب وصف الجنة، ذكر الاخبار عن وصف بناء الجنة: ۴۳۸۷، (۳۹۶/۱۶)۔ **في صحيحهما** كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ۱۴۴۴، (۴۳۰/۱)۔

ف: دُرِّ منثور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا ❶۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے ❷۔

ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شَانُہٗ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرمادیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو ❸۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ

---

❶ شعب الایمان، فضائل شہر رمضان، ۳۳۵۳

❷ شعب الایمان، فضائل شہر رمضان: ۳۳۵۲

❸ شعب الایمان، فی لیلۃ العیدین، ۳۴۴۵

ہے، اور سچے رسول ﷺ کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کیلئے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیئے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطیکہ قطعِ رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالیٰ شَانُہٗ کے یہاں سے تین چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے: یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹادی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصہ میں لگادیا جاتا ہے ❶۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شَانُہٗ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے! میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹادی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا اور فلاں غم کے دفع ہونے کیلئے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا۔ میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لئے متعین کیا۔ حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر ہر دعا یاد کرائی جاوے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جاوے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش! دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ❷۔

غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہ ہونا چاہیئے۔

اس رسالہ کے ختم پر جو لمبی حدیث آرہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالیٰ شَانُہٗ بندہ ہی کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لئے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے، تو مرحمت فرماتے ہیں ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابلِ لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں، کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کے عالی دربار میں

---

❶ مسند احمد، مسند ابی سعید خدری، ۱۱۱۳۳

❷ شعب الایمان، ذکر فصول فی الدعاء، ۱۰۹۳

بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصہ میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر روتی پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا! اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے ❶، بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا ❷۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے! متوجہ ہو اور آگے بڑھ۔ اور اے برائی کے طلبگار! بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے ❸۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لئے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، منجملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یاربِّ یاربِّ کرتے ہیں مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے ❹۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مُستجابُ الدّعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کیلئے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی، جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے، تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔

---

❶ مسلم: کتاب الزهد والرقاق، باب حدیث جابر: ۳۰۰۹

❷ المعجم الاوسط، فضائل شهر رمضان، ۳۳۵۵

❸ شعب الایمان: فضائل شهر رمضان، ۳۳۳۴

❹ مسلم، کتاب الزکوۃ، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب: ۱۰۱۵

اس کے ساتھ ہمارے زمانہ کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہیں۔ ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔

(۷) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شَانُہٗ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔

(صحیح بالشواهد)

رواه الطبراني في الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد: ۶۴۳۴، ص (۲۸۷/۶)۔ **وابن حبان في صحيحه**، في كتاب الصوم، باب السحور: ۱۵۳، (۲۰۹/۱)۔ كذافي الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في السحور: ۱۰۶۶، (۴۵۶/۱)۔

ف: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام واحسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں، امت کیلئے ثواب کی چیز بنادیا۔ اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے سترہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اوراس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لئے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، صاحبِ کشّافؒ نے اخیر کے چھٹے حصہ کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو چھ حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروبِ آفتاب سے طلوعِ صبح صادق تک بارہ گھنٹے ہوں تو اخیر کے دو گھنٹے سحر کا وقت ہے اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطیکہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہلِ کتاب (یہود و نصاریٰ) کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے ❶۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، کہ اس میں برکت ہے ❷۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں، اور ثرید میں اور سحری کھانے میں ❸۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو

---

❶ مسلم، باب فضل السحور، ۱۰۹۶

❷ بخاری، کتاب الصوم، باب برکۃ السحور: ۱۹۲۳

❸ المعجم الکبیر، سلیمان التیمی، ۶۱۲۷

مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور ثرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے، جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے، تیسرے سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لئے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ! برکت کا کھانا کھالو❶۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو❷۔

حضرت عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے، جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا❸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوہارہ ہی کھا لے، یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے❹۔ اس لئے روزہ داروں کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیئے، کہ اپنی راحت اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لئے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارہ ہو، یا ایک گھونٹ پانی❺۔ نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔❻ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں: اتباعِ سنت، اہلِ کتاب کی مخالفت، کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔

نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بد خلقی پیدا ہو جاتی ہے اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آجائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیتِ دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔

ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کو سحور کے مسئلہ میں کلام ہے کہ وہ مقصدِ روزہ کے

---

❶ ابو داؤد، کتاب الصوم، باب من سمی السحور: ۲۳۴۴
❷ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی السحور: ۱۶۹۳
❸ سنن نسائی، باب وجوب الصیام، فضل السحور: ۲۱۶۲
❹ صحیح ابن حبان، باب السحور، ۳۴۷۶
❺ مسند الشامیین، ابرھیم بن ابی عبلہ، ۱۶
❻ ترمذی، ابواب الزھد، ۲۳۸۰

خلاف ہے، اس لئے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کیخلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں، اس کے علاوہ حسبِ حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قولِ فیصل (فیصلہ کن بات) بھی یہی ہے کہ اصل سحور و افطار میں تقلیل (کمی کرنا) ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کہ ان کے لئے تقلیل طعام منافعِ صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیلِ علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لئے ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں، کہ علمِ دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے، اسی طرح ذاکرین کی جماعت، علیٰ ہذا دوسری جماعتیں جو تقلیلِ طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں۔

نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمادیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں ①، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آپڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضُعف اور کسل (سستی) پیدا نہ ہو، وہاں تقلیلِ طعام ہی مناسب ہے۔ شرحِ اقناع میں علامہ شَعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لئے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لئے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔

شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبد اللہ تُستری رحمۃ اللہ علیہ پندرہ روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباعِ سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن (اللہ والے) دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ (ایسے) دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزہ کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات

---

① سنن نسائی، باب وجوب الصیام: ۲۲۵۸

اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔

(۸) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ إِلَّا الْجُوْعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ إِلَّا السَّهَرُ۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے (کی مشقت) کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔

(صحیح)

رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ماجاء في الغيبة، : ۱۶۹۰، (۲/۳۲۰)۔ **واللفظ له والنسائي في السنن الكبرى**، كتاب الصيام، باب ثواب من فطر صائماً: ۳۳۱۹، (۳/۳۷۵)۔ في صحيحه، في وابن خزيمة، كتاب الصيام، باب نفي ثواب الصوم: ۱۹۹۷، (۹۵۸)۔ **والحاكم** في كتاب الصوم، : ۱۵۷۱، (۱/۵۹۶)۔ وقال على شرط البخاري، وأقر عليه الذهبي۔ **ذكر لفظهما المنذري في الترغيب**، كتاب الصوم، باب ترهيب الصائم من الغيبة، : ۱۵۷۴، (۱/۴۶۱)، بمعناه۔

ف: علماء کے اس کی شرح میں چند اقوال ہیں: اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مالِ حرام سے افطار کرتا ہے، کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔

دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے، لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی اکرم ﷺ کے ارشادات جامع ہوتے ہیں یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ بھی۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی، مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی، تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت کے لئے جاگا تو وہ بیکار ہے۔

(۹) عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ رضی اللہ عنہ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، يَقُوْلُ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا۔

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کیلئے ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔

(حسن)

رواه النسائي في كتاب الصيام: ۲۲۳۵، (۴/۱۶۸)۔ وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ماجاء في فضل الصيام: ۱۶۳۹، (۲/۲۹۳)۔

وابن خزيمة في كتاب الصيام، باب الاجتنان بالصوم من النار: ۱۸۹۲، (۹۱۳/۲)۔ **والحاكم في** كتاب التفسير، تفسير سورة السجدة: ۱۶۳۷، (۱۴۱/۴)۔ **وصححه على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي والفاظهم مختلفة حكاها المنذري في الترغيب**، كتاب الصوم، باب الترهيب الصائم من الغيبة: ۱۵۷۲، (۴۶۰/۱)۔

ف: ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے ❶۔ دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے ❷۔

ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے ❸۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں روزہ کے کاٹنے کے لئے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی، میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ، سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر روزہ کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔

مشائخ نے روزہ کے آداب میں چھ امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے: اول نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا ذکر کیا اور اسی طرح کسی لہو ولعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالیٰ جَلَّ شَانُہٗ اس کو ایسا نورِ ایمانی نصیب فرماتے ہیں، جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے ❹۔ صوفیاء نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے، جو دل کو حق تعالیٰ شَانُہٗ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔

دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بد گوئی، بد کلامی، جھگڑا، وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لئے

---

❶ شعب الایمان، کتاب الصیام، ۳۳۰۷

❷ سنن نسائی، کتاب الصیام: ۲۲۳۱

❸ المعجم الاوسط، من اسمہ عبدان، ۴۵۳۶

❹ المعجم الکبیر، باب العین: ۱۰۳۶۲

ڈھال ہے، اس لئے روزہ دار کو چاہیئے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسخر جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے ❶، یعنی دوسرے کی ابتداء کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف، ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھادے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابلِ برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ کرامؓ نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تو حضور ﷺ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شَانُہٗ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں ❷۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مُتَرَشّح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوگئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے، کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے، اس لئے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے، تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں۔ بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شَانُہٗ نے اپنے کلامِ پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی ❸۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں

---

❶ کتاب الصوم، باب فضل الصوم: ۱۸۹۴

❷ مسند احمد، حدیث عبید مولیٰ النبی ﷺ: ۲۳۶۵۴

❸ الدر المنثور عن عبد بن حمید، الحجرات، ۱۴

رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیادار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہارِ واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔

نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعۃً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعۃً موجود نہ ہو، تب تو بہتان ہے ❶۔ ایک مرتبہ نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذابِ قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ❷۔ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ سود کے ستر سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے ❸ اور ایک درہم سود کا پینتیس زنا سے زیادہ سخت ہے اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے ❹۔

احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ مُعتدبہ (معتبر) روایات جمع کروں، اس لئے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پُر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے اس لئے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائیں اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیہ کار کو بھی محفوظ فرمائیں، کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔

کبر و نخوت جہل و غفلت حقد و کینہ بد ظنی کذب و بد عہدی ریا و بغض و غیبت دشمنی
کون بیماری ہے یارب جو نہیں مجھ میں ہوئی عافنی من کل داء و اقض عنی حاجتی
اِنَّ لِیْ قَلْبًا سَقِیْمًا اَنْتَ شَافٍ لِّلْعَلِیْلِ

تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے، وہ کان کی حفاظت ہے ہر مکروہ چیز سے، جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد

---

❶ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الغیبۃ: ۲۵۸۹

❷ بخاری، کتاب الجنائز، باب عذاب القبر: ۱۳۷۸

❸ شعب الایمان، باب قبض الید، ۵۱۳۲

❹ (الاسماء والکنی، ابوانس عمران بن انس، ص) ۴۲۴

ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں ❶۔ چوتھی چیز باقی اعضاءِ بدن، مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا اور اسی طرح اور باقی اعضاءِ بدن کا۔ اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا، جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کیلئے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے، کہ اس مرض کے لئے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔

پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم (پیٹ) سَیر ہو جائے، اس لئے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزہ سے قوتِ شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوتِ نورانیہ اور ملکیہّ کا بڑھانا ہے۔ گیارہ مہینہ تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافیٔ مافات (گذشتہ کی تلافی) میں اور سحر کے وقت حفظِ ماتقدم (پیشگی انتظام) میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزہ کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لئے خوِید (غلہ) کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ کی غرض یعنی قہرِ ابلیس اور شہوتِ نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔

حقیقۃً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ عمدہ اشیاء رمضان کیلئے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقہ کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوتِ شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آجاتی ہے اور مقصد کیخلاف ہو جاتا ہے۔ روزہ کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا، یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے

---

❶ احیاء العلوم: ۱/ ۲۳۵

راستوں کو بھوک سے بند کرو❶۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے، جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزہ سے فقراء کے ساتھ تشبّہ اور ان کے حال پر نظر ہے۔ وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدہ کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ بِشَر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑا پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کرلوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخِ صوفیاء نے عامۃً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کرے جیسا کہ مُتَنَعِّم لوگوں کی عادت ہے، کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو، تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین و فقراء پر ترس آسکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جَلَّ شَانُہٗ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پُر ہونا ناپسند ہے❷۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لئے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تُل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کیلئے رکھے اور ایک تہائی پینے کیلئے اور ایک تہائی خالی❸۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے❹۔

میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نَوَّرَ اللہُ مَرْقَدَہٗ کو پورے رمضان المبارک دیکھا ہے کہ افطار و سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً ڈیڑھ چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی۔ دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی کئی دن

---

❶ احیاء العلوم: ۱/ ۲۳۲

❷ مسند احمد، حدیث المقدام بن معد یکرب، ۱۷۱۸۶

❸ السنن الکبری للنسائی، ذکر القدر الذی یستحب: ۶۷۳۷

❹ بخاری، کتاب الصوم: ۱۶۶۹

مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کے چند فنجان (پیالی) کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقدہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ضُعف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے، تو حضرت نے فرمایا کہ الحمد للہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سیہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرمادیں تو زہے نصیب۔ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ندارند تن پروراں آگہی   کہ پُر معدہ باشد ز حکمت تہی

چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لئے ضروری فرماتے ہیں، یہ ہے کہ روزہ کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابلِ قبول ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہوگئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے ①۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا (ان کے مِن جُملہ) ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اللہ کے جو جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے، وہ اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستہ میں قتال کیا، حتیٰ کہ شہید ہوگیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا، اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لئے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا اس سے انعاماتِ الٰہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا، جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔

---

① احیاء العلوم، فصل فی ذم تلاوۃ الغافلین، ۱/ ۲۷۴

ارشاد ہو گا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لئے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم ہو گا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا❶۔ اللہ محفوظ فرمائیں کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔

اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لئے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیئے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ شانُہٗ اس کو اپنی رضا کا سبب بنالیں۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر، اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امرِ آخر ہے، اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔

خوبی ہمیں کرشمہ وناز وخرام نیست بسیار شیوہاست بتاں راکہ نام نیست

یہ چھ چیزیں عام صلحاء کے لئے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ خواص اور مقربین کے لئے ان کے ساتھ ایک ساتویں چیز کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزہ کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کیلئے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزہ میں شام کو افطار کے لئے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لئے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آجاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لئے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس کرنا بھی بے محل ہے اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: ۱۸۳) میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز، آنکھ کا روزہ لَہو ولعب کی چیزوں سے احتراز ہے اور ایسے ہی باقی اعضاء، حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص وشہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حبِ دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز اور سرِّ خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔

---

❶ مسلم، کتاب الامارة، باب من قاتل للریاء: ۱۹۰۵

(۱۰) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهٖ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ، وَإِنْ صَامَهٗ۔

(إسناده ضعيف)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص (قصداً) بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔

رواه احمد في مسنده، مسند أبي هريرة،: ۱۰۰۸۰، (۱۰۱/۱٦) **والترمذي في** أبواب الصوم، باب ما جاء في الأفطار متعمدا: ۷۲۳، ص (۱۷۹)۔ **وابوداود،** كتاب الصوم، باب التغليظ في من أفطر عمدا: ۲۳۸۸، (۱٦۵/۳)۔ **وابن ماجه** في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من افطر يوما: ۱٦۷۲، (۳۱۳/۲)۔ **والدارمي** في كتاب الصوم، باب من افطر يوماً: ۱۷۱۴، (۱۱/۲)۔ **والبخاري** في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان: ۱۸۳۳، (٦۸۳/۲)۔ **في ترجمة باب، كذا في المشكوة،** كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم: ۲۰۱۳، (۲۲٦/۱) **قلت: وبسط الكلام على طرقه العيني في شرح البخاري،** عمدة القاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، (۲۲۱۱)۔

ف: بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بناء پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلاوجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے، مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں، تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ سے قضاء ہو جائے گی۔ اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا، تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ دو مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے، البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آسکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آسکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانہ کے بعض فُسّاق کی حالت ہے تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکانِ اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوۃ، حج ❶۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان پانچوں میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کلمۂ شہادت، نماز

---

❶ بخاری، کتاب الایمان: ۸

اور روزہ، جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے ①۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقیّد کیا ہو یا کوئی تاویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔

فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں، دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بد دین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیئے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطیکہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں، جس فرض کو ادا نہیں کرتا، اس کا گناہ ہوتا ہے اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ بات کا تمسخر (مذاق اڑانا) بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز روزہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے۔ اس لئے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہر گز نہ کہے اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے، تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذر کے کھاوے اس کو قتل کیا جاوے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو، کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہارِ نفرت کرے اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالیٰ شَانُہٗ اپنے مطیع بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیں کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں ہوں۔

فصل اول میں دس حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کیلئے ایک بھی کافی ہے، چہ جائیکہ ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ اور نہ ماننے والے کیلئے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے، حق تعالیٰ شَانُہٗ سب

---

① مسند ابی یعلیٰ، اول مسند ابن عباس: ۲۳۴۹

مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین

☆☆☆☆☆☆

فصلِ ثانی

شبِ قدر کے بیان میں

رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ ہزار مہینے کے تراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا تراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا حقیقۃً بہت ہی بڑا انعام ہے، کہ قدر دانوں کیلئے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ دُرِّ منثُور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ جَلَّ شَانُہٗ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی ①۔

اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا، بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ناممکن، اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی ② کہ اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہو جاویں اور ان کو عبادت میں گزار دے، تو گویا آٹھ سو تینتیس (۸۳۳) برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ جَلَّ جلالُہ وعَمَّ نوالُہ نے اس کی تلافی کیلئے اس رات کا نزول فرمایا③۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوبؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت حزقیلؑ، حضرت یوشعؑ، کہ اسّی، اسّی برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی تو

---

① الغرائب الملتقطۃ: ۳۳۷

② شعب الایمان، کتاب الصیام: ۳۳۹۵

③ تفسیر طبری، القدر

حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی ❶۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں اس قسم کے اختلافاتِ روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے، تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہر حال! سببِ نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امتِ محمدیہ کے لئے یہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے ورنہ ۔

تہید ستان قسمت راچہ سود از راہبر کامل
کہ خضر از آبِ حیواں تشنہ می آرد سکندر را

کس قدر قابلِ رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی، البتہ اس رات کی تعیین میں علماءِ امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً پچاس کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتبِ احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لئے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامۃ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔

﴿ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ ﴾ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔

ف: یعنی قرآن پاک لوحِ محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہ ہی ایک بات اس رات کی فضیلت کیلئے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لئے ارشاد فرماتے ہیں ﴿ وَمَاۤ اَدۡرٰكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ﴾ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے“۔ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ ﴿ لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۝ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ ﴾ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ہزار مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ

---

❶ ایضاً

شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ ﴾ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔

علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتداء میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہِ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہاوے، اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالیٰ شانہٗ نے اس قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرمادی، تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی اور آج جب کہ توفیقِ الٰہی سے تُو شبِ قدر میں معرفت الٰہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرہ کی معذرت کرنے کیلئے اترتے ہیں۔

﴿ وَالرُّوْحُ فِيْهَا ﴾ اور اس رات میں روح القُدُس یعنی حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں: جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اس سے حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں، علامہ رازیؒ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کی افضیلت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، جو امتِ محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کیلئے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمتِ خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔

”سننِ بیہقی“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس

شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کیلئے رحمت کی دعا کرتے ہیں ❶۔ ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امرِ خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدمؑ کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا ❷۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ دُرِّ منثُور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰؑ آسمان پر اٹھائے گئے ❸ اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی ❹۔

﴿ سَلٰمٌ ﴾ وہ رات سراپا سلام ہے۔ یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے یا یہ مراد ہے، کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر وفساد وغیرہ سے امن ہے۔

﴿ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وہ رات (ان ہی برکات کے ساتھ) طلوعِ فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورۂ شریفہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل جلالہ کے کلامِ پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا، غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت کیلئے) کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(متفق علیہ)

كذا في الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ۱۰۰۴۔ (۱/۴۳۲)۔ **عن البخاري**، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً: ۱۸۰۲، (۲/۶۷۲)۔ **ومسلم**، كتاب الصوم، باب الترغيب في قيام رمضان: ۱۷۷۶، (۶/۲۸۲)۔

ف: کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی

---

❶ شعب الایمان، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ العیدین: ۳۴۴۴

❷ عمدۃ القاری، باب تحری لیلۃ القدر، ۱۱۔۱۳۴

❸ مسند ابی یعلیٰ، مسند حسن بن علی: ۶۷۵۷

❹ ایضاً

سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشتِ قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا، یہی وجہ ہے کہ جو شخص قربِ الٰہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیثِ بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لئے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بناء پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی، اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے، ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے، جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلاً لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بد اعمالیوں پر ندامت اس کے لئے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لئے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو، یا کوئی اور اجابت (قبولیت) کا موقع ہو، اپنی بد اعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمتِ کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ گناہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جاویں اور یاد آجاوے تو اس سیہ کار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرمالیں۔

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ۔

جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص جو حقیقۃً محروم ہی ہے۔

(حسن)

رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ماجاء في فضل شهر رمضان: ۱۶۴۴، (۲/۲۹۷)۔ **وإسناده حسن إنشاء الله، كذا في الترغيب**، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ۱۴۳۸، (۱/۴۲۸)۔ **وفي المشكوٰة عنه "الآكل محروم"**، كتاب الصوم، الفصل الثالث: ۱۹۶۴، (۱/۴۴۳)۔

ف: حقیقۃً اس کی محرومی میں کیا تامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر اسّی برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقّت ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں اور اگر ذرا سا چسکہ پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا، سینکڑوں راتیں جاگی جاسکتی ہیں۔

الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم ﷺ باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے، جن کا آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے ❶۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور ﷺ کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لئے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کئے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔

تمنا دردِ دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصہ میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔

---

❶ مسلم، باب اکثار العمل: ۲۸۱۹

شرح احیاء میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ چالیس تابعین سے بطریقِ تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے: یا اللہ! آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب و عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المُسیَّب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ پچاس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ! میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان تو ہر تین رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرۂ اخیر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے ①۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے ②، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ (القمر: ٤٦) ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں ساٹھ قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ٥٦) پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کیلئے کچھ مشکل نہیں۔

یہ سلف کے واقعات ہیں۔ اب بھی کرنے والے موجود ہیں، اس درجہ کا مجاہدہ نہ سہی، مگر اپنے زمانہ کے موافق اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونۂ سلف اب بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دورِ فساد میں بھی موجود ہیں، نہ راحت و آرام انہماکِ عبادت سے مانع ہوتا ہے، نہ دنیوی مشاغل سدِ راہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے:

---

① احیاء العلوم

② ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب الھم بالدنیا: ۱۶۹۳

اے ابن آدم! تو میری عبادت کیلئے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہو گا①۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہیں۔

(۳) عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إذا كَانَ لَيلَةَ الْقَدْرِ، نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيهِ السَّلَامُ فِيْ كُبْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ، يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَآئِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ، فَإذا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهٗ، فَقَالَ: يا مَلٰئِكَتِيْ مَا جَزَآءُ أَجِيرٍ وَّفّٰى عَمَلَهٗ؟ قَالُوْا: رَبَّنَا جَزَآؤُهٗ أَنْ يوَفّٰى اَجْرَهٗ۔ قَالَ: مَلٰئِكَتِيْ عَبِيدِيْ وَإمَائِيْ قَضَوْا فَرِيضَتِيْ عَلَيهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَآءِ، وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ، لَأُجِيبَنَّهُمْ، فَيَقُوْلُ: اِرْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَبَدَّلْتُ سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَّهُمْ۔

(ض)

رواه البيهقي في شعب الإيمان، كتاب الصيام، باب ليلة العيدين ويومهما: ۳۴۴۴، (۵/ ۲۹۰)۔ **كذا في المشكوة،** كتاب الصوم، باب ليلة القدر: ۲۰۹۶، (۱/ ۴۷۵)۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرئیل ؑ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کیلئے، جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، (اور عبادت میں مشغول ہے) دعائے رحمت کرتے ہیں اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، تو حق تعالیٰ جَلَّ شَانُہٗ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں (اس لئے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا) اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو! میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے (عید گاہ کی طرف) نکلے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میر عُلُوِّشان کی قسم، میری بلندئ مرتبہ کی

---

① ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی السحور: ۴۱۰۷

قسم! میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عید گاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

ف: حضرت جبرئیلؑ کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآنِ پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالہ کی سب سے اخیر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبرئیلؑ تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں۔ "غالیۃ المواعظ" میں حضرت اقدس شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی "غُنیۃ" سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرئیلؑ کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کیلئے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا، یا سور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے جُنبی (حالت جنابت والا)، یا تصویر ہو۔

مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ کی اتنی بڑی نعمتِ رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔

(۴) عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔

(صحیح)

المشكوٰة، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأول: ۲۰۸۳، (۴۷۲/۱)۔ **عن البخاري**، كتاب الصوم، باب تحري ليلة القدر: ۱۹۱۳، (۷۱۰/۲)۔

ف: جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ اکیسویں رات سے شروع ہوتا ہے، عام ہے کہ مہینہ ۲۹ کا ہو یا ۳۰ کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شبِ قدر کی تلاش ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ راتوں میں کرنا چاہیئے، اگر مہینہ ۲۹ کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی دس کے ہیں، لہٰذا اگر تیس (۳۰) کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر ۲۹ کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ بیسویں شب سے شروع ہوتا ہے اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸ لیکن نبی کریم ﷺ لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے ① اور وہ بالاتفاق اکیسویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لئے بھی جمہور کا قول، اکیسویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے۔ اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ بیسویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ دس گیارہ راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں، جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لئے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔

عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال
صد سال میتواں بہ تمنا گریستن

(۵) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ: خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَّفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ۔

حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شبِ قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھالی گئی، کیا بعید ہے

---

① بخاری، کتاب الاعتکاف: ۲۰۲۵

(صحیح)
مشکوٰة، کتاب الصوم، باب لیلة القدر: ۲۰۹۵، ص (۱/۴۷۴)۔ **عن البخاري**، کتاب الصوم، باب فضل لیلة القدر: ۱۹۱۹، ص (۲/۷۱۱)۔

کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

ف: اس حدیث میں تین مضمون قابلِ غور ہیں: امرِ اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے شبِ قدر کی تعیین اٹھالی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ، جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ضرور۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے ❶۔

دنیادار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جب کہ بہت لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعویدار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور ﷺ کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں، جس کے گھمنڈ میں صلح کیلئے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصلِ اول میں روزہ کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول ﷺ کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ﴿وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا﴾ (الانفال: ۴۶)۔ اور نزاع مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا ❷۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی

---

❶ ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات البین: ۴۹۱۹

❷ ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی من حجر اخاہ: ۴۹۱۴

رحمت سے (نیک اعمال کی بدولت) مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو❶۔ ایک حدیثِ پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے❷۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شبِ برأت میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور ذرا ذرا سے بہانہ سے) مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی: ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے❸۔

ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لئے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں❹۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطہ کی نہیں، مگر چند روایات اس لئے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں، عوام کا ذکر نہیں خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات، اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكٰى وَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ۔

لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترکِ تعلق کرے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا نے ایک مرتبہ حضور صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا مرنے تک ان سے نہیں بولے❺۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شَانُہٗ دانا و بینا ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترکِ تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کسرِ شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔

دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے، وہ حکمتِ الٰہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شبِ قدر کی تعیین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ

---

❶ مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۲۵۶۵

❷ المعجم الاوسط، من اسمہ محمد، ۷۴۱۹

❸ ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ: ۱۳۱۹

❹ ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ: ۹۷۱

❺ مسلم، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ: ۴۴۲

کی طرف سے ہے، اس لئے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لئے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے، اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی رحیم اور کریم ذات بندہ پر ہر وقت مہربان ہے، اگر بندہ اپنی بداعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار و عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنادی جاتی ہے اور اللہ کیلئے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء (پوشیدہ رکھنے میں) میں بھی چند مصالح ارشاد فرمائے ہیں: اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طبائع ایسی ہوتیں کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتیں اور اس صورتِ موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شبِ قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔

دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کئے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا، تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرأت کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، آپ ﷺ نے حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو، تاکہ وضو کرلیں۔ حضرت علی کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہٗ نے جگا تو دیا، مگر حضور ﷺ سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: مبادا انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہو گا①۔ تو اسی طرح حق سبحانہ وتقدّس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے۔

تیسری یہ کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی، تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہیں۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں، ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔

پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جَلَّ شَانُہٗ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا، اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کہ

---

① تفسیر کبیر، القدر

جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شبِ قدر ہے، تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہوسکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادۃُ اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ اسمِ اعظم کو مخفی فرمادیا، اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرمادیا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعیین بھلادی گئی ہو اور اس کے بعد دیگر مصالح مذکور کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے تعیین ہٹادی گئی ہو۔

تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے، وہ شبِ قدر کی تلاش کیلئے تین راتیں ارشاد فرمائی ہیں: نویں، ساتویں، پانچویں، دوسری روایات کے ملانے سے اتنا تو محقَّق ہے کہ یہ تینوں راتیں اخیر عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہیں کہ اخیر عشرہ میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل ۲۵، ۲۷، ۲۹ رات ہوتی ہے اور اگر اخیر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مترشح ہے، تو پھر ۲۹ کے چاند کی صورت میں ۲۱، ۲۳، ۲۵۔ اور ۳۰ کے چاند کی صورت میں ۲۲، ۲۴، ۲۶ ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعیین میں روایات بہت مختلف ہیں اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ پچاس کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایات کے بکثرت اختلاف کی وجہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں، کہ ہر سال نبی کریم ﷺ نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔

چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ کی مجلس میں ایک مرتبہ شبِ قدر کا ذکر آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج کونسی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ۲۲ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو ❶۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عشرۂ اول اور عشرۂ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور ﷺ اور باتوں میں

---

❶ الدر المنثور عن ابن مردویہ، القدر

مشغول ہوگئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا: اجی! یہ تو بتلا ہی دیجیے کہ عشرہ کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے۔ حضور ﷺ اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ شانُہٗ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی سات راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھیو ❶۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے ۲۳ شب متعین طور پر ارشاد فرمائی ❷۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اٹھ! آج شبِ قدر ہے، میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گیا، تو آپ کی نماز کی نیت بندھ رہی تھی اور یہ رات ۲۳ شب تھی ❸۔ بعض روایات میں متعین طور سے ۲۴ شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے ❹۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شبِ قدر کو پا سکتا ہے (یعنی شبِ قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے)، کسی نے اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ ۲۷ رمضان کو ہوتی ہے ❺ اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعینؒ کی رائے ہے کہ وہ ۲۷ شب میں ہوتی ہے۔ اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہی ہے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے، وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور دُرِّ منثور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے یہی نقل کرتے ہیں۔ ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبینؒ کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے، جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کا راجح قول یہ ہے کہ ۲۱ شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔

جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ستائیسویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں

---

❶ شعب الایمان: ۳۳۹۸

❷ المعجم الکبیر، ضمرہ بن عبد اللہ: ۳۳۸

❸ مسند احمد، مسند عبد اللہ ابن عباس: ۲۳۰۲

❹ مسند احمد، حدیث بلال: ۲۳۸۹۰

❺ مسلم، کتاب الصیام: ۷۶۲

دائر رہتی ہے۔ اس لئے کہ میں نے دو مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ ۱۵ کو، اور ایک مرتبہ ۱۹ کو، اور دو مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں ۱۳ کو اور ۱۸ کو اور رمضان کے آخری عشرہ کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لئے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔

ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شبِ قدر سال میں دو مرتبہ ہوتی ہے: ایک وہ رات ہے جس میں احکامِ خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوحِ محفوظ سے اترا ہے، یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا، اس سال رمضان المبارک میں تھی اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے اور دوسری شبِ قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور اخیر عشرہ کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ میرے والد صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقَدَہٗ اسی قول کو راجح فرماتے تھے۔

بہر حال! شبِ قدر ایک ہو یا دو، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں سعی کرنا چاہیئے، نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو چاہیئے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو عشرۂ اخیرہ کو غنیمت سمجھنا چاہیئے، اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیئے، اور اگر خدانخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو ستائیسویں شب کو تو بہر حال غنیمتِ باردہ سمجھنا ہی چاہیئے کہ اگر تائیدِ ایزدی شاملِ حال ہے اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے، تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلہ میں ہیچ ہیں، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو، تب بھی اجر سے خالی نہیں، بالخصوص مغرب عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضروری ہونا چاہیئے، کہ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ دو نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں، تو کس قدر با جماعت نمازوں کا ثواب ملے۔

اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں اگر کوشش کی جاوے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں جو دین کے

درپے ہیں، دین کے لئے مرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور اس کے بالمقابل اغراض دنیویہ میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بے کار اور ضائع، لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیوی اغراض اور بے کار و لغو امور کے حاصل کرنے کیلئے جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ ع

ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

(٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ أَنَّهٗ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: فِيْ رَمَضَانَ، فِي الْعَشْرَةِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنَّهَا فِيْ لَيْلَةِ وِتْرٍ فِيْ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ، أَوْ ثَلٰثٍ وَعِشْرِيْنَ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، أَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ، مَنْ قَامَهَا إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ، وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ، صَافِيَةٌ، سَاكِنَةٌ، سَاجِيَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيْهَا قَمَرًا سَاطِعًا، وَّلَا يَحِلُّ لِنَجْمٍ أَنْ يُّرْمٰى بِهٖ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيْحَتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا، مُسْتَوِيَةٌ، كَأَنَّهَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يَّخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ۔

(حسن بالشواهد)

الدر المنثور تحت: ٢، من سورة القدر۔ **عن أحمد في** مسنده، مسند الأنصار، مسند عبادة بن الصامت: ٢٢٧١٣، (٣٨٦/٣٧)۔ **والبيهقي**، كتاب الصيام، باب الالتماس ليلة

حضرت عُبادۃ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ یا رمضان کی آخر رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں (انوار کی کثرت کی وجہ سے) چاند کھلا ہوا ہے، اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیہ کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ چودھویں رات کا چاند، اللہ جَلَّ شَانُہٗ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت

القدر: ۳۴۱۹، (۲۷۵/۵)۔ **ومحمد بن نصر** في قيام رمضان، باب طلبها في ليلة السابع عشر، (۲۵۷/۱)۔ **وغيرهم۔**

شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ طلوعِ آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔

ف: اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں ذکر ہو چکا ہے، آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں، جن کا مطلب صاف ہے کسی توضیح کا محتاج نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں، جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایاتِ حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابُدّی (ضروری) نہیں ہیں۔ عبدۃ بن ابی لُبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی ستائیس شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا ❶۔ ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا، تو بالکل میٹھا تھا اور یہ تئیس شب کا قصہ ہے۔

مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امورِ کشفیہ سے ہے، جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔

(۷) عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: قُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ۔

(صحيح)

رواه احمد في مسنده، في مسند الأنصار، عن عائشة: ۲۵۴۹۵، ص (۳۱۵/۴۲)۔ **وابن ماجه**، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو: ۳۸۵۰، ص (۲۷۳/۴)۔ والترمذي، أبواب الدعوات: ۳۵۱۳، ص (۷۹۸)۔ **وصححه** كذا في المشكوٰة، كتاب الصوم، باب ليلة القدر: ۲۰۹۰، ص (۲۷۳/۱)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور ﷺ نے اَللّٰھُمَّ سے اخیر تک دعا بتلائی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! تو بیشک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔

---

❶ شعب الایمان، کتاب الصیام، باب التماس لیلۃ القدر: ۳۴۱۶

ف: نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیئے۔

من نگویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناھم کش

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہی کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے، بہ نسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں، بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلاً تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ، وغیرہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ احادیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔

فصلِ ثالث

اعتکاف کے بیان میں

اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی تین قسمیں ہیں: ایک واجب جو مَنّت اور نذر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یونہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر دیا، یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا ہے، نبی کریم ﷺ کی عادتِ شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کیلئے نہ کوئی وقت، نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کرے تو تب بھی جائز ہے، البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمدؒ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

اس لئے ہر شخص کے لئے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد صاحب نَوَّرَ اللّٰہُ مَرْقدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے اور بسا اوقات خدّام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو گی کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے ①۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں ②۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے   یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

اگر حقیقۃً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی کریم ذات تو بخشش کیلئے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔

---

① بخاری، کتاب الاعتکاف، ۲۰۴۴

② شعب الایمان، کتاب الاعتکاف: ۳۶۸۴

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے　　در تری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے
خدا کی دَین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال　　کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

اس لئے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے، تو اس کے نوازے جانے میں کیا تامل ہو سکتا ہے اور اللہ جَلَّ شَانُہٗ جس کو اکرام فرما دیں اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے، اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ

جس گل کو دلِ دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں　　یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے

ابن قیّم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلہ میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ اُنس کے بدلہ اللہ کے ساتھ اُنس پیدا ہو جاوے، کہ یہ اُنس قبر کی وحشت میں کام دے، کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مُونس، نہ دل بہلانے والا، اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو گا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن　　بیٹھا رہوں تصور جاناں کئے ہوئے

صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں حدِ احصاء (شمار) سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہا سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولیٰ کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔

پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں　　سر زیر بار منت درباں کئے ہوئے

نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اور جو میری طرف (آہستہ بھی) چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں①۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا

---

① ترمذی، ابواب الدعوات: ۳۶۰۳

اکرام کرتا ہے، نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔

مسئلہ: مرد کیلئے سب سے افضل جگہ مسجدِ مکہ ہے، پھر مسجدِ مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجدِ جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبینؒ کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو، عورت کیلئے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیئے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو، تو کسی کونہ کو اس کیلئے مخصوص کرلے۔ عورتوں کیلئے اعتکاف بہ نسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے، کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اسکے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهٗ، فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ، أَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيْتُ فَقِيْلَ لِيْ: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَقَدْ أُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ مَآءٍ وَّطِيْنٍ مِّنْ صَبِيْحَتِهَا، فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ،

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرمارہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شبِ قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے (یعنی فرشتہ) نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلادی گئی تھی پھر بھلادی گئی (اس کی علامت یہ ہے) کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے

قَالَ: فَمَطَرَتِ السَّمَآءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى جَبْهَتِهٖ أَثَرُ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ۔

(متفق علیہ)

بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم ﷺ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر اکیس (۲۱) کی صبح کو دیکھا۔

المشکوۃ، کتاب الصوم، باب لیلۃ القدر: ۲۰۸۶، (۴۷۲/۱)۔ **عن المتفق علیہ**، بخاری، کتاب صفۃ الصلوٰۃ، باب السجود علی الانف: ۸۰۷، (۲۸۰/۱)۔ مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صوم السنۃ: ۱۱۶۷، (۸۲۴/۲)۔ **باختلاف اللفظ۔**

ف: نبی کریم ﷺ کی عادتِ شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے، اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا ہے، اس سال بیس روز کا اعتکاف فرمایا تھا❶۔ لیکن اکثر عادتِ شریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لئے علماء کے نزدیک سنت موکدہ وہی ہے۔ حدیثِ بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شبِ قدر کی تلاش ہے اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لئے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو، تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔

نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لئے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہٰذا شبِ قدر کے قدر دانوں کیلئے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم ﷺ اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اخیر عشرہ میں حضور ﷺ لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا اِحیاء (شب بیداری) فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے❷۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکلیہ احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے۔

(۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ معتکف

---

❶ بخاری، کتاب الاعتکاف: ۲۰۴۴

❷ بخاری، کتاب الاعتکاف: ۲۰۲۴

ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرٰی لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔

گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کیلئے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کیلئے۔

(إسناده ضعيف)

المشكوٰة، باب الاعتكاف، الفصل الثالث: ۲۱۰۸، (۱/۴۷۸)۔ **عن ابن ماجه**، كتاب الصيام، باب ثواب الاعتكاف: ۱۷۸۱، (۳۶۵/۲)۔

ف: دو مخصوص منافع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں: ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے، اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ، ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لئے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا، ان کا اجر بغیر کئے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور دس عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ درحقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دار برستی ہے۔ ع

بہا نمے دہد بہانہ مے دہد

مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں ' ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے، کہ دین کی وقعت ہی ہمارے قلوب میں نہیں۔

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

(۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهٗ كَانَ مُعْتَكِفًا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ لَهٗ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يَا فُلَانُ، أَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِيْنًا۔ قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجدِ نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے (چپ چاپ) بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور

اللهِ، لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌّ، وَلَا، وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ، مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَفَلَا اُكَلِّمُهٗ فِيكَ؟ قَالَ: اِنْ اَحْبَبْتَ. قَالَ: فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ، اَنَسِيتَ مَا كُنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ ﷺ وَالْعَهْدُ بِهٖ قَرِيبٌ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ مَّشٰى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَلَغَ فِيهَا، كَانَ خَيْرًا لَّهٗ مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلٰثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.

(حسن بالمتابعة)

رواه الطبراني في الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد: ۷۳۲۶، (۷/۲۲۰)۔ **والبيهقي، واللفظ له، في شعب الإيمان**، كتاب الصيام، فصل في من فطر صائماً: ۳۶۷۹، (۵/۴۳۵)۔ **والحاكم** مختصراً، وقال: صحيح الإسناد، كتاب الأدب: ۷۷۰۶، (۴/۳۰۰) وكذب الذهبي بعض رواته۔ **وكذافى الترغيب**، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ۱۶۵۰، (۲/۹۶) **وقال السيوطي في الدر**، تحت الآية: ۲۲۲، من سورة البقرة، **صححه الحاكم وضعفه البيهقي**۔

پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا: اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے! میں بیشک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور (نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم! میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سن کر جوتہ پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا: بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے (ﷺ) سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، (یہ لفظ کہتے ہوئے) ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور ﷺ فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کیلئے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، تو حق تعالیٰ شَانُہٗ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت

سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ (اور جب ایک دن
کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو دس برس
کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہو گی)۔

ف: اس حدیث سے دو مضمون معلوم ہوئے: اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ہر خندق اتنی بڑی ہے، جتنا سارا جہاں اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہو گا اتنا ہی اجر زیادہ ہو گا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کشف الغُمّہ“ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرۂ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو دو حج اور دو عمروں کا اجر ہے ① اور جو شخص مسجدِ جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، کہ نماز، قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ شانہٗ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔

دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے، کہ دس برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے، اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضاء ممکن ہے، اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جَلَّ شَانُہٗ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے، اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو اور نصائح کے ساتھ ”وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ“② بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از درِ حق بہر استقبال می آید

اس جگہ ایک مسئلہ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لئے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضاء واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتِ بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے ③۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ایثار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لئے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی

---

① شعب الایمان، باب فی الاعتکاف، ۳۹۶۶

② البخاري، کتاب الزکاة۔ باب أخذ الزکوة من الأغنیاء: ۱۴۹۶

③ مسلم، کتاب الحیض، باب جواز غسل الحائض: ۲۹۷

جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ذکر کرکے اس رسالہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

(۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُبَخَّرُ وَتُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ، لِدُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا: الْمُثِيْرَةُ، فَتُصَفِّقُ وَرَقُ أَشْجَارِ الْجِنَانِ وَحَلَقُ الْمَصَارِيْعِ، فَيُسْمَعُ لِذٰلِكَ طَنِيْنٌ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَتَبْرُزُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ، حَتّٰى يَقِفْنَ بَيْنَ شُرَفِ الْجَنَّةِ، فَيُنَادِيْنَ: هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللّٰهِ فَيُزَوِّجَهُ؟ ثُمَّ يَقُلْنَ الْحُوْرُ الْعِيْنُ: يَا رِضْوَانَ الْجَنَّةِ، مَا هٰذِهِ اللَّيْلَةُ؟ فَيُجِيْبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ: هٰذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لِلصَّائِمِيْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا رِضْوَانُ، افْتَحْ أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَيَا مٰلِكُ، أَغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِيْمِ عَنِ الصَّائِمِيْنَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ ﷺ، وَيَا جِبْرَئِيْلُ إِهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ، فَاصْفِدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِيْنِ، وَغُلَّهُمْ بِالْأَغْلَالِ، ثُمَّ

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کیلئے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام "مُثیرہ" ہے (جس کے جھونکوں کی وجہ سے) جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہٗ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ "رضوان" سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، کہ رمضان المبارک کی

اقْذِفْهُمْ فِي الْبِحَارِ، حَتّٰى لَا يُفْسِدُوْا عَلٰى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ حَبِيْبِي ﷺ صِيَامَهُمْ، قَالَ: وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِيْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهٗ سُؤْلَهٗ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوْبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهٗ؟ مَنْ يُّقْرِضُ الْمَلِيَّ غَيْرَ الْعَدُوْمِ، وَالْوَفِيَّ غَيْرَ الظَّلُوْمِ، قَالَ: وَلِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فَإِذَا كَانَ اٰخِرُ يَوْمٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْتَقَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلٰى اٰخِرِهٖ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، يَأْمُرُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جِبْرَئِيْلَ فَيَهْبِطُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ، وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرُ، فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَلَهٗ مِائَةُ جَنَاحٍ، مِّنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَيَنْشُرُهُمَا فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَيَحُثُّ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، فَيُسَلِّمُوْنَ عَلٰى كُلِّ قَائِمٍ، وَّقَاعِدٍ وَّمُصَلٍّ وَّذَاكِرٍ،

پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد ﷺ کی امت کیلئے (آج) کھول دیئے گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ ”رضوان“ سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے اور ”مالک“ (جہنم کے داروغہ) سے فرمادیتے ہیں، کہ احمد ﷺ کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرئیلؑ کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد ﷺ کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہٗ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہٗ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی

وَيُصَافِحُوْنَهُمْ، وَيُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى دُعَاءِهِمْ، حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرَئِيْلُ: مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ، الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، فَيَقُوْلُوْنَ: يا جِبْرَئِيْلُ، فَمَا صَنَعَ اللهُ فِيْ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ ﷺ؟ فَيَقُوْلُ: نَظَرَ اللهُ إِلَيهِمْ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، فَعَفَا عَنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً۔ فَقُلْنَا: يارَسُوْلَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَجُلٌ مُّدْمِنُ خَمْرٍ، وَّعَاقٌّ لِوَالِدَيهِ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَّمُشَاحِنٌ، قُلْنَا: يارَسُوْلَ اللهِ، مَا الْمُشَاحِنُ؟ قَالَ: هُوَ الْمُصَارِمُ، فَإِذا كَانَتْ لَيلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيلَةَ الْجَائِزَةِ، فَإِذا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ، بَعَثَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلٰئِكَةَ فِيْ كُلِّ بِلَادٍ، فَيَهْبِطُوْنَ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَقُوْمُوْنَ عَلٰى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَيُنَادُوْنَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، فَيَقُوْلُوْنَ: يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، أُخْرُجُوْا إِلٰى رَبٍّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ، وَيَعْفُوْ عَنِ الْعَظِيمِ، فَإِذا بَرَزُوْا إِلٰى مُصَلَّاهُمْ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ قَالَ: فَتَقُوْلُ: الْمَلٰئِكَةُ إِلٰهُنَا وَسَيِّدُنَا جَزَائُهُ أَنْ تُوَفِّيَهُ

مرحمت فرماتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کئے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شبِ قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ حضرت جبرئیلؑ کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جبرئیلؑ کے سو (۱۰۰) بازو ہیں جن میں سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، پھر حضرت جبرئیلؑ فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیلؑ آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد ﷺ کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا

أَجْرَهُ قَالَ فَيَقُوْلُ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ قِيَامِهِمْ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي، وَ يَقُوْلُ: يَا عِبَادِي، سَلُوْنِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْئَلُوْنِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ فَوَعِزَّتِي، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُوْنِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أُفْضِحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُوْدِ، وَانْصَرِفُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ، قَدْ أَرْضَيْتُمُوْنِي وَرَضِيْتُ عَنْكُمْ، فَتَفْرَحُ الْمَلٰئِكَةُ وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ، إِذَا أَفْطَرُوْا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔

(إسناده ضعيف)

كذافي الترغيب، كتاب الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان: ۵۹۴، ص (۱/۴۲۸)، **وقال: رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب۔۔۔۔ والبيهقي ، واللفظ له** في شعب الإيمان، كتاب الصيام، باب التماس ليلة القدر: ۳۴۲۱، ص (۵/۲۷۶)۔ **وليس في إسناده من أجمع على ضعفه۔ قلت: (أي المؤلف) قال السيوطي: في التدريب** النوع الحادي والعشرون، الموضوع، (۱/۲۸۰): **قد التزم البيهقي أن لا يخرج في تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا۔ ألخ وذكر القاري في المرقات**، كتاب الصوم،، (۴/۱۳۷۱)۔ **بعض طرق الحديث، ثم قال: فاختلاف طرق الحديث يدل على أن له أصلا۔ اه۔**

معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ چار شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام (آسمانوں پر) لَیْلَةُ الجائزَہ (انعام کی رات) سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد ﷺ کی امت! اس کریم رب کی (درگاہ) کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں: کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر

چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک! اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے، تو حق تعالیٰ شَانُہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگو۔ میری عزت کی قسم! میرے جلال کی قسم! آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے، اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم! کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا (اور ان کو چھپاتا رہوں گا) میری عزت کی قسم! اور میرے جلال کی قسم! میں تمہیں مجرموں (اور کافروں) کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے،

خوشیاں مناتے ہیں اور کِھل جاتے ہیں۔ **أَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔**

ف: اس حدیث کے اکثر مضامین رسالہ کے گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں۔ البتہ چند امور قابل غور ہیں جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرتِ عامہ سے بھی مستثنیٰ تھے، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا ہے اور وہ عید کی اس مغفرتِ عامہ سے بھی مستثنیٰ کر دیئے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لئے کون ساٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو۔ جبرئیل ؑ کی بد دعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک (شکست) دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا پیارا رسول ﷺ تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے، اللہ جَلَّ شَانُہٗ تمہیں اپنی مغفرت ورحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آجائے تو کچھ نہیں گیا۔ آج وقت ہے اور تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالیٰ شَانُہٗ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیئے نہیں چھوڑتے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز، روزہ، صدقہ سب ہی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگادی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، پس یہ سب دعویدار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کرلیں گے اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جاویں گے، تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلہ میں اس پر ڈالتے رہیں گے اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا❶ اور اپنی کثرتِ اعمال کے باوجود جو حسرت ویاس کا عالم ہو گا، وہ محتاجِ بیان نہیں۔

---

❶ مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم، ۲۵۸۱

وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے
کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائیگاں دیکھے

دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس رسالہ میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کئے گئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری دفعہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی حق تعالیٰ شَانُہٗ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطہ پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کئے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہو گا، لہٰذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں۔

بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ﴿مَا جَآءَ نَا مِنۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ﴾ (المائدۃ: ۱۹)۔ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا، نہ ڈرانے والا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد ﷺ اور ان کی امت کو پیش کریں گے، امتِ محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی ❶۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوحؑ نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول ﷺ نے خبر دی۔ ہمارے رسولوں پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا ❷۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے ﴿وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرۃ: ۱۴۳)۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی: ایک

---

❶ بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، ۳۳۳۹
❷ مسند احمد، مسند ابی سعید خدری، ۱۱۵۵۸

ملائکہ کی، جس کے متعلق آیاتِ ذیل میں تذکرہ ہے ﴿وَجَآءَ تْ کُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِيْدٌ﴾ (ق: ۲۱) ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ﴾ (ق: ۲۱) ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ o كِرَامًا كَاتِبِيْنَ o يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ﴾ (الانفطار: ۱۰۔۱۲)۔ دوسری گواہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہو گی، جس کے متعلق ارشاد ہے ﴿وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ﴾ (الانعام: ۱۱۷) ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مبِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾ (النساء: ۴۱)۔ تیسری امتِ محمدیہ کی گواہی ہو گی، جس کے متعلق ارشاد ہے ﴿وَجِآيءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ﴾ (الزمر: ۶۹)۔ چوتھی آدمی کی اپنے اعضاء کی گواہی جس کے متعلق ارشاد ہے ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ﴾ (النور: ۲۴)۔ الآیۃ اور ﴿اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ﴾ (یسین: ۶۵)۔ الآیۃ۔ اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا۔

سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے، جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیثِ بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالیٰ شانُہٗ کا غایت درجہ کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے، کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لئے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات سے وہاں بھی در گزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانُہٗ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر، کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تو ارشاد ہو گا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستّاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معاف ہیں ❶۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالہ کر دیا جائے گا۔

اور بھی سینکڑوں روایات سے یہ مضمون مُستَنبَط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے در گزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیئے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا

---

❶ بخاری، کتاب الادب، باب ستر المومن، ۶۰۷۰

رہتے ہیں، وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادا قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنیں۔ اللہ جَلَّ شَانُہٗ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرماویں۔

پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیثِ بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا۔ اس رات میں حق تعالیٰ شَانُہٗ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے اس لئے بندوں کو بھی اس رات کو بے حد قدر کرنی چاہیئے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے، (اور عبادت میں مشغول رہے) اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جاویں گے ❶ (یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مُردنی چھاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا اور ممکن ہے کہ صور پھونکے جانے کا دن مراد ہو، کہ اس کی روح بیہوش نہ ہو گی۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص پانچ راتوں میں (عبادت کیلئے) جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاوے گی: لَیْلَةُ التَّرْوِیَه (آٹھ ذی الحجہ کی رات)، لَیْلَةُ الْعَرَفَه (۹ذی الحجہ کی رات)، لَیْلَةُ النَّحْرِ (۱۰ذی الحجہ کی رات) اور عید الفطر کی رات اور شب برأت یعنی ۱۵شعبان کی رات ❷۔

فقہاء نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ "مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّة" میں امام شافعی صاحب رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ سے نقل کیا ہے کہ پانچ راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں، غرّہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔

تنبیہ: بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیئے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت متبرک اوقات ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے ❸، مگر چونکہ بعض روایات میں جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے ❹۔ اس لئے بہتر ہے کہ ایک دو رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لے۔

---

❶ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فیمن قام فی لیلتی العیدین: ۱۷۸۲

❷ الترغیب والترهیب للاصبهانی، فصل فی فضل لیلتی العید، ۳۷۴

❸ ترمذی، ابواب الدعوات، ۳۵۷۰

❹ مسلم، کتاب الصیام، باب کراهة صیام الیوم جمعة: ۱۱۴۴

[1] یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ

آخر میں ناظرین سے لجاجت سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لئے دعا فرمائیں تو ایک سیہ کار کو بھی شامل فرمائیں، کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہاری مخلصانہ دعا سے اس کو بھی اپنی رضا و محبت سے نواز دیں۔

گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں
پر ترے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں
کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے

کشمکش سے ناامیدی کی ہوا ہوں میں تباہ
دیکھ مت میرے عمل، کر لطف پر اپنے نگاہ
یارب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے

چراغ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحرِ الم
چار سُو ہے فوجِ غم، کر جلد اب بہرِ کرم
کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے

ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے
اور تکیہ زُہد کا ہے زاھدوں کے واسطے
ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے

نَے فقیری چاہتا ہوں، نَے امیری کی طلب
نَے عبادت نَے ورع نَے خواہشِ علم و ادب
دردِ دل، پر چاہیئے مجھ کو خدا کے واسطے

عقل و ہوش و فکر اور نعمائے دنیا بے شمار
کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار
بخش وہ نعمت جو کام آئے سدا کے واسطے

حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا
کر میری امداد اللہ، وقت ہے امداد کا
اپنے لطفِ رحمت بے انتہاء کے واسطے

گو میں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پُر قصور
جرم میرا حوصلہ ہے، نام ہے تیرا غفور
تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے ربِ شکور

اَنْتَ شَافٍ اَنْتَ کَافٍ فِيْ مُهِمَّاتِ الْاُمُوْر
اَنْتَ حَسْبِیْ اَنْتَ رَبِّیْ اَنْتَ لِیْ نِعْمَ الْوَکِیْلُ

محمد زکریا کاندھلوی

مُقیم مظاہر العلوم
(وارد بستی حضرت نظام الدین دھلی)
۲۷/ شب رمضان المبارک سنہ ۱۳۴۹ھ

مسلمانوں کی موجودہ
پستی کا واحد علاج

تالیف

حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اظہارِ حقیقت

نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

سیدی و مولائی زُبْدَۃُ الفُضَلاء قُدْوَۃُ العلماء حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامَ مجدُہ کے خاص شغف اور انہماک اور دیگر بزرگانِ ملت اور علماءِ امت کی توجہ اور برکت اور عملی جدوجہد سے ایک عرصہ سے مخصوص انداز میں تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام کا سلسلہ جاری ہے، جس سے باخبر طبقہ بخوبی واقف ہے۔

مجھ بے علم اور سیاہ کار کو ان مقدس ہستیوں کا حکم ہوا کہ اس طرزِ تبلیغ اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو قلم بند کیا جائے، تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو اور نفع عام ہو جائے۔

تعمیلِ ارشاد میں یہ چند کلمات نذرِ قرطاس کئے جاتے ہیں، جو ان مقدس ہستیوں کے دریائے علوم و معارف کے چند قطرے اور اس باغیچہ ٔ دینِ محمدیؐ کے چند خوشے ہیں، جو انتہائی عجلت میں جمع کئے گئے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی یا کوتاہی نظر سے گزرے تو میری لغزشِ قلم اور بے علمی کا نتیجہ ہے۔ نظر لطف و کرم سے اس کی اصلاح فرمادیں تو موجب شکر و مَنّت ہوگا۔

حق تعالیٰ شَانُہٗ اپنے فضل و کرم سے میری بداعمالیوں اور سیہ کاریوں کی پردہ پوشی فرما دیں اور اپنی رضا و محبت اور اپنے پسندیدہ دین کی اشاعت اور اپنے برگزیدہ رسول ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دولت سے سرفراز فرمادیں۔

مدرسہ کاشف العلوم
بستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی

خاکپائے بزرگاں
محمد احتشام الحسن
۱۸ ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ، وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِالۡأَوَّلِیۡنَ وَالۡاٰخِرِیۡنَ، خَاتَمِ الۡأَنۡبِیَآءِ وَالۡمُرۡسَلِیۡنَ، مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ وَأَصۡحَابِہِ الطَّیِّبِیۡنَ الطَّاہِرِیۡنَ۔

آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ بطحاء کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا ماہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا اور ۲۳ سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوعِ انسان کو اس معراجِ ترقی پر پہنچایا کہ تاریخِ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہِ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستاں ہے جس کا بار بار دہرانا، نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآمد اور مفید، جب کہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔

مسلمانوں کی تیرہ سو سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں، نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے نہ کردار اچھے، ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس زبوں حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔

اسی پر بس نہیں، بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان، اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعتِ مقدسہ کو ناقابلِ عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے

دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنہ ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا، وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے؟

رہنمایانِ قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالتِ زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کیلئے جدوجہد کی مگر ؎

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ماسَبَق (گذشتہ) سے بھی زیادہ پر خطر اور تاریک نظر آرہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کئے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کئے جاتے ہیں اور انکے ازالہ کی متعدد تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق و ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس و ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پوری طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کئے جاتے ہیں، اصل مرض نہیں، بلکہ اس کے عوارض ہیں، پس تاوقتیکہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہو گی اور مادۂ حقیقی کی اصلاح نہ ہو گی، عوارض کی اصلاح ناممکن ہے اور محال ہے۔ پس جب تک کہ ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کرلیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔

ہمارا یہ دعویٰ کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانونِ الٰہی ہے، جو ہماری دینی اور دنیوی فلاح و بہبود کا تا قیامِ قیامت ضامن ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآنِ حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکزِ رشد و ہدایت سے طریقِ علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآنِ حکیم قیامت تک کیلئے مکمل دستورالعمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے، مالکِ ارض و سما جلّ وَعَلا کا سچا وعدہ

ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مؤمنوں کیلئے ہے۔

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ﴾ (النور:۵۷، ع:۷)

اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے، کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یارو مددگار نہ ہو گا۔

﴿وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا﴾ (الفتح:۲۲، ع:۳)

اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔

اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (الروم:۴۷، ع:۵)

اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

﴿وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ (ال عمران:۱۳۰، ع:۱۴)

اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔

﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (المنافقون:۸، ع:۱)

اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول ﷺ کی اور مسلمانوں کی۔

مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کی صفتِ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان کا تعلق خدا اور رسول ﷺ کے ساتھ مستحکم ہے (جو ایمان کا مقصود ہے) تو سب کچھ ان کا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس رابطہ، تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو پھر سراسر

خُسران اور ذلت وخواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلادیا گیا ہے۔

﴿وَالْعَصْرِ ٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ٥ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٥﴾ (العصر)

قسم ہے زمانہ کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

ہمارے اسلاف عزت کے منتہاء کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت وخواری میں مبتلا ہیں، پس معلوم ہوا کہ وہ کمالِ ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبرِ صادق ﷺ نے خبر دی ہے۔

سَيَأْتِیْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ ①

یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہوگئے جو خدا اور رسول ﷺ کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین ودنیا کی فلاح وبہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے؟ اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روحِ اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم جسدِ بے جان رہ گئے۔ جب مصحفِ آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور ''امت محمدیہ'' کی فضیلت اور برتری کی علت وغایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ''خَیْرُ الْاُمَمِ'' کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔

دنیا کی پیدائش کا مقصدِ اصلی خدا وَحْدَہٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ کی ذات وصفات کی معرفت ہے اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کیلئے ہزاروں رسول

---

① المشکوۃ، کتاب العلم، الفصل الأول: ۲۷۶، ۱/۹۱

اور نبی بھیجے گئے اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کیلئے سید الانبیا و المرسلین ﷺ کو مبعوث فرمایا اور ﴿ اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ ﴾ (المائدۃ: ۳) کا مژدہ سنایا گیا۔

اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظامِ عمل دیا جا چکا تھا، اس لئے رسالت و نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک ”امتِ محمدیہ ؐ“ کے سپرد کر دیا گیا۔

﴿ کُنۡتُمۡ خَیۡرَ اُمَّۃٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ تَنۡہَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ ﴾۔ (ال عمران: ۱۱۰، ع: ۱۲)

اے امت محمدیہ! تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کیلئے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

﴿ وَلۡتَکُنۡ مِّنۡکُمۡ اُمَّۃٌ یَّدۡعُوۡنَ اِلَی الۡخَیۡرِ وَ یَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ یَنۡہَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴾ (ال عمران: ۱۰۴، ع: ۱۱)

اور چاہیئے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔

پہلی آیت میں ”خَیرِ اُمَمِ“ ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔

﴿ لُعِنَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡۢ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِیۡسَی ابۡنِ مَرۡیَمَ ؕ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوۡا وَّ کَانُوۡا یَعۡتَدُوۡنَ o کَانُوۡا

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤدؑ اور عیسیٰ ابن مریمؑ کی زبان سے، یہ لعنت اس سبب سے ہوئی

لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ ﴾ (المائدة:۷۸)

کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے واقعی ان کا یہ فعل بیشک برا تھا۔

اس آخری آیت کی مزید وضاحت احادیث ذیل سے ہوتی ہے۔

(۱) وفی السنن والمسند من حديث عبد الله بن مسعود ؓ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ فِيْهِمْ بِالْخَطِيْئَةِ جَاءَهُ النَّاهِيْ تَعْزِيْرًا، فَقَالَ: يَا هٰذَا، اِتَّقِ اللّٰهَ۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهٗ وَاٰكَلَهٗ وَشَارَبَهٗ كَأَنَّهٗ لَمْ يَرَهٗ عَلٰى خَطِيْئَةٍ بِالْاَمْسِ، فَلَمَّا رَاٰى عَزَّوَجَلَّ ذٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ۔ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ، لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ السَّفِيْهِ، وَلَتَاْطُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا، اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ، ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ۔

(إسناده منقطع)

حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، جب حق عزوجل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی زبانی ان پر لعنت کی اور یہ اس لئے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو اور چاہیئے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں

رواه ابوداود، كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف: ۴۳۳۶، (۵۴/۵)۔ **وفي سنن أبي داؤد**، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهى، رقم الحديث: ۴۳۳۹، (۵۶/۵) وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف: ۴۰۰۹، ص (۳۶۱/۴)۔

گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہو گی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔

(۱) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَّكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ، يَقْدِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ، إِلَّا اَصَابَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَّمُوْتُوْا۔

(صحيح بالمتابعة)

وروى الاصبهانى في الترغيب والترهيب، باب في الترهيب من ترك الأمر بالمعروف: ۳۰۷، (۲۱۹/۱)۔

حضرت جریر ؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

(۳) عن انس ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَاتَزَالُ لَآاِلٰهَ إِلَّا اللهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنِّقْمَةَ مَالَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْاِسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا؟ قَالَ: يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِى اللهِ، فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ۔

(ض)

الترغيب للمنذرى، كتاب الحدود: ۳۳۶۱، (۸۹۱/۲)۔

حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پروائی نہ برتی جائے۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کی بے پروائی کیا ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔

(۴) عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهٖ أَنْ قَدْ حَضَرَهٗ

حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو

شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَمِعُ مَايَقُوْلُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَآ اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ: مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلَا اُجِيْبَ لَكُمْ، وَتَسْاَلُوْنِيْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلَا اَنْصُرَكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ۔

(حسن بالشواهد)

الترغيب، كتاب الحدود، باب الترغيب في الأمر بالمعروف: ٣٣٦٧، (٢/٨٩٢)۔

میں نے چہرۂ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تا کہ کوئی ارشاد ہو، اس کو سنوں۔ حضور اقدس ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا: ”لوگو! اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس ﷺ نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔

(٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا عَظَّمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا، نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِيْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللهِ۔

(إسناده ضعيف)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابلِ وقعت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت و ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی

اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب وشتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جَلَّ شَانُہٗ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

كذا في الدر تحت الآية: ۷۸، من سورة المائدة، عن الحكيم الترمذي في نوادرالاصول، في الاصل الخامس والسبعين والمائة في قدر تعظيم الدنيا: ۹۳۳، (۶۷۹)۔

احادیثِ مذکور پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وَحدَہ لاشریک لَہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے اور جب امتِ محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لئے ہو گا کہ اس نے اپنے فرضِ منصبی کو نہیں پہچانا اور جس کام کی انجام دہی کی ذمہ دار تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزوِ لازمی قرار دیا اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف و اِضمحلال کی علامت بتلایا۔ حدیث ابوسعید خدری رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ میں ہے۔ ”مَنْ رَاٰی مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ، وَ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ“①

یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیئے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اَضْعَف ایمان کا ہوا اسی طرح پہلا درجہ کمالِ دعوت اور کمالِ ایمان کا ہوا، اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ کی ہے۔

”مَا مِنْ نَّبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ اُمَّتِهٖ قَبْلِيْ، اِلَّا كَانَ لَهٗ فِيْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَ اَصْحٰبٌ، يَّاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ، وَ يَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ، ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ، يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ، وَ يَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَيْسَ وَرَآءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ② ۔

یعنی سنتِ الٰہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت

---

① مسلم، کتاب الإیمان، باب قول النھی عن المنکر من الإیمان: ۱۷۵، ۱/ ۲۱۱۔
② مسلم، کتاب الإیمان، باب قول النھی عن المنکر من الإیمان: ۱۷۷، ۱/ ۲۱۴۔

چھوڑ جاتا ہے، یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعتِ الٰہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعینہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے، لیکن اس کے بعد شرّ و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقۂ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے شریعت نے حکم نہیں دیا، سو ایسے لوگوں کیخلاف جس شخص نے قیامِ حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کیخلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔

اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے:

"اس میں کچھ شک نہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں، اس کو انجام دینے کیلئے حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کرامؑ کو مبعوث فرمایا، اگر خدانخواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کیا جائے تو العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا۔ دیانت جو شرافتِ انسانی کا خاصہ ہے، مضمحل اور افسردہ ہو جائے گی، کاہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور ضلالت کی شاہراہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس تباہی و بربادی کی اس وقت خبر ہو گی جب روزِ محشر خدائے بالا و برتر کے سامنے پیشی اور باز پرس ہو گی۔

افسوس! صد افسوس! جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، جو کھٹکا تھا آنکھوں نے دیکھ لیا۔

﴿ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ﴾ (الاحزاب:۳۸) فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

اس سرسبز ستون کے علم و عمل کے نشانات مٹ چکے، اس کی حقیقت و رسوم کی

برکتیں نیست و نابود ہو گئیں، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کا سکہ قلوب پر جم گیا، خدائے پاک کے ساتھ کا قلبی تعلق مٹ چکا اور نفسانی خواہشات کے اتباع میں جانوروں کی طرح بے باک ہو گئے، روئے زمین پر ایسے صادق مومن کا ملنا دشوار و کمیاب ہی نہیں، بلکہ معدوم ہو گیا جو اظہارِ حق کی وجہ سے کسی کی ملامت گوارا کرے۔

اگر کوئی مرد مومن اس تباہی اور بربادی کے ازالہ میں سعی کرے اور اس سنت کے احیاء میں کوشش کرے اور اس مبارک بوجھ کو لے کھڑا ہو اور آستینیں چڑھا کر اس سنت کے زندہ کرنے کیلئے میدان میں آئے، تو یقیناً وہ شخص تمام مخلوق میں ایک ممتاز اور نمایاں ہستی کا مالک ہو گا۔‘‘

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے وہ ہماری تنبیہ اور بیداری کیلئے کافی ہیں۔

ہمارے اس قدر اہم فریضہ سے غافل ہونے کی چند وجوہ معلوم ہوتی ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو علماء کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ خطاباتِ قرآنی عام ہیں، جو امتِ محمدیہ کے ہر ہر فرد کو شامل ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کی زندگی اس کیلئے شاہدِ عدل ہے۔

فریضۂ تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو علماء کے ساتھ خاص کر لینا اور پھر ان کے بھروسہ پر اس اہم کام کو چھوڑ دینا ہماری سخت نادانی ہے، علماء کا کام راہِ حق بتلانا اور سیدھا راستہ دکھلانا ہے، پھر اس کے موافق عمل کرانا اور مخلوق خدا کو اس پر چلانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے اس کی جانب اس حدیث شریف میں تنبیہ کی گئی ہے۔

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَّهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ،

بیشک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کئے جاؤ گے۔ پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ اور مرد اپنے گھر والوں پر

وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ، اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ۔

(متفق علیه)

البخاري، کتاب الاحکام، باب قول الله عزوجل اطیعوا الله واطیعوا الرسول: ٦٧١٩، (٢٦١١/٦)۔ **مسلم**، کتاب الامارة، باب فضیلة الأمیر العادل۔۔۔، : ١٨٢٩، ص (١٤٥٩/٣)۔

نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جاوے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔

اور اسی کو واضح طور پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔

قَالَ: اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ۔

(صحیح)

مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان ان الدین نصیحة،: ١٩٤، (٢٢٥/١)۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: دین سراسر نصیحت ہے۔ (صحابہؓ نے) عرض کیا: کس کے لئے؟ فرمایا: اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کیلئے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

اگر بفرضِ محال مان بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت فضاءِ زمانہ کا مقتضٰی (تقاضا) یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جائے اور اعلاءِ کلمۃ اللہ اور حفاظتِ دینِ متین کے لئے کمر بستہ ہو جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو دوسروں کی گمراہی ہمارے لئے نقصان دہ نہیں، جیسا کہ اس آیتِ شریفہ کا مفہوم ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

(المائدہ: ۱۰۵، ع: ۱۴)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (بیان القرآن)

لیکن در حقیقت آیت سے یہ مقصود نہیں جو ظاہر میں سمجھا جا رہا ہے، اس لئے کہ یہ

معنی حکمتِ خداوندیہ اور تعلیماتِ شرعیہ کے بالکل خلاف ہیں۔ شریعت اسلامی نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو اصل بتلایا ہے اور امتِ مسلمہ کو بمنزلہ ایک جسم کے قرار دیا ہے کہ اگر ایک عضو میں درد ہو جائے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ بنی نوعِ انسان خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے اور کمال کو پہنچ جاوے، اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہوں تو آیت میں مومنوں کیلئے تسلی ہے کہ جب تم ہدایت اور صراطِ مستقیم پر قائم ہو تو تم کو ان لوگوں سے مضرت کا اندیشہ نہیں، جنہوں نے بھٹک کر سیدھا راستہ چھوڑ دیا۔

نیز اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان شریعتِ محمدیہ کو مع تمام احکام کے قبول کرے اور منجملہ احکام خداوندی کے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔

ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ ِ الصِّدِّيْقِ رضی اللہ عنہ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ: ﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهٖ۔

(صحیح)

اخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف: ۴۰۰۵، (۳۵۹/۴)۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! تم یہ آیت ﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ پیش کرتے ہو اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ خلافِ شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرمادے۔

علماءِ محققین نے بھی آیت کے یہی معنی لئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرحِ مسلم میں فرماتے ہیں: ”علماء محققین کا صحیح مذہب اس آیت کے معنی میں یہ ہے کہ جب تم اس چیز کو ادا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے غیر کی کوتاہی تمہیں مضرت نہ پہنچائے گی، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾ (الفاطر: ۱۸) اور جب ایسا

ہے تو منجملہ ان اشیاء کے جن کا حکم دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، پس جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تعمیل نہ کی تو اب ناصح پر کوئی عتاب اور سرزنش نہیں، اس لئے کہ جو کچھ اس کے ذمہ واجب تھا اور وہ امر و نہی ہے اس نے اس کو ادا کر دیا، دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمے نہیں"۔ وَاللّٰہُ اَعْلَم۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عوام و خواص، عالم و جاہل ہر شخص اصلاح سے مایوس ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج ناممکن اور دشوار ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اصلاحی نظام پیش کیا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہو سکتی ہے، جب کہ ان کے پاس نہ سلطنت و حکومت ہے، نہ مال و زَر۔ اور نہ سامانِ حَرب اور نہ مرکزی حیثیت، نہ قوتِ بازو اور نہ باہمی اتفاق و اتحاد۔

بالخصوص دیندار طبقہ تو بزعمِ خود یہ طے کر چکا ہے کہ اب چودھویں صدی ہے، زمانۂ رسالت کو بُعد (فاصلہ) ہو چکا، اب اسلام اور مسلمانوں کا انحطاط ایک لازمی شے ہے۔ پس اس کے لئے جدوجہد کرنا عبث اور بیکار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جس قدر مشکوٰۃِ نبوت سے بُعد (دوری) ہوتا جائے گا حقیقی اسلام کی شعاعیں ماند پڑتی جائیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بقاءِ شریعت اور حفاظت دینِ محمدی کے لئے جدوجہد اور سعی نہ کی جائے، اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا اور ہمارے اسلاف بھی خدانخواستہ یہی سمجھ لیتے تو آج ہم تک اس دین کے پہنچنے کی کوئی سبیل (صورت) نہ تھی، البتہ جب کہ زمانہ ناموافق ہے تو رفتارِ زمانہ کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔

تعجب ہے کہ جو مذہب سراسر عمل اور جدوجہد پر مبنی تھا آج اس کے پیرو عمل سے یکسر خالی ہیں، حالانکہ قرآنِ مجید اور حدیث شریف میں جگہ جگہ عمل اور جُہد کا سبق پڑھایا اور بتلایا ہے کہ ایک عبادت گزار تمام رات نفل پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہرگز اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں بے چین ہو۔

قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی اور مجاہد کی فضیلت اور برتری کو

نمایاں کیا۔

﴿لَایَسْتَوِی الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ غَیْرُ اُولِی الضَّرَرِ وَالْمُجٰھِدُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰھِدِیْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقٰعِدِیْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰھِدِیْنَ عَلَی الْقٰعِدِیْنَ اَجْرًا عَظِیْمًاo دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا o﴾

(النساء: ۹۵، ع: ۱۳)

برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر بیٹھنے والوں کے۔ اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے اجرِ عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت، رحمت والے ہیں۔

اگرچہ آیت میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلہ میں سینہ سپَر ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک مغلوب و مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم سعادتِ عظمیٰ سے محروم ہیں تو اس مقصد کیلئے جس قدر جدوجہد ہماری مقدُرت اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہیئے، پھر ہماری یہی معمولی حرکت عمل اور جدوجہد ہمیں کشاں کشاں آگے بڑھائے گی۔ ﴿وَالَّذِیْنَ جَاھَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (الروم: ۶۵) یعنی جو لوگ ہمارے دین کیلئے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ دین محمدیؐ کی بقاء اور تحفظ کا حق تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے عروج و ترقی کیلئے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ کرامؓ نے اس کے لئے جس قدر انتھک کوشش کی، اسی قدر ثمرات بھی مشاہدہ کئے اور غیبی نصرت سے سرفراز ہوئے۔ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور

اعلاءِ کلمۃ اللہ اور اشاعتِ اسلام کیلئے کمربستہ ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرتِ خداوندی اور امدادِ غیبی سے سرفراز ہوں گے۔ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد:۷) یعنی اگر تم خدا کے دین کی مدد کیلئے کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کے پابند نہیں اور اس منصب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں، لیکن یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں۔ ہمیں خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیئے، پھر انشاء اللہ یہی جدوجہد ہماری پختگی، استحکام اور استقامت کا باعث ہو گی اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقربِ خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے کام میں جدوجہد کریں اور وہ رحمن و رحیم ہماری طرف نظرِ کرم نہ فرمائے۔ میرے اس قول کی کی تائید اس حدیث سے ہوئی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ، لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ حَتّٰى نَعْمَلَ بِهٖ كُلِّهٖ، وَلَا نَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى نَجْتَنِبَهٗ كُلَّهٗ؟ فَقَالَ ﷺ: بَلْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَّمْ تَعْمَلُوْا بِهٖ كُلِّهٖ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَّمْ تَجْتَنِبُوْهُ كُلَّهٗ۔

(ض)

الطبراني في الاوسط، باب الميم: ۶۶۲۸، (۶/۳۶۵)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدارسِ دینیہ کا قائم ہونا، علماء کا وعظ و نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا،

یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شعبے ہیں اور ان کے ذریعہ اس فریضہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب اداروں کا قیام اور بقاء بہت ضروری ہے اور ان کی جانب اعتناء اہم امور سے ہے، اس لئے کہ دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک دکھائی دے رہی ہے وہ انہی اداروں کے مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کیلئے یہ ادارے کافی نہیں اور ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے۔ اس لئے کہ ان اداروں سے ہم اس وقت منتفع ہو سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو اور مذہب کی وقعت اور عظمت ہو۔

اب سے پچاس سال پہلے ہم میں شوق و طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس لئے ان اداروں کا قیام ہمارے لئے کافی تھا، لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کوششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیئے اور طلب و رغبت کی بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی تحریک ایسی شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق و رغبت پیدا ہو اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں، پھر ہم ان اداروں سے ان کی شان کے مطابق منتفع ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بڑھتی گئی تو ان اداروں سے انتفاع تو درکنار ان کا بقاء بھی دشوار نظر آتا ہے۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں اور ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیئے کہ یہ کام انبیاء کرامؑ کی نیابت ہے اور ان مصائب اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے اور یہ سب مصائب و تکالیف بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء کرامؑ نے اس راہ میں برداشت کیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ (الحجر: ۱۰)

ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی

اڑاتے رہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: دعوتِ حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا❶۔

پس جب سردارِ دوعالم ﷺ اور ہمارے آقا و مولیٰ نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا تو ہم بھی ان کے پیرو ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیئے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیئے۔

ماسَبَق سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارا اصل مرض روحِ اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور اضمحلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھیں، ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لابُدّی اور ضروری تھا اور اس ضُعف و انحطاط کا سبب اس اصل شے کا چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کا بقاء اور دارومدار ہے اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔

پس ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فریضۂ تبلیغ کو ایسی طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدا اور رسولؐ کو پہچانیں اور احکامِ خداوندی کے سامنے سرنگوں ہوں اور اس کے لئے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہو گا جو سید الانبیاء والمرسلین نے مشرکین عرب کی اصلاح کیلئے اختیار فرمایا۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ۲۱)
بیشک تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھی پیروی ہے۔

اسی کی جانب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں۔ ”لَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ إِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا“❷۔ یعنی اس امتِ محمدیہؐ کے آخر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتداء میں اصلاح کی ہے۔

---

❶ ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، ۲۴۷۲

❷ مس الموطا، باب الواو، ۷۸۳

جس وقت نبی کریم ﷺ دعوتِ حق لے کر کھڑے ہوئے، آپ ﷺ تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا، دنیوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی۔ آپ ﷺ کی قوم میں خود سری اور خود رائی انتہاء درجہ کو پہنچی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا، بالخصوص جس کلمۂ حق کی آپ تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تھے اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھے، ان حالات میں کونسی طاقت تھی جس سے ایک مفلس ونادار، بے یار ومددگار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا۔ اب غور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایا اور جس شخص نے اس چیز کو پالیا وہ پھر ہمیشہ کیلئے آپ کا ہو رہا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھا جو آپ کا مطمح نظر اور مقصودِ اصلی تھا جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔

﴿اَلَّا نَعۡبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهٖ شَیۡـًٔا وَّلَا یَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ﴾ (ال عمران: ۶۴، ع:۷)

بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

اللہ وحدہ لاشریک لہ کے سوا ہر شے کی عبادت اور اطاعت اور فرماں برداری کی ممانعت کی اور اغیار کے تمام بندھنوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظامِ عمل مقرر کر دیا اور بتلا دیا کہ اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا۔

﴿اِتَّبِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِیَآءَ﴾ (الاعراف: ۳۔ ع: ۱)

تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اتباع مت کرو۔

یہی وہ اصل تعلیم تھی جس کی اشاعت کا آپ ﷺ کو حکم دیا گیا۔

﴿اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّكَ بِالۡحِكۡمَةِ وَالۡمَوۡعِظَةِ الۡحَسَنَةِ وَجَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ

اے محمد! بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت اور نیک نصیحت سے اور

اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِيۡنَ ﴾ (النحل: ۱۲۵، ع:۱۶)

ان کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو۔ بیشک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔

اور یہی شاہراہ تھی جو آپؐ کیلئے اور آپ کے ہر پیرو کیلئے مقرر کی گئی۔

﴿قُلۡ هٰذِهٖ سَبِيۡلِىۡۤ اَدۡعُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيۡرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىۡ ط وَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ﴾ (یوسف: ۱۰۸، ع:۱۲)

کہہ دو: یہ ہے میرا راستہ' بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

﴿وَمَنۡ اَحۡسَنُ قَوۡلًا مِّمَّنۡ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ﴾ (حم سجدہ: ۳۳، ع:۴)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔

پس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی مخلوق کو بلانا، بھٹکے ہوؤں کو راہِ حق دکھلانا، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانا، نبی کریم ﷺ کا وظیفۂ حیات اور آپؐ کا مقصدِ اصلی تھا اور اسی مقصد کی نشوونما اور آبیاری کیلئے ہزاروں نبی اور رسول بھیجے گئے۔

﴿وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ﴾ (الأنبياء: ۲۵، ع:۲)

اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی جانب یہی وحی بھیجتے تھے کہ کوئی معبود نہیں بجز میرے، پس میری بندگی کرو۔

نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ اور دیگر انبیاء کرامؑ کے مقدس لمحاتِ زندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مقصد اور نصب العین صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین کرنا، یہی ایمان اور اسلام کا

مفہوم ہے اور اسی لئے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ﴾ (الذاریات: ۵۶) یعنی ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ بندہ بن کر زندگی بسر کریں۔ اب جب کہ مقصد زندگی واضح ہو گیا اور اصل مرض اور اس کے معالجہ کی نوعیت معلوم ہو گئی تو طریقِ علاج کی تجویز میں زیادہ دشواری پیش نہ آئے گی اور اس نظریے کے ماتحت جو بھی علاج کا طریقہ اختیار کیا جائے گا انشاء اللہ نافع اور سود مند ہو گا۔

ہم نے اپنی نارسا فہم کے مطابق مسلمانوں کی فلاح و بہبود کیلئے ایک نظامِ عمل تجویز کیا ہے جس کو فی الحقیقت اسلامی زندگی یا اسلاف کی زندگی کا نمونہ کہا جا سکتا ہے، جس کا اجمالی نقشہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

سب سے اہم اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان تمام اغراض و مقاصدِ دنیوی سے قطع نظر کر کے اعلاءِ کلمۃ اللہ اور اشاعتِ اسلام اور احکام خداوندی کے رواج اور سرسبزی کو اپنا نصب العین بنا دے اور اس بات کا پختہ عہد کرے کہ حق تعالیٰ کے ہر حکم کو مانوں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور کبھی خداوندِ کریم کی نافرمانی نہ کروں گا اور اس نصب العین کی تکمیل کیلئے اس دستور العمل پر کاربند ہو:۔

۱) کلمہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کا صحتِ الفاظ کے ساتھ یاد کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی پوری زندگی کو اس کے موافق بنانے کی فکر کرنا۔

۲) نماز کا پابند ہونا، اس کے آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور ہر ہر رکن میں خداوند کریم کی عظمت و بزرگی اور اپنی بندگی اور بیچارگی کا دھیان کرنا۔ غرض اس کوشش میں لگے رہنا کہ نماز اس طرح ادا ہو جو اس رب العزت کی بارگاہ کی حاضری کے شایان شان ہو۔ ایسی نماز کی کوشش کرتا رہے اور حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرے۔ اگر نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اس کو سیکھے اور نماز میں پڑھنے کی تمام چیزوں کو یاد کرے۔

۳) قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی پیدا کرنا، جس کے دو طریقے ہیں:۔

الف) کچھ وقت روزانہ ادب و احترام کے ساتھ معنی و مفہوم کا دھیان کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اگر عالم نہ ہو اور معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہو، تب بھی بغیر معنی سمجھے کلامِ ربانی کی تلاوت کرے، اور سمجھے کہ میری فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے۔ محض الفاظ کا پڑھنا بھی سعادتِ عظمیٰ ہے اور موجبِ خیر و برکت ہے اور اگر الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا تو تھوڑا وقت روزانہ قرآن مجید کی تعلیم میں صرف کرنا۔

ب) اپنے بچوں اور اپنے محلہ اور گاؤں کے لڑکے اور لڑکیوں کی قرآن مجید اور مذہبی تعلیم کی فکر کرنا اور ہر کام پر اس کو مقدم رکھنا۔

۴) کچھ وقت یادِ الٰہی اور ذکر و فکر میں گزارنا۔ پڑھنے کے لئے کوئی چیز کسی شیخِ طریقت، متبعِ سنت سے دریافت کرے، ورنہ کلمۂ سوم "سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" اور درود و استغفار کی تسبیح ایک صبح اور ایک شام معنی کا دھیان کرتے ہوئے جی لگا کر اطمینانِ قلب کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔

۵) ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کرنا، صفتِ اسلام کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرنا، ایسی باتوں سے بچنا جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف و اذیت کا باعث ہوں۔

ان باتوں کا خود بھی پابند بنے اور کوشش کرے کہ ہر مسلمان ان کا پابند بن جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اپنا کچھ وقت دین کی خدمت کیلئے فارغ کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کر دین کی خدمت اور اشاعتِ اسلام کیلئے آمادہ کرے۔

جس دین کی اشاعت کیلئے انبیاء کرامؑ نے مشقتیں برداشت کیں، طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوئے، صحابہ کرامؓ اور ہمارے اسلاف نے اپنی عمروں کو اس میں صرف کیا اور اس کی خاطر راہِ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اس دین کی ترویج اور بقاء کیلئے تھوڑا وقت نہ نکالنا بڑی بدنصیبی اور خسران ہے اور یہی وہ اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ

سے آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔

پہلے مسلمان ہونے کا مفہوم یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنا جان و مال، عزت و آبرو، اشاعتِ اسلام اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کی راہ میں صرف کرے اور جو شخص اس میں کوتاہی کرتا تھا وہ بڑا نادان سمجھا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور دین کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس دین کی ترویج اور بقاء کیلئے کوشش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض اعلاءِ کلمۃ اللہ اور اشاعتِ دینِ متین جو مسلمان کا مقصدِ زندگی اور اصلی کام تھا اور جس کے ساتھ ہماری دونوں جہان کی فلاح و ترقی وابستہ تھی اور جس کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اب پھر ہمیں اپنے اصلی مقصد کو اختیار کرنا چاہیئے اور اس کام کو اپنی جزوِ زندگی اور حقیقی مشغلہ بنانا چاہیئے، تاکہ پھر رحمتِ خداوندی جوش میں آوے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور شادابی نصیب ہو۔

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اپنا تمام کاروبار چھوڑ کر بالکل اس کام میں لگ جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسا اور دنیوی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کو انجام دیا جاتا ہے، اس کام کو بھی ضروری اور اہم سمجھ کر اس کے واسطے وقت نکالا جائے۔ جب چند آدمی اس مقصد کیلئے تیار ہو جائیں تو ہفتہ میں چند گھنٹے اپنے محلے، اور مہینہ میں تین دن قرب و جوار کے مواضعات میں، اور سال میں ایک چِلّہ دور کے مواضعات میں اس کام کو کریں اور کوشش کریں کہ ہر مسلمان امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا ملازم، زمیندار ہو یا کاشتکار، عالم ہو یا جاہل، اس کام میں شریک ہو جائے اور ان امور کا پابند بن جائے۔

کام کرنے کا طریقہ

کم از کم دس آدمیوں کی جماعت تبلیغ کیلئے نکلے۔ اول اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنادے اور پھر سب مسجد میں جمع ہوں اور وضو کر کے دو رکعت نفل ادا کریں، (بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو) بعد نماز مل کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں اور نصرت و کامیابی اور تائید خداوندی اور توفیقِ الٰہی کو طلب کریں اور اپنے ثبات اور استقلال کی دعا مانگیں۔ دعا کے بعد سکون و وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ حق تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں اور فضول بات نہ کریں۔ جب اس جگہ پہنچیں جہاں تبلیغ کرنی ہے تو پھر سب مل کر حق تعالیٰ سے دعا مانگیں اور تمام محلہ یا گاؤں میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کریں۔ اول ان کو نماز پڑھوائیں اور پھر ان امور کی پابندی کا عہد لیں اور اس طریقہ پر کام کرنے کیلئے آمادہ کریں اور ان لوگوں کے ہمراہ گھروں کے دروازوں پر جا کر عورتوں سے بھی نماز پڑھوائیں اور ان کی پابندی کی تاکید کریں۔

جو لوگ اس کام کو کرنے کیلئے تیار ہو جائیں ان کی ایک جماعت بنادی جائے اور ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے اور اپنی نگرانی میں ان سے کام شروع کرا دیا جائے اور پھر ان کے کام کی نگرانی کی جائے۔ ہر تبلیغ کرنے والے کو چاہیئے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے اور امیر کو چاہیئے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت گزاری اور راحت رسانی، ہمت افزائی اور ہمدردی میں کمی نہ کرے اور قابلِ مشورہ باتوں میں سب سے مشورہ لے کر اس کے موافق عمل کرے۔

تبلیغ کے آداب

یہ کام حق تعالیٰ کی ایک اہم عبادت اور سعادتِ عظمیٰ ہے اور انبیاء کرامؑ کی نیابت ہے۔ کام جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر آداب کو چاہتا ہے۔ اس کام سے مقصد دوسروں کی ہدایت نہیں، بلکہ خود اپنی اصلاح اور عبدیت کا اظہار اور حکمِ خداوندی کی بجا آوری اور حق تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ پس چاہیئے کہ امورِ مندرجہ کو اچھی طرح ذہن نشین کرے اور ان کی پابندی کرے۔

۱۔ اپنا تمام خرچ کھانے پینے، کرایہ وغیرہ کا حتی الوسع خود برداشت کرے اور اگر گنجائش اور وسعت ہو تو اپنے نادار ساتھیوں پر بھی خرچ کرے۔

۲۔ اپنے ساتھیوں اور مقدس کام کرنے والوں کی خدمت گزاری اور ہمت افزائی کو اپنی سعادت سمجھے اور ان کے ادب واحترام میں کمی نہ کرے۔

۳۔ عام مسلمانوں کے ساتھ نہایت تواضع اور انکساری کا برتاؤ رکھے۔ بات کرنے میں نرم لہجہ اور خوشامد کا پہلو اختیار کرے۔ کسی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھے۔ بالخصوص علماءِ دین کی عزت و عظمت میں کوتاہی نہ کرے۔ جس طرح ہم پر قرآن و حدیث کی عزت و عظمت، ادب و احترام واجب اور ضروری ہے اسی طرح ان مقدس ہستیوں کی عزت و عظمت، ادب واحترام بھی ضروری ہے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ علماءِ حق کی توہین دین کی توہین کے مترادف ہے، جو خدا کے غیض و غضب کا موجب ہے۔

۴۔ فرصت کے خالی وقتوں کو بجائے جھوٹ، غیبت، لڑائی، فساد، کھیل تماشے کے، مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور مذہب کے پابند لوگوں کے پاس بیٹھنے میں گزارے، جس سے خدا اور رسول صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی باتیں معلوم ہوں۔ خصوصاً ایامِ تبلیغ میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچے اور اپنے فارغ اوقات کو یادِ الٰہی اور ذکر و فکر اور درود و استغفار اور تعلیم و

تعلم میں گزارے۔

۵) جائز طریقوں سے حلال روزی حاصل کرے اور کفایت شعاری کے ساتھ اس کو خرچ کرے اور اپنے اہل و عیال اور دیگر اقرباء کے شرعی حقوق کو ادا کرے۔

۶) کسی نزاعی مسئلہ اور فروعی بات کو نہ چھیڑے، بلکہ صرف اصل توحید کی طرف دعوت دے اور ارکانِ اسلام کی تبلیغ کرے۔

۷) اپنے تمام افعال و اقوال کو خلوصِ نیت کے ساتھ مزین اور آراستہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی موجبِ خیر و برکت اور باعثِ ثمراتِ حسنہ ہوتا ہے اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا ہی میں کوئی ثمرہ نکلتا ہے نہ آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ (تھوڑا) عمل بھی کافی ہے ❶۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: ”حق تعالیٰ شانہٗ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہیں کیلئے کیا گیا ہو“ ❷۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں“ ❸۔ پس سب سے اہم اور اصل شے یہ ہے کہ اس کام کو خلوص کے ساتھ کیا جائے، ریا و نمود کو اس میں دخل نہ ہو۔ جس قدر اخلاص ہو گا اسی قدر کام میں ترقی اور سرسبزی ہو گی۔ اس دستور العمل کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر بھی کافی روشنی پڑ گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ کشمکش اور اضطراب و بے چینی میں یہ طریقِ کار کس حد تک ہماری رہبری کر سکتا ہے؟ اور کہاں تک ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے؟ اس کے لئے پھر ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ قرآن کریم نے ہماری اس جدوجہد کو ایک سود مند تجارت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی جانب اس طرح رغبت دلائی ہے۔

---

❶ مستدرک حاکم، کتاب الرقاق: ۷۸۴۴

❷ کشف الاستار، کتاب الزھد: ۳۵۶۷

❸ مسلم، کتاب البر والصلہ: ۲۵۶۴

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍo تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَo يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُo وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَo﴾ (الصف: ۱۰، ع:۲)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے۔ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں، جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی۔ اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔

اس آیت میں ایک تجارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب الیم سے نجات دلانے والی ہے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لادیں اور خدا کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے لئے سراسر خیر ہے، اگر ہم میں کچھ بھی عقل و فہم ہو۔ اس معمولی کام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ ہماری تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے، مگر اس پر بس نہیں، بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی اور وہ دنیا کی سرسبزی اور نصرت و کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ و حکمرانی ہے۔

حق تعالیٰ نے ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا: اول یہ کہ ہم خدا اور اس کے رسول

ﷺ پر ایمان لا دیں دوسرے یہ کہ اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کریں اور اس کے بدلے میں دو چیزوں کی ہم سے ضمانت کی: آخرت میں جنت اور ابدی چین اور راحت اور دنیا میں نصرت و کامیابی۔ پہلی چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس طریق کا منشا بھی یہی ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دوسری چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد کی اصل اگرچہ کفار کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے، مگر درحقیقت جہاد کا منشاء بھی اِعلاءِ کلِمَۃِ اللہِ اور احکامِ خداوندی کا نفاذ اور اجراء ہے اور یہی ہماری تحریک کا مقصدِ اصلی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جیسا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا خوشگوار ہونا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا، خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے پر موقوف ہے۔ ایسا ہی دنیاوی زندگی کی خوشگواری اور دنیا کی نعمتوں سے منتفع ہونا بھی اس پر موقوف ہے کہ ہم خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لاویں اور اپنی تمام جدوجہد کو اس کی راہ میں صرف کریں۔

اور جب ہم اس کام کو انجام دے لیں گے، یعنی خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لے آویں گے اور اس کی راہ میں جدوجہد کر کے اپنے آپ کو اعمالِ صالحہ سے آراستہ بنالیں گے تو پھر ہم روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت کے مستحق ہو جائیں گے اور سلطنت و حکومت ہمیں دے دی جائے گی۔

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا﴾ (النور:۵۵)

تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کیلئے پسند کیا ہے اس کو ان کیلئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل

دے گا، بشرطیکہ میری بندگی کرتے رہیں
اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

اس آیت میں تمام امت سے وعدہ ہے ایمان و عمل صالح پر حکومت دینے کا، جس کا ظہور عہد نبوی سے شروع ہو کر خلافتِ راشدہ تک متصلاً ممتد (جاری) رہا۔ چنانچہ جزیرۂ عرب آپ ﷺ کے زمانے میں اور دیگر ممالک زمانۂ خلفاء راشدین میں فتح ہو گئے اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً گو اتصال نہ ہو، دوسرے صلحاء ملوک و خلفاء کے حق میں اس وعدہ کا ظہور ہوتا رہا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ﴾ (المجادلہ، بیان القرآن)

پس معلوم ہوا کہ اس دنیا میں چین و راحت اور اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ ہم اس طریق پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں اور اپنی اجتماعی اور انفرادی ہر قسم کی قوت اس مقصد کی تکمیل کیلئے وقف کریں۔

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (ال عمران: ۱۰۳) تم سب دین کو مضبوط پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے مت بنو۔

یہ ایک مختصر "نظامِ عمل" ہے جو درحقیقت اسلامی زندگی اور اسلاف کی زندگی کا نمونہ ہے۔ ملک میوات میں ایک عرصہ سے اس طرز پر کام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس ناتمام کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم روز بروز ترقی کرتی جارہی ہے۔ اس کام کے وہ برکات و ثمرات اس قوم میں مشاہدہ کئے گئے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان اجتماعی طور پر اس طریق زندگی کو اختیار کر لیں تو حق تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی تمام مصائب اور مشکلات دور ہو جائیں گی اور وہ عزت و آبرو اور اطمینان و سکون کی زندگی دپا لیں گے اور اپنے کھوئے ہوئے دبدبے اور وقار کو پھر حاصل کر لیں گے۔ ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (منافقون: ۸)

ہر چند میں نے اپنے مقصد کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ چند تجاویز کا مجموعہ نہیں،

بلکہ ایک عملی نظام کا خاکہ ہے جس کو اللہ کا برگزیدہ بندہ (سیدی و مولائی مخدومی و مخدوم العالم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ) لے کر کھڑا ہوا اور اپنی زندگی کو اس مقدس کام کیلئے وقف کیا۔ اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان بے ربط سطور کے پڑھنے اور سمجھنے پر ہرگز اکتفاء نہ کریں، بلکہ اس کام کو سیکھیں اور اس نظام کا عملی نمونہ دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی جانب متوجہ کرنا میرا مقصود ہے اور بس۔

میری قسمت سے الٰہی پائیں یہ رنگِ قبول
پُھول کچھ میں نے چُنے ہیں ان کے دامن کیلئے

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَأصْحَابِہٖ أجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَاأرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(الف)

آبدار گوہر	چمکدار موتی
آبرُوریزی	بے عزتی، بے حرمتی
آلام	الم کی جمع، رنج و غم، تکالیف
آوازہ	شہرت، دھوم، غلغلہ
اَبتر	خراب اور خستہ
اَبدال	بدَل کی جمع، وہ ستر اولیاء جن میں سے چالیس شام میں ہیں اور تیس بقیہ دنیا میں رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت میں دوسرا اس کا قائم مقام بن جاتا ہے
ابر	بادل
اَتقِیاء	تقی کی جمع، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا
اِجارہ	ٹھیکہ، اختیار
اِجمالاً	مختصراً
اَجزائے عمل	عمل کے حصے
اِحاطہ	حدبندی، گھیرنا
اَحدی	نہایت سست، کاہل
اِحتیاج	ضرورت
اِحصاء	شمار
اَحقر	نہایت حقیر، عاجز
اِختصار	مختصر کرنا
اَخصُ الخواص	انتہائی خاص، خاص ترین

اخفاء	پوشیدہ رکھنا، چھپانا
آدھ کچری	آدھی کچی آدھی پکی
اِذخَر	ایک قسم کی گھاس
ارزاں	سستی
اِزدِحام	ہجوم
اَسباب معیشت	زندگی گزارنے کے اسباب وسائل
اِستِخفاف	ہلکا سمجھنا، حقارت
اِستدلال	دلیل لانا، دلیل طلب کرنا
اِستغناء	بے پرواہی، بے نیازی
استفسار	دریافت کرنا، پوچھنا
اِستقلال	ثابت قدمی، جرأت
اِستنباط	چھانٹنا، چننا
اِستہزاء	مذاق کرنا
اَسرارُ الخفیۃ	پوشیدہ راز
اَسلاف	سلف کی جمع، بزرگانِ امت، اگلے وقت کے بزرگ
اِسقاطِ حمل	حمل کو گرانا
اَسماء گرامی	معزز نام
اِسہال	بیماری، دست لگنا
اَشرف الاشیاء	چیزوں میں سب سے زیادہ محترم
اشرف الاُمَم	سب سے معزز امت
اصلاحِ نفس	باطنی درستگی
اِضمِحلال	سُستی، افسردگی
اِعلاءِ کلمۃ اللہ	دین کی سربلندی
اَغلب	گمانِ غالب، زیادہ تر

اَغنیاء	غنی کی جمع، مالدار
اقَل	سب سے کم
اَلمُضاعَف	دوچند، دگنا
اَلطاف	لطف کی جمع، مہربانیاں
اَلوان	لون کی جمع، رنگ
اِمتثالِ حکم	حکم پورا کرنا
امرِ بدیہی	لازمی امر، یقینی بات
انبساط	خوشی
اِنضباط	ضابطہ
انقیاد	تابع ہونا
اَوّابین	توبہ کرنے والے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے نوافل
اَوراد	ورد کی جمع، ذکر و وظائف
اَوْقِیہ	چالیس درہم کا وزن، ۱۳۶ گرام
اول وہلہ	بالکل ابتداء، پہلے پہل
اہل اللہ	اللہ والے، اللہ سے خصوصی لگاؤ والے حضرات
	(ب)
بَاِجماع	بالاتفاق
بالجملہ	حاصل کلام، خلاصہ
بال چھڑ	ایک قسم کی خوشبودار گھاس
بجز	سوا، علاوہ
بداطواریاں	بری عادتیں، برے طریقے
بدرجۂ اتم	مکمل طور پر

بدرُجہا	کئی گنا
بدّو	عرب کے دیہات کا رہنے والا
برگزیدہ	چنے ہوئے مقبول بندے
بَطحاء	پتھریلی زمین، مکہ معظمہ مراد ہے
بُعد	دوری
بھال	نیزے برچھی کی نوک
بَہِشت	جنت
بہی خواہانِ قوم	قوم کے خیر خواہ
بنیہ کی دوکان	آٹہ دال بیچنے والے کی دوکان
بے اضاعت	بے حیثیت
بے بہرہ	محروم
بے پایاں	بے انتہاء
بے ثباتی	ناپائیداری
بے کَراں	بے حد، بے انتہاء
بے نوا	مفلس
	(پ)
پارینہ داستان	بھولی بسری داستان
پاسنگ	ترازو کے پلڑوں کی کمی بیشی کو پورا کرنے کی غرض سے جو وزن ترازو کی ڈنڈی سے باندھا جائے
پراگندہ	بکھرا ہوا، پریشان
پرتو	سایہ، عکس
پردہ دری	کسی کے عیب ظاہر کرنا

پروانہ	اجازت نامہ، فرمانِ شاہی
پسیجنا	رحم کرنا، رحم آنا، نرم ہونا
پُشتانی	پشتوں سے، باپ دادا سے
پشیمان	شرمندہ، افسوس کرنے والا
پنج شنبہ	جمعرات کا دن
پیرانہ سالی	بڑھاپا
پیرو	پیچھے چلنے والا
	(ت)
تادیب	سزا، ادب سکھانا
تازیانہ	کوڑا، چابک
تاڑلینا	معلوم کرلینا
تانت	کمان کا چلہ، جس پر تیر رکھ کر اسے پھینکتے ہیں
تاویل	تفسیر، کسی بات کے ظاہری معنی کو دوسری طرف پھیر لینا
تبرکاً	برکت کے طور پر
تبَرّیٰ	بے زاری، برأت کا اظہار
تتَبُّع	تالاش
تتمَّہ	بقیہ، ضمیمہ، کتاب کی عبارت کا وہ حصہ جو آخر میں کتاب سے متعلق لگا دیتے ہیں
تثلیث	عیسائیوں کا ایک باطل عقیدہ جس کی رو سے وہ وحدانیتِ خدا کو تین شاخوں یعنی باپ، بیٹا، خدا میں منحصر سمجھتے ہیں

تجدید	نئے سرے سے کوئی کام کرنا
تحدیث بالنعمۃ	بطورِ شکر نعمت کا اظہار
تحریص	ابھارنا
تخریج	کسی حدیث کو سند اور متن کے ساتھ ذکر کرنا، حدیث کے اصل ماخذ کی طرف رہنمائی کرنا
تخفیف	کمی، ہلکا کرنا
تخلیہ	علیحدگی، خلوت کی جگہ
تخم	بیج
ترتیل	قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر صفات کے ساتھ پڑھنا
ترغیب	ایک کتاب کا نام، کسی عمل کی طرف مائل کرنا
ترَکش	تیر رکھنے کا تھیلا، تیر دان
ترویج	رواج دینا
تسامُح	چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا
تشَتُّت	پریشانی، انتشار
تصوف	وہ علم جس کے ذریعے قلب کی صفائی حاصل ہو
تعب	تھکاوٹ
تَعدّدِ طُرق	کسی حدیث کے متعدد سندوں سے منقول ہونا
تعشّق	اظہار محبت، شوق
تعویق	دیر، لیت ولعل

تفریط	کمی کوتاہی کرنا
تفوُّق	فوقیت، بڑائی چاہنا
تقابل	باہم مقابل ہونا
تقلیل	کم کرنا
تکدُّر	گدلا پن، دل کی پریشانی
تکملہ	گزشتہ مضمون سے مربوط حصہ
تلافیٔ مافات	گذشتہ کی تلافی
تلبُّس	ملنا، چمٹنا
تلچھٹ	مائع گھی والی چیز وغیرہ کی تہہ میں بیٹھ جانے والی شئے
تلخیص	خلاصہ کرنا
تمثیل	مثال بیان کرنا
تنبُّہ	آگاہی، تنبیہ ہونا
تن پروری	آرام طلبی
تواتُر	لگاتار، کسی بات یا حدیث کا کئی واسطوں سے اس طرح منقول ہونا کہ عقلاً اس کا جھوٹا ہونا محال معلوم ہو
تواضع	عاجزی، ضیافت
تونگری	مالداری، دولت مندی
تہلیل	لا الہ الا اللہ کہنا
تیغِ ستم	ظلم کی تلوار

(ٹ)

ٹھلیاں	پانی رکھنے کا مٹی کا چھوٹا برتن

(ث)

ثبَت	نقش تحریر
ثمنُ الجنۃ	جنت کی قیمت

(ج)

جان فشانی	جان نثار کرنا
جان کَنی	نزع کی حالت
جبرَوت	قدرت عظمت، جاہ و جلال
جرح	وہ سوالات جو ایک فریق دوسرے سے حقیقت یا سچائی معلوم کرنے کے لئے کرے
جزئیات	افراد، حصے
جُملہ اعمال	تمام اعمال
جمہور	آدمیوں کا گروہ
جوعُ البقر	گائے جیسی بھوک، ایک بیماری جس میں کھانے کے باوجود بھوک ختم نہیں ہوتی
جوئیاں	طالب، ڈھونڈنے والا
جہری نماز	جن نمازوں میں امام بلند آواز سے تلاوت کرے
جے دن	جتنے دن

(چ)

چارسُو	چاروں طرف
چارہ ساز	کام بنانے والا

چشتیہ	خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب صوفیا کا سلسلہ
چشم پوشی کرنا	نظر انداز کرنا

(ح)

حتی الوُسع	جہاں تک طاقت ہو
حجت	دلیل، تکرار
حدّاد	لوہار
حدیث متکلَّم فیہ	وہ حدیث جس کی صحت کے بارے میں علماء حدیث نے بحث کی ہو
حدیثِ موضوع	من گھڑت حدیث
حرف گیری	نقطہ چینی، عیب گیری
حرزِ جان	نہایت عزیز رکھنا
حسنِ سیاق	مضمون کا عمدہ تسلسل
حسنہ	نیکی
حصنِ حصین	مضبوط قلعہ، ایک کتاب
حظِّ نفس	نفسانی خواہش، نفس کا مزہ
حُفّاظِ حدیث	احادیث کے حافظ جنہیں ایک لاکھ احادیث زبانی یاد ہوں
حفظِ ماتقدّم	خطرات سے بچنے کے لئے پیشگی منصوبہ بندی
حِقد	کینہ
حُکّام رسی	حاکموں سے تعلقات بنانے کی خواہش
حکمِ عدولی	نافرمانی
حلاوت	مٹھاس
حمیّت	غیرت، شرم
حُمّیٰ دِق	بخار کی ایک قسم
حنفیہ	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین
حواسِ ظاہرہ	حاسہ کی جمع، وہ قوتیں جن میں حس ہو پانچ ظاہرہ ہیں، دیکھنا، سونگھنا، سننا، چھونا، چکھنا
حواسِ باطنہ	باطنی قوتیں، حس مشترک، حافظہ خیال، وہم، متصرفہ
حیلہ	تدبیر، بہانہ

(خ)

خاک پائے بزرگاں	بزرگوں کے پائوں کی مٹی، نہایت عاجز مسکین
خانقاہ	(مرکب از خانہ گاہ) مشائخ کی تربیت گاہ
خانگی	گھریلو
خبر گیری	خیال رکھنا، مدد کرنا
خدّ و خال	نشانات
خدارا	خدا کے لئے
خسران	نقصان

خِفَّت	ہلکاپن، شرمندگی
خفیف	ہلکا، ذلیل
خلافِ اولیٰ	ناپسند مگر جو جائز کے دائرے میں ہو
خلّاق علی الاطلاق	تنہا پیدا کرنے والا
خلش	چبھن
خُمُس	غنیمت کا پانچواں حصہ
خودستائی	اپنی تعریف کرنا
خودی	اپنا، خود بینی
خوارج	وہ گروہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے نکل کر ان سے بغاوت کی
خَود	لوہے کی ٹوپی
خُوگر	عادی
خوِید	سبز جو، گھوڑے وغیرہ کا چارہ

(د)

داروغہ	محافظ، نگران
داروگیر	پکڑ دھکڑ، سختی
دباغت	چمڑا رنگنا
ددھیال	دادا کا گھر خاندان
دردِزہ	بچہ جنتے وقت کی تکلیف
درکنار	ایک طرف، الگ
درہم	ساڑے تین ماشے کا وزن
دریغ	بخل، انکار، افسوس
دستِ نگر	محتاج، ماتحت
دستورالعمل	قانون، قاعدہ، ہدایت نامہ
دفتر	رجسٹر
دق کرنا	تنگ کرنا
دقائق	دقیقہ کی جمع، باریکیاں، نکات
دقیق النظر	باریک بین
دوام	ہمیشگی
دوچند	دوگنا
دوش بدوش	کندھے سے کندھا ملا کر، متحد ہو کر
دولت کدہ	تعظیماً رہائش گاہ، مسکن
دُنُوّ اور تدلّی	قرب، نزدیکی
دنیا ومافیہا	دنیا اور جو کچھ اس میں ہے
دھنی	دولت مند، خوش نصیب، دھن والا
دیار	وطن، علاقہ
دِیَت	خون بہا، قتل کا معاوضہ
دیدہ ودانستہ	جان بوجھ کر

(ر)

رانڈ	بیوہ عورت
رخنہ	خلل، عیب، سوراخ
رفعِ درجات	درجات کی بلندی
رَمز	اشارہ
رمق	تھوڑی سی جان، اخیر جان
رَو	بہاؤ
رُواۃ	راوی کی جمع، حدیث نقل کرنے والا

رُوحی فداہ	میری جان ان پر قربان ہو
روز افزوں	دن بدن ترقی
رہبانیت	ترک دنیا
رہینِ ستمِ روز گار	زمانہ کے مظالم میں مبتلا
ریاض	مجاہدہ، نفس کشی
ریزیولیشن	قرارداد

(ز)

زاری	روناپیٹنا
زُبدَۃ الفضلاء	فضلاء میں زیادہ برگزیدہ
زبوں حالی	بدحالی
زِرہ	فولاد کا دھاری دھار کرتہ جو لڑائی کے دوران استعمال ہوتا ہے
زعم	گمان، ظن
زَک	شکست
زَقند	چھلانگ
زندیق	کافرِ بے دین
زہے قسمت	خوش قسمتی

(س)

سامانِ حرب	جنگی سامان
سبّ وشتم	گالی گلوچ، برا بھلا کہنا
ستّاری	پردہ پوشی
سربر آوردگان قوم	قوم کے معزز و صاحب اقتدار لوگ
سر تاپاں	سر سے پاؤں تک
سرزنش	تنبیہ برا بھلا کہنا
سروکار	کام، تعلق
سُرُور محض	سچی خوشی
سریہ	وہ لڑائی جس میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا ہو اور خود شرکت نہ فرمائی ہو
سِرّی نماز	جن نمازوں میں امام آہستہ قرأت کرے
سطوَت	دبدبہ، رعب
سعی	کوشش
سفاہت	کمینہ پن، بے وقوفی
سلف	گزرے ہوئے اولیائے امت
سماوی	آسمانی
سنکھیا	ایک قسم کا زہر، سم الفار
سنگلاخ	پتھریلی اور پہاڑی زمین
سوت لینا	تلوار میان سے نکالنا
سونے پر سہاگا	نفع در نفع، رونق بر رونق، سہاگا سے سونے میں اور چمک آجاتی ہے
سہ بارہ	تیسری بار
سہم	ڈر، حصہ
سَیری	پیٹ بھرنا
سینگیاں لگوانا	بطور علاج بدن کے کسی حصہ سے فاسد خون نکالنا
سینہ سپر ہونا	دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جانا

(ش)

شافعیہ	امام شافعیؒ کے پیرو
شاق	بھاری مشکل، دشوار
شاہدِ عدل	ایماندار گواہ
شائع	رائج، ظاہر
شایانِ شان	مرتبے کے مناسب
شدہ شدہ	رفتہ رفتہ، ہوتے ہوتے
شُرّاح	شارح کی جمع، تشریح کرنے والا
شرح صدر ہونا	دلی اطمینان ہونا
شروحِ حدیث	وہ کتب جن میں احادیث کی تشریح ہو
شستگی	صفائی
شُعَبُ الایمان	ایمان کی شاخیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام
شَغَف	بے انتہاء محبت و تعلق
شِعار	علامت
شفیع	سفارش کرنے والا
شملہ	پگڑی کے اوپر کا سرا جو اٹھا ہوا ہوتا ہے
شقاوت	بد بختی، سنگدلی
شہرۂ آفاق	دنیا بھر میں مشہور
شہوت	جنسی خواہش
شیفتگی	فریفتگی، دیوانگی
شُیوع	گروہ، عام ہونا

(ص)

صاحبین	دو ساتھی، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ مراد ہیں
صحیفہ	مقدس رسالہ، کتاب
صَفرا	چار اخلاط میں سے ایک زرد رنگ کے خلط کا نام
صُلَحاء	صالح کی جمع نیک لوگ
صلح رحمی	رشتہ داروں سے حسن سلوک
صوفیاء	صوفی کی جمع تصوف میں مشغول حضرات
صَیقَل	صفائی، چمک، زنگ دور کرنے کا آلہ

(ض)

ضخیم	موٹا، بڑے حجم والی چیز
ضرب المثل	کہاوت، وہ جملہ جو مثال کے طور پر بیان کیا جائے
ضَیق	تنگی، دشواری

(ط)

طباق	بڑی رکابی، تھالی
طبعی میلان	قدرتی طور پر کسی کی طرف مائل ہونا
طراوت	تازگی، ٹھنڈک
طریقت	باطن کی صفائی

طعن و تشنیع	چھیڑ چھاڑ، اعتراضات
طفیلی	دوسروں کے بدولت گزارہ کرنے والا
طمانیت	دل جمعی، اطمینان
طوق	ہار، مجرموں کے گلے میں باندھا جانے والا حلقہ

(ع)

عاشوراء	محرم کا دسواں دن
عاصی	گناہ گار
عاقبت	انجام، نتیجہ
عبَث	بے فائدہ
عُجب	غرور، خود پسندی
عجمی	غیر عرب
عِرض	آبرو، عزت
عُروۃ الوثقیٰ	مضبوط حلقہ
عصَبِیت	ناجائز امور میں اپنی قوم کی طرف داری وحمایت
عطار	عطر فروش، پنساری
علماءِ سوء	بدترین علماء
علوِشان	بلندئ مرتبہ
علی العموم	عام طور پر
علی وجہ الکمال	مکمل طور پر
عنَقاء	نایاب، ایک فرضی پرندہ
عوارض	عارضہ کی جمع، رکاوٹیں
عہدہ برآ ہونا	بری الذمہ ہونا

(غ)

غایت احترام	انتہائی احترام
غسّان	ایک عرب قبیلے کا نام
غِشی	بے ہوشی
غلُوّ	زیادتی، حد سے تجاوز کرنا
غناءِ قلب	دل کا استغناء اور بے نیازی
غیر متناہی	بے انتہاء

(ف)

فاحشہ	بدکار عورت
فبہا	ٹھیک، بہت خوب
فدیہ	قیدی کی رہائی کا معاوضہ
فراق	جدائی
فربہ	موٹا
فردِ جرم	مقدمے کے وہ کاغذات جس میں مجرم ٹھہرانے کا مضمون اور دفعہ تحریر ہوتی ہے جس کی رو سے مجرم کو مجرم سمجھا جاتا ہے
فرمودہ	فرمان
فصیح	خوش بیان، شیریں کلام
فُضلہ	کسی چیز کا پھوک، پائخانہ
فضیحت	رسوائی، ذلت
فنجان	پیالی
فواکہ	فاکہہ کی جمع، پھل
فہم القرآن	قرآن کی سمجھ

فی الجملة	کسی درجہ میں، کسی قدر
فی الواقع	حقیقت میں
	(ق)
قاضی القضاۃ	سب سے بڑا قاضی، چیف جسٹس
قال وحال	قول و فعل، کردار
قاموس	ایک مشہور عربی لغت کا نام، اب ہر لغت کو قاموس کہا جاتا ہے
قُدْوَۃ العلماء	علماء کے پیشواء
قرن	زمانہ
قرونِ سابقہ	گزشتہ زمانے
قصیدہ خوانی	کسی کی تعریف، ستائش کرنا
قطع رحمی	رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا
قفس	پنجرہ
قفل	تالہ
قُویٰ	قوت کی جمع، طاقتیں
قیراط	درہم کے بارہویں حصہ کے برابر ایک وزن، پانچ جو کے برابر وزن
قیصر	رومی بادشاہوں کالقب
قیود	قید کی جمع، شرائط
قیل و قال	گفتگو، بحث ومباحثہ
قیلولہ	دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرنا
	(ک)

کاہن	غیب کی خبریں بتانے والا
کبائر	کبیرۃ کی جمع، بڑے گناہ
کتّان	ایک قسم کا باریک کپڑا
کتبِ سماویہ	آسمانی کتابیں
کذّاب	جھوٹا
کذا فی الاحیاء	اسی طرح احیاء العلوم میں ذکر کیا گیا ہے
کسریٰ	فارس کے بادشاہوں کا لقب
کُسُم	پھول جس سے کپڑوں کو لال رنگ میں رنگا جاتا ہے
کلفت	تکلیف ورنج
کلکٹر	ضلع کا مالی افسر، لگان وصول کرنے والا
کماحقُّہ	جیسے کہ اس کا حق ہے
کنیت	وہ نام جو والدین یا اولاد کی طرف منسوب کر کے بولا جاتا ہے جیسے ابن عباس، ابو موسی وغیرہ
کِواڑ	لکڑی کا وہ تختہ جس سے دروازہ بند کرتے ہیں
کوتاہ طبائع	دور اندیشی سے کام نہ لینے والی طبیعتیں
کوڑھی	جزامی، برص کی بیماری میں مبتلا شخص
کوڑی	ایک قسم کا ادنیٰ سکہ

کوشاں	کوشش کرنے والا
کوکھ	بطن، پہلو

(گ)

گاہے گاہے	کبھی کبھی
گرانی	بوجھ
گردانتے ہیں	تسلیم کرتے ہیں
گرویدہ	معتقد، دلدادہ
گفتار	بول چال
گونیں	بالوں یا رسیوں کا بنا ہوا تھیلہ
گیہوں	گندم
گدڑی	فقیروں کا جبہ، پیوند لگا ہوا پرانا کپڑا

(ل)

لابُدّی	لازمی یقینی
لب کشائی	اعتراض کرنا، بات کرنا
لُچر	بے ہودہ، لغو
لعاب دہن	تھوک، منہ کی رطوبت
لگن	لکڑی یا پتھر کا بڑا برتن
لہو ولعب	کھیل کود، بے کار و فضول کام

(م)

ماجور	نیک بدلہ دیا گیا
ماسبق	گذشتہ
ماسویٰ	اس کے علاوہ
مافوق	جو اوپر ہو
مالک الموت	ملک کا بادشاہ، اللہ تعالی مراد ہیں
ماما	خادمہ، نوکرانی
مامون	محفوظ
مانع	روکنے والا، رکاوٹ
ماؤف	جس کو صدمہ پہنچا ہو
مباح	جائز، حلال
مبادا	خدا نہ کرے، کلمہ دعائیہ
مبتدی	شروع کرنے والا
مُبَدَّل بانس	محبت سے بدل دی گئی
مبذول	مصروف، خرچ کیا گیا
مُبَرّیٰ	پاک، بے نیازی
مبغوض	قابل نفرت
مبہوت	حیران، ہکا بھکا
متاخرین	بعد میں آنے والے لوگ، اخیر زمانہ کے لوگ
مُتَبَحِّر	علم کا دریا، بہت بڑا عالم
مُتّبع	پیروی کرنے والا
متبنّٰی	منہ بولا بیٹا
متجاوز	حد سے تجاوز کرنے والا
متحَمِّل	برداشت کرنے والا
مترجم	ترجمہ کرنے والا
مترَشّح	ظاہر ہونے والا، عیاں

متروک	ترک کیا ہوا
متسلط	زبردستی قبضہ کرنے والا
تشابہ لگنا	شبہ میں لگ جانا، کہیں سے کہیں پڑنے لگنا
متشدد	انتہائی سخت
متضمن	شامل
متعدد	بے شمار
متعصب	تعصب کرنے والا، اپنی قوم یا مذہب کی بے جا حمایت کرنے والا
متعفّن	بدبودار
متفرع	کسی چیز سے شاخ کی طرف نکلنے والا
متفکر	فکر مند
متکلم	بات کرنے والا
متلاشی	تلاش کرنے والا
متمتع	فائدہ اٹھانے والا، مستفید
مُتَمَرِّد	سرکش
متنعم	نازو نعم میں پلنے والا
متمنی	تمنی کرنے والا، مشتاق
متوحش	وحشت ناک، بھاگنے والا
مَتوالا	مست، مدہوش
متوَلّی	کام کا نگران، ولی
مجازاً	غیر حقیقی، غیر اصلی، فرضی
مجامع	مجمع کی جمع، مجالس
مجاہدات	نفس کشی
مجرَّب	آزمایا ہوا، تجربہ کیا ہوا
مجدد الف ثانی	دوسرے ہزار برس کا مجدد، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب
مجمَل	مختصر کیا ہوا
محاسبہ	حساب لینا یا کرنا، جواب طلبی
محال	ناممکن، سخت دشوار
محِب	محبت کرنے والا
محبوس ہونا	قید ہونا
محدِّث	حدیث بیان کرنے والا
محرَّمات	حرام کردہ چیزیں
محقّق	ثابت شدہ
محل سَتر	پردے کی جگہ، شرمگاہ
محو	مٹ جانا، مصروف
محیط	سب کو گھیرنے والا، سب کو شامل
مخارج	مخرج کی جمع، حروف کی ادا ہونے کی جگہیں
مخزن	خزانہ، گودام
مخفی	چھپا ہوا، پوشیدہ
مخلَص	چھٹکارا، آزادی
مخمصہ	بھوک کی آگ، جھگڑا
مدارات	خاطر تواضع، ظاہری آؤ بھگت
مداومت	ہمیشگی، دوام

مُداہِن	ہاں میں ہاں ملانے والا، ناجائز امور کو روکنے کی قدرت کے باوجود نہ روکنے والا
مُدرِکہ	اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کی قوت
مدعی	دعویٰ کرنے والا
مراتب	مرتبہ کی جمع، درجات
مراحمِ خسروانہ	عطایا شاہی، بادشاہی مہربانیاں
مراقبہ	سوچ بچار، گردن جھکا کر حضوری
مرتکبِ کبائر	کبیرہ گناہ میں ملوث
مرحمت کرنا	عطا کرنا
مرضِ وفات	وہ بیماری جس میں آدمی کا انتقال ہو جائے
مرقات	مشکوٰۃ شریف کی عربی شرح
مرید	عقیدت مند
مزاحمت کرنا	روک، مخالفت
مزاولت	مشق
مزید برآں	اس کے علاوہ
مژدہ	خوشخبری
مسابقت	ایک دوسرے سے آگے بڑھنا
مساہلت	سہل پسندی
مستبعد	دور، بعید
مستحب	پسند کیا گیا، اصطلاح شرع میں وہ فعل ہے جسے حضور ﷺ نے خود پسند کیا ہو یا اس کا ثواب بیان فرمایا ہو
مستحسَن	پسندیدہ، بہتر
مستحضَر	حاضر، موجود
مستعار	لینا، مانگ لینا
مستعدی	چستی اور پھرتی
مستفیدین	فائدہ حاصل کرنے والے
مستور ہونا	چھپ جانا
مسلّم	تسلیم کیا گیا
مشائخ	شیخ کی جمع بزرگ یا پیر
مشائخ چشتیہ	سلسلہ چشتیہ کے بزرگ
مشائخ سلوک	وہ پیر یا بزرگ جو راہ خدا میں چلنے میں راہنمائی کرے
مَشعَل	شمع
مُشتق	ماخوذ، وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے نکالا گیا ہو
مشرف با اسلام	دین محمدی میں آنا، مسلمان ہونا
مشکوٰۃِ نبوت	نبوت کے چراغ دان، زمانۂ نبوت
مشیر	مشورہ دینے والا، ساتھی
مصاحب	پاس بیٹھنے والا، ساتھی
مصاحبت	ایک ساتھ زندگی بسر کرنا
مَصالح	مصلحت کی جمع
مصالحت	باہمی صلح صفائی

مصداق	وہ شئ جس پر کوئی معنی صادق آسکے، شہادت
مُصِر	اصرار کرنے والا
مصرف خیر	نیک کاموں میں خرچ کرنے کی جگہ
مضائقہ	حرج، قباحت
مضرت	نقصان
مُضمر	پوشیدہ
مطلب بر آری	کام نکالنا، حاجت روائی کرنا
مطلقاً	بلا قید کے
مطمح نظر	مرکز نگاہ، اصلی مقصد
مطیع	اطاعت کرنے والا، فرماں بردار
مَعاش	روزی، زندگی بسر کرنے کی چیز
معارف	معرفت کی جمع، علم وحکمت کی باتیں
معاصی	معصیت کی جمع، گناہ
مُعتدبہ	قابل شمار، شمار میں آیا ہوا
معدوم	ناپید
معرفت ابو نُعَیم	ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ”معرفۃ الصحابہ“ مراد ہے
معمول بہا	عمل میں لایا گیا
معیَّت	ساتھ
مُعِین	مددگار
مُغتَنَم	قابل قدر
مغلوب العقل	عقل سے ہارا ہوا
مفارقت	جدائی

مَفَر	بھاگنے کی جگہ، فرار کا راستہ
مفرد	واحد، ایک
مفصّل	تفصیلی کلام
مقاتلہ	قتل کرنا، خون ریزی کرنا
مقتدیٰ	پیشوا، امام
مُقتَضٰی	چاہا گیا، مصلحت
مَقدُرت	قدرت، طاقت
مقولہ	کسی کی بات یا قول
مُقوِّیٔ قلب	دل کو تقویت دینے والی چیز
مُقیَّد	قید کیا گیا، پابند
مکاتب	مکتب کی جمع، درسگاہ، قرآن پاک کے حفظ کے مدارس
مکافات	بدلہ، سزا جزا
مکر	حیلہ، فریب
مُکرّرات	مکرر کی جمع، بار بار دھرائی جانے والی چیزیں
مکلف	وہ شخص جو عاقل بالغ ہو، جس کو حکم ادا کرنے کا پابند ٹھہرایا گیا ہو
ملتوی	دیر کرنا
ملجا وماویٰ	ٹھکانا، پناہ کی جگہ
مَلاءِ اعلی	مقربین فرشتے
ملَکِیہ	فرشتوں کی طرف منسوب

ملیدہ	مالیدہ کا مخفف، روٹی کو ریزہ ریزہ کر کے شکر میں ملاتے ہیں
ممتد	دراز
مناجات	سرگوشی، دعا
منادی	پکارنے والا، آواز لگانے والا
مناقب	منقبت کی جمع، فضائل
منبع	چشمہ
منتہیٰ	انتہاء
منتہائے ترقی	ترقی کی انتہاء، کامل ترقی
منجملہ	سب میں سے
مندوب	جس کی خوبیاں بیان کی جائیں
منش	مزاج، طبیعت
منضَم	ملا ہوا، شامل
منطِق	گویائی، وہ علم جو عقلی دلائل سے حق اور ناحق میں تمیز پیدا کرتا ہے
مُنعِم	نعمت دینے والا
منفرد	اکیلا
مُنقاد	فرمابردار، عاجزی کرنے والا
منقسم	تقسیم کیا جانے والا
منقول	نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا
منکَر	برائی، جو چیز دین میں بری سمجھی جائے
منکشف	کھلنے والا، ظاہر
موانست	باہمی انس والفت
موانع	مانع کی جمع، روکنے والی چیزیں، رکاوٹیں
مُوجِب	لازمی کرنے والا، سبب
موجبِ تقرُّب	اللہ کے قریب ہونے کا باعث
موجزن	لہرے مارنا
موقوف	منحصر ہونا، ملتوی ہونا
مولیٰ حذیفہ	حذیفہ رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام
مؤرخ	تاریخ لکھنے والا
مؤیّد	تائید شدہ
مُہماتُ الامور	بڑے بڑے امور و کام
مُہماتِ دین	دین کے اہم امور
مُہلکات	مُہلک کی جمع، ہلاک کر دینے والی چیزیں
میر منشی	وہ فرشتے جو احکامات پیغامات پہنچاتے ہیں

(ن)

ناطقہ	قوت گویائی
ناشاد	ناخوش، اداس
ناداری	مفلسی، غریبی
ناظرہ خواں	دیکھ کر پڑھنے والا
ناقص الفہم	کم سمجھنے والا
نام و نمود	عزت و نمائش، شہرت
ناخلف	نالائق بیٹا، نالائق جانشین
نِخوت	غرور، خودپسندی

ندارد	غیر حاضر، نہیں، خالی
نزاعی مسئلہ	ایسا مسئلہ جس میں جھگڑا اور اختلاف ہو
نزع	جان نکلنے کی حالت
نشتر	زخم چیرنے یا فسد کھولنے کا نوکدار اوزار
نصائح	نصیحت کی جمع
نصرانی	شہر ناصرہ کی طرف نسبت، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں
نصیب آور	قسمت والا
نطفہ	قطرۂ منی
نظر قرطاس	کاغذ کے سپرد لکھنا
نظیر	مثال
نعلین شریف	دو مبارک جوتیاں
نِعمَ البدل	اچھا بدلہ، متبادل
نفسا نفسی	اپنی اپنی خود غرضی
نفسِ تبلیغ	فقط تبلیغ، حقیقت تبلیغ
نفسِ زبان	محض زبان
نفع رساں	نفع پہنچانے والا
نفوس	نفس کی جمع، افراد
نکبَت	بد بختی، بد حالی، ذلت
نکتہ رس	تیز فہم، ذکی
نگاہ عمیق	گہری نگاہ
ننگ و ناموس	غیرت و لحاظ، عزت و حرمت
نواح	کونہ، قرب و جوار
نوحہ کرنا	میت کے اوپر رونا پیٹنا
نوچندی	چاند کی پہلی رات
ننانوے کے پھیر	دولت جمع کرنے کا لالچ
نوبت بنوبت	باری باری
نیاز مندی	محتاجی، اشتیاق

(و)

واعظ	وعظ کہنے والا، نصیحت کرنے والا
والانامہ	بلند مرتبہ شخص کا خط
واللہ	اللہ تعالیٰ کی قسم
والہانہ	عاشقانہ انداز
واہی تباہی	بے ہودہ، لغو
وائس رائے	بادشاہ کا نائب
وبا	متعدی بیماری، وہ بیماری جو ہوا کے خراب ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہے
ورد	وظیفہ معمول، وہ کام جو روز کیا جائے
وصال	ملاقات
وصایا	وصیت کی جمع
وصل	ملاقات
وضع کا حکم	حدیث کے منگھڑت ہونے کا حکم
وعید	سزا کی دھمکی

وقوف	وقف کی جگہ، قرآن پاک میں جہاں دورانِ تلاوت ٹھہرنے کا حکم ہو، مطلع ہونا
وقیع	وقعت رکھنے والا، عزت دار
ولولہ	جوش وخروش

(ھ)

ھبہ	تحفہ، ہدیہ
ہَذیان	بخار کی حالت میں بے معنی گفتگو، بیہودہ گوئی
ہفت اقلیم	سات ولایتیں، کل دنیا
ہمسری	برابری
ہم رکاب	ہمسفر، سواری کے ساتھ
ہم نشین	پاس بیٹھنے والا، مصاحب
ہموم	ہم کی جمع غم، پریشانیاں
ہول	خوف، دہشت، ہیبت
ہیکڑی	سرکشی، زور آوری

(ی)

یاس وہراس	مایوسی اور خوف
یثرب	مدینہ منورہ کا قدیم نام
یکسوئی	اطمینان، دل جمعی
یکسر	تمام، سراسر

۱. اتحاف سادة المتقين،ط:موسسة تاريخ العربی بيروت لبنان

۲. إتحاف الخيرة المهرة،دار الوطن للنشر، الرياض

۳. احياء العلوم، دار المعرفة بيروت

۴. أخبار أبی حنيفة وأصحابه،بيروت

۵. اسد الغابة، دار الكتب العلمية بيروت

۶. اسنى المطالب، دار الكتب العلمية،

۷. اشهر مشاهير الاسلام، دار الفكر العربی

۸. اقامة الحجة للامام اللكنوی

۹. امالی المحاملی۔ دار ابن القيم، عمان

۱۰. الاتقان، الهيئة المصرية العامة للكتاب

۱۱. الاحاديث المختارة.....

۱۲. الآحاد والمثانی،دار الراية - الرياض

۱۳. الادب المفرد، دار البشائر الاسلامية بيروت

۱۴. الاحكام الشرعية الكبری

۱۵. البحر الزخار المعروف بمسند البزار، موسسة علوم القرآن بيروت، الطبعة الاولى ۱۴۰۹ھ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة

۱۶. الاصابة، دار الجيل بيروت

۱۷. الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة، مؤسسة الرسالة

۱۸. الأسامی والكنى، دار الغرباء الأثرية بالمدينة

۱۹. الاستيعاب لابن عبد البر، دار الجيل، بيروت

۲۰. الاسماء والصفات للبيهقی، مكتبة السوادی للتوضيع جدة۔

۲۱. الترغيب والترهيب للاصبهانی، دار الحديث القاهرة

۲۲. التدوين فی اخبار القزوين، دار الكتب العلمية

۲۳. الترغيب للمنذری، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

۲۴. الترغيب والترهيب للمنذری، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

۲۵. التعقبات السيوطی المسمى بذيل اللآلی، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض

۲۶. الترغيب فی فضائل الاعمال لابن شاهين، دار الكتب العلمية

۲۷. التفسير الكبير، دار الكتب العلميه، بيروت

۲۸. التفكر لابن ابی الدنيا

۲۹. التفسير لابن ابی حاتم، المكتبة العصرية، بيروت،

۳۰. التفسير لابن كثير، دار الطبعة

۳۱. التفسير للبغوی، دار الطيبة

۳۲. التفسير لابن جرير الطبری، مؤسسة الرسالة بيروت

۳۳. التلخيص الحبير، دار الكتب العلمية

۳۴. الفوائد لتمام الرازی، مكتبة الرشد، الرياض

۳۵. الجامع لشعب الايمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض

۳۶. الجامع لاخلاق الراوی، مكتبة المعارف - الرياض،

۳۷. الحصن الحصين، دار القلم، بيروت

۳۸. الجرح والتعديل لابن ابی حاتم، دار احيا التراث العربی

۳۹. الدر المنثور، دار الفكر بيروت

۴۰. الخصائص الكبرىٰ، دار الكتب العلمية بيروت

۴۱. الدعوات الكبير للبيهقی، منشورات مركز المخطوطات كويت

۴۲. الدعاء للطبرانی، دار الكتب العلمية، بيروت

۴۳. الروض الانف، دار احياء التراث العربی بيروت

۴۴. الرحمة المهداة، المطبعة الهندية

۴۵. الزهد لابن ابی الدنيا

۴۶. الزهد لابن المبارك، دار الكتب العلمية بيروت

۴۷. السنن الكبرىٰ للبيهقی، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد دكن

۴۸. الزيادات على الموضوعات المسماة بذيل اللآلی المصنوعة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

۴۹. السیرۃ النبویۃ لابن کثیر، دار المعرفۃ للطباعۃ بیروت

۵۰. السنن الکبریٰ للنسائی، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت

۵۱. الصحیح للبخاری، دار طوق النجاۃ

۵۲. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، دار الفکر

۵۳. الصحیح لابن خزیمۃ، المکتب الاسلامی بیروت

۵۴. الصحیح لابن حبان، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت

۵۵. الصلوٰۃ وحکم تارکہ، دار ابن حزم بیروت

۵۶. الصحیح لمسلم، دار المعرفۃ بیروت، دار احیاء التراث العربی بیروت

۵۷. الطبقات لابن سعد، دار الصادر بیروت

۵۸. الضعفاء الکبیر، دار المکتبۃ العلمیۃ - بیروت

۵۹. العظمۃ لابی الشیخ، دار العاصمۃ الریاض

۶۰. العاقبۃ فی ذکر الموت، مکتبۃ دار الأقصی، الکویت

۶۱. الفتح الکبیر فی ضم زیادۃ الی الجامع الصغیر، دار الکتاب العربی بیروت،

۶۲. الغرائب الملتقطۃ، دار الکتب المصریۃ

۶۳. القَولُ البَدِیعُ، دار الریان للتراث

۶۴. الفردوس بمأثور الخطاب، دار الکتب العلمیۃ،

۶۵. الکامل لابن عدی، دار الفکر، بیروت

۶۶. الکامل فی التاریخ، دار الکتاب العربی بیروت

۶۷. مختصر قیام اللیل، حدیث أکادمی، فیصل اباد - پاکستان

۶۸. اللآلی المصنوعۃ، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

۶۹. المغازی للواقدی، دار الاعلمی بیروت

۷۰. المطر والرعد والبرق لابن أبی الدنیا

۷۱. المحتضرین لابن ابی الدنیا، دار ابن حزم

۷۲. المنبہات لابن حجر العسقلانی،

۷۳. المستدرک، دار الکتب العلمیۃ، بیروت،

۷۴. مستخرج أبی عوانۃ، دار المعرفۃ، بیروت

۷۵. المعجم الاوسط، دار الحرمین القاہرۃ

۷۶. المصنف لابن ابی شیبۃ، طبعۃ دار القبلۃ و مکتبہ الرشد، الریاض

۷۷. المعجم الکبیر للطبرانی، مکتبۃ ابن تیمیۃ القاہرۃ

۷۸. المعجم الصغیر، المکتبۃ الاسلامی۔ دار عمار، بیروت عمان

۷۹. المقاصد الحسنۃ، دار الکتب العلمیۃ

۸۰. المغنی فی الضعفاء، دار الکتب العلمیۃ بیروت

۸۱. المنہل العذب المورود شرح سنن الامام ابی داؤد، موسسۃ التاریخ العربی، بیروت۔

۸۲. المنحہ علی السبحۃ للسیوطی

۸۳. الوابل الصیب لابن القیم، دار الکتاب العربی، بیروت

۸۴. المؤطا لامام مالک، مؤسسۃ زائد بن سلطان

۸۵. تاریخ الخلفاء، مطبعۃ السعادۃ مصر

۸۶. بغیۃ الطلب فی تاریخ الحلب، دار الفکر بیروت،

۸۷. تاریخ مدینۃ دمشق، دار الفکر، دمشق

۸۸. تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس، دار الصادر بیروت،

۸۹. تاریخ الرافعی، دار الکتاب العربی

۹۰. تاریخ ہمدان للدیلمی،

۹۱. تحفۃ الذاکرین، دار القلم، بیروت

۹۲. تاریخ بغدادی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

۹۳. تذکرۃ الحفاظ، دار الکتب العلمیۃ بیروت

۹۴. تدریب الراوی، مکتبۃ الریاض الحدیثۃ الریاض،

۹۵. تلقیح فہوم اہل الاثر، شرکۃ دار الارقم بیروت

۹۶. تعظیم قدر الصلوٰۃ، مکتبہ دار المدینۃ المنورۃ

۹۷. جامع بیان العلم، موسسة الریان

۹۸. تنبیہ الغافلین، دار ابن کثیر دمشق، مکتبة الایمان القاہرة

۹۹. جمع الفوائد، مکتبة ابن کثیر کویت

۱۰۰. جامع العلوم لابن رجب، دار المعرفة، بیروت

۱۰۱. سنن ابن ماجة، دار المعرفة بیروت، دار احیاء کتب العربیة، فیصل عیسیٰ البابی الحلبی۔

۱۰۲. حلیة الاولیاء دار الکتاب العربی بیروت

۱۰۳. سنن الترمذی، المکتبة المعارف للنشر و التوزیع ریاض ۱۴۱۷ھ، مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی، مصر

۱۰۴. سنن ابی داؤد، موسسة الریان، بیروت لبنان، المکتبة العصریة، بیروت۔

۱۰۵. سنن سعید بن منصور، الدار السلفیة الہند

۱۰۶. سنن الدارمی، دار الکتب العلمیة، بیروت۔

۱۰۷. شرح الزرقانی، دار الکتب العلمیة، بیروت

۱۰۸. سنن النسائی، مکتبة المطبوعة الاسلامیة، حلب

۱۰۹. شعب الایمان للبیہقی، دار الکتب العلمیة، بیروت

۱۱۰. شرح السنة، المکتب الاسلامی، دمشق

۱۱۱. شرح الصدور، دار المعرفة، بیروت

۱۱۲. شعب الایمان، مکتبة الرشد للنشر و التوزیع الریاض

۱۱۳. عمدة القاری، دار احیاء التراث العربی، بیروت

۱۱۴. الصحیح لمسلم، دار المعرفة، بیروت، دار احیاء تراث العربی، بیروت

۱۱۵. فتح الباری، دار المعرفة، بیروت

۱۱۶. عمل الیوم و اللیلة، دار القبلة لثقافة الاسلامیة جدة۔

۱۱۷. فضائل القرآن لابن ضریس، دار الفکر دمشق

۱۱۸. فضائل الصحابہ لاحمد بن حنبل، موسسة الرسالة، بیروت

۱۱۹. کشف الاستار عن زوائد مسند البزار، مؤسسة الرسالة بیروت

۱۲۰. کتاب الزہد لابن حنبل، دار الکتب العلمیة بیروت

۱۲۱. مجمع الزوائد دار الفکر، بیروت

۱۲۲. کنز العمال، مؤسسة الرسالة بیروت

۱۲۳. مختصر قیام اللیل، حدیث اکیڈمی، فیصل آباد۔

۱۲۴. مجالس الابرار، المطبعة الہندیة

۱۲۵. مرقاة المفاتیح، مؤسسة الرسالة بیروت

۱۲۶. مجمع الزوائد، مکتبة القدسی القاہرة

۱۲۷. مسند الامام احمد مؤسسة الرسالة، بیروت

۱۲۸. مراسیل ابی داؤد، دار الصمیعی۔

۱۲۹. مسند الحارث، مرکز خدمة السنة، المدینة المنورة

۱۳۰. مسند إسحاق بن راہویہ، مکتبة الإیمان - المدینة المنورة

۱۳۱. مسند الشامیین، مؤسسة الرسالة، بیروت

۱۳۲. مسند ابی یعلی، دار المامون للتراث

۱۳۳. مسند الموطا للجوہری، دار الغرب الإسلامی، بیروت

۱۳۴. مسند الشہاب، مؤسسة الرسالة - بیروت

۱۳۵. مصنف ابن ابی شیبة، مکتبنہ الرشد، الریاض

۱۳۶. مسند الطیالسی، دار المعرفة بیروت۔

۱۳۷. مشکوة المصابیح، المکتب الاسلامی

۱۳۸. مصنف عبد الرزاق، المکتب الاسلامی، بیروت

۱۳۹. مناقب الإمام أحمد، دار ہجر

۱۴۰. منتخب کنز العمال علی حاشیة مسند الامام احمد

۱۴۱. مؤطا امام مالک مؤسسة زائد بن سلطان

۱۴۲. معرفة الصحابة لابی نعیم، دار الوطن، الریاض

۱۴۳. نوادر الاصول، مکتبة الامام بخاری القاہرة، دار الجیل بیروت

۱۴۴. نزہة المجالس و منتخب النفائس، المطبع الکاتسلیة، مصر

۱۴۵. نور الانوار

۱۴۶. نزهة المجالس ومنتخب النفائس، المطبع الكاتسلية، مصر